



اردو دائرۂ معارفِ اسلامیہ

زیرِ اہتمام

دانش گاہ پنجاب، لاہور



جلد ۲۴

اشاریہ

۱۳۱۳ھ/۱۹۹۳ء

طبع اول

ادارۂ تحریر

رئیس ادارہ	پروفیسر سید محمد امجد الطاف ، ایم اے (پنجاب)
ایڈیٹر	پروفیسر مرزا مقبول بیگ بدخشانی ، ایم اے (پنجاب)
ایڈیٹر	شیخ نذیر حسین ، ایم اے (پنجاب)
ایڈیٹر	ڈاکٹر حافظ محمود الحسن عارف ، ایم اے ، پی ایچ ڈی (پنجاب)

★ وفات : ۲۲ مئی ۱۹۹۳ء

مجلس انتظامیہ

- ۱۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) محمد صفدر ، ایم ایس سی ، وائس چانسلر دانش گاہ پنجاب (صدر مجلس)
- ۲۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی ملک ، ایم اے (پنجاب) پی ایچ ڈی (کیمرج) ، پرو وائس چانسلر دانش گاہ پنجاب
- ۳۔ پروفیسر شیخ امتیاز علی ، ایم اے ، ایل ایل بی (علیک) ایل ایل ایم (پنجاب) ، ایل ایل ایم (سٹنفرڈ) ، سابق چیئرمین ، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن و وائس چانسلر ، قائد اعظم یونیورسٹی ، اسلام آباد
- ۴۔ جسٹس (ریٹائرڈ) سردار محمد اقبال ، سابق محتسب وفاق ، حکومت پاکستان ، اسلام آباد
- ۵۔ سید باہر علی شاہ ، ۲۰۔ ایف سی سی - کلبہ ، لاہور
- ۶۔ معتمد مالیات ، حکومت پنجاب ، لاہور (یا نمائندہ)
- ۷۔ معتمد تعلیم ، حکومت پنجاب ، لاہور (یا نمائندہ)
- ۸۔ ڈین کلیئہ علوم اسلامیہ و ادبیات شرقیہ ، دانش گاہ پنجاب ، لاہور
- ۹۔ ڈین کلیئہ سائنس ، دانش گاہ پنجاب ، لاہور
- ۱۰۔ ڈین کلیئہ قانون ، دانش گاہ پنجاب ، لاہور
- ۱۱۔ رجسٹرار ، دانش گاہ پنجاب ، لاہور
- ۱۲۔ خازن ، دانش گاہ پنجاب ، لاہور
- ۱۳۔ پروفیسر سید محمد امجد الطاف ، صدر شعبہ اردو دائرۂ معارف اسلامیہ (معمد)

بار اول اکتوبر ۱۹۹۳ء

اشاریہ مقالات

جلد ۱

صفحہ عیود	اشارات	عنوان
۱	۱	* آئین : قانون ، رسم ، معمول ، دستور وغیرہ کے معنوں میں ایک کثیر الاستعمال اصطلاح، مثلاً آئین نوشیروان اور آئین نبوی وغیرہ .
۲	۲	* آب : قدیم یہودی شام کے شمسی سال کے پانچویں مہینے کا بابلی نام.
		* آبادان : رگ بہ عبادان.
		* آبادہ : ایران کے صوبہ فارس کی انتہائی شمالی ولایت اور شیراز سے اصفہان جانے والی سڑک پر ایک چھوٹا سا شہر .
۱	۳	* آباڑہ : (ت) ایک لقب، جو آباڑی نسل کے مختلف افراد کے ناموں میں مستعمل ہے، مثلاً: (۱) آباڑہ پاشا : ترکی کے ایک باغی جان بولاط اوغلی کے خزانچی محمد پاشا کا عرف (م ۱۰۳۳/۵۱۶۳۴ء)؛ (۲) آباڑہ حسن پاشا : ایک معروف ترک سپہ سالار (م بعد از ۱۰۶۹/۵۱۶۵۸ء)؛ (۳) آباڑہ محمد پاشا : مرعش کا بیگریگی (م ۱۱۵۸/۵۱۷۷۱ء).
۱	۳	* آبان : (آبان یا آبان ماہ) قدیم ایرانی یزدگردی تقویم کا آٹھواں مہینہ : نیز ایرانی دیومالا کا ایک فرشتہ .
۲	۵	* آبدست : (ف) رگ بہ وضو .
۱	۶	* آبسکون : (ابسکون) اعمال جرجان (گرگان) میں بحیرہ خزر پر ایک بندرگاہ .
۱	۶	* آہش : رگ بہ (آل) سلغر .
۱	۷	* آبی : رگ بہ عبد .
۱	۷	* آبنوس : لکڑی کی ایک معروف قسم .
۱	۷	* آت : (ت) بمعنی گھوڑا ، جو متعدد اعلام کی ترکیب میں مستعمل ہے، مثلاً آت بازار ، آت میدان وغیرہ .
۲	۹	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۰		* آتش : خواجہ حیدر علی : اردو کے ممتاز صاحب دیوان شاعر (م ۱۲۶۳/۵۱۸۳۷) .
۱ ۱۳		* الْأَنْارُ الْعُلُویَّة : "کائنات الجوّ" ، یعنی علم حوادث سماوی .
۱ ۱۴		* أَجْرُومِیہ : رگ بہ ابن آجروم .
۱ ۱۴		* آجی : رگ بہ آجی .
۱ ۱۴		* آحاد : رگ بہ خبر الواحد .
۱ ۱۴		* آخال تکہ : انیسویں صدی کے اواخر میں ماورائے بحیرہ خزر کے روسی علاقے میں ایک ضلع .
۲ ۱۴		* آخالچخ : رگ بہ آخسخہ .
۲ ۱۴		* آخروت : (ع) حیات مابعدالموت کے لیے ایک قرآنی اصطلاح .
۱ ۲۱		* آخری چہار شنبہ : ماہ صفر کا آخری بدھ، جسے برعظیم پاک و ہند کے مسلمان بطور تہوار مناتے ہیں .
۱ ۲۱		* آخسخہ : (آخسخہ) گرجستان (روس) کے صوبہ ستسخہ یا مسقی کے مرکزی شہر کا ایرانی و ترکی نام : گرجستانی زبان میں آخال تسسخہ .
۱ ۲۲		* آخور : رگ بہ امیر آخور .
۱ ۲۲		* آداماوه : رگ بہ آداماوا .
۱ ۲۲		* آدم : ابوالبشر : زمین پر خدا کے پہلے نبی اور پہلے انسان .
۱ ۲۴		* آدم بنوری : شیخ : حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ : مشہور ہندوستانی عالم ، صوفی اور مصنف (م ۱۰۵۳/۵۱۶۳۳) .
۱ ۲۹		* آدیامان : (سابقاً حصن منصور) شمال مشرقی آناطولی کا ایک چھوٹا سا شہر .
۱ ۳۰		* آدینہ بیگ خان : اٹھارہویں صدی عیسوی میں پنجاب کا گورنر (م ۱۱۷۲/۵۱۷۵۸) .
۲ ۳۳		* آذر : حاجی لطف علی اصفہانی : فارسی شعرا کے مشہور تذکرے آتش کدہ کا مؤلف (حیات ۱۱۹۹/۵۱۷۸۵) .
۱ ۳۶		* آذر : (آذر ماہ) یزدگردی تقویم کا نواں مہینا .
۱ ۳۷		* آذر بیجان : (۱) ایران کا ایک مشہور صوبہ : (۲) جمہوریہ اشتراکیہ شوروی .
۲ ۳۳		* آذری : ایک ترکی بولی .
۱ ۳۹		* آذری : حمزہ بن علی طوسی یسہقی : فارسی کا ایک مشہور صوفی شاعر اور مصنف (م ۱۳۶۲/۵۸۶۸) .
۲ ۵۳		* آرارط : رگ بہ جبل الحارث .
۲ ۵۳		* آرال : مغربی ترکستان میں قدرے کھاری پانی کی ایک بڑی جھیل .
۲ ۵۸		* آرہالیق : رگ بہ آرہالیق .
۲ ۵۸		* آرہہ : رگ بہ آرہہ .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۵۸	* آرٹوین : ترکیہ میں چوروک کی قضا اور ولایت کا صدر مقام ۔	
۲ ۵۸	* آرٹ : رگ بہ فن ، آرٹسٹک ، بناء ، تجلید ، تذهیب ، تکفیت ، رسم ، عاج ؛ نیز دیکھیے جملہ ملکوں ، شہروں اور خانوادوں پر مقالے ۔	
۲ ۵۸	* آرغیش : بحیرہ وان کے شمال مشرقی کنارے پر واقع مملکت عثمانیہ کا ایک چھوٹا سا شہر ۔	
۲ ۵۸	* آرغیش طاغ : ترکیہ میں قیصریہ کے قریب ایک اہم برکانی چوٹی اور ایشیائے کوچک کا بلند ترین مقام ۔	
۲ ۵۹	* آرزاؤ : الجزائر کا ایک ساحلی شہر ۔	
۲ ۶۰	* آرزو : سراج الدین علی خان ؛ آخری دورِ مغلیہ میں فارسی زبان کا نامور عالم ، محقق ، شاعر اور مصنف (۱۶۸۷ء - ۱۶۸۸ء تا ۱۱۶۹ھ/۱۷۵۶ء) ۔	
۲ ۶۱	* آرسلان (ت) : بمعنی شیر ، جو ترکی میں بطور اسم علم مستعمل ہے ۔	
۲ ۶۷	* آرسلان بن سلجوق : سلجوقیوں کا جدِ اعلیٰ (م تقریباً ۱۰۳۷ھ/۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ء) ۔	
۲ ۶۷	* آرسلان بن طغرل : ایک سلجوقی حکمران (از ۱۱۶۰ھ/۱۱۶۰ تا ۱۱۷۵ء/۱۱۷۵) ۔	
۱ ۶۹	* آرسلان ارغون : ملک شاہ کا بھائی اور خراسان و بلخ کا ایک سلجوقی حکمران (م ۱۰۹۰ھ/۱۰۹۷ - ۱۰۹۶ء) ۔	
۲ ۶۹	* آرسلان خان : محمد بن سلیمان قراخانی ، فرمانروائے ماوراء النہر (م ۵۲۳ ، ۵۲۵ یا ۵۲۶ھ) ۔	
۲ ۷۰	* آرسلان شاہ : بن طغرل شاہ ، کرمان کا سلجوقی حکمران (م ۱۱۷۷ھ/۱۱۷۷) ۔	
۲ ۷۱	* آرسلان شاہ : بن کرمان شاہ ، کرمان کا سلجوقی فرمانروا (از ۱۱۰۱ھ/۱۱۰۱ تا ۱۱۳۲ھ/۱۱۳۲) ۔	
۱ ۷۲	* آرسلان شاہ : بن مسعود ، ابوالحارث ؛ خاندانِ زنگی کا ایک بادشاہ ؛ رگ بہ زنگی ۔	
۲ ۷۲	* آرسلان شاہ : بن مسعود بن ابراہیم غزنوی (۱۱۵۷ھ/۱۱۵۷ تا ۱۱۱۸ھ/۱۱۱۸) ، غزنی کا حکمران (از ۱۱۱۶ھ/۱۱۱۶) ۔	
۲ ۷۲	* آرسلان لی : (ت) قدیم ترکی سکہ ؛ رگ بہ غروش ۔	
۱ ۷۵	* آرکاٹ : جنوبی ہند کا ایک اہم شہر اور ضلع ۔	
۱ ۷۵	* آرنائودلیق (ت) : عثمانی ترکی زبان میں آلبانیا کا نام ۔	
۲ ۷۶	* آزاد : ابوالکلام ، محی الدین ، احمد ؛ ہندوستان کے مشہور سیاسی لیڈر ، صحافی ، ادیب اور مفسرِ قرآن (۱۸۸۸ھ/۱۳۰۵ تا ۱۹۵۸ھ/۱۳۷۷) ۔	
۲ ۹۹	* آزاد بلگرامی : میر غلام علی ؛ عہدِ مغلیہ کے ایک مشہور عالم اور متعدد عربی و فارسی کتب کے مؤلف اور شاعر (۱۱۱۶ھ/۱۷۰۳ تا ۱۲۰۰ھ/۱۷۸۶) ۔	
۲ ۱۰۳	* آزاد : شمس العلماء مولوی محمد حسین دہلوی ؛ اردو کے مشہور تذکرہ نگار ، ادیب	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۱۰	(۵۱۲۳۵/۶۱۸۳۰ تا ۵۱۳۳۱/۶۱۹۲۲)	اور شاعر
۱ ۱۱۳		* آراق : (آزوف) روس میں مسلم تاتاریوں کا ایک شہر .
۱ ۱۱۵		⊗ آزر : حضرت ابراہیمؑ کے والد تارح کا لقب .
۱ ۱۲۰		* آزرده : خاں بہادر مفتی مولوی محمد صدر الدین ؛ صدر الصدور ؛ مشہور عالم ، شاعر اور متعدد فارسی و عربی کتب کے مؤلف (۵۱۲۰۳/۶۱۷۸۹ تا ۵۱۲۸۵/۶۱۸۶۸) .
۱ ۱۲۰		* آسام : جمہوریہ بھارت کا انتہائی مشرقی صوبہ .
۱ ۱۲۲		* آستانہ : رگ بہ قسطنطنیہ .
۱ ۱۲۲		⊗ آسفی : رگ بہ سفی .
۱ ۱۲۲		⊗ آسیہ : فرعون کی مومن اور پاکباز بیوی ، جنہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی .
۱ ۱۲۳		⊗ آشنا : محمد طاہر المخاطب بہ عنایت خان ؛ اردو کا ایک صاحب دیوان شاعر (م ۵۱۰۸۱/۶۱۶۷۰) .
۱ ۱۲۳		* آص : رگ بہ آلان .
۱ ۱۴۳		* آصف بن برخیا : حضرت سلیمانؑ کے معتمد ، وزیر اور صحابی .
۱ ۱۲۵		* آصف جاہ : نظام حیدر آباد (رگ بان) کا لقب .
۱ ۱۲۵		* آصف خان : ابوالحسن المشہور بہ آصف جاہی ؛ نورجہاں کا بڑا بھائی اور شاہجہان کا خسر (م ۵۱۰۵۱/۶۱۶۳۱) .
۲ ۱۲۸		⊗ آصفی : خواجہ آصف ہروی شیرازی ؛ معروف ایرانی فارسی شاعر (م ۵۹۲۱/۶۱۵۱۵) .
۱ ۱۲۹		* آغا : منگولوں اور ترکوں کے ہاں کلمہ تعظیم ، جو بڑا بھائی ، بڑی بہن ، باپ ، چچا ، دادا یا سردار کے لیے استعمال ہوتا تھا ؛ نیز ترکیہ میں بطور خطاب .
۲ ۱۳۰		⊗ آغا خان : (صحیح آقا خان) اسماعیلیوں کے امام کا اعزازی لقب .
۲ ۱۳۰		(۱) آغا خان اول : حسن علی شاہ ؛ فتح علی شاہ کے منظور نظر اور داماد (م ۵۱۲۹۹/۶۱۸۸۱) .
۲ ۱۳۰		(۲) آغا خان دوم : آغا خان اول کے بیٹے ، علی شاہ (م ۵۱۳۰۳/۶۱۸۸۵) .
۲ ۱۳۰		(۳) آغا خان سوم : سر سلطان محمد شاہ ، آغا شاہ دوم کے بیٹے اور موجودہ صدی کی ایک اہم بین الاقوامی شخصیت ، صدر کل ہند مسلم لیگ ، صدر مجلس اقوام .
۲ ۱۳۲		(۴) آغا خان چہارم : شہزادہ شاہ کریم ، آغا خان سوم کے پوتے اور اسماعیلیوں کے موجودہ امام .
۱ ۱۳۳		* آغا محمد شاہ : (۵۱۱۵۵/۶۱۷۳۲ تا ۵۱۲۱۲/۶۱۷۹۷) ، ایران کے خاندان قاچار کا بانی .
۱ ۱۳۳		* آغاچ (ت) : عثمانی ترکی میں بمعنی درخت اور لکڑی ؛ نیز فاصلے کا ایک پیمانہ .
۱ ۱۳۳		* آغماٹ : جنوبی مراکش کا ایک چھوٹا سا قصبہ ، سابقاً المرابٹین کا پائے تخت .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۳۶		* آفراک : بربری زبان میں بمعنی احاطہ ؛ اصطلاحاً سراپردہ .
۱ ۱۳۶		* آفرین : فقیر اللہ لاہوری ، فارسی کا ایک صاحب دیوان ممتاز شاعر (م ۱۱۵۳/ھ - ۱۲۳۱ء) .
۲ ۱۳۷		* آفرین : بمعنی شاباش وغیرہ ؛ نیز ایرانی تقویم میں کیسہ کے پانچ دنوں میں سے پہلا دن .
۲ ۱۳۷		* آفی حصار : بمعنی سفید قلعہ ؛ متعدد شہروں اور قصبوں کا نام ، مثلاً (۱) مغربی آناطولی میں عہد بوزنطی کا قیاتیرہ ؛ (۲) ضلع مرمرہ میں موجودہ پاموق اووہ ؛ (۳) بوسنہ سرای کے مغرب میں ایک مقام اور (۴) شمالی البانیا کا ایک قصبہ ، جسے ترک آفچہ حصار اور البانوی قرویہ بھی کہتے ہیں .
۲ ۱۳۷		* آفی حصاری : متعدد ترک مصنفوں کا نسبتی نام ، مثلاً الیاس بن عیسیٰ (م ۱۵۵۹/۱۵۹۶ء - ۱۵۶۰ء ، محمد بن بدر الدین (م ۱۵۹۲/۱۶۰۰ء) ، نصوح المعروف بہ نوالی (م ۱۶۰۳/۱۵۹۳ء - ۱۵۹۵ء) ، حسن المعروف بہ کافی (حیات ۱۵۰۱۵/۱۶۰۶ء) اور حاجی نسیم اوغلو احمد بن حسن (حیات ۱۱۸۶/ھ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ء) .
۱ ۱۳۹		* آفی دینز : رگ بہ بحر الروم .
۲ ۱۳۹		* آفی سرای : (آفی سیرا) آناطولی کی ولایت نیگدہ کی ایک قضا کا صدر مقام ؛ نیز استانبول کا ایک محلہ .
۱ ۱۳۱		* آفی سرای : گرگانج (Urgenc) کے قریب ایک محل کا نام ؛ نیز رگ بہ کش .
۲ ۱۳۱		* آفی سنقر : (= سفید باز) متعدد ترکی حکام کا نام ، مثلاً موصل کے خاندان اتابکی کا جد ابو سعید آفی سنقر بن عبداللہ قسیم الدولہ المعروف بہ ارحاب (م ۱۳۸۷/ھ - ۱۰۹۳ء) اور ترک سپہ سالار آفی سنقر الاحمدیلی (م ۱۱۳۳/۱۱۵۲ء) .
۲ ۱۳۱		* آفی سنقر البرسقی : قسیم الدولہ ابو سعید سیف الدین ، شجنہ عراق و عامل موصل (م ۱۱۲۶/۱۱۵۲ء) .
۱ ۱۳۳		* آفی شمس الدین : محمد ، شمس الملة والدین ؛ از اولاد شیخ شہاب الدین سہروردی ؛ ایک عالم اور صوفی (۱۳۸۹/۱۳۹۰ء - ۱۳۹۰ء تا ۱۳۵۹/۱۳۸۳ء) .
۱ ۱۳۵		* آفی شہر : (= سفید شہر ؛ نیز آقشر ، آخسر ، آشقر وغیرہ) آناطولی کے دو شہر ، جن میں سے ایک ولایت قونیہ کی ایک قضا کا مرکز اور دوسرا شمال مشرق آناطولی میں واقع ہے .
۲ ۱۳۶		* آفی صو : (آخ صو) روسی آذربيجان میں ایک گاؤں .
۲ ۱۳۷		* آفی صو : مشرق ترکستان (سن کیانگ) کا ایک شہر .
۲ ۱۳۷		* آفی صو : (ت ؛ بمعنی آب سفید) ترکی بولنے والے ملکوں میں متعدد دریاؤں کا نام .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۳۹		* آق قویونلو : مشرق آناطولی کا ایک قبیلہ اور اس کی قائم کردہ امارت.
		* آق کرمان : (بمعنی سفید شہر یا منڈی) یا آقچہ کرمان : عہد قدیم کا Tyras :
		روسی میں ییلفورڈ : درباے نیستر (Deniester) کے دہانے کے کنارے
۲ ۱۸۱		ایک شہر اور قلعہ .
		* آق مسجد : (بمعنی سفید مسجد) دو بڑے شہروں کا نام ، جن میں سے ایک، جسے روسی
		سمفرو پول کہتے ہیں، کریمیا کا دارالحکومت رہا اور آج کل اس کے صرف اس
		حصے کا نام جہاں ترک بستے ہیں : دوسرا جمہوریہ قازاقستان میں ایک صوبے
		کا دارالحکومت (موجودہ قزل اوردہ) اور سابقاً سیردریا کی ایالت کا صدر مقام
		اور قلعہ .
۱ ۱۸۳		
۲ ۱۸۵		* آقا رضا : رک بہ رضا .
۳ ۱۸۵		* آقا رضاعی : رک بہ رضاعی .
۳ ۱۸۵		* آقچہ : (بمعنی چھوٹا سفید) عثمانی سلطنت کا ایک چاندی کا سکہ .
		* آقینجی : دوات عثمانیہ کے ابتدائی دور میں یورپی جنگوں کے لیے تشکیل دادہ
۲ ۱۸۷		بے قاعدہ سوار فوج .
۱ ۱۸۹		* آگدال : بربری اصطلاح : مالک اراضی کی اپنے لیے مخصوص چراگاہ .
		* آگرہ : اتر پردیش (بھارت) کی ایک قسمت کا صدر مقام : ابتدائی مغل شہنشاہوں کا
۱ ۱۸۹		دارالحکومت ، جہاں تاج محل واقع ہے .
۲ ۱۹۳		* آگرہ : اتر پردیش (بھارت) کا ایک ضلع .
۱ ۱۹۵		* آگہی : ترک شاعر اور مؤرخ (م ۱۵۷۷/۱۵۸۵ء).
۲ ۱۹۵		* آل : بطن ، نسبی گروہ اور عشیرہ کے معنوں میں ایک کثیرالاستعمال اصطلاح .
۲ ۱۹۶		* آل : دوران زچگی ہونے والی ایک بیماری کی موجب ایک خبیث روح .
۱ ۱۹۶		* آل : رک بہ سراب .
۱ ۱۹۶		* آلات : رک بہ آلہ .
۱ ۱۹۶		* آلاتی : نسوب بہ آلہ ، بمعنی پیشہ ور سازندہ .
		* آلاچہ (۱) : تصغیر آلا ، بمعنی رنگ برنگ ، خصوصاً رنگین دھاری دار کپڑا : ترکی زبان
۱ ۱۹۶		کی مختلف ترکیبوں میں مستعمل کلمہ .
۱ ۱۹۶		* آلاچہ (۲) : ولایت انقرہ میں بوزغاز کی سنجاق اور قضا بوزغاز کا ایک قصبہ .
۱ ۱۹۶		* آلاچہ حصار : (ت : رنگ برنگ قلعہ) مغربی سوراوہ کے شہر قروشواج کا ترکی نام .
		* آلاچہ طاغ : (= مختلف رنگوں کا پہاڑ) ترکی بولنے والے ملکوں میں متعدد پہاڑوں کا نام،
		جن میں سے ایک قونیہ کے جنوب مغرب میں اور دوسرا قارص کے جنوب
۱ ۱۹۷		مشرق میں واقع ہے .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۹۷		* آلا شہر : (رنگ برنگا شہر) آناتولی کی ولایت منسا میں ایک قضا کا صدر مقام۔
۱ ۱۹۸		* آلا طاع : ترک ممالک میں کئی پہاڑوں اور پہاڑی سلسلوں کا نام، مثلاً کوهستان طاوروس (بلغار طاغی) کا بلند ترین حصہ؛ نیز شمال مغربی آناتولی، مشرق آناتولی، شمال مشرقی ایران، وسط ایشیا، مشرقی ترکستان اور سائیریا میں۔
۱ ۱۹۹		* آلائی : بوزلٹی فوج کا ایک مخصوص دستہ؛ رجمنٹ۔
۳ ۱۹۹		* آلبہ و القلاع : جزیرہ نمائے آئی بیریہ کا وہ حصہ جو اکثر قرطبہ کے امیروں کے حملوں کی زد میں رہتا تھا؛ موجودہ ہسپانیہ کا ایک صوبہ۔
۱ ۲۰۰		* آلب : بمعنی قہرمان، بہادر، شجاع؛ متعدد افراد کے ناموں میں شامل لفظ۔
۱ ۲۰۹		* آلب آرسلان (۱) : عضد الدولہ محمد بن داؤد چغری بیگ؛ سلجوقی خاندان کا دوسرا سلطان (از ۵۴۵ھ/۶۳ تا ۵۶۵ھ/۷۳)۔
۱ ۲۱۲		* آلب آرسلان (۲) : ایضاً؛ مقالہ از ترکی انسائیکلو پیڈیا۔
۱ ۲۱۶		* آلبتگین : (آلبتگین) دولت غزنویہ کا بانی (م قبل از ۵۳۵ھ/۶۳)۔
۱ ۲۱۷		* آلباش : وسط ایشیا کی ایک مشہور ترکی داستان کا ہیرو۔
۱ ۲۱۹		* آلتای : (آلتون طاغ) وسطی ایشیا کے مشرقی حصے میں تقریباً ہزار میل لمبا سلسلہ کوہ۔
۲ ۲۱۹		* آلتائیہ : جبال آلتای کا ایک غیر مسلم ترک قبیلہ؛ نیز تورانیوں کے لیے مترادف اصطلاح۔
۱ ۲۲۰		* آلتق : رگ بہ سکہ۔
۱ ۲۲۰		* آلتون تاش العاجب : ابو سعید الملقب بہ خوارزم شاہ؛ سبکتگین اور اس کے دو جانشینوں کے عہد کا سپہ سالار؛ والی ہرات (۵۳۰ھ/۱۰)۔
۱ ۲۲۰		* آلتی ہرق : (= شش انگشت) ترک عالم اور مترجم محمد بن محمد کا عرف (م ۵۱۰ھ/۳۲)۔
۳ ۲۲۱		* آلتی شہر : (جینی؛ آلتا شہر = چھے شہر) سن کیانگ کا ایک علاقہ، جس میں کوچہ، آق صو، اوچ طرفان، کاشغر، یارقند اور ختن واقع ہیں۔
۱ ۲۲۲		* آلتین : (یا آلتون) سونا یا سونے کے سکے؛ متعدد ترکی اعلام کا جز؛ نیز رگ بہ سکہ۔
۱ ۲۲۲		* آلتین اوردو : (یا آردو) روسی اصطلاح Zolotaya Ordu کا ترکی مترادف؛ رگ بہ (آل) باتو۔
۲ ۲۲۲		* آلتین طاش : (آلتون طاش) آناتولی کی قضا اور ولایت کوتاہیہ میں ایک گاؤں۔
۱ ۲۲۳		* آلتین (آلتون) کوہرو : عراق کی ولایت کرکوک میں ایک خوش منظر قصبہ۔
		* آلوسی : بغداد کا ایک علمی خاندان؛ (۱) سورث اعلیٰ عبداللہ صلاح الدین (م ۵۱۲ھ/۱۸۳) اور ان کے متعدد بیٹے، یعنی (۲) ابو الثناء محمود شہاب الدین، مفتی بغداد و صاحب تفسیر روح المعانی وغیرہ (۵۱۲ھ/۱۸۰۲ تا ۵۱۲ھ/۱۸۰۲)۔
		* (۳) عبدالرحمن؛ خطیب اور عالم (م ۵۱۲ھ/۱۸۰۲)۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
		(۴) عبدالحمید ، معلم ، واعظ اور مؤلف (۱۲۳۲/۱۸۱۶ء تا ۱۳۲۴/۱۹۰۲ء)؛ (۵) عبداللہ بہاء الدین ، قاضی بصرہ اور نحو ، منطق اور تصوف میں بعض کتب کا مصنف (۱۲۳۸/۱۸۳۳ء تا ۱۲۹۱/۱۸۷۴ء)؛ (۶) عبدالباقی سعد الدین ، قاضی کرکوک اور شارح و مصنف (۱۲۵۰/۱۸۳۴ء تا ۱۲۹۳/۱۸۷۶ء)؛ (۷) نعمان خیر الدین ابو البرکات ، معلم ، واعظ اور مصنف جلاء العینین ، شقائق النعمان وغیرہ (۱۲۵۲/۱۸۳۶ء تا ۱۳۱۷/۱۸۹۹ء)؛ (۸) محمد حمید (۱۲۶۲/۱۸۴۶ء تا ۱۲۹۰/۱۸۷۳ء)؛ (۹) احمد شاکر ، قاضی بصرہ (۱۲۶۴/۱۸۴۸ء تا ۱۳۳۰/۱۹۱۲ء)؛ نیز (۱۰) محمود شکر المعروف بہ محمود آلوسی زادہ ابن عبداللہ بہاء الدین ، مؤلف بلوغ الارب فی معرفتہ احوال العرب (۱۲۷۳/۱۸۵۷ء تا ۱۳۴۲/۱۹۲۴ء)؛ (۱۱) علاء الدین علی بن نعمان خیر الدین ، معلم اور مصنف (م) (۱۳۴۰/۱۹۲۱ء)؛ (۱۲) محمد درویش بن احمد شاکر ، معلم ، واعظ اور مصنف (حیات) (۱۳۴۰/۱۹۲۲ء)۔
۱	۲۲۴	* آلہ : (۱) علم صرف و نحو کی ایک اصطلاح ؛ (۲) وہ علوم و فنون جو کسی اور چیز کی تحصیل کے لیے سیکھے جائیں ۔
۲	۲۲۶	* آمانوس : رک بہ الماطاغ ۔
۲	۲۲۷	* آمد : رک بہ دیار بکر ۔
۲	۲۲۷	* آمد جی : دولت عثمانیہ کی مرکزی حکومت کا ایک عہدہ دار ۔
		⊗ الآمدی : ابو القاسم (یا ابو علی) الحسن بن بشر بن یحییٰ ، نحوی ، نقاد سخن ، کاتب ، عربی شاعر اور مصنف کتاب الموازنۃ بین ابی تمام و البحرۃ وغیرہ (م) ۳۷۰/۹۸۰ء یا ۳۷۱/۹۸۱ء)۔
۲	۲۲۸	* الآمدی : علی بن ابی علی بن محمد التغلبی ، سیف الدین ؛ ایک عرب عالم دین اور متعدد کتب مثلاً احکام الحکام فی اصول الاحکام وغیرہ کا مصنف (۵۵۱/۱۱۵۶ء - ۱۱۵۷/۹۸۰ء تا ۱۲۳۳/۱۱۵۷ء)۔
۱	۲۳۰	* الامر باحکام اللہ : ابو علی المنصور (۵۴۹/۱۱۰۹ء تا ۵۷۳/۱۱۳۰ء)؛ فاطمی خاندان کا دسواں خلیفہ (از ۵۹۵/۱۱۰۱ء)۔
۱	۲۳۱	* آمل : دو شہروں کا نام : (۱) مازندران میں الطبری کا مولد اور سابقاً طبرستان کا دارالحکومت ؛ (۲) جمہوریہ شوروی ترکمنستان میں موجودہ چار جو یا چار جوی ۔
۲	۲۳۲	* آمنۃ : نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ۔
۲	۲۳۵	⊗ آمودریا : (دریائے جیحون) ترکستان کا معروف دریا ۔
۱	۲۳۶	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۵۸		* آمین : ایک دعائیہ کلمہ .
۲ ۲۵۸		* آناہہ : بحر اسود کے ساحل پر ایک چھوٹا سا قلعہ .
		* آنادولو : رگ بہ آناطولی .
		* آناطولی (۱) : آنادولو ، آناطولیا ، ایشیائے کوچک ؛ موجودہ جمہوریہ ترکیہ کے سارے ایشیائی حصے پر مشتمل ایک طویل و عریض جزیرہ نما .
۱ ۲۵۹		* آناطولی (۲) : سابقاً آناطولی کے مغربی نصف پر مشتمل صوبہ .
۱ ۳۰۲		* آناطولی حصاری : (نیز گوزلجہ حصار ، ینیجہ یا ینی حصار ، آقچہ حصار) آبنائے فاسفورس کے تنگ ترین حصے پر ایک قلعہ .
۱ ۳۰۳		* آنامور : آناطولی کے جنوبی ساحل پر ایک قصبہ اور بندرگاہ؛ ولایت ایچ ایل کی ایک قضا کا صدر مقام .
۱ ۳۰۳		* آنہ : (یا آنہ) رگ بہ سگہ .
۲ ۳۰۳		* آئی : قدیم ارمنی دارالسلطنت ، جس کے کھنڈر دریائے آرپہ چای کے دائیں کنارے پر واقع ہیں .
۲ ۳۰۳		* آوہ : وسطی ایران کے دو شہر : (۱) موجودہ قصبہ آوج ؛ (۲) موجودہ قصبہ آہہ .
۲ ۳۰۸		* آہی : ایک ترک شاعر (م ۱۵۱۷/۵۹۲۳ء)
۱ ۳۰۹		* آیات : رگ بہ آیت .
۲ ۳۰۹		* آياس : قدیم آیکائی ؛ کلیکیا کے ساحل اور خلیج اسکندرون کے مغربی کنارے پر ولایت آطنہ کی ایک ناحیہ بعمورطہ لقی کا صدر مقام اور بندرگاہ .
۲ ۳۰۹		* آياس پاشا : (۱۳۸۲/۵۸۸۶ء تا ۱۵۳۹/۵۹۳۶ء) سلطنت عثمانیہ کا وزیراعظم (از ۱۵۳۶/۵۹۳۲ء) .
۲ ۳۱۰		* آياستفانوس : رگ بہ یشیل کوی .
۱ ۳۱۳		* آيا سولوک : (آيا سلوق ، آيا سلوغ ، آيا تلوغ) موجودہ سلجک ؛ آناطولی کے مغربی ساحل پر کوہ ببل طاغ کے دامن میں ایک چھوٹا سا قصبہ، جہاں حواری مسیحؑ یوحنا نے زندگی بسر کی .
۱ ۳۱۳		* آيا صوفیہ : قسطنطنیہ کی سب سے بڑی جامع مسجد؛ قبل ازیں مشرقی دنیا کے نصرانیت کا ممتاز ترین صدر کلیسا .
۲ ۳۱۳		* آیت : کھلی ہوئی نشانی یا علامت ؛ قرآن مجید میں وہ جملہ جو ابتدا اور انتہا رکھتا ہو .
۲ ۳۲۳		* آیدین : نیز معروف بہ گوزل حصار (= خوبصورت قلعہ) ، آناطولی کی ولایت آیدین کا صدر مقام .
۲ ۳۲۶		* آیدین اوغلو : ایک ترکمان خانوادہ، جو ۱۷۰۸/۵۷۰۸ء سے ۱۳۲۵/۵۸۲۶ء تک اسی

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۲۷		نام کی امارت پر برسر حکومت رہا .
۲ ۳۲۸		* آیوالق : (یونانی : کیدونیا) مغربی اناطولی کی ایک قضا اور اس کا صدر مقام .
۱ ۳۲۹		* آب : رگ بہ ابو .
		* آباضیہ : عبداللہ بن ریاض المری التیمی کی طرف منسوب خوارج (رگ بان) کی ایک بڑی شاخ ؛ آغاز قبل از ۵۶۵ .
۱ ۳۲۹		* آباقا : رگ بہ ایلخانیہ .
۱ ۳۳۳		* آبان : رگ بہ آبان .
۱ ۳۳۳		* آبان بن عبدالحمید : اللّاحقّی الرّقاشی ، عہد ہارون الرشید کا ایک عربی شاعر (م نواح ۶۲۰/۵۸۱۵) .
		* آبان بن عثمان بن عفان : (م ۵۱۰/۷۲۳ - ۷۷۳) ، خلیفہ ثالث کے فرزند ؛ تابعی کبیر ، فقیہ ، محدث اور کچھ مدت کے لیے والی مدینہ .
۲ ۳۳۳		* آب : یمن کی سنجاق تعز میں اسی نام کی ایک قضا کا صدر مقام .
۱ ۳۳۵		* ابدۃ : ہسپانیہ کے صوبہ جیان کے ایک ضلع (گورہ) کا صدر مقام .
۲ ۳۳۵		* ابتداء : (ع) نحو کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۳۶		* ابجد : عربی زبان کے ۲۸ حروف ہجا اور ان کے مدد حفظ آٹھ کلموں میں سے پہلا کلمہ .
۱ ۳۳۷		* ابخاز : (۱) نیز افخاز ، مسلم مآخذ میں گرجستان اور گرجیوں کے لیے اصطلاحی کلمہ ؛ (۲) مغربی قفقاز میں بحر اسود کے کنارے آباد ایک قوم .
۱ ۳۳۹		* ابد : دہر کا مترادف لفظ ؛ نیز رگ بہ دہر ، زمان ، قدم .
۲ ۳۴۲		* ابدال : صوفیہ کے ہاں اولیاء اللہ کے سلسلہ مدارج کا ایک درجہ .
۲ ۳۴۳		* ابدالی : افغان درانی قبیلے کا سابقہ نام .
۲ ۳۴۴		* ابراہام : رگ بہ ابراہیم .
۲ ۳۴۵		* ابراہیم : خلیل اللہ ، مشہور نبی ، کعبے کے بانی ، دین حنیف کے ہادی اور سلسلہ اسماعیلی و اسرائیلی کے جد امجد ؛ نیز قرآن مجید کی ایک سورہ .
۲ ۳۴۵		* ابراہیم ، ابو اسحق : بن احمد ، اغلی خاندان کا لوہا فرمانروا (۵۲۶۱/۸۷۵ تا ۵۲۸۹/۶۹۰۲) .
۱ ۳۵۱		* ابراہیم بن احمد : (۵۱۰۲۳/۶۱۵ تا ۵۱۰۵۳/۶۳۳) آل عثمان کا اٹھارہواں سلطان (از ۵۱۰۳۹/۶۳۰) .
۱ ۳۵۲		* ابراہیم بن ادہم : مشہور صوفی بزرگ اور عابد و زاہد (م مابین ۵۱۶/۷۷۶ و ۵۸۳/۶۶۶) .
۱ ۳۵۳		* ابراہیم بن الأغلب : نیم آزاد اغلی خاندان کا بانی ، والی زاب (از ۵۱۸۳/۸۰۰ تا

اشارات

عنوان

صفحہ عمود

- ۲ ۳۵۷ . (۸۱۲/۵۱۹۶)
- * ابراہیم بن خالد : رگ بہ ابو ثور .
- ۱ ۳۵۹ * ابراہیم بن عبداللہ : حضرت علیؑ کے پوتے اور محمد النفس الزکیہ کے بھائی، جنہوں نے عباسی خلیفہ المنصور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا (م ۵۱۳۵/۵۱۳۵)
- ۱ ۳۵۹ . (۶۷۳)
- * ابراہیم بن علی : رگ بہ الشیرازی .
- ۱ ۳۶۰ * ابراہیم بن محمد : (۵۸۲/۶۰۱ تا نواح ۵۱۲۹/۶۷۳)، تحریک عباسیہ کی اہم شخصیت اور پہلے دو عباسی خلفا کا بھائی .
- ۱ ۳۶۰ * ابراہیم بن مسعود : بارہواں غزنوی فرمانروا : رگ بہ غزنویہ .
- ۲ ۳۶۰ * ابراہیم بن المہدی العباسی : (۵۱۶۲/۶۷۳ تا ۵۲۲۳/۸۳۹)، عباسی خلیفہ المہدی کا بیٹا اور عہد مامون الرشید کا ایک مدعی خلافت .
- ۲ ۳۶۱ * ابراہیم بن ہلال : رگ بہ الصابی .
- * ابراہیم بک : مصر کے آخری ممتاز ترین مملوک امرا میں سے ایک امیر (م ۵۱۲۳۱/۵۱۲۳۱)
- ۲ ۳۶۱ . (۶۱۸۱۶)
- * ابراہیم پاشا : رگ بہ چندرلی .
- ۱ ۳۶۳ * ابراہیم پاشا (داماد) : (۵۱۰۸۹/۶۷۸ تا ۵۱۱۳۳/۶۷۳)، عثمانی سلطان احمد ثالث کا مقرب اور داماد : ترکیہ کا صدر اعظم (از ۵۱۱۳۰/۵۱۱۳۰)
- ۱ ۳۶۳ . (۶۱۷۱۸)
- * ابراہیم پاشا (داماد) : عثمانی سلطان مراد ثالث کا مقرب اور داماد : سلطان محمود ثالث کے عہد میں تین بار صدر اعظم (م ۵۱۰۱۰/۶۷۰) .
- ۲ ۳۶۵ * ابراہیم پاشا (قرہ) : (۵۱۰۳۰/۶۲۰ تا ۵۱۰۹۷/۶۸۶)، سلطان محمد رابع کا قیودان پاشا اور بعد ازاں صدر اعظم (از ۵۱۰۹۵/۶۸۳) .
- ۲ ۳۶۶ * ابراہیم پاشا (وزیر) : عثمانی سلطان سلیمان اعظم قانونی کا مشہور صدر اعظم (از ۵۹۲۹/۵۹۲۹)
- ۱ ۳۶۷ . (۶۱۵۲۳) اور مقرب بارگاہ (م ۵۹۳۲/۶۳۶) .
- * ابراہیم پاشا بن محمد علی : محمد علی خدیو مصر کا سب سے بڑا بیٹا : سپہ سالار کبیر اور والی مصر (م ۵۱۲۶۵/۸۳۸) .
- ۱ ۳۶۹ * ابراہیم حقی پاشا : (۵۱۲۷۹/۸۶۳ تا بعد از ۵۱۳۳۳/۹۱۳) ماہر قانون و سیاست ، متعدد کتب کا مصنف اور مترجم ، سفیر ، وزیر اور کچھ عرصے کے لیے ترکیہ کا صدر اعظم (۱۹۱۰-۱۹۱۱) .
- ۱ ۳۷۳ * ابراہیم خان : ترکیہ کے سلطان سلیم ثانی کا نواسہ ، صدر اعظم محمد صوقلی پاشا کا بیٹا ، خاندان ابراہیم خاندان کا مورث اعلیٰ اور متعدد صوبوں کا والی (م بعد از

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۷۵		* ابراہیم لودی : ہندوستان کے لودی خاندان کا آخری فرمانروا (از ۱۵۱۰ء تا ۱۵۲۶ء)۔
۲ ۳۷۵		* ابراہیم متفرقہ : (یعنی داروغہ دربار) ، دولت عثمانیہ میں طباعت کا موجد (م ۱۱۵۷ء)۔
۱ ۳۷۶		* ابراہیم الموصلی : یا الندیم الموصلی (۱۲۵ء/۵۱۲ تا ۱۸۸ء/۵۸۰) ، عہد عباسیہ کا مشہور مغنی اور بہت سے نغمات کا موجد ۔
۱ ۳۷۷		* الابرزی : رگ بہ عمید الدین اسعد ۔
۱ ۳۷۸		* ابر شہر : نیشاپور (رگ بآن) کا قدیم تر نام ۔
۲ ۳۷۸		* ابر قباز : واسط اور بصرے کے مابین سرحد خوزستان سے متصل علاقہ ۔
۱ ۳۷۹		* ابر قوہ : شیراز سے یزد جانے والی سڑک پر ایک قصبہ ۔
۱ ۳۷۹		* ابرہہ (۱) : چھٹی صدی عیسوی میں جنوبی عرب کا ایک عیسائی بادشاہ، جس نے مکے پر حملہ کیا تھا (م بعد از ۵۷۰ء) ؛ نیز رگ بہ الفیل ۔
۲ ۳۸۱		* ابرہہ (۲) : اس نام کی متعدد شخصیات ۔
۱ ۳۸۹		* ابشر : (Abeche) ، چاڈ کی سلطنت ودائی کا دارالحکومت۔
۲ ۳۸۹		* ایشقہ : رگ بہ علی شیر نوائی۔
۲ ۳۸۹		* الابشہی : بہاء الدین ابو الفتح محمد بن احمد المعلی الشافعی (۵۷۹ء/۱۳۸۸ء تا ۵۸۵ء/۱۳۳۶ء) ، مصر کا ایک عرب عالم اور بعض کتب عربی مثلاً اطواق الازہار علی صدور الانہار کا مصنف ۔
۲ ۳۹۰		* ابعام : (بو عام) رگ بہ تلقیلات ۔
۲ ۳۹۰		* ابقیق : (بقیق) سعودی عرب کے صوبہ الحسا کا ایک گاؤں اور تیل کا معدن۔
۲ ۳۹۱		* ابکار یوس : اسکندر آغا بن یعقوب ، ارمنی عرب عالم اور نہایت الارب فی اخبار العرب کا مصنف (م ۱۳۰۳ء/۱۸۸۵ء)۔
۲ ۳۹۱		* ابکلی : رگ بہ ابو طلیح۔
۲ ۳۹۱		* الابلق : السموہل بن عادیا (رگ بآن) کا ایک قلعہ۔
۲ ۳۹۱		* الابلہ : ازمہ وسطی میں بصرے کے مشرقی جانب ایک بڑا شہر ۔
۱ ۳۹۳		* ابلیس : شیطان لعین کے لیے قرآنی اصطلاح۔
۲ ۳۹۹		* ابن : بمعنی بیٹا۔
۱ ۴۰۰		* ابن آجروم : ابو عبداللہ محمد الصنہاجی ، مشہور عرب عالم ، فقیہ ، ادیب ، ریاضی دان ، ماہر صرف و نحو اور المعقمة الاجرومية فی مبادی العربیة کا مصنف۔
۱ ۴۰۲		* ابن الآبار : ابو جعفر احمد الخولانی ، اندلس کا عربی شاعر (م ۱۰۳۳ء/۱۰۳۱-۱۰۳۲ء)۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۰۲		* ابن الأَبار : ابو عبدالله القُضاعي (۵۹۵/۱۱۹۹ تا ۶۵۸/۱۲۶۰)، اندلس کا مشہور عرب مؤرخ اور کتاب التکملة لکتاب الصلة وغيره کا مصنف .
۱ ۳۰۳		* ابن ابی أصيبعة : موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم السعدي الخزرجي ، اندلس کا مشہور طبیب اور سوانح نگار اور عيون الانباء في طبقات الاطباء کا مصنف (م ۶۶۸/۱۲۷۰)۔
۱ ۳۰۳		⊗ ابن ابی جَمهور : محمد بن زين الدين . . . بن ابی جمهور آخسائي هجري ، حکيم مجتهد ، عارف متکلم ، صوفي شيعي ، اخباري (محدث) اور متعدد کتب کا مصنف (م ۹۱۲/۱۵۰۶)۔
۱ ۳۰۶		* ابن ابی حَجَلَة : احمد بن يحيى ابو العباس شهاب الدين التلمساني الحنبلي الحنفي (۵۲۵/۱۳۲۵ تا ۵۷۶/۱۳۷۵) ، با کمال عرب شاعر .
۲ ۳۰۶		⊗ ابن ابی الحديد : عز الدين ، ابو حامد المدائني (۵۸۶/۱۱۹۰ تا ۶۵۶/۱۲۵۸) ، شيعي اديب ، شاعر ، فقيه اور کلامي ، شرح نهج البلاغة اور الفلاک الدائر علی للمثل السائر وغيره کا مصنف .
۲ ۳۰۹		* ابن ابی الدنيا : ابوبکر عبدالله القرشي (۳۰۸/۸۳۳ تا ۲۸۱/۸۹۳) ، عرب عالم ، عباسي خليفه المکتفی کا اتالیق اور بہت سی عربي کتب ادب کا مصنف .
۲ ۳۱۰		* ابن ابی دينار : ابو عبدالله محمد الرعيبي القبرواني ، عرب مؤرخ اور المؤنس في اخبار افریقیة و تونس کا مصنف (حيات ۱۱۱۰/۱۶۹۸)۔
۱ ۳۱۱		* ابن ابی الرجال : ابو الحسن علی ، عرب منجم اور البارع في احکام النجوم کا مصنف (م نواح ۳۸۵/۱۰۹۲)۔
۲ ۳۱۱		* ابن ابی الرجال : احمد بن صالح ، عرب مؤرخ ، فقيه ، شاعر اور مصنف ، يمن کا زيدي شيعه (م ۱۰۹۲/۱۶۸۱)۔
۲ ۳۱۳		* ابن ابی زَلَدَقَة : الطرطوشي (۳۵۱/۱۰۵۹ تا ۵۲۰/۱۱۲۶) ، فقيه ، محدث اور چند کتب مثلاً الکشف و البیان عن تفسير القرآن کا مصنف .
۲ ۳۱۳		* ابن ابی زرع : ابوالحسن الفاسي ، المغرب کا عرب مؤرخ اور چند کتب کا مصنف (حيات ۲۶/۱۳۲۶)۔
۲ ۳۱۵		* ابن ابی زيد القيرواني : النفزاوي (۳۱۰/۹۲۲ تا ۳۸۶/۹۹۶) ، المغرب کا ایک مالکی فقيه اور چند کتب کا مصنف (م مابين ۳۱۰/۹۲۲ و ۳۸۶/۹۹۶)۔
۲ ۳۱۶		* ابن ابی طاهر طيفور ابو الفضل احمد : (۳۰۳/۸۱۹ تا ۲۸۰/۸۹۳) ، عرب اديب ، اور مؤرخ ، تاريخ بغداد کا مصنف .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۱۷		* ابن ابی عامر : رگ بہ المنصور .
۱ ۳۱۷		* ابن ابی العوجاء : عبدالکریم : معن بن زائد کا ماموں اور واضع الاحادیث (م ۱۵۵ھ/۷۷۷ء) .
۲ ۳۱۷		* ابن الأثیر : عراقی جزیرہ ابن عمر کے تین نامور عالم و فاضل بھائی : (۱) مجد الدین ابو السعادات المبارک بن محمد (۵۳۳ھ/۱۱۳۹ء تا ۶۰۶ھ/۱۲۱۰ء) ، عرب محدث ، فقیہ اور متعدد کتب ، مثلاً جامع الاصول فی احادیث الرسول وغیرہ کا مصنف : (۲) عز الدین ابوالحسن علی بن محمد (۵۵۵ھ/۱۱۶۰ء تا ۶۳۰ھ/۱۲۳۲ء) ، عرب عالم ، مؤرخ اور صاحب اسد الغایۃ : (۳) ضیاء الدین ابو الفتح نصر اللہ (۵۵۸ھ/۱۱۶۲ء تا ۶۳۷ھ/۱۲۳۹ء) ، عربی کا صاحب اسلوب انشا پرداز اور العثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر کا مصنف .
۲ ۳۱۷		* ابن الأجدابی : ابو اسحاق ابراہیم بن اسماعیل بن احمد اللواتی ، فقہ لغت پر بہت سی کتب مثلاً کفایۃ المتحفظ وغیرہ کا مصنف (م قبل از ۶۰۰ھ/۱۲۰۳ء) .
۲ ۳۱۹		* ابن الأحمر : رگ بہ [ابو حیان] محمد بن یوسف .
۱ ۳۲۰		* ابن الأحنف : (نیز ابن الاسود) ابو الفضل الجبلی خلیفہ ہارون الرشید کا درباری شاعر (م ۱۹۲ھ/۷۸۰ء) .
۱ ۳۲۰		* ابن اسحق : ابو عبد اللہ یا ابوبکر محمد ، مشہور عرب محدث ، مؤرخ اور کتاب المبتداء ، کتاب المغازی اور کتاب الخلفاء کا مصنف .
۲ ۳۲۰		* ابن اسفندیار : محمد بن الحسن ، ایرانی مؤرخ (حیات ۶۰۶ھ/۱۲۱۰ء) .
۱ ۳۲۲		* ابن اعثم الکوفی : ابو محمد احمد ، عرب مؤرخ ، شاعر اور کتاب المألوف ، کتاب التاريخ اور کتاب الفتوح وغیرہ کا مصنف (م ۳۱۳ھ/۹۲۶ء) .
۲ ۳۲۲		* ابن الأثیر : رگ بہ الأثیر .
۱ ۳۲۳		* ابن ایاس : ابن ایاس الحنفی (۵۲ھ/۸۵۲ء تا نواح ۹۳۰ھ/۱۵۲۳ء) ، مملوک خاندان کے دور زوال کا ممتاز ترین عرب وقائع نویس اور بدائع الزهور فی وقائع الدهور کا مصنف .
۱ ۳۲۳		* ابن بابویہ : یا ابن بابویہ ، چار بڑے شیعہ جامعین حدیث میں سے ایک اور کتاب من لا یحضرہ الفقیہ وغیرہ کا مصنف (م ۳۸۱ھ/۹۹۱ء) .
۱ ۳۲۶		* ابن باجہ : ابوبکر محمد بن یحیی المعروف بہ الصائغ ، اندلس کا مشہور عرب فلسفی ، سائنس دان ، عالم ادب و نحو ، طبیب اور نواز، نیز طب ، ہندسہ ، ہیئت ، طبیعیات ، الکیما اور فلسفے پر متعدد رسائل کا مصنف (م ۱۳۸ھ/۱۱۳۸ء) .
۲ ۳۲۶		* ابن بَدْرُون : رگ بہ ابن عیدون .
۱ ۳۲۹		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۲۹		* ابن بَرّی : ابوالحسن علی بن محمد بن علی بن محمد بن الحسن الرباطی (۵۶۶/۶۱۲ تا نواح ۵۳۰/۶۱۳۹)، عرب نحوی، عالم دین، شاعر اور فی مخارج الحروف اور الدرر اللوامع کا مصنف۔
۲ ۳۲۹		* ابن بَرّی : ابو محمد عبداللہ المقدسی العصری (۵۹۹/۶۱۰ تا ۵۸۲/۶۱۱۸)، عرب نحوی اور لغوی اور متعدد کتب کا مصنف۔
۲ ۳۳۰		* ابن بَشْکُوَال : ابو القاسم خَلْف بن عبدالملک بن مسعود بن موسیٰ بن بَشْکُوَال (۵۹۲/۶۱۰ تا ۵۷۸/۶۱۱۸۳) معروف، عرب تذکرہ نگار اور بہت سی کتب مثلاً کتاب الصلۃ فی تاریخ ائمة الاندلس وغیرہ کا مصنف۔
۲ ۳۳۱		* ابن بَطُّوطة : (بطوطہ) شرف الدین محمد بن عبداللہ بن محمد بن ابراہیم (۵۷۰/۶۱۳ تا ۵۷۹/۶۱۳۷)، مشہور عرب سیاح اور تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار کا مصنف۔
۲ ۳۳۳		* ابن البَطْلان : (Joannes) ابوالحسن المختار، بغداد کا ایک مسیحی طبیب اور تقویم الصلۃ کا مصنف (حیات ۵۶۰/۶۱۰)۔
۲ ۳۳۴		* ابن بَقِیَّة : نصیر الدولہ ابو الطاهر محمد بن محمد بن بَقِیَّة، بغداد کے امیر بختیار کا وزیر (م ۵۶۸/۶۱۳)۔
۱ ۳۳۵		⊙ ابن بَکَّار : ابو عبداللہ (یا ابوبکر) الزبیر بن بکار القرشی الاسدی المدنی، قاضی الحرمین، تاریخ، نسب، حدیث، شعر اور ادب کا ممتاز عالم اور کتاب انساب قریش و اخبارہم وغیرہ کا مصنف (م ۵۶۰/۶۱۳)۔
۱ ۳۳۷		* ابن البَلَدِی : شرف الدین ابو جعفر احمد بن محمد ابن سعید، عباسی خلیفہ المستنجد کا وزیر (م ۵۶۳/۶۱۳)۔
۱ ۳۳۷		* ابن البَنَاء : ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان الازدی المراكشی (۵۶۳/۶۱۳ تا ۵۳۱/۶۱۳۲۱)، ریاضی، ہیئت، نحو وغیرہ کا متبحر عالم۔
۱ ۳۳۸		* ابن البَوَاب : ابو الحسن علاء الدین علی بن ہلال، مشہور عرب خوش نویس (م ۵۱۳/۶۱۰)۔
۲ ۳۳۸		* ابن بی بی : ناصر الدین یحییٰ بن مجد الدین محمد، ایرانی مؤرخ اور سلاجقہ ایشیائے کوچک کی تاریخ الاوامر العلامیۃ فی الامور العلامیۃ کا مصنف (م ۵۶۰/۶۱۳)۔
۱ ۳۳۹		* ابن البیطار : ابو محمد عبداللہ بن احمد ضیاء الدین ابن البیطار المالقی، ماهر نباتات اور کتاب الجامع فی الادویۃ المفردۃ کا مصنف (م ۵۶۶/۶۱۳)۔
۱ ۳۴۰		⊙ ابن التَّعَاوِیْذِی : ابو الفتح محمد بن عبداللہ (نشتکین) بن عبداللہ (۵۱۹/۶۱۲ تا ۵۸۳/۶۱۱) بغداد کا عرب شاعر۔

- * ابن تغری بردی : ابو المحاسن جمال الدین بن یوسف ، عرب مؤرخ اور سوانح نگار ،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة وغیره کا مصنف (م ۵۸۷۳/۱۳۷۰ء)
- ۳ ۳۳۰
- * ابن التلمیذ : ابو المحاسن ہبة الله بن ابی العلاء ، بغداد کا عیسائی طبیب اور متعدد کتب
طب کا مصنف (م ۵۶۰/۱۱۶۰ء)
- ۲ ۳۳۲
- * ابن تومرت : ابو عبدالله محمد بن عبدالله ، مراکش کا مشہور مسلمان مصلح اور مراکش
کے حکمران سلسلہ موحدون کا بانی (م ۵۲۳/۱۱۳۰ء)
- ۱ ۳۳۳
- * ابن تیمیہ : تقی الدین ابو العباس احمد بن شہاب الدین عبدالحلیم بن مجد الدین عبدالسلام
... بن تیمیہ الحرانی الحنبلی (۵۶۶۱/۱۲۶۳ء تا ۵۷۲۸/۱۳۲۸ء)
- ۱ ۳۳۸
- مشہور عرب عالم دین ، مصلح ، فقیہ اور کثیر التعداد کتابوں کے مصنف .
- * ابن جبیر : ابو الحسن محمد بن احمد بن سعید بن جبیر الکنانی (۵۴۰/۱۱۳۵ء تا
۵۶۱۳/۱۲۱۷ء) ، اندلس کا مشہور عرب سیاح اور الرحلة کا مصنف .
- ۲ ۳۵۹
- * ابن الجراح : عہد عباسیہ کے دو وزیر : (۱) عبدالرحمن بن عیسیٰ داود ، ۵۳۲۸/۹۳۶ء
میں تین ماہ کے لیے خلیفہ الرازی کا وزیر (حیات ۵۳۲۹/۹۳۱ء) ؛ (۲)
ابو الحسن علی ، سابق الذکر کا بھائی اور خلیفہ المقتدر کا وزیر (م ۵۳۳۳/۹۳۶ء)
- ۲ ۳۶۰
- ⊗ ابن الجزری : شمس الدین ابو الخیر محمد بن محمد . . . الجزری (۵۵۱/۱۳۵۰ء تا
۵۸۳۳/۱۴۲۹ء) ، عرب عالم دین ، علم قراءت پر سند اور کتاب
النشر فی القراءت العشر وغیرہ کا مصنف .
- ۱ ۳۶۲
- * ابن جزلة : (Ben Gesla) ، شرف الدین ابو علی یحییٰ بن عیسیٰ البغدادی ، نو مسلم
خوش نویس ، طبیب اور مصنف (م ۵۳۹۳/۱۱۰۰ء)
- ۲ ۳۶۳
- * ابن جماعة : علمائے حماة کا ایک خاندان اور اس کے مختلف افراد : (۱) پدر الدین
ابو عبدالله محمد بن ابراہیم الکنانی الحموی (۵۶۳۹/۱۲۳۱ء تا ۵۷۳۳/۱۲۳۳ء)
عرب فقیہ اور مدرس ، قاہرہ و دمشق کا قاضی القضاة اور
تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام اور تذکرة السامع و المتکلم کا مصنف ؛
(۲) ابو عمر عبدالعزیز عز الدین (۵۶۹۳/۱۲۹۳ء تا ۵۷۲۷/۱۳۶۶ء) ،
سابق الذکر کا بیٹا ، شام اور مصر کا قاضی القضاة ؛ (۳) ابراہیم بن عبدالرحمن
(۵۷۲۵/۱۳۲۵ء تا ۵۷۹۰/۱۳۹۸ء) ، شمارہ (۱) کا پوتا ، مصر کا قاضی
القضاة اور مدرسہ صلاحیہ کا مدرس ؛ (۴) عز الدین ابو عبدالله محمد بن
ابی بکر ، شمارہ (۲) کا پوتا ، طس ، معلم فلسفہ اور مصنف (م ۵۸۱۹/۱۴۱۶ء)

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۶۶		* ابن جنی : ابو الفتح عثمان ، صرف و نحو کا مستند عالم اور کتاب سر الصناعة و اسرار البلاغة اور کتاب الخصائص فی علم اصول العربیة کا مصنف (م ۵۳۹۲/۱۰۰۲ء)۔
۲ ۳۶۶		⊗ ابن الجوزی : عبدالرحمن بن علی بن محمد ، ابو الفرج (ابو الفضل) جمال الدین القرشی البکری الحنبلی البغدادی (نواح ۱۱۱۶/۵۵۱۰ تا ۱۱۲۰/۵۶۰۰ء) ، مشہور حنبلی فقیہ ، واعظ اور کثیر التصانیف مصنف۔
۲ ۳۶۶		⊗ ابن الجوزی ، سبط : شمس الدین ابو المظفر یوسف بن قیز اوغلو (۵۵۸۲/۱۱۸۶ء تا ۵۶۸۳/۱۲۸۶ء) ، سابق الذکر کا نواسہ ؛ مدرس ، واعظ ، مؤرخ اور مشہور تاریخ مرآت الزمان وغیرہ کا مصنف۔
۲ ۳۷۲		* ابن جہیر : چار وزیر : (۱) فخر الدولہ ابو نصر محمد بن محمد بن جہیر (۵۳۹۸/۱۰۰۷-۱۰۰۸ء تا ۵۳۸۳/۱۰۹۰ء) ، دیار بکر کے امیر نصر الدولہ احمد بن مروان اور بعد ازاں خلیفہ بغداد القائم کا وزیر ؛ (۲) عمید الدولہ ابو منصور بن فخر الدولہ بن جہیر (۵۳۳۵/۱۰۳۳ تا ۵۳۹۳/۱۱۰۰ء) ، سابق الذکر کا بیٹا اور خلیفہ المقتدی کا وزیر ؛ (۳) زعیم الروساء قوام الدین ابو القاسم علی بن فخر الدولہ بن جہیر ، سابق الذکر کا بھائی اور خلیفہ المستظهر کا وزیر (حیات ۵۱۱۰/۱۱۱۰ء) ؛ (۴) نظام الدین ابو نصر المظفر بن علی بن محمد بن جہیر البغدادی (م ۵۶۰/۱۱۱۳ء) ، خلیفہ المقتدی کا وزیر ۔
۱ ۳۷۳		* ابن الحاجب : جمال الدین ابو عمرو عثمان ابن عمر بن ابوبکر بن یونس (۵۷۰/۱۱۷۵ء تا ۵۶۳۶/۱۲۳۹ء) ، مشہور عرب نحوی ، عالم عروض ، فقیہ اور الشافیہ اور الکافیہ وغیرہ کا مصنف ۔
۱ ۳۷۵		⊗ ابن العالک : رگ بہ الہمدانی ۔
۱ ۳۷۶		* ابن حبان : ابو حاتم محمد بن حبان ابن احمد البستی ، عرب عالم ، راوی حدیث اور کتاب التقاسیم والا نواع وغیرہ کا مصنف (م ۳۵۳/۹۶۵ء)۔
۲ ۳۷۶		* ابن حبیب : ابو مروان عبدالملک بن حبیب السامی ، اندلس کا عرب فقیہ اور مصنف (م ۵۳۸/۸۵۳ء)۔
۱ ۳۷۷		* ابن حبیب : بدر الدین ابو محمد طاہر الحسن بن عمر بن حسن الدمشقی الحلبی (۵۱۰/۱۳۱۰ء تا ۵۷۹/۱۳۷۷ء) ، عرب مؤرخ ، عالم اور مملوک سلاطین کی تاریخ ذرۃ الاسلاک فی دولة الاتراک کا مصنف۔
۲ ۳۷۷		* ابن حبیب : ابو جعفر محمد بن حبیب ، عرب ماهر لسان اور مصنف مختلف القبائل و مؤتلفہا وغیرہ (م ۳۳۵/۸۶۰ء)۔
۱ ۳۷۸		

- * ابن العجاج : ابو عبدالله الحسين بن احمد بن محمد بن جعفر ، بنو بويه کے زمانے کا ایک شاعر (م ۳۵۱ / ۱۰۰۱ء)۔
- ۲ ۳۷۸
- * ابن حجر العسقلانی : ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی الکنانی العسقلانی المصری القاہری (۵۷۳ / ۱۱۷۲ء تا ۶۴۲ / ۱۲۴۹ء) ، مشہور شافعی محدث ، فقیہ ، مؤرخ ، قاضی القضاة اور کثیر التعداد کتب مثلاً فتح الباری فی شرح الباری ، الاصابة اور تہذیب التہذیب وغیرہ کے مصنف۔
- ۲ ۳۷۹
- * ابن حجر الہیتمی : شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن محمد بن علی ابن حجر السعدی (۵۹۰ / ۱۱۹۰ء تا ۶۷۳ / ۱۲۷۴ء - ۱۵۶۷ / ۱۱۶۸ء) ، مشہور شافعی فقیہ۔
- ۱ ۳۸۲
- * ابن حجّہ : ابوالمحسن تقی الدین ابوبکر بن علی بن عبدالله الحموی القادری الحنفی الأزرازی ، عہد ممالیک کا مشہور ترین عربی شاعر ، صاحب طرز انشا پرداز اور مصنف (م ۵۸۳ / ۱۱۸۳ء)۔
- ۱ ۳۸۳
- * ابن حزم : ابو محمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم (۳۸۴ / ۹۹۴ء تا ۴۵۶ / ۱۰۶۳ء) اندلسی عرب فاضل ، مشہور عالم دین ، مؤرخ ، ممتاز شاعر اور بہت سی کتب مثلاً جمہرة الانساب وغیرہ کے مصنف۔
- ۱ ۳۸۵
- ⊗ ابن حمدون : بہاء الدین ابو المعالی محمد بن الحسن (۳۹۵ / ۱۱۰۲ء تا ۵۶۳ / ۱۱۶۷ء) ، نامور ادیب ، تاریخ و ادب اور نوادر و اشعار پر مشتمل التذكرة فی السیاسیة و الادب الملکیة اور دیگر کتب کا مصنف۔
- ۲ ۳۹۳
- ⊗ ابن حمیس : ابو محمد عبدالجبار بن ابی بکر الازدی (۳۳۷ / ۱۰۵۵ء تا ۵۲۷ / ۱۱۳۳ء) ، اندلس کا مشہور عرب شاعر۔
- ۱ ۳۹۵
- * ابن حنّاد : ابو عبدالله محمد بن علی ، ایک عرب مؤرخ اور فاطمیون (بنو عیید) کی تاریخ اخبار ملوک بنی عیید کا مصنف (حیات ۳۶۱ / ۱۲۲۰ء)۔
- ۱ ۳۹۶
- * ابن حوقل : ابو القاسم محمد النصیبی البغدادی ، عرب سیاح ، جغرافیہ نگار اور کتاب المسالک و الممالک کا مصنف (م ۳۵۰ / ۹۶۱ء)۔
- ۲ ۳۹۶
- * ابن حیان : ابو مروان حیان بن خلف بن حسین ابن حیان القرطبی (۳۷۷ / ۹۸۷ء تا ۴۶۹ / ۱۰۶۷ء) ، اسلامی اندلس کا ممتاز مؤرخ ، صاحب المتعقبس فی تاریخ اندلس۔
- ۱ ۳۹۷
- * ابن خاقان : تین وزیر : (۱) ابو الحسن عییداللہ بن یحییٰ بن خاقان ، خلیفہ التوکل کا وزیر (م ۴۶۳ / ۸۷۷ء) ؛ (۲) ابو علی محمد بن عییداللہ بن یحییٰ ، سابق الذکر کا سب سے بڑا بیٹا اور خلیفہ المقتدر کا وزیر (م ۴۶۳ / ۸۷۷ء) ؛ (۳)

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۹۷		ابو القاسم عبداﷲ (عبداﷲ) بن محمد بن عبداﷲ بن یحییٰ، ابن الفرات کی آخری معز ولی کے بعد المعتدر کا وزیر (م ۳۱۳/۹۲۶-۹۳۷ء)۔
۱ ۳۹۹		* ابن خَالَوِيَه : (خَالُوِيَه) ابو عبداﷲ الحسن بن احمد بن حمدان الہمدانی الشافعی، مشہور عرب نحوی، لغت نویس اور مصنف (م ۳۷۰/۹۸۰ء)۔
۱ ۵۰۰		ابن خَرْدَاذْبَه : ابو القاسم عبداﷲ بن عبداﷲ، مشہور ایرانی النسل جغرافیہ نگار اور کتاب المسالک و الممالک وغیرہ کا مصنف (م نواح ۳۰۰/۹۱۲-۹۱۳ء)۔
۱ ۵۰۱		* ابن الخَصِيْب : رگ بہ الخَصِيْبِي۔
۱ ۵۰۱		* ابن الخَطِيْب : ذوالوزارتین (یعنی سپہ سالار اور وزیر اعظم)، غرناطہ کا سب سے بڑا اور آخری مصنف، شاعر اور سیاست دان اور ابو الحجاج یوسف کا وزیر، بہت سی کتب مثلاً الاحاطة فی تاریخ غرناطہ وغیرہ کا مصنف۔
۱ ۵۰۳		* ابن خَلْدُوْن : دو عرب مؤرخ : (۱) عبدالرحمن (ابو زید) الملقب بہ ولی الدین (۳۷۲/۶۱۳ تا ۴۳۲ تا ۵۸۰/۶۱۳ء)، اندلس کا نامور عالم، فقیہ، لغوی، نجومی، محدث اور مؤرخ اور کتاب العبر و مقدمات وغیرہ کا مصنف : (۲) یحییٰ ابو زکریا (نواح ۳۳۳/۵۳۳ تا ۴۸۰/۶۳۸ء)، سابق الذکر کا بھائی اور چند کتب مثلاً بغیة الرواد وغیرہ کا مصنف۔
۲ ۵۰۸		* ابن خَلِيْكَان : شمس الدین ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم ابن خلکان البرمکی الاربلی الشافعی (۳۰۸/۶۱۱ تا ۳۸۲/۶۸۱ء)، ایک مشہور تذکرہ نگار اور وفيات الاعیان کا مصنف۔
۱ ۵۱۰		* ابن داوُد : ابوبکر محمد (۲۵۵/۸۶۸ تا ۳۹۷ تا ۴۸۸ء)، فقہ ظاہری کے بانی داود ابن علی الاصفہانی کا بیٹا، فقیہ، جامع اشعار، شاعر اور مصنف کتاب الزہرة وغیرہ۔
۱ ۵۱۳		* ابن دُرَيْد : ابوبکر محمد بن الحسن بن عتاهية الأزدي (۳۲۳/۸۳۷ تا ۳۲۱/۹۳۳ء)، عرب لغوی، ادیب، نقاد اور کتاب الجمهرة فی علم اللغة اور کتاب الاشتقاق وغیرہ کا مصنف۔
۲ ۵۱۳		* ابن دُقَيْق : حارم الدین ابراہیم بن محمد المصری، حنفی مؤرخ، تذکرہ نگار اور متعدد کتب کا مصنف (م ۳۰۹/۸۰۹ء)۔
۲ ۵۱۵		* ابن الدَمِيْنَة : عبداﷲ بن عبداﷲ بن احمد ابو السری، عہد ہارون الرشید کا عرب شاعر (م نواح ۳۰/۸۱۳ء)۔
۱ ۵۱۶		* ابن الدَّبِيْع : ابو عبداﷲ عبدالرحمن بن علی بن یوسف الدَّبِيْع، وجیہ الدین الشیبانی الزبیدی (۳۶۱/۸۶۶ تا ۵۳۷/۹۴۳ء)، عرب مؤرخ، محدث اور مصنف۔
۲ ۵۱۷		* ابن دَبِيْصَان : (۱۵۳/۷۷۰ تا ۲۲۲/۸۳۶ء)، اشکانی (Parthian) نسل کا نامی عیسائی فلسفی اور نجومی۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۵۱۸		* ابن رائق : ابوبکر محمد ابن رائق، عباسی خلیفہ الرازی کے عہد میں واسط اور بصرے کا والی اور بعد ازاں بغداد کا امیر الامراء (م ۵۳۳/۵۹۳۳ء)۔
۲ ۵۱۹		* ابن الراوندي : (یا الریوندي) ابو الحسین بن یحییٰ بن اسحاق ابن الراوندي، تیسری صدی ہجری کا معتزلی اور بعد ازاں ملحد ادیب اور چند کتب کا مصنف۔
۱ ۵۲۱		* ابن رجب : زین الدین (و جمال الدین) ابو الفرح عبدالرحمن بن شہاب الدین ابو العباس احمد بن رجب السلاوی البغدادی ثم الدمشقی الحنبلی (۵۶۰ھ/۱۱۶۰ء تا ۵۹۵ھ/۱۱۹۲ء)، مشہور عرب مؤرخ، تذکرہ نگار اور ذیل علی طبقات الحنابلہ وغیرہ کا مصنف۔
۱ ۵۲۳		* ابن رجل : (Abenregal)، رگ بہ ابن ابی الرجال۔
۱ ۵۲۳		* ابن رستہ : ابو علی احمد بن عمر، ایرانی الاصل عربی عالم، جغرافیہ نگار اور مصنف الاملاق النفیسة وغیرہ (م نواح ۵۳۱ھ/۱۱۳۲ء)۔
۱ ۵۲۳		* ابن رشد : (Averros)، ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد (۵۲۰ھ/۱۱۲۶ء تا ۵۹۵ھ/۱۱۹۸ء)، اندلس کا سب سے بڑا عرب فلسفی، تہافت التہافت اور دیگر کتب کا مصنف اور ارسطو کے متعدد رسائل کا شارح۔
۲ ۵۳۰		* ابن رشید : نجد میں وہابی حکمرانوں (شیخ المشائخ) کا نام : (۱) عبداللہ بن علی الرشید، اس خاندان کا بانی فرمانروا (از ۱۲۵۰ھ/۱۸۳۵ء تا ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۷ء)؛ (۲) طلال بن عبداللہ، سابق الذکر کا بیٹا (از ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۷ء تا ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۷ء)؛ (۳) متعب، سابق الذکر کا بھائی (از ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۷ء تا ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۹ء)؛ (۴) بندر غاصب، شمارہ (۲) کا بیٹا (از ۱۲۸۶ھ/۱۸۶۹ء تا ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء)؛ (۵) محمد بن عبداللہ بن رشید، شمارہ (۱) کا بیٹا اور اس خاندان کا طلال کے بعد سب سے طاقتور حکمران (از ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء تا ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء)؛ (۶) عبدالعزیز بن متعب (از ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء تا ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء)؛ (۷) متعب بن عبدالعزیز، ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء تا ۱۹۰۷ء میں چند ماہ کے لیے حکمران؛ (۸) سلطان بن حمود، شمارہ (۱) کے چھوٹے بھائی عبید کا پوتا، ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۶ء میں چند ماہ کے لیے حکمران؛ (۹) سعود بن حمود، ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء میں چند روزہ حکمران؛ (۱۰) سعود بن عبدالعزیز، شمارہ (۶) کا بیٹا (از ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء تا ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳ء یا ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء)۔
۲ ۵۳۳		* ابن رشیق : ابو علی الحسن الازدی (۳۸۵ھ/۵۹۹۵ء یا ۳۹۰ھ/۱۰۰۰ء تا ۳۵۶ھ/۹۶۳ء یا ۳۶۳ھ/۱۰۷۱ء)، فاطمی خلیفہ المعز کا درباری شاعر، مؤرخ، لغوی اور العمدة کا مصنف۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۳۵		* ابن رُوح : ابو القاسم الحسين بن روح بن بحر البیبي التوبیختی ، فرقة اثنا عشرية کے امام منتظر کی غیبت صغری (۵۲۶۳/۶۸۷۸ تا ۵۳۳۴/۶۹۴۵) میں ان کے نائب ثالث (م ۵۳۲۶/۶۹۳۷ یا ۵۳۲۹/۶۹۴۰)۔
۱ ۵۳۶		* ابن الروسی : ابو الحسن علی بن العباس بن جریج (۵۲۲۱/۶۸۳۶ تا ۵۲۸۳/۶۸۹۶) ، بغداد کا مشہور عرب شاعر۔
۲ ۵۳۸		* ابن زبیر : رگ بہ عبدالله بن زبیر۔
۲ ۵۳۸		* ابن زر قالہ : دیکھیے زر ، لائیڈن ، طبع دوم ، بذیل الرزکلی۔
۲ ۵۳۸		* ابن زهر : اندلسی علماء کا خاندان : (۱) ابوبکر محمد بن مروان بن زهر ، اندلس کا متقی عالم اور فقیہ (م ۵۴۲۱/۶۰۳۰) ؛ (۲) ابو مروان عبدالملک ، سابق الذکر کا بیٹا ، طبیب اور فقیہ ؛ (۳) ابوالعلاء زهر ، شماره (۲) کا بیٹا ، اندلس کا مشہور طبیب ، مجربات الخواص وغیرہ کا مصنف اور یوسف بن تاشفین کا وزیر (م ۵۵۲۵/۶۱۱۳) ؛ (۴) ابو مروان عبدالملک ، سابق الذکر کا بیٹا ، کتاب الاقتصاد فی اصلاح الانفس و الاجساد اور کتاب التیسیر کا مصنف اور عبدالؤمن (المرابطی) کا وزیر (م ۵۵۵۷/۶۱۶۱) ؛ (۵) ابوبکر محمد المعروف بہ الحفید ، سابق الذکر کا بیٹا ، اندلس کا ممتاز طبیب ، طب العیون اور التریاق الخمسین کا مصنف (م ۵۵۱۵/۶۱۹۸) ؛ (۶) ابو محمد عبدالله بن الحفید (۵۵۷۷/۶۱۸۱ تا ۵۶۰۲/۶۲۰۵) ، بلند پایہ طبیب۔
۲ ۵۳۸		* ابن زیدون : ابو الولید احمد بن عبدالله بن احمد بن غالب بن زیدون (۵۳۹۴/۶۰۰۳ تا ۵۴۶۳/۶۰۷۱) ، اندلس کا مشہور عرب شاعر۔
۱ ۵۴۲		* ابن الساعاتی : (۱) فخر الدین رضوان (یا رضوان) بن محمد بن علی بن رستم الخراسانی ، طب ، ادب ، منطق و فلسفہ اور گھڑی سازی کا ماہر ، صاحب دیوان شاعر ، حواش علی القانون لابی سینا وغیرہ کا مصنف (م ۵۶۲۷/۶۲۳۰) ؛ (۲) بہاء الدین ابو الحسن علی ، سابق الذکر کا بھائی ، مشہور شاعر (م ۵۶۰۳/۶۲۰۷) ؛ (۳) مظفر الدین احمد بن علی البغدادی ، فقیہ ، مصنف مجمع البحرین و ملتقى التیرین (م ۵۶۹۴/۶۲۹۵)۔
۲ ۵۴۳		* ابن سبعین : ابو محمد عبدالحق بن ابراہیم الاشیللی ، عرب فلسفی اور ایک صوفی برادری کا بانی (م ۵۶۶۸/۶۲۶۹)۔
۲ ۵۴۳		* ابن سراپا : رگ بہ الحلی۔
۲ ۵۴۳		* ابن السراج : محمد بن علی بن عبدالرحمن القرشی الدمشقی ، عرب صوفی اور مصنف (حیات ۵۷۱۴/۶۲۱۴)۔
۲ ۵۴۳		* آل ابن السراج : رگ بہ السراج ، بنو (در زر ، لائیڈن ، طبع دوم)۔

- * ابن سُرَّيج : ابو العباس احمد بن عمر بن سريج البغدادي ، شافعی امام اور تقريباً چار سو تصانیف کے مصنف (م ۶۳۰/۵۱۸ء) .
- ۱ ۵۳۵
- * ابن سُرَّيج : عبید اللہ ابو یحییٰ ، اموی عہد کا مغنی اور نقش بند ، نیز مرثیہ گو (م بعہد خلیفہ ہشام : ۵۱۰/۵۲۳ء تا ۵۲۳/۵۱۲ء) .
- ۲ ۵۳۵
- * ابن سَعْد : ابو عبد اللہ محمد بن سعد البصری الزہری المعروف بہ کاتب الواقدي (۵۱۶۸/۵۲۳ء تا ۵۸۳۵/۵۲۳ء) ، مشہور محدث ، مؤرخ ، تذکرہ نگار اور مصنف کتاب الطبقات الکبیر وغیرہ .
- ۲ ۵۳۵
- * ابن سَعُود : درعیہ اور ریاض کے وہابی حکمران خاندان کا نام : (۱) محمد بن سعود ، بانی خاندان (از ۵۱۳۸/۵۱۳۵ء تا ؟) (۲) تا ۵۱۸۰/۵۱۷۶ء : (۳) عبدالعزیز بن محمد بن سعود ، سابق الذکر کا بیٹا (از ۵۱۷۶/۵۱۷۹ء تا ۵۱۲۱۸/۵۱۸۰۳ء) : (۴) سعود بن عبدالعزیز ، سابق الذکر کا بیٹا (از ۵۱۲۱۸/۵۱۸۰۳ء تا ۵۱۲۲۹/۵۱۸۱۳ء) : (۵) مشاری بن سعود (از ۵۱۲۲۹/۵۱۸۱۳ء تا ۵۱۲۳۳/۵۱۸۱۸ء) : (۶) ترکی بن عبد اللہ بن محمد بن سعود (از ۵۱۲۳۳/۵۱۸۱۸ء تا ۵۱۲۳۵/۵۱۸۲۰ء) : (۷) مشاری بن عبدالرحمن بن مشاری بن حسن بن مشاری بن سعود ، ۵۱۲۳۹/۵۱۸۳۳ء میں چند ماہ کے لیے حکمران : (۸) فیصل بن ترکی (پہلا دور حکومت از ۵۱۲۳۹/۵۱۸۳۳ء تا ۵۱۲۵۵/۵۱۸۳۹ء) : (۹) خالد بن سعود (از ۵۱۲۵۵/۵۱۸۳۹ء تا ۵۱۲۵۷/۵۱۸۳۱ء) : (۱۰) عبد اللہ بن ثنیان بن سعود (از ۵۱۲۵۷/۵۱۸۳۲ء تا ۵۱۲۵۹/۵۱۸۳۳ء) : (۱۱) فیصل بن ترکی ، شماره ۸ (دوسرا دور حکومت از ۵۱۲۵۹/۵۱۸۲۳ء تا ۵۱۲۸۲/۵۱۸۶۵ء) : (۱۲) عبد اللہ بن فیصل بن ترکی (پہلا دور حکومت ۲۸۱۵/۵۱۲۸۲ء تا ۵۱۲۸۷/۵۱۸۷۱ء) : (۱۳) سعود بن فیصل بن ترکی (از ۵۱۲۸۷/۵۱۸۷۱ء تا ۵۱۲۹۱/۵۱۸۷۳ء) : (۱۴) عبد اللہ بن فیصل بن ترکی ، شماره ۱۲ (دوسرا دور حکومت از ۵۱۲۹۱/۵۱۸۷۳ء تا ۵۱۳۰۱/۵۱۸۸۳ء) : (۱۵) محمد بن سعود ، ۵۱۳۰۶/۵۱۸۸۸ء میں چند ماہ کے لیے حکمران : (۱۶) عبدالرحمن بن فیصل ، سابق الذکر کا چچا اور چند روزہ حکمران : (۱۷) عبد اللہ بن فیصل ، شماره ۱۲ و ۱۳ (تیسرا عہد حکومت ۵۱۳۰۵/۵۱۸۸۷ء تا ۵۱۳۰۶/۵۱۸۸۸ء) : (۱۸) محمد بن فیصل (از ۵۱۳۱۰/۵۱۸۹۲ء) : (۱۹) عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل (۵۱۲۹۷/۵۱۸۸۰ء تا ۵۱۳۷۳/۵۱۹۵۳ء) ، عہد حکومت از ۵۱۹۰۲ء ، بادشاہ حجاز از ۵۲۹۲۶ء :

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۵۳۶	(۲۰) سعود بن عبدالعزيز (پیدائش ۱۹۰۵ء، تخت نشینی ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء)۔	
۲ ۵۵۵	* ابن سعید: ابو الحسن نور الدین علی بن موسیٰ الخفیری، عرب ماہر لسانیات اور المغرب فی حل المغرب اور المرقصات و المطربات کا مصنف (م ۱۲۷۳ھ/۱۲۷۶ء)۔	
۲ ۵۵۵	* ابن السکیت: ابو یوسف یعقوب بن اسحق السکیت، مشہور عرب صوفی، نحوی اور مصنف اصلاح المنطق وغیرہ (م نواح ۲۳۳ھ/۸۵۸ء)۔	
۱ ۵۵۸	* ابن السنی: ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق الدینوری الشافعی، مشہور عالم حدیث اور مصنف عمل الیوم و اللیلة وغیرہ (م ۳۶۴ھ/۹۷۳ء)۔	
۲ ۵۵۸	* ابن سیدہ: ابو الحسن بن اسماعیل یا احمد بن محمد بن سیدہ، اندلس کا لغوی، ادیب اور منطقی (م ۳۵۸ھ/۹۶۶ء)۔	
۲ ۵۵۹	* ابن سیرین: ابوبکر محمد، مشہور تابعی محدث اور تعبیر رویا میں حجت (م ۱۱۰ھ/۷۲۹ء)۔	
۱ ۵۶۰	* ابن سینا (Avicenna)، ابو علی الحسین ابن عبداللہ، شیخ الرئيس، نامور عرب فلسفی، طبیب، ریاضی دان اور فلکی، دنیا کے اسلام کا شہرہ آفاق سائنس دان اور الشفا، الاشارات و التنبیہات، حکمت علائی، الہدایة، القانون فی الطب وغیرہ کا مصنف (م ۳۲۸ھ/۱۰۳۷ء)۔	
۱ ۵۶۶	* ابن سید الناس: فتح الدین ابو الفتح محمد الیعمری (۱۲۶۱ھ/۱۲۶۳ء یا ۱۲۷۱ھ/۱۲۷۳ء تا ۱۳۳۴ھ/۱۳۳۴ء)، مشہور اندلسی عرب سوانح نگار اور عیون الأثر وغیرہ کا مصنف۔	
۲ ۵۶۶	* ابن شا کر: صلاح (یا فخر) الدین محمد بن شا کر الحلبي، عرب مؤرخ، سوانح نگار اور مصنف قوات الوقیات (م ۱۳۶۳ھ/۱۳۶۳ء)۔	
۱ ۵۷۷	* ابن شداد: بہاء الدین ابو المحاسن یوسف بن رافع، عرب سوانح نگار، سلطان صلاح الدین کا قاضی العسکر اور مصنف سیرة السلطان الملك الناصر (م ۱۲۳۳ھ/۱۲۳۳ء)۔	
۲ ۵۷۷	* ابن شداد: عز الدین ابو عبداللہ محمد الحلبي، عرب مؤرخ، مصنف الاعلاق (م ۱۲۷۳ھ/۱۲۸۵ء)۔	
۱ ۵۷۸	* ابن صدقہ: تین وزیر: (۱) جلال الدین عمید الدولة ابو علی الحسن بن علی، عباسی خلیفہ المسترشد کا وزیر (م ۱۱۲۸ھ/۱۱۲۸ء)؛ (۲) جلال الدین ابو الرضا محمد بن احمد، خلیفہ الراشد باللہ کا وزیر (م ۱۱۶۰ھ/۱۱۶۰-۱۱۶۱ء)؛ (۳) مؤتمن الدولة ابو القاسم علی، خلیفہ المقتضی کا وزیر۔	
	* ابن الصلاح: شیخ الاسلام تقی الدین ابو عمرو عثمان بن صلاح الدین بن عبدالرحمن	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۷۹		الکردي الموصلی الشهرزوری الشاقعی (۵۷۷/۱۱۸۱ء تا ۵۶۳/۱۱۸۱ء) ، نامور عرب محدث ، فقیہ اور مصنف المقدمۃ فی علوم الحدیث وغیرہ .
۲ ۵۸۰		* ابن طفیل : (Ababacer)، ابوبکر (و ابو جعفر) محمد بن عبدالملک بن محمد طفیل القیسی، اسلامی اندلس کا نامور عرب فلسفی ، شاہی طبیب ، کاتب اور رسالہ حی بن یقطان کا مصنف (حیات ۵۷۸/۱۱۸۱ء) .
۱ ۵۸۵		* ابن الطقطقی : جلال الدین (و صفی الدین) ابو جعفر محمد بن تاج الدین ، ایک شیعی مؤرخ ، نقیب اور مصنف کتاب الفخری وغیرہ (م ۵۷۰/۱۱۷۹ء یا ۵۷۲/۱۱۸۱ء) .
۲ ۵۸۶		* ابن ظفر : جتة الدین (وشمس الدین) ابو عبدالله (وابو ہاشم و ابو جعفر) محمد بن عبدالله بن محمد بن ابی محمد الصقلی ، اندلسی عرب عالم ، ادیب اور مصنف سلوان المطاع فی عدوان الاتباع (م ۵۶۵/۱۱۶۹ء) .
۱ ۸۵۷		* ابن عاصم : ابوبکر محمد بن محمد بن عاصم ، معروف مالکی فقیہ ، نحوی اور مصنف تحفة الحکام وغیرہ (م ۵۲۹/۱۱۳۲۶ء) .
۲ ۵۸۷		* ابن عباد : ابو عبدالله محمد بن ابی اسحاق الہاشمی بن عباد النفزی الحمیری الرندی ، فقیہ ، صوفی ، شاعر ، خطیب اور مصنف (م ۵۹۲/۱۱۳۹ء) .
۲ ۵۸۸		* ابن عباد : ابو القاسم ، کافی الکفاة اسماعیل بن عباد الطالقانی (۵۳۲۶/۹۳۸ء تا ۵۳۸۵/۹۹۵ء) ، موید الدولة بن رکن الدولة بویہی کا وزیر ، نامور عالم ادیب اور مصنف المحيط باللغة وغیرہ (م ۵۳۸۵/۹۹۵ء) .
۲ ۵۹۳		* ابن عبدالحکیم : عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحکم بن اعین ابو القاسم ، مصر کا قدیم ترین عرب مؤرخ ، مصنف فتوح مصر (م ۵۲۵۷/۸۷۷ء) .
۱ ۵۹۵		* ابن عبدربہ : ابو عمر (عمرو) احمد بن ابی عمر محمد بن عبدربہ ، مشہور اندلسی شاعر ، ادیب اور مصنف العقد الفرید وغیرہ (م ۵۳۲۸/۹۳۰ء) .
۲ ۵۹۶		* ابن عبدالظاهر : محی الدین ابو الفضل عبدالله بن رشید الدین ابو محمد عبدالظاهر بن نشوان السعدی الروحی (۵۶۲۰/۱۲۲۳ء تا ۵۶۹۲/۱۲۹۳ء) ، مصر کے عہد ممالیک کا ایک اہم وقائع نگار اور صاحب دیوان انشا .
۲ ۵۹۷		* ابن عبدون : ابو محمد عبدالحمید الفہری ، اندلس کا عرب شاعر (م ۵۲۹/۱۱۳۳ء) .
۲ ۵۹۸		* ابن عبدالوہاب : رکن بہ محمد بن عبدالوہاب .
۲ ۵۹۸		* ابن العبری : (Barhebraeus) ، گریگوریوس یوحنا ابو الفرج بن اہرون (ہارون) بن توما (۵۶۲۳/۱۲۲۶ء تا ۵۶۸۵/۱۲۸۶ء) ، عیسائی عرب طبیب ، مؤرخ اور مصنف تاریخ مختصر الدول .

- | صفحہ عمود | اشارات | عنوان |
|-----------|--------|---|
| ۲ ۵۹۹ | | * ابن العجرد : عبدالکریم ، دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی میں خوارج کا ایک سرگروہ اور فرقہ عجاردة کا بانی . |
| ۱ ۶۰۰ | | * ابن العديم : کمال الدین ابو حفص (و ابو القاسم) عمر بن احمد . . . بن ابی جرادة بن العديم العقيلي (۵۸۸/۱۱۹۲ء تا ۵۶۶/۱۲۶۲ء) ، معلم ، محدث ، مؤرخ ، قاضی ، آخری ایوبی فرمانرواؤں کا وزیر اور مصنف بغیة الطلب فی تاریخ حلب وغیرہ . |
| ۱ ۶۰۳ | | * ابن العذاری : (ابن عذاری) ابو عبدالله محمد (یا احمد) بن محمد المراكشي، المغرب اور اندلس کا ایک عرب مؤرخ اور مصنف البيان المغرب فی اخبار المغرب (حیات ۵۶۹۵/۱۲۹۵ء) . |
| ۲ ۶۰۳ | | * ابن عرب شاه : احمد بن محمد بن عبدالله دمشقی الحنفی العجمی (۵۹۱/۱۳۸۹ء تا ۵۸۵۳/۱۳۵۰ء) ، عربی ، ترکی ، فارسی اور مغولی زبانوں کا ماہر ، عثمانی سلطان محمد اول بن بایزید کا معتمد خاص اور کاتب ، متعدد کتب کا مترجم اور مصنف عجائب المقدور فی نواب تیمور و فاکہة الخلفاء و مفاکہة الظرفاء وغیرہ . |
| ۱ ۶۰۵ | | * ابن العربي : ابوبکر محمد بن عبدالله اندلسی (۵۶۸/۱۰۷۵ء تا ۵۳۳/۱۱۳۸ء) ، محدث اور مصنف احکام القرآن وغیرہ . |
| ۲ ۶۰۵ | | * ابن العربي : (ابن عربی) ، شیخ ابوبکر محی الدین محمد ابن علی ، الشیخ الاکبر (۵۶۰/۱۱۶۵ء تا ۵۶۳۸/۱۲۳۰ء) ، اسلامی دنیا کے مشہور عالم ، صوفی ، فلسفی ، محدث ، مفسر ، ادیب ، شاعر اور کثیر التعداد تصانیف مثلاً فتوحات مکہ ، فصوص الحکم وغیرہ کے مصنف . |
| ۱ ۶۱۳ | | * ابن عساکر : متعدد عرب مصنفین کا نام ، مثلاً: (۱) علی بن الحسن بن هبة الله ابوالقاسم ثقة الدين الشافعي (۵۹۹/۱۱۰۵ء تا ۵۷۱/۱۱۷۶ء) ، مشہور شافعی عالم ، مؤرخ اور مصنف تاریخ مدينة دمشق ؛ (۲) القاسم (۵۲۷/۱۱۳۲ء تا ۵۶۰/۱۲۰۳ء) ، سابق الذکر کا بیٹا اور مصنف الجامع المستقصى فی فضائل المسجد الاقصی . |
| ۱ ۶۱۳ | | * ابن العسال : اوائل تیرھویں صدی عیسوی کے تین قبطنی بھائی : (۱) الفاضل الحکیم الاسعد ابو الفرج هبة الله ، الکاتب المصری ، مشہور نحوی اور مفسر ؛ (۲) الصفي ابو الفضائل اسعد ، ماہر قوانین کلیسا اور مصنف ؛ (۳) مؤتمن الدولة ابو اسحق المسيحي ، مصنف سلم (قبطنی عربی فرہنگ) . |
| | | * ابن عسکر : محمد بن علی بن عمر بن حسین بن مصباح المراكشي ، فاس کے حسنی شریف کا قاضی القضاة ، سیاح اور مصنف نوحۃ الناشر لمجان من کان من المغرب |

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۶۱۵	من اهل القرن العاشر (م ۹۸۶/۱۵۷۸ء) .	* ابن عطاء الله : احمد بن محمد ابو الفضل تاج الدين الاسكندري الشاذلي ، عرب صوفی ، ابن تيميه " کا شديد مخالف اور مصنف الحكم العطائية وغيره (م ۱۰۹۰/۱۰۹۰ء)
۱ ۶۱۶	۶۱۳۰۹ .	* ابن العلقمی : مؤيد الدين ابو طالب محمد بن احمد بن محمد الاسدي البغدادي (۱۰۹۳/۱۱۹۷ء تا ۱۲۵۸/۱۲۵۶ء) ، بنو عباس کے آخری خليفہ کا شيعی وزير .
۱ ۶۱۷		* ابن عمار : ابوبکر محمد عصامي ، اندلسی عرب شاعر اور اشبیلیہ کے امير المعتمد کا وزير
۲ ۶۱۸	(م ۱۰۸۶/۱۳۷۹ء) .	* ابن العمار : (۱) امين الدولة ابو طالب الحسن ، پانچویں صدی ہجری کے وسط میں طرابلس کا حکمران ؛ (۲) فخر الملك ابو علی عمار بن محمد ، طرابلس کا حکمران (از ۳۹۲ تا ۳۹۸ھ) ، بعد ازاں موصل کے امير مسعود کا وزير (تا ۵۱۲/۱۱۱۸ء) .
۲ ۶۱۹		* ابن العميد : دو وزير : (۱) ابو الفضل محمد بن ابی عبدالله الحسين بن محمد ، ديلم کے زیدی شيعہ ابو علی الحسن رکن الدولة بويهی کا وزير (از ۳۲۸/۱۰۳۰ء) ، سياستدان ، ماهر حرب ، عالم ، ادیب اور فن انشا کا بانی ، شاعر اور مصنف (م ۵۲۶/۱۰۹۷ء) ؛ (۲) ابو الفتح علی بن محمد بن الحسين ، مقدم الذکر کا بیٹا (۳۳۷/۱۰۳۸ء تا ۳۶۶/۱۰۷۷ء) ، بويهی فرمانرواؤں رکن الدولة اور مؤيد الدولة کا وزير .
۲ ۶۲۰		* ابن العميد : رکن به المکين .
۱ ۶۲۳		* ابن العوام : ابو زکریا يحيى بن محمد بن احمد بن العوام الاشبيلي ، بارہویں صدی عيسوی کا اندلسی عالم اور علم زراعت پر ایک مبسوط رسالے کتاب الفلاحة کا مصنف .
۲ ۶۲۳		* ابن غانم : (۱) عز الدين عبدالسلام بن احمد المقدسی ، مصری فاضل اور کشف الاسرار عن حکم الطيور و الازهار کا مصنف (م ۱۲۷۹/۱۲۷۸ء) ؛ (۲) علی بن محمد بن علی ابن خليل ابن غانم المقدسی ، حنفی فقیہ اور مصنف بغية المرتاد فی تصحيح الصاد .
۱ ۶۲۳		* ابن غانية : يحيى بن علی بن يوسف المسوقی ، المرابطون کے عہد میں اندلس کا والی (م ۱۱۳۸/۱۱۳۳ء) .
۲ ۶۲۳		* ابن فارس : ابو الحسين احمد بن فارس ، کوفی دبستان کا ماهر لغت ، عالم صرف و نحو اور مصنف کتاب المجمل فی اللغة وغيره (م ۱۰۰۳/۱۰۰۳ء) .
۱ ۶۲۶		* ابن فارس : [صحيح : ابن فارس] ؛ رکن به عمر بن [علی المعروف به] ابن الفارض .
۱ ۶۲۷		

- | صفحہ عمود | اشارات | عنوان |
|-----------|--------|--|
| ۱ ۶۲۷ | | * ابن الفرات : (۱) ابو الحسن علی بن محمد بن موسیٰ بن الحسن بن الفرات (۵۲۳۱/۵۲۳۵ تا ۵۸۵۵ تا ۵۳۱۲/۵۹۲۳) ، عباسی خلیفہ المقتدر باللہ کا وزیر ؛ (۲) ابو عبد اللہ جعفر بن محمد ، سابق الذکر کا بھائی اور اس کے عہد وزارت میں مشرقی اور مغربی صوبوں کے مالی معاملات کا منتظم (م ۵۲۹۷/۵۹۱۰) ؛ (۳) ابو الفتح الفضل بن جعفر (۵۲۷۹/۵۸۹۲ تا ۵۳۲۷/۵۹۳۹) ، سابق الذکر کا بیٹا ، عباسی خلفا المقتدر اور الرضا کا وزیر ؛ (۴) ابو الفضل جعفر بن الفضل (۵۳۰۸/۵۹۲۱ تا ۵۳۹۱/۶۱۰۰) ، سابق الذکر کا بیٹا ، مصر کے اخشیدی حکمرانوں کا وزیر ۔ |
| ۱ ۶۲۸ | | * ابن الفرات : ناصر الدین محمد بن عبدالرحیم بن علی المصری (۵۷۳۵/۵۱۳۳ تا ۵۸۰۷/۶۱۳۰) ، مصر کا عرب مؤرخ اور مصنف <u>تاریخ الدول و الملوك</u> وغیرہ ۔ |
| ۱ ۶۲۹ | | * ابن فرح الاشبیلی : شہاب الدین ابو العباس احمد اللخمی الاشبیلی (۵۶۲۵/۵۱۲۲۸ تا ۵۶۹۹/۶۱۳۰) ، شافعی عالم ، محدث ، مفسر اور مصنف <u>قصيدة غزلية في القاب الحديث</u> وغیرہ ۔ |
| ۲ ۶۲۹ | | * ابن فرحون : برهان الدین ابراہیم بن علی بن محمد بن ابی القاسم بن محمد بن فرحون الیعمری ، مالکی فقیہ ، مؤرخ ، <u>مدینة منورة</u> کا قاضی اور <u>الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب</u> وغیرہ کا مصنف (م ۵۷۹۹/۶۱۳۹) ۔ |
| ۱ ۶۳۱ | | * ابن الفراء : رک بہ ابو یعلیٰ ۔ |
| ۱ ۶۳۲ | | * ابن الفرضی : ابو الولید عبد اللہ بن محمد بن یوسف بن نصر الازدی بن الفرضی (۵۳۵۱/۵۹۶۲ تا ۵۴۰۳/۶۱۰۱) ، اندلس کا عرب سیرت نگار اور مصنف <u>تاریخ علماء الاندلس</u> ۔ |
| ۱ ۶۳۲ | | * ابن فضلان : احمد بن فضلان ، فقیہ ، مذہبی عالم اور خلیفہ المقتدر کی طرف سے وولگا کے بلغاری بادشاہ کے پاس جانے والی سفارت کا رکن اور اس سفارت کے حالات پر مشتمل <u>رسالة</u> کا مصنف (حیات ۵۳۱۰/۵۹۲۲) ۔ |
| ۲ ۶۳۲ | | * ابن فضل اللہ : رک بہ فضل اللہ ۔ |
| ۲ ۶۳۳ | | * ابن الفقیہ : ابوبکر احمد بن محمد بن سحاق الهمدانی ، عرب جغرافیا دان اور مصنف <u>كتاب البلدان</u> (تصنیف ۵۲۹۰/۶۰۳) ۔ |
| ۲ ۶۳۳ | | * ابن القوطی : (نیز ابن الصابونی) کمال الدین ابو الفضائل عبدالرزاق بن احمد بن محمد الحنبلی (۵۶۳۲/۵۱۲۳۳ تا ۵۷۲۳/۶۱۳۲۳) ، مشہور محدث ، مؤرخ اور فلسفی اور مصنف <u>مجمع الآداب في معجم الاسماء و الالقاب</u> وغیرہ ۔ |
| ۲ ۶۳۳ | | * ابن القاسم : ابو عبد اللہ عبدالرحمن بن القاسم العنقی ، امام مالک کے ممتاز شاگرد اور |

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۶۳۵	المدونة الكبرى کے مصنف (م ۱۹۱/۵۸۰۶)۔	* ابن القاسم الغزالی : شمس الدين ابو عبدالله محمد ، شافعي عالم اور النسفي کی عقائد کا
۲ ۶۳۵	حاشیہ نگار (م ۱۵۱۲/۵۹۱۸)۔	* ابن القاضي : ابوالعباس احمد بن محمد اليمكناسي (۱۵۵۲/۵۹۶۰ تا ۱۰۲۵/۱۶۱۶) ، مشہور اندلسی فقیہ ، ادیب ، مؤرخ ، شاعر ، ریاضی دان اور مصنف
۱ ۶۳۶	جدوة الاقتباس وغیرہ ۔	* ابن قاضي سعاونه : بدر الدين محمود بن اسمعيل ، ترك فقيه اور صوفي ، مصنف
۱ ۶۳۷	مسرت القلوب وغیرہ (م ۱۳۱۵/۵۸۱۸ یا ۱۳۲۰/۵۸۲۳)۔	* ابن قاضي شهبه : تقى الدين ابوبكر بن احمد بن محمد بن عمر الاسدي الدمشقي ، عرب
۲ ۶۳۸	طبقات الشافعية (م ۱۳۳۸/۵۸۵۱)۔	سيرت نگار ، مدرس ، قاضي القضاة اور مصنف طبقات الحنفية و طبقات الشافعية
۲ ۶۳۸	ابن قتيبه : ابو عبدالله محمد بن مسلم الدينوري ، المعروف به القتيبي يا القتيبي (۵۲۱۳/۵۸۲۸ تا ۵۲۷۶/۵۸۸۹) ، عرب تذکرہ نگار ، ادیب اور مصنف	ادب الكاتب و عيون الاخبار وغیرہ ۔
۱ ۶۳۰	[آل] ابن قدامة الحنبلي : چھٹی صدی ہجری کے وسط میں دمشق کا ایک فلسطینی دینی و علمی گھرانہ : (۱) ابو عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامة (۱۱۳۳/۵۵۲۸ تا ۱۲۱۰/۵۶۰۷) ، عالم و عامل ، عابد و زاہد ، خوش نویس اور واعظ و خطیب ؛ (۲) موفق الدين ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة الحنبلي المقدسي الصالحی (۱۱۳۶/۵۵۳۱ تا ۱۲۲۳/۵۶۲۰) ، خالوادہ ابن قدامة کے روشن ترین چراغ ، عابد و زاہد ، عالم نحو و حساب و نجوم ، امام تفسیر و حدیث و فقہ اور مصنف المعنی وغیرہ ؛ (۳) قاضي القضاة شمس الدين عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن محمد بن قدامة الحنبلي الصالحی (۱۲۰۱/۵۵۹۷ تا ۱۲۸۳/۵۶۸۲) ، الملک الظاہر کے عہد میں دمشق کے قاضي حنابلہ اور مصنف الشافعی ۔	
۱ ۶۳۵	ابن قزمان : ابوبکر ، الکاتب الوزير ، اندلس کا مشہور صاحب دیوان شاعر (م ۵۵۵۵/۵۱۱۶)۔	* ابن قسي : ابو القاسم احمد بن الحسين ، صاحب فکر و فن اور شعبده باز ، مدعی مہدویت اور مصنف خلع النعلين في التصوف (حیات ۱۱۳۵/۵۵۳۰)۔
۲ ۶۳۶	ابن قطلوبغا : ابو الفضل (و ابو العدل) القاسم بن قطلوبغا الجمالی السودونی المصري	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۶۳۶		الحنفی (۵۸۰۲/۱۳۹۹ء تا ۵۸۷۹/۱۴۷۳ء)، مشہور عرب سوانح نگار و محدث اور مصنف تاج التراجم .
۱ ۶۳۷		* ابن القفطی : ابوالحسن علی بن یوسف القفطی، المعروف بہ جمال الدین (۵۵۶۸/۱۱۷۲ء تا ۵۶۳۶/۱۲۳۶ء)، مصری عالم، مؤرخ اور ادیب، الملك العزیز کا وزیر اور اخبار العلماء باخبار الحكماء اور انباء الرواة علی آباء النحاة وغیرہ کا مصنف .
۱ ۶۳۷		* ابن قلابس : ابو الفتوح نصرانہ (یا نصر) بن عبد اللہ اللخمی، الملقب بہ القاضی الاعز (۵۵۳۲/۱۱۳۷ء تا ۵۵۶۷/۱۱۷۲ء)، عرب ادیب، صاحب دیوان شاعر اور مصنف الزهر الباسم فی اوصاف ابی القاسم .
۱ ۶۳۸		* ابن القلانسی : ابو علی حمزہ بن اسد التیمی، عرب مؤرخ اور مصنف ذیل (م ۵۵۵۵/۱۱۶۰ء).
۲ ۶۳۸		* ابن القوطیہ : ابوبکر محمد، اندلسی فقیہ، نحوی، شاعر اور مصنف تاریخ فتح الاندلس وغیرہ، (م ۵۳۶۷/۹۲۷ء).
۲ ۶۳۸		* ابن القیسراتی : (۱) ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی (۵۳۳۸/۱۰۵۶ء تا ۵۵۰۷/۱۱۱۳ء)، عرب ماهر لسانیات، محدث اور مصنف کتاب الجامع و کتاب الانساب وغیرہ؛ (۲) ابو عبد اللہ محمد بن نصر شرف الدین (۵۳۷۸/۱۰۸۵ء تا ۵۵۳۸/۱۱۵۳ء)، عرب شاعر.
۲ ۶۳۹		* ابن قیس الرقیات : عبید اللہ، عہد بنو امیہ کا مشہور صاحب دیوان عرب شاعر (م نواح ۵۷۵/۱۹۳ء).
۱ ۶۵۰		⑤ ابن القیم : شمس الدین ابو عبید اللہ محمد الزرعی، ابن قیم الجوزیہ (۵۶۹۱/۱۲۹۱ء تا ۵۷۵۱/۱۳۵۰ء)، ابن تیمیہ کے شاگرد خاص اور نامور عالم، فقیہ، مفسر و محدث اور زاد المعاد وغیرہ کثیر التعداد کتابوں کے مصنف .
۲ ۶۵۱		* ابن کثیر : عبید اللہ ابوبکر و ابو معبد (۵۳۵/۶۶۵ء تا ۵۱۲۰/۷۳۸ء)، قراء سبعہ میں سے ایک؛ (۲) اسمعیل بن عمر عماد الدین ابو الفداء ابن الخطیب القرشی البصری، الشافعی (۵۷۱۰/۱۳۰۱ء تا ۵۷۷۳/۱۳۷۳ء)، مشہور عرب مفسر، مؤرخ اور مصنف البداية و النہایہ وغیرہ .
۲ ۶۵۲		* ابن الکلبی : کوفی کے علما کا ایک خاندان؛ (۱) ابو النضر محمد بن السائب، عرب ماهر لسانیات، مؤرخ، مصنف تفسیر القرآن (م ۵۱۳۶/۶۷۳ء)؛ (۲) ابو المنذر ہشام، سابق الذکر کا بیٹا، ایک غیر ثقہ مؤرخ اور کثیر التعداد کتابوں کا مصنف، (م ۵۲۰۳/۷۱۹ء یا ۵۲۰۱/۷۱۷ء).
۲ ۶۵۳		

اشارات

عنوان

صفحہ عبود

- * ابن کلس : ابو الفرج یعقوب بن یوسف (۵۳۱۸/۶۹۳۰ تا ۵۳۸۰/۶۹۹۱) ، بغداد کا نو مسلم یہودی ، مصر کے فاطمی خلیفہ العزیز کا وزیر اور ماہر اقتصادیات .
- ۱ ۶۵۶
- * ابن کمال : رک بہ کمال پاشا زادہ .
- ۲ ۶۵۷
- * ابن ماجہ : شہاب الدین احمد ، پندرہویں صدی عیسوی کا نامور عرب جہازران اور کتاب الفوائد فی اصول علم البحر و القواعد وغیرہ جہازراتی پر متعدد رسائل کا مصنف .
- ۲ ۶۵۷
- * ابن ماجہ : ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماجہ الربعی القزوینی (۵۲۰۹/۶۸۲۳ تا ۵۲۷۳/۶۸۸۶) ، مشہور عالم ، محدث ، مفسر ، مؤرخ اور سنن ابن ماجہ کے مؤلف .
- ۱ ۶۷۶
- * ابن ماسویہ : (ابن ماسویہ) ، ابو زکریا یوحنا (یحییٰ) ، عیسائی طبیب ، مترجم اور متعدد کتب طب کا مصنف (م ۵۲۳۳/۶۸۵۷) .
- ۲ ۶۷۹
- * ابن ماکولا : ابو القاسم ہبہ اللہ بن علی بن جعفر العجلی (۵۳۶۵/۶۹۷۵ تا ۵۳۳۰/۶۹۴۰) ، جلال الدولہ بویہی کا وزیر ؛ [نیز دیکھیے ابن ماکولا : سابق الذکر کا بیٹا ، محدث ، شاعر (در زیادات ، جلد اول)] .
- ۱ ۶۸۹
- * ابن مالک : جمال الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الطائی الجیانی النحوی ، نزیل دمشق (۵۶۰۰/۶۱۲۰۳ تا ۵۶۷۲/۶۱۲۷۳) کتاب تسہیل الفوائد و تکمیل المقاصد اور کتاب الالفیہ وغیرہ کا مصنف .
- ۱ ۶۸۱
- * ابن مغلد : دو وزیر : (۱) الحسن بن مغلد الجراح ، صاحب دیوان الضیاع اور بعد ازاں المعتمد کا وزیر (حیات ۵۲۶۳/۶۸۷۸) ؛ (۲) ابو القاسم سلیمان بن الحسن ، سابق الذکر کا بیٹا ، صاحب دیوان انشا اور بعد ازاں مقتدر ، الراضی اور المتقی کا وزیر (م نواح ۵۳۲۹/۶۹۳۱) .
- ۲ ۶۸۳
- * ابن مردئیش : ابو عبداللہ محمد بن احمد (۵۵۱۸/۶۱۲۳ تا ۵۵۶۷/۶۱۷۲) ، جنوب مشرقی اندلس کا حکمران .
- ۲ ۶۸۳
- * ابن مسرہ : محمد بن عبداللہ ، مشکوک فلسفیانہ عقائد رکھنے والا اندلسی صوفی اور بقول الزرکلی ایک اسمعیلی داعی (م ۵۳۱۹/۶۹۳۱) .
- ۲ ۶۸۳
- * ابن مسعود : ابو عبدالرحمن عبداللہ (۱۲ عام الفیل/۵۵۸۳ تا ۳۲ یا ۶۵۲/۵۳۳ یا ۶۵۳) ، مشہور صحابی ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ، راوی احادیث ، مفسر قرآن اور فقیہ .
- ۱ ۶۸۸
- * (ابن) مسکویہ : ابو علی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویہ الرازی (لواح ۵۲۳/۶۹۳۱ تا ۵۳۲۱/۶۱۰۳) ، نامور عرب ادیب ، مؤرخ ، فلسفی اور مصنف تجارت الامم ، تہذیب الاخلاق ، الفوز الاکبر ، الفوز الاصغر

۱ ۶۹۰

* ابن المسلمة : احمد بن عمر (م ۵۳۱۵ / ۶۱۰۲۳) کی کنیت، جو اس کی اولاد میں منتقل ہوئی رہی : (۱) ابو القاسم علی ابن الحسین : ابن المسلمة کا پوتا ، صاحب علم و فضل ، القائم باللہ کا وزیر (از ۵۳۳۷ / ۶۱۰۳۵ تا ۵۳۵۰ / ۶۱۰۵۸) ؛ (۲) ابو الفتح مظفر ، سابق الذکر کا بیٹا ، ۵۳۷۶ / ۶۱۰۸۳ میں وزیر ؛ (۳) عضد الدین محمد ، مظفر کا پرپوتا ، المستضیٰ کا وزیر (از ۵۵۶۶ / ۶۱۱۷۱ و از ۵۵۷۰ / ۶۱۱۷۳) .

۱ ۶۹۸

* ابن المعتز : ابو العباس عبداللہ (۵۲۳۷ / ۶۸۶۱ تا ۵۲۹۶ / ۶۰۸) ، عباسی خلیفہ المعتز کا بیٹا اور عرب کا نامور صاحب دیوان شاعر اور ادیب ، متعدد کتب مثلاً طبقات الشعراء المحدثین اور کتاب البدیع وغیرہ کا مصنف ، صرف ایک روز کے لیے خلیفہ .

۱ ۶۹۹

* ابن معطی : (ابن معط) ، زین الدین ابو الحسین یحییٰ (۵۵۶۳ / ۶۱۱۶۸ تا ۵۶۲۸ / ۶۱۲۳۱) ، مشہور نحوی ، ادیب ، شاعر اور ایک ہزار آیات پر مشتمل الدرۃ الالفیہ وغیرہ کا مصنف .

۲ ۷۰۱

* ابن المقفع : ابو البشر ، فاطمی خلیفہ المعز کے ہم عصر میں آشمونین کا اسقف سیوروس ، اہل کنیسہ کی تاریخ کا مصنف .

۱ ۷۰۲

* ابن المقفع : ابو عمرو روزبه بن المبارک داؤویہ (۵۱۰۶ / ۶۲۳ تا ۵۱۳۲ / ۶۷۹) ، عربی کا مشہور ایرانی الاصل نثر و مترجم ، نثر میں ایک مستقل اسلوب کا بانی ، الادب الصغیر وغیرہ کا مصنف اور پنج تنتر (کلیلہ و دمنہ) وغیرہ کا مترجم .

۱ ۷۰۳

* ابن مقلہ : ابو علی محمد بن علی بن الحسن ابن مقلہ (۵۲۷۲ / ۶۸۸۶ تا ۵۳۲۸ / ۶۹۳۰) ، عباسی خلفاء المقتدر ، القاهر اور الراضی کا وزیر .

۲ ۷۱۰

* ابن المنذر : ابوبکر ، سلطان الناصر بن قلاوون کا میر آخور اور بیطار اعلیٰ اور مصنف کامل الصناعتين البيطرة و الزرطقة (م ۵۷۳۱ / ۶۳۳۰) .

۲ ۷۱۱

* ابن منظور : ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم الافریقی المصری الانصارى الخزرجی الرویفعی (۵۶۳۰ / ۶۲۳۲ تا ۵۷۱۱ / ۶۳۱۱) ، امام نحو و لغت ، عالم تاریخ و کتابت ، صاحب لسان العرب .

۱ ۷۱۲

* ابن سیمون : ابو عمران موسی القرطبی الاسرائیلی ، رئیس ، عبرانی نام ربی موشہ ، یہودی عالم الہیات ، طیب اور فلسفی ، مصنف دلالة الحائرین ، کتاب الشرائع وغیرہ (م ۵۶۰۱ / ۶۲۰۳) .

۲ ۷۱۳

* ابن نباتة : دو عربی مصنف : (۱) ابن نباتة ، الخطیب : ابو یحییٰ عبدالرحیم بن محمد

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۷۱۶		بن اسمعیل الحدادی الفاروقی (۵۳۳۵/۴۹۳۶ تا ۵۳۷۳/۴۹۸۳) ، حلب کے امیر سیف الدولہ کا درباری واعظ اور رنگین و مقفی عبارت بولنے والا خطیب : (۲) ابن نباتہ المصری : جمال الدین (یا شہاب الدین) ابوبکر محمد القرشی الاموی (۵۶۸۶/۴۱۲۸۷ تا ۵۷۹۸/۴۱۳۶۶) ، مقدم الذکر کا بیٹا ، خطیب ، صاحب دیوان شاعر اور مصنف .
۲ ۷۱۷		* ابن نجیم : زین العابدین (یا زین الدین) بن ابراہیم بن محمد بن نجیم المصری ، ممتاز حنفی عالم ، صوفی اور فقیہ ، مصنف البحر الرائق وغیرہ (م ۵۹۷۰/۴۱۵۶۲) .
۲ ۷۱۷		* ابن النفیس : علاء الدین ابو العلاء علی بن ابن الحزم القرشی دمشقی (نواح ۵۶۰۷/۴۱۳۱۰ تا ۵۶۸۷/۴۱۳۸۸) ، عرب طیب ، شافعی عالم ، فقیہ ، شارح اور کتاب شامل فی الطب اور موجز القانون وغیرہ کا مصنف .
۱ ۷۱۸		* ابن واصل : جمال الدین ابو عبد اللہ محمد بن سالم الحموی (۵۶۰۳/۴۱۲۰۷ تا ۵۶۹۷/۴۱۳۹۸) ، عرب مؤرخ اور مصنف مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب وغیرہ .
۱ ۷۲۰		* ابن وحشیہ : ابوبکر احمد (یا محمد) بن علی الکلابی ، اواخر دوسری صدی ہجری کا مشہور کیمیا گر اور علوم مخفیہ کا ماہر نبطی عالم اور بعض کتب مثلاً الفلاحة النبطیة وغیرہ کا مصنف .
۲ ۷۲۰		* ابن الوردی (۱) : زین الدین ابو حفص عمز بن المظفر بن عمر بن محمد بن ابی الفوارس محمد الوردی القرشی البکری الشافعی (۵۶۸۹/۴۱۲۹۰ تا ۵۷۳۹/۴۱۳۳۹) ، لغوی ، فقیہ ، ادیب ، صاحب دیوان شاعر اور متعدد کتب کا مصنف .
۱ ۷۲۱		* ابن الوردی (۲) : سراج الدین ابو حفص عمر ، شافعی عالم اور خریدۃ العجائب و فريدة الغرائب کا مصنف (م ۵۸۶۱/۴۱۳۵۷) .
۲ ۷۲۲		* ابن ہانی : ابو القاسم (نیز ابو الحسن) محمد بن ہانی الازدی ، قاطمی خلیفہ المعز وغیرہ کے درباروں سے وابستہ آزاد خیال صاحب دیوان اندلسی شاعر (م ۵۳۶۲/۴۹۷۳) .
۲ ۷۲۲		* ابن الہباریة : الشریف نظام الدین ابو یعلیٰ محمد ، عباسی شہزادہ عیسیٰ بن موسیٰ کے اخلاف میں سے مشہور رنگین مزاج ہجو گو اور صاحب دیوان شاعر (م ۵۵۰۹/۴۱۱۱۵) .
۱ ۷۲۳		* ابن ہبل : مہذب الدین ابو الحسن علی بن احمد بن عبد المنعم (۵۵۱۵/۴۱۱۲۲ تا نواح ۵۶۱۰/۴۱۲۱۳) ، مشہور عرب طیب اور کتاب المختار فی الطب کا مصنف .
۲ ۷۲۵		

صفحة عمود	اشارات	عنوانات
۱ ۴۲۶	(۱) ابو المثنى عمر بن هبيرة الفزارى ، دور بنو امية کا عرب سپہ سالار اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہد میں عراق کا والی (حیات ۵۱۰ھ/۴۲۳ء) ؛ (۲) ابو خالد یزید بن عمر (۵۸۷ھ/۷۰۵ء - ۶۰۶ء تا ۱۳۲ھ/۵۱۳۳ء) ، مقدم الذکر کا بیٹا اور تفسیرین کا والی .	* ابن ہبیرہ : (۱) ابو المثنى عمر بن هبيرة الفزارى ، دور بنو امية کا عرب سپہ سالار اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہد میں عراق کا والی (حیات ۵۱۰ھ/۴۲۳ء) ؛ (۲) ابو خالد یزید بن عمر (۵۸۷ھ/۷۰۵ء - ۶۰۶ء تا ۱۳۲ھ/۵۱۳۳ء) ، مقدم الذکر کا بیٹا اور تفسیرین کا والی .
۲ ۴۲۷	(۱) عون الدین ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن ہبیرہ الشیبانی ، (۵۳۹ھ/۹۶۰ء تا ۵۶۰ھ/۱۱۶۵ء) ، عباسی خلیفہ المقتدی کا وزیر اور شارح صحیحین ؛ (۲) عز الدین محمد بن یحییٰ ، مقدم الذکر کا بیٹا اور جانشین وزارت .	* ابن ہبیرہ : دو وزیر : (۱) عون الدین ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن هبيرة الشيباني ، (۵۳۹ھ/۹۶۰ء تا ۵۶۰ھ/۱۱۶۵ء) ، عباسی خلیفہ المقتدی کا وزیر اور شارح صحیحین ؛ (۲) عز الدین محمد بن یحییٰ ، مقدم الذکر کا بیٹا اور جانشین وزارت .
۲ ۴۲۸	جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام المصری (۵۰۸ھ/۱۳۰۹ء تا ۵۶۱ھ/۱۱۶۰ء) ، کئی کتب نحو کا مصنف .	* ابن ہشام : جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن هشام المصري (۵۰۸ھ/۱۳۰۹ء تا ۵۶۱ھ/۱۱۶۰ء) ، کئی کتب نحو کا مصنف .
۱ ۴۳۰	عبدالملک بن ہشام الجیمیری ، (م ۵۲۱۳ھ/۸۲۷ء یا ۲۱۸ھ/۸۳۳ھ) ، نحوی اور سیرۃ رسول اللہ کا مصنف .	* ابن ہشام : عبدالملک بن هشام الجيميري ، (م ۵۲۱۳ھ/۸۲۷ء یا ۲۱۸ھ/۸۳۳ھ) ، نحوی اور سیرۃ رسول اللہ کا مصنف .
۲ ۴۳۰	ابو علی الحسن (Alhazen) ، ابو علی الحسن (۳۵۳ھ/۹۶۵ء تا نواح ۴۳۰ھ/۱۰۳۹ء) ، اسلامی دنیا اور ازمینۂ متوسطہ کا سب سے بڑا عالم طبیعیات ، بصریات ، ریاضی ، ہیئت و طب اور مصنف کتاب المناظر وغیرہ .	* ابن الہیثم : (Alhazen) ، ابو علی الحسن (۳۵۳ھ/۹۶۵ء تا نواح ۴۳۰ھ/۱۰۳۹ء) ، اسلامی دنیا اور ازمینۂ متوسطہ کا سب سے بڑا عالم طبیعیات ، بصریات ، ریاضی ، ہیئت و طب اور مصنف کتاب المناظر وغیرہ .
۲ ۴۳۲	موفق الدین ابو البقاء الحلبي ، المعروف بابن الصنائع (یا الصائغ) (۵۵۳ھ/۱۱۵۸ء تا ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء) ، عرب نحوی اور شرح المفصل وغیرہ کا مصنف .	* ابن یعیش : موفق الدین ابو البقاء الحلبي ، المعروف بابن الصنائع (یا الصائغ) (۵۵۳ھ/۱۱۵۸ء تا ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء) ، عرب نحوی اور شرح المفصل وغیرہ کا مصنف .
۱ ۴۳۳	امیر فخر الدین محمود بن امیر یمن الدین محمد (۶۸۵ھ/۱۲۸۶ء تا ۷۶۹ھ/۱۳۶۸ء) ، ایران کا مشہور شاعر .	* ابن یمن : امیر فخر الدین محمود بن امیر یمن الدین محمد (۶۸۵ھ/۱۲۸۶ء تا ۷۶۹ھ/۱۳۶۸ء) ، ایران کا مشہور شاعر .
۱ ۴۳۷	ابو الحسن علی بن عبدالرحمن بن احمد بن یونس الصدفی المصری ، عربوں کا سب سے بڑا ہیئت دان اور مصنف الزیج الکبیر الحاکمی وغیرہ (م ۳۹۹ھ/۱۰۰۹ء) .	* ابن یونس : ابو الحسن علی بن عبدالرحمن بن احمد بن یونس الصدفی المصري ، عربوں کا سب سے بڑا ہیئت دان اور مصنف الزیج الکبیر الحاکمی وغیرہ (م ۳۹۹ھ/۱۰۰۹ء) .
۲ ۴۳۷	اس کا اطلاق حسب ذیل قبیلوں پر ہوتا ہے : (۱) سعد بن زید مناة ابن تمیم کی اولاد پر ، اس کے دو بیٹوں کعب اور عمرو کی اولاد کے ماسوا ؛ (۲) یمن کے ایرانی مہاجرین کی اولاد پر ؛ (۳) ابناء الدولة : ابتدائے عہد بنی عباس میں عباسی خاندان کے افراد کے لیے ایک اصطلاح ؛ (۴) ابناء الاتراک : عہد معالیک میں شام یا مصر میں پیدا ہونے والے مسلوکوں کے اخلاف کے لیے مستقل اصطلاح ؛ (۵) ابناء سپاہیان : عثمانی مستقل فوج کے رسالے کے چھ دستوں میں سے پہلے دستے کے سپاہیوں کے لیے سرکاری اصطلاح .	* الأبناء : (بیٹے) ، اس کا اطلاق حسب ذیل قبیلوں پر ہوتا ہے : (۱) سعد بن زید مناة ابن تمیم کی اولاد پر ، اس کے دو بیٹوں کعب اور عمرو کی اولاد کے ماسوا ؛ (۲) یمن کے ایرانی مہاجرین کی اولاد پر ؛ (۳) ابناء الدولة : ابتدائے عہد بنی عباس میں عباسی خاندان کے افراد کے لیے ایک اصطلاح ؛ (۴) ابناء الاتراک : عہد معالیک میں شام یا مصر میں پیدا ہونے والے مسلوکوں کے اخلاف کے لیے مستقل اصطلاح ؛ (۵) ابناء سپاہیان : عثمانی مستقل فوج کے رسالے کے چھ دستوں میں سے پہلے دستے کے سپاہیوں کے لیے سرکاری اصطلاح .

صفحہ عمود	اشارات	عنوانات
۲ ۷۳۸		* اَبُوَس : رَکْ بَہ اَبَنُوس .
۲ ۷۳۸		* اَبْنِیہ : رَکْ بَہ بِنَاء .
۲ ۷۳۸		* اَبُو : رَکْ بَہ کُنِیَہ .
۲ ۷۳۸		* اَبُو : رَکْ بَہ کُنِیَہ .
۲ ۷۳۸		* اَبُو اَم : تَافِیلات کا مرکز حکومت .
		* اَبُو اِسحاق الِابیرِی : ابراهیم بن مسعود بن سعید التَّجیبی ، اندلسی فقیہ اور شاعر (۳۵۹ / ۶۷۷) .
۲ ۷۳۸		* اَبُو اسحاق : رَکْ بَہ (۱) الصابِیء ؛ (۲) الشیرازی .
۱ ۷۳۰		* اَبُو لَاسود الدوئِلی : (الدبلی) ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل ، حضرت علیؓ کا ایک ساتھی ، شاعر ، عربی صرف و نحو کے قواعد اور اعراب قرآن کا واضع (۵۶۹ / ۶۸۸) .
۲ ۷۳۰		* اَبُو الِاعور : عمرو بن سفیان السلمی : حضرت امیر معاویہؓ کی فوج کا ایک سپہ سالار .
۲ ۷۳۱		* اَبُو ایوب النصارِیؓ : خالد بن زید کلب النجاری الخزرجی (۳۱ ق / ۵۹۱ تا ۵۵۲ / ۶۷۲) ، مشہور انصاری صحابی .
۱ ۷۳۲		* اَبُو البرکات : ہبہ اللہ بن علی بن ملکا (یا ملکان) البغدادی البلدی ، مشہور فلسفی ، طیب اور مصنف کتاب المعبر وغیرہ (حیات ۵۶۰ / ۶۱۱) .
۲ ۷۳۵		* اَبُو بُردہ : رَکْ بَہ الاشعری .
۱ ۷۵۰		* اَبُو البشیر : رَکْ بَہ اَدَم .
۱ ۷۵۰		* اَبُو بَکر الصِّدیقؓ : عبداللہ بن ابی قحافہ (۵۷۱ تا ۶۳۳ / ۵۱۳) ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابی ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور آپؐ کے پہلے جانشین اور خلیفہ .
۱ ۷۷		* اَبُو بَکر : (Albubather) رَکْ بَہ الحسن بن الخصیب .
۱ ۷		* اَبُو بَکر : رَکْ بَہ ابن طفیل .
۱ ۷۵۹		* اَبُو بَکر بن احمد : رَکْ بَہ ابن قاضی شہید .
۱ ۷۵۹		* اَبُو بَکر بن سعد بن زنگی : رَکْ بَہ آل سلغوریہ .
۱ ۷۵۹		* اَبُو بَکر بن عبداللہ : رَکْ بَہ ابن ابی الدنیا .
۱ ۷۵۹		* اَبُو بَکر بن علی : رَکْ بَہ ابن حجّہ .
۱ ۷۵۹		* اَبُو بَکر احمد بن علی بن ثابت : رَکْ بَہ الخطیب البغدادی .
۱ ۷۵۹		* اَبُو بَکر البیطار : رَکْ بَہ ابن منذر .
۱ ۷۵۹		* اَبُو بَکر الخَلّال : رَکْ بَہ الخَلّال .
۱ ۷۵۹		* اَبُو بَکر الخوارزمی : رَکْ بَہ الخوارزمی .

صفحہ عمود	اشارات	عنوانات
۱ ۷۵۹		* ابوبکرؓ : (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبشی صحابی نَفِیع بن مسرُوح کا معروف لقب (م ۵۵۱/۶۷۱ یا ۵۵۲/۶۷۲) : (۲) ابوبکرؓ بکار بن قتیبہ البکراوی (۵۱۸۲/۶۹۸ تا ۵۲۷/۶۸۸) ، اسی خاندان کا خلف اور مصر کا قاضی .
۱ ۷۶۰		* ابو ہلال : رگ بہ مرداس بن ادیۃ .
۱ ۷۶۰		* ابو یَہَس : الہیصم بن جابر ، قبیلۃ بنو سعد ابن ضبیعة کا ایک خارجی اور خوارج فرقة بیہسیہ کا بانی (م ۵۹۳/۷۱۳) .
۱ ۷۶۰		* ابو تاشفین اول : عبدالرحمن بن ابی حمو ، ، خاندان عبدالواد کا پانچواں بادشاہ (از ۵۱۸/۶۱۸ تا ۵۳۷/۶۱۳) .
۱ ۷۶۰		* ابو تاشفین ثانی : بن ابی حمو موسیٰ (۵۵۲/۶۱۳ تا ۵۹۵/۶۱۳) ، خاندان عبدالواد کا بادشاہ (از ۵۹۱/۶۱۳) .
۲ ۷۶۰		* ابو تراب : حضرت علیؓ بن ابی طالب [بان] کی کنیت .
۱ ۷۶۱		* ابو تمام : حبیب بن اوس الطائی (۵۸۸/۶۰۴ تا ۵۳۲/۶۸۳) ، مشہور عربی شاعر ، نقاد ، جامع اشعار اور الحماسہ (ابی تمام) وغیرہ کا مرتب .
۱ ۷۶۱		* ابو ثور : ابراہیم بن خالد بن ابی الیمان الکلبی ، ممتاز مفتی دین اور ایک قہبی مسلک کا بانی (م ۵۲۴/۶۸۵) .
۱ ۷۶۵		* ابو جعفر : استاذ ہرموز (= ہرمز) ، عمان میں شرف الدولہ بویہی کا نائب ، بعد ازاں صمصام الدولہ کے عہد میں کرمان کا والی اور سپہ سالار (م ۵۴۰/۶۱۵) .
۲ ۷۶۵		* ابو جہل : عمرو بن ہشام المغیرۃ المخزومی ، سردار قریش اور مشہور دشمن اسلام و دشمن رسولؐ (م ۵۲۴/۶۲۴) .
۱ ۷۶۶		* ابو حاتم الرازی : احمد (یا عبدالرحمن) بن حمدان الوریثی اللیثی . اسماعیلی فرقے کے ابتدائی دور میں رے کا داعی ، حدیث اور عربی شاعری کا عالم اور الزینۃ اور اعلام النبوة وغیرہ کا مصنف (م ۵۲۲/۶۹۳) .
۱ ۷۶۷		* ابو حاتم السیجستانی : سہل بن محمد الجشعی ، بصرے کا ماہر لسانیات اور عروضی ، ابن درید اور المبرد کا استاد ، متعدد کتابوں کا مصنف (م ۵۳۸/۶۶۲ یا ۵۵۵/۶۸۶) .
۱ ۷۶۸		* ابو حاتم : یعقوب بن یبید (یا لیبیب یا حبیب) الملروزی النجیسی ، المغرب کا اباضی امام اور طالع آزما (م ۵۵۵/۷۷۲) .
۲ ۷۶۸		* ابو حاتم : یوسف محمد : رگ بہ آل رستم .
۲ ۷۶۹		* ابو حامد الغرناطی : محمد بن عبدالرحمن (یا عبدالرحیم) بن سلیمان الحارثی القیسی

صفحة عمود	اشارات	عنوانات
۲ ۷۶۹	(۵۳۷۳/۴۱۰۸۰ تا ۵۵۶۵/۴۱۱۷۰)، چھٹی صدی ہجری/	بارہویں صدی عیسوی کا مشہور اندلسی سیاح، اور المغرب
		عن بعض عجائب المغرب اور تحفة الالباب و نخبة الاعجاب
		کا مصنف .
۲ ۷۷۰		* ابو حبة : بغداد کے جنوب مغرب میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے کے قریب
		کھنڈروں کا مجموعہ؛ بابل کے قدیم شہر سپر کا محل وقوع .
۲ ۷۷۱		* ابوالحسن : رگ بہ ابن ابی الرجال .
۲ ۷۷۱		* ابوالحسن العامری : رگ بہ (۱) الاشعری؛ (۲) الشازلی .
		⊗ ابو الحسن العامری : محمد بن یوسف (مشہور بہ ابوالحسن بن ابی ذر) نیشاپوری ،
		ملقب بہ صاحب الفلاسفہ ، چوتھی صدی ہجری/گیارہویں صدی
		عیسوی کا سب سے سربرآوردہ مسلمان فلسفی اور مناظر؛
		ابو حیان توحیدی کا استاد اور کتاب الآمد علی الابد وغیرہ
۲ ۷۷۱		کا مصنف (م ۵۳۸۱/۴۹۹۱) .
		* ابوالحسن علی : فاس کے خانوادہ مرینیہ کا دسواں حکمران (از ۵۳۱/۴۳۳۱ تا
۲ ۷۷۷		۴۵۲/۴۱۳۵۲) .
		* ابوالحسن : (یا ابوالحسین) محمد بن ابراہیم بن سیمجور، کوهستان کا موروثی باج گزار
		سلطان ، سامانی بادشاہوں عبدالملک اول ، منصور اول اور نوح ثانی
۲ ۷۷۸		کے عہد میں تین بار خراسان کا والی (م ۵۳۷۸/۴۹۸۹) .
		* (بنو) ابو حسین : صقلیہ کے فرمانرواؤں کا خاندان (رگ بہ Kalbides ، در آ ، لائن ،
۱ ۷۷۹		بار دوم)
		* ابو حفص عمر بن جمیع : جبل نفوسہ کا اباضی عالم اور اباضیہ کی کتاب عقیدہ کا عربی
۱ ۷۷۹		مترجم (م ۵۷۵۰/۴۱۳۵۰) .
		* ابو حفص عمر بن شعیب البلوطی : ۵۲۱۲/۴۸۳۷ اور ۵۳۵۰/۴۹۶۱ کے درمیان جزیرہ
۱ ۷۸۰		اقریطش (رگ باں) میں ایک چھوٹے خانوادہ شاہی کا بانی .
		* ابو حفص عمر بن یحییٰ الہنتاتی : الموحد مہدی بن تومرت (رگ باں) کا رقیق ،
		خاندان مؤمنیہ (رگ بہ عبدالؤمن) کا سرگرم حامی
		اور افریقہ کے حکمران خانوادے بنو حفص کا بانی ،
۲ ۷۸۰		امیر ابو زکریا کا دادا (م ۵۷۷۱/۴۱۱۷۵) .
		* ابو حمزہ : المختار بن عوف بن مالک الازدی السلیمی البصری ، ایک آتش بیان خارجی
۲ ۷۸۱		سپہ سالار (حیات ۵۱۳۰/۴۷۳۷) .
		* ابو حمزہ الاول : ابن ابی سعید عثمان بن یغاسن (۵۶۶۵/۴۱۲۶۷ تا ۵۷۱۸/۱۳۱۸)

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۷۸۲	* اَبُو حَمُو الثَّالِی : موسی بن ابی یعقوب یوسف بن عبدالرحمن بن یحیی بن یغمراسن (از ۵۷۰/۵۱۳ تا ۶۰۸/۵۱۳) .	خاندان بنو عبدالواد کا چوتھا حکمران (از ۵۷۰/۵۱۳ تا ۶۰۸/۵۱۳) .
۲ ۷۸۲	* اَبُو حَنِیْفَةَ : حضرت امام اعظم " النعمان بن ثابت (نواح ۵۸۰/۶۹۹ تا ۵۱۵/۵۷۶) ، بہت بڑے عالم دین ، ماهر فقہ و کلام ، بانی فقہ حنفی اور مصنف الفقہ الاکبر وغیرہ .	(از ۵۷۶/۵۱۵ تا ۶۹۹/۵۸۰) ، بانی فقہ حنفی اور مصنف الفقہ الاکبر وغیرہ .
۱ ۷۸۳	* اَبُو حَنِیْفَةَ الدِّینَوْرِی : رک بہ الدینوری .	
۱ ۷۸۸	* اَبُو حِیَّانِ التَّوْحِیْدِی : علی بن محمد العباس (مابین ۵۳۱/۶۲۲ و ۵۳۲/۶۳۲ تا ۵۳۱/۶۲۲) ، ادیب ، فلسفی ، امام تصوف ، فقہ ، مؤرخ اور مصنف المقابسات وغیرہ .	
۱ ۷۸۸	* اَبُو حِیَّانِ النَّحْوِی : اثیرالدین محمد بن یوسف الغرناطی الجبائی النقری (۵۶۵/۶۲۵ تا ۵۳۵/۶۳۵) ، عرب نحوی ، علوم قرآنیہ کا مدرس ، نیز حدیث ، فقہ ، تاریخ ، سیر اور شعر و سخن پر متعدد کتابوں مثلاً <u>منہج السالک</u> وغیرہ کا مصنف .	
۲ ۷۹۱	* اَبُو خِرَاش : خویلد بن مرّة الہذلی ، ایک محضرم عرب شاعر اور سورما (م بعہد حضرت عمر فاروق " : ۵۱۳/۶۳۳ تا ۵۲۳/۶۳۳) .	
۲ ۷۹۲	* اَبُو الْخَصِیْب : بصرے کے جنوب میں ایک نھر .	
۱ ۷۹۳	* اَبُو الْخَطَّابِ الْاَسَدِی : محمد بن ابی زینب ، المعروف بہ الکاهلی ، بانی رفض و بدعت (م نواح ۵۱۳۸/۷۵۵) .	
۱ ۷۹۳	* اَبُو الْخَطَّابِ الْکَلُوْذَانِی : رک بہ الکلوذانی ، در لائڈن ، بار دوم .	
۱ ۷۹۳	* اَبُو الْخَطَّابِ الْمَعَارِی : عبد الاعلی بن السّحّ الجیمیری الیمنی ، المغرب کے اباضیوں کا پہلا منتخب امام اور اباضیہ کی حکومت کا بانی (م ۵۱۳۳/۵۷۶) .	
۱ ۷۹۳	* اَبُو الْخَطَّار : الحصام بن ضرار الکلّبی ، اندلس کا والی (از ۵۱۲۵/۷۳۳ تا ۵۱۲۷/۷۳۵) .	
۲ ۷۹۵	* اَبُو الْخَیْرِ : (۵۸۱۳/۶۱۱ تا ۵۸۷۳/۶۱۸) ، از بک حکمران اور اس قوم کے اقتدار کا بانی .	
۱ ۷۹۶	* اَبُو الْخَیْرِ الْاَشْبِیْلِی : ملقب بہ الشّجار ، پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی میں فن زراعت پر کتاب الفلاحة کا مصنف .	
۲ ۷۹۷	* اَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِی : سلیمان بن الاشعث (۵۲۰/۶۱۱ تا ۵۸۱/۶۸۱) ، نامور محدث اور صحاح ستہ میں شامل کتاب السنن کے مرتب .	
۲ ۷۹۸		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۸۰۰		* أبو داؤد الطيالسي : سليمان داؤد ابن الجارود البصري (۵۱۳۳/۵۷۵ تا ۵۴۰ م/۵۴۰ تا ۵۷۵) ، بلند پایہ ایرانی الاصل محدث اور مسند الطيالسي کے مرتب .
۲ ۸۰۰		* أبو الدرداء الانصاري الخزرجي : مشہور انصاری خزرجی صحابی ، دمشق کے قاضی اور مدرس (م نواح ۵۳۲/۵۶۵۲) .
۱ ۸۰۲		* أبو دلامه : زائد بن الجون ، عباسی خلفا السفاح ، المنصور اور المہدی کے عہد کا درباری شاعر اور مسخرا (م ۵۱۶۰/۵۷۷۶) ،
۲ ۸۰۲		* أبو دلف : مسعر بن مہمل الخزرجی الینبوعی ، عرب شاعر ، سیاح اور ماہر معدنیات (حیات ۵۳۳۱/۵۹۵۲) .
۱ ۸۰۲		* أبو الدنيا : ابوالحسن علی بن عثمان بن الخطاب ، ایک طویل العمر شخص ۲۲ ق ۵/۵۶۰ تا ۵۸۳/۵۱۰) ، جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھی .
۲ ۸۰۳		* أبو دؤاد الایادی : زمانہ جاہلیت کا عرب شاعر اور العنذر بن ماء السماء (تقریباً ۵۰۶ تا ۵۵۳) کا ہم عصر .
۲ ۸۰۵		* أبو ذہب الجعفی : وہب بن زعمہ ، مکہ مکرمہ کا ایک غزل گو قریشی شاعر (م نواح ۵۹۶/۵۷۱۵) .
۱ ۸۰۶		* أبوذر الغفاری : جندب بن جنادة ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی (م ۵۳۲/۵۶۵۲) .
۱ ۸۰۷		* أبو ذؤیب الہذلی : خوئلد بن خالد ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متأخر زمانے کا مشہور عرب شاعر (م نواح ۵۲۶/۵۶۳۷) .
۱ ۸۰۸		* أبو رغال : ایک اسطوری شخصیت ، جس کے متعلق متضاد قسم کی روایات ہیں :- (۱) ابرہہ کی مکے کی جانب رہبری کرنے والا ایک ثقفی ؛ (۲) قوم ثمود کی ہلاکت میں بچ جانے والا واحد شخص ؛ (۳) قسی بن منبہ بن النبت ، ایک حقیقی شخص (م نواح ۵۰ ق ۵/۵۷۷۵) .
۱ ۸۰۹		* أبو زکریاء الوریجانی : یحییٰ بن ابی بکر ، المغرب کے اباضیہ کا مؤرخ اور مصنف کتاب السیرة و اخبار الائمة (حیات ۵۳۷۱/۵۱۰۷۸) .
۱ ۸۱۰		* أبو زکریاء الجنولی : یحییٰ بن الخیر ، چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی میں جبل نفوسہ کا ایک اباضی عالم اور اباضی قہبی کتب کا مصنف .
۲ ۸۱۰		* أبو زکریاء ابن خلدون : رک بہ ابن خلدون
۲ ۸۱۰		* أبو زید : بنو ہلال کا اسطیری بطل .
۱ ۸۱۱		* أبو زید : رک بہ البلخی .
۱ ۸۱۱		* أبو زید : رک بہ الحریری .

- * ابو زید الانصاری : سعید بن اوس (۵۱۲۲/۴۷۴ تا ۵۲۱۴/۴۸۳۰) ، دبستان بصرہ کا عرب نحوی ، لغت نویس اور مصنف ؛ النوادر فی اللغة وغیرہ کا مصنف .
- ۱ ۸۱۱ * ابو زین اول : محمد بن ابی سعید عثمان بن یغمراسن (۵۶۵۹/۴۱۲۶ تا ۵۷۰۷/۴۱۳۰) ، خاندان عبدالواد کا تیسرا حکمران (از ۵۷۰۳/۴۱۳۰) .
- ۱ ۸۱۱ * ابو زین ثانی : محمد بن ابی حمو ثانی ، خاندان عبدالواد کا حکمران (از ۵۷۹۶/۴۱۳۹ تا ۵۸۰۱/۴۱۳۹) .
- ۱ ۸۱۲ * ابو زین ثالث : احمد بن ابی محمد عبداللہ ، خاندان عبدالواد کا فرمائروا (از ۵۹۳۷/۴۱۵۵ تا ۵۹۵۷/۴۱۵۵) .
- ۱ ۸۱۲ * ابو زین : رگ بہ (بنو مرین) .
- ۲ ۸۱۲ * ابو الساج دیوداد : (دیوداد) بن دیو دست ، خاندان ابو الساج کا بانی ، خلفائے بنی عباس المتوکل اور المعتز کے عہد میں ایک اہم عہدیدار (م ۵۲۶۶/۸۷۹-۵۸۸۰) .
- ۲ ۸۱۲ * ابو الساج (آل) : خاندان بنو ساج : (۱) بانی خاندان ابو الساج دیوداد بن یوسف دیودست (رگ بان) ؛ (۲) محمد الافشین ابو عبید بن ابی الساج دیودست ، عباسی خلیفہ الموفق کے عہد میں آذربيجان کا والی (م ۵۲۸۸/۴۹۰۱) ؛ (۳) یوسف بن ابی الساج دیودست ، رے اور آذربيجان وغیرہ کا والی (حیات ۵۳۱۰/۴۹۲۲) ؛ (۴) ابوالمسافر فتح بن محمد الافشین ، والی آذربيجان (م ۵۳۱۷/۴۹۲۹) ؛ (۵) ابو الفرج بن ابی المسافر فتح ، خلفائے بنی عباس کا سپہ سالار .
- ۳ ۸۱۳ * ابو السرایا : السری بن منصور الشیبانی ، ایک شیعہ باغی (م ۵۲۰۰/۴۸۱۵) .
- ۱ ۸۱۵ * ابو السرایا الحمدانی : رگ بہ بنو حمدان
- ۱-۸۱۶ * ابو سعد : عمید الدولہ محمد بن الحسن بن علی بن عبدالرحیم ، بنو بویہ کا وزیر (م ۵۳۳۹/۴۱۰۳۸) .
- ۱ ۸۱۶ * ابو السعود : محمد بن محی الدین محمد بن العمامہ مصطفیٰ العمادی ، المعروف بہ خوجہ چلبی (۵۸۹۶/۴۱۳۹ تا ۵۹۸۲/۴۱۵۷) ، مشہور ترک مفسر قرآن ، حنفی عالم ، شیخ الاسلام ، شاعر اور مصنف ارشاد العقل السلیم و دعا نامہ .
- ۱ ۸۱۶ * ابو سعید : رگ بہ الرستمیہ .
- ۱ ۸۱۸ * ابو السعید ایلخان : رگ بہ ایلخانیہ .
- ۱ ۸۱۸ * ابو سعید : بن محمد بن میران شاہ بن تیمور ، ماوراء النہر ، زابلستان اور خراسان

- ۱ ۸۱۸ وغیرہ کا تیموری سلطان (م ۵۸۷۳/۶۱۳۶ء) .
- * **أبو سعید فضل الله بن ابی الخیر** : (۵۳۵۷/۶۹۶۷ء تا ۵۳۳۰/۶۱۰۳۹ء) ، ایران کے مشہور صوفی اور شاعر .
- ۱ ۸۲۱
- ۲ ۸۲۵ * **أبو سعید الجنّابی** : رگ بہ الجنّابی .
- ۲ ۸۲۵ * **أبو سفیان** : زمانہ قبل از اسلام میں البارة (جبل الزاویہ) کا بادشاہ .
- * **أبو سفیان بن حرب بن أمیة** : صخر ، ابو خنظلة : قریش کے ممتاز و متمول تاجر اور سردار مکہ ، جنگ احد میں قریشی لشکر کے قائد ، فتح مکہ کے موقع پر قبول اسلام کے بعد والی نجران و حجاز (م ۵۳۲/۶۶۵ء) .
- ۱ ۸۲۶
- * **أبو سلمة** : حفص بن سلیمان الهمدانی الخلال ، پہلے عباسی خلیفہ کا پہلا وزیر (م ۵۱۳۳/۶۷۵ء) .
- ۱ ۸۲۸ * **أبو سلیمان المنطقی** : محمد بن طاہر بن بہرام السجستانی (. ۵۳۰۰/۶۹۱۲ء تا ۵۳۷۵/۶۹۸۵ء) ، بغداد کا ایک نامور نو افلاطونی فلسفی اور مصنف صوان الحکمة .
- ۲ ۸۲۸
- * **أبو شامة** : شہاب الدین ابوالقاسم (ابو محمد) عبدالرحمن بن اسماعیل المقدسی (۵۵۹۹/۶۱۲۰۳ء تا ۵۶۶۵/۶۱۲۶۸ء) تاریخ العرب مؤرخ اور مصنف کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین وغیرہ .
- ۱ ۸۲۹
- * **أبو شجاع** : احمد بن حسن (یا حسین) بن احمد (متولد ۵۳۳۳/۶۱۰۳۲ء) ، مشہور شافعی فقیہ اور مفتی اور مصنف رسالة الغایة فی الاختصار وغیرہ (حیات ۵۵۰۰/۶۱۱۰۷ء) .
- ۲ ۸۳۰
- * **أبو شجاع محمد بن الحسن** : رگ بہ الروز روری .
- ۱ ۸۳۱
- * **أبو الشَّمَقِی** : ابو محمد مروان بن محمد الجعدی ، ابتدائی عباسی عہد کا کوفی شاعر (م ۵۱۸۰/۶۷۹۶ء) .
- ۱ ۸۳۱
- * **أبو الشوق** : رگ بہ بنو عناز .
- ۲ ۸۳۱
- * **أبو شہر** : رگ بہ بو شہر .
- ۲ ۸۳۱ * **أبو الشیص** : محمد بن عبداللہ بن رزین الخزاعی ، عرب شاعر (م نواح ۵۲۰۰/۶۸۱۵ء) .
- * **أبو الصلت أمیہ** : بن عبدالعزیز بن ابی الصلت (. ۵۳۶۰/۶۱۰۶۷ء تا ۵۵۲۹/۶۱۱۳۳ء) ، اندلسی شاعر ، ادیب ، فلسفی ، طبیب ، مؤرخ اور مصنف تقویم الذہن ، الادویة المفردة وغیرہ .
- ۲ ۸۳۲
- * **أبو صیر** : رگ بہ بو صیر .
- ۲ ۸۳۳ * **أبو صخر الہذلی** : عبداللہ بن سلمة ، پہلی صدی ہجری / ساتویں صدی عیسوی کا

عرب شاعر .

۲ ۸۳۲

* ابو فَمَضْم : چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کے ایک مشہور مجموعہ حکایات کا مضحک کردار .

۱ ۸۳۳

* ابو ضیاء توفیق بک : رگ بہ توفیق بے، در آآ، لائڈن، طبع دوم .

۲ ۸۳۳

۲ ۸۳۳

* ابو طاقتہ : رگ بہ سکہ .

* ابو طالب : عبد مناف بن عبدالمطلب الهاشمی القرشی (۸۵ق/۵ تا ۶۲ق/۵)، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے عم محترم اور حضرت علیؓ کے والد .

۲ ۸۳۳

* ابو طالب خان : بن حاجی محمد بیگ (۱۱۶۵ھ/۱۷۵۲ء تا ۱۲۲۱ھ/۱۸۰۶ء)، لکھنؤ کا ترکی النسل سیاح یورپ، آصف الدولہ اور انگریز ریڈیڈنٹ کا اہلکار، مصنف مسیر طالبی فی بلاد افرنجی وغیرہ .

۱ ۸۳۴

* ابوطالب کلیم : رگ بہ کلیم .

۲ ۸۳۴

* ابوطالب محمد : بن علی الحارثی المکی، محدث اور صوفی، بصرے کے متکلم فرقہ سالمیہ کے پیشوا اور مصنف قوت القلوب (م ۳۸۶ھ/۹۹۶ء) .

۲ ۸۳۴

* ابوطاھر سلیمان القرمطی : رگ بہ الجنابی .

۱ ۸۳۸

* ابوطاھر طرسوسی : (یا طوسی)، محمد بن حسن بن علی بن موسیٰ، ایک غیر معروف شخص جس کی طرف بعض طریق الطبری قصے، مثلاً قہرمان نامہ، داراب نامہ وغیرہ منسوب ہیں .

۱ ۸۳۸

* ابوالطیب : رگ بہ المفضل .

۲ ۸۳۸

* ابوطیب : رگ بہ (۱) الطبری؛ (۲) المتنبی .

۲ ۸۳۸

* ابوظبی : متحدہ عرب امارات میں سب سے بڑی امارت .

۲ ۸۳۸

* ابوالعالیہ : رفیع بن مہران الریاحی، بنوریاح کا آزاد کردہ غلام، جس کی طرف قرآن مجید کی ایک تفسیر منسوب ہے؛ نیز محدث اور قاری (م ۵۹ھ/۶۰۹ء) .

۲ ۸۳۹

* ابوالعباس السفاح : عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن العباس، پہلا عباسی خلیفہ (از ۱۳۲ھ/۷۴۹ء تا ۱۳۶ھ/۷۵۳ء) .

۱ ۸۴۰

* ابو عبداللہ الشیعی : الحسین بن احمد بن محمد بن زکریا المعروف بہ المحتسب، شمالی افریقیہ میں دولت فاطمیہ کا بانی (م ۲۹۸ھ/۹۱۱ء) .

۲ ۸۴۱

* ابو عبداللہ یعقوب بن داؤد : عباسی خلیفہ المہدی کا وزیر اور علویوں کا حلیف (م نواح ۱۸۶ھ/۷۸۰ء) .

۱ ۸۴۳

* ابو عبید البکری : عبداللہ بن عبدالعزیز، اسلامی مغرب کا سب سے بڑا جغرافیہ نگار اور الہیات، لسانیات و نباتات کا عالم، مصنف المسالک و المعالک،

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۴۳		معجم ما استعجم وغیرہ (م ۵۳۸۷/۹۳۰۶۱۰)۔
		⊗ ابو عبید القاسم : بن سلام الہروی (نواح ۵۱۵۳/۶۷۷۰ تا ۵۲۲۳/۶۸۳۸) ، مشہور عرب نحوی ، فقیہ ، عالم ، ماهر معاشیات اور متعدد اہم کتب غریب الحدیث ، غریب المصنف ، غریب القرآن ، کتاب الاموال اور کتاب الامثال کا مصنف۔
۲ ۸۴۸		* ابو عبید اللہ : معاویہ بن عبید اللہ بن یسار الاشعری ، عباسی خلیفہ المہدی کا وزیر (م ۵۱۷۰/۶۷۸۶)۔
۱ ۸۵۰		* ابو عبیدۃ التیمی : رگ بہ اباضیہ۔
۲ ۸۵۰		⊗ ابو عبیدۃ : عامر بن عبد اللہ بن الجراح ، امین الامۃ ، عشرۃ مبشرہ میں شامل مشہور صحابی اور سپہ سالار (م ۵۱۸/۶۳۹)۔
۲ ۸۵۰		* ابو عبیدۃ : معمر بن المثنی (۵۱۱۰/۶۷۲۸ تا ۵۲۰۹/۶۸۲۳) ، عرب ماهر لسالیات اور مصنف کتاب الخیل ، غریب الحدیث و مجاز القرآن۔
۱ ۸۵۵		* ابو العتاہیہ : ابو اسحاق اسماعیل بن القاسم بن سوید بن کيسان (۵۱۳۰/۶۷۳۸ تا ۵۲۱۰/۶۸۲۵) ، عہد عباسی کا ممتاز شاعر۔
۱ ۸۵۷		* ابو العرب : محمد بن تیم بن تمام التیمی (نواح ۵۲۵۵/۶۸۶۹ تا ۵۳۳۳/۶۹۳۵) ، مالکی فقیہ ، محدث ، مؤرخ ، شاعر اور طبقات علماء افریقیہ کا مصنف۔
۲ ۸۵۹		* ابو عروبوۃ : الحسين بن ابی معشر محمد بن مودود السلمی الحرانی ، (نواح ۵۲۲۲/۶۸۳۷ تا ۵۳۱۸/۶۹۳۰) ، حران کا عالم حدیث اور مصنف طبقات۔
۲ ۸۵۹		* ابو عریش : ولایت عسیر کا معروف قصیدہ۔
۲ ۸۶۰		* ابو عطاء السندی : افلح (یا مرزوق) بن یسار ، آخری اموی دور کا ایک مشہور صاحب سیف و قلم شاعر (م نواح ۵۱۵۸/۶۷۷۳)۔
۱ ۸۶۱		⊗ ابو العلاء المعری : احمد بن عبد اللہ بن سلیمان (۵۳۶۳/۶۹۷۳ تا ۵۴۴۹/۷۱۰۵) ، مشہور ناینا عرب شاعر ، فلسفی اور مصنف۔
۲ ۸۶۱		* ابو علی : (Al Bohali) ، رگ بہ الخیاط۔
۲ ۸۶۸		* ابو علی بن سینا : رگ بہ ابن سینا۔
۲ ۸۶۸		* ابو علی القالی : رگ بہ القالی۔
۲ ۸۶۸		* ابو علی (بوعلی) قلندر : شیخ شرف الدین ہانی ہتی ، ہندوستان کے ایک بزرگ ولی اللہ ، شاعر اور مصنف (م نواح ۵۷۲۳/۶۱۳۲۳)۔
۲ ۸۶۸		* ابو علی محمد بن الیاس : رگ بہ الیاسیہ۔
۲ ۸۶۹		* ابو عمرو زہان بن العلاء : بن عمار التیمی ، قرآن مجید کا مشہور قاری اور نحو میں دبستان بصرہ کا بانی (م نواح ۵۱۵۳/۶۷۷۰)۔
۲ ۸۶۹		

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۸۴۳	* ابو عنان فارس : (۶۱۳۲۹/۵۷۲۹ تا ۶۱۳۵۸/۵۷۵۹) ، فاس کے بنو مرین (رک بہ بان) کا گیارہواں تاجدار (از ۶۱۳۳۸/۵۷۳۹)	
۲ ۸۴۳	* ابو عون : عبدالملک بن یزید الخراسانی، بنو عباس کا سپہ سالار، مصر اور خراسان کا والی (حیات ۶۷۷/۵۱۵۹)۔	
۱ ۸۴۳	* ابو عیسیٰ الاصفہانی : عہدِ نبویؐ کا یہودی کذاب، مسیح ہونے کا مدعی اور فرقہ عیسویہ کا بانی۔	
۱ ۸۴۳	* ابو عیسیٰ : محمد بن ہارون الوراق، سابقاً معتزلی اور بعد ازاں یکے از ملاحدہ اسلام، مصنف المقالات وغیرہ (م نواح ۶۸۶۱/۵۲۳۷)۔	
۲ ۸۴۵	* ابو العیناء : محمد بن القاسم بن خلاد بن یاسر بن سلیمان الهاشمی (۶۸۰/۵۱۹۰ تا ۶۸۹۶/۵۲۸۳-۲۸۲) ، عربی زبان کا ادیب اور شاعر۔	
۲ ۸۴۵	* ابو الغازی بہادر خان : (۶۱۶۰۳/۵۱۰۱۲ تا ۶۱۶۶۳/۵۱۰۷۳) ، خیوا کا حاکم اور چغتائی مؤرخ، مصنف شجرۂ تراکمہ وغیرہ۔	
۲ ۸۴۴	* ابو غانم : بشر بن غانم الخراسانی، دوسری تیسری صدی ہجری/آٹھویں نویں صدی عیسوی کا ایاضی فقیہ اور مصنف کتاب المدونۃ۔	
۱ ۸۴۸	* ابو الفتح : رک بہ (۱) ابن العمید ؛ (۲) ابن العزق ؛ (۳) المظفر۔	
۱ ۸۴۸	* ابو الفتح حسن : رک بہ مکہ۔	
۱ ۸۴۸	* ابو الفتح الرازی : (حیات مابین ۶۱۰۸۷/۵۳۸۰ و ۶۱۱۳۱/۵۵۲۵) ، ممتاز ایرانی شیعہ مفسر قرآن۔	
۲ ۸۴۸	* ابو الفداء : اسماعیل (الافضل) علی بن (المظفر) محمود بن شاہنشاہ بن ایوب المخاطب بہ الملک المؤید عماد الدین (۶۱۲۷۳/۵۶۷۲ تا ۶۱۳۳۱/۵۷۳۲) ، شامی امیر ، مؤرخ ، جغرافیہ دان ، شاعر اور المختصر فی تاریخ البشر اور تقویم البلدان وغیرہ کا مصنف۔	
۲ ۸۸۰	* ابو فدیك : عبدالله بن ثور، بنو قیس بن ثعلبہ کا خارجی شورش پستد (م ۶۹۹۳/۵۷۳)۔	
۲ ۸۸۱	* ابو فراس الحمدانی : العارث بن ابی الاعلیٰ سعید بن حمدان التغلبی (۶۹۳۲/۵۳۲۰ تا ۶۹۶۸/۵۳۵۷) ، صاحب دیوان عرب شاعر۔	
۲ ۸۸۲	* ابو الفرج : رک بہ (۱) البیضاء ؛ (۲) ابن الجوزی ؛ (۳) ابن العبری ؛ (۴) الندیم ۔	
۲ ۸۸۲	* ابو الفرج الاصبہانی : (الاصفہانی) ، علی بن الحسین بن محمد بن احمد القرشی (۵۲۸۳/۶۸۹۷ تا ۶۹۶۷/۵۳۵۶) ، ممتاز عرب مؤرخ ، ادیب ، شاعر اور ماہر موسیقی، مصنف کتاب الاغانی وغیرہ۔	
۲ ۸۸۳	* ابو الفرج رونی : ابن مسعود غزنوی، لاہور (بالفاظ دیگر برعظیم پاک و ہند) کا پہلا ممتاز صاحب دیوان فارسی شاعر اور استاد سخن (م نواح ۶۱۰۹۷/۵۳۹۷)۔	

- ۱ ۸۸۹ * ابو الفضل : رگ بہ العمید.
- ۱ ۸۸۹ * ابو الفضل بیہقی : رگ بہ بیہقی، ابو الفضل.
- ۱ ۸۸۹ * ابو الفضل غلامی : (۵۹۵۸/۱۵۵۱ء تا ۵۱۰۱/۶۰۲ء)، مغل شہنشاہ اکبر کا مقرب، صدر الصدور، حاکم و سپہ سالار دکن، ممتاز فارسی ادیب اور صاحب طرز انشا پرداز، مصنف اکبر نامہ، آئین اکبری، انشائے ابو الفضل وغیرہ.
- ۲ ۸۸۹ * ابو الفضل عیاض : رگ بہ عیاض.
- ۲ ۸۹۱ * ابو فطرس : (Ancipatris)، رگ بہ نہر ابی فطرس.
- ۲ ۸۹۱ * ابو القاسم : ابو المظہر محمد بن احمد کی حکایت ابی القاسم البغدادی کا چرب زبان اور مفت خورہ مرکزی کردار.
- ۲ ۸۹۱ * ابو القاسم : رگ بہ الزہراوی، در لالہ، لائڈن، بار دوم.
- ۱ ۸۹۲ * ابو القاسم بابر : رگ بہ تیمور (بنو).
- ۱ ۸۹۲ * ابو قیس : مکہ معظمہ میں مسجد حرام کے قریب ایک پہاڑ.
- ۱ ۸۹۲ * ابو قرہ : تھیوڈور Theodore (نواح ۵۱۲۲/۶۷۳ء تا ۵۲۰۵/۶۸۲ء)، حران کے عیسائی ملکی Melkite فرقے کا اسقف، عربی کا اولین عیسائی ادیب اور مصنف.
- ۲ ۸۹۲ * ابو قلمس : رگ بہ قلمس.
- ۱ ۸۹۳ * ابو قلمون : ایک مختلف المعانی اصطلاح.
- ۱ ۸۹۳ * ابو قیر : (بو قیر) اسکندریہ سے پندرہ میل مشرق میں بحیرہ روم کے ساحل پر ایک چھوٹا سا قصبہ.
- ۱ ۸۹۳ * ابو کالیجار : المرزبان بن سلطان الدولة (۵۳۰۰/۶۱۰ء تا ۵۳۳۱/۶۱۰ء)، بویہی خاندان کا ایک شاہزادہ.
- ۱ ۸۹۵ * ابو کایل شجاع : بن اسلم بن محمد بن شجاع الحاسب المصری، تیسری چوتھی صدی ہجری/نویں صدی عیسوی میں الخوارزمی کے بعد جبر و مقابلہ کا دوسرا قدیم ترین مسلمان عالم اور قرون وسطی کے عظیم ترین ریاضی دانوں میں سے ایک، مصنف الطرائف وغیرہ.
- ۱۰ ۸۹۸ * ابو کبیر الہدلی : پہلی صدی ہجری/ساتویں صدی عیسوی کا قدیم نامور عرب شاعر اور بقول ابن الاثیر و ابن الحجر صحابی رسول مقبول.
- ۱ ۹۰۱ * ابو کبیر : رگ بہ سکہ.
- ۱ ۹۰۲ * ابو کلب : رگ بہ سکہ.
- ۱ ۹۰۲ * ابو کلی : ابو ملیح کی سُحرف شکل، مصر میں دشت بیوضہ سے العتمة جانے والی شاہراہ پر واقع کنوؤں کا ایک مرکز.
- ۱ ۹۰۴


صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۹۰۲		⊗ ابو لہب : عبدالعزی بن عبدالمطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور رسوائے عالم دشمن اسلام (م ۵۲/۶۲۳ء)۔
۱ ۹۰۳		* ابو الیث سمرقندی : نصر بن محمد بن احمد بن ابراہیم المعروف بہ امام الہدی، چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کا حنفی عالم، مفتی اور متعدد کتب کا مصنف (م مابین ۵۳۷۳/۶۸۳ء و ۵۳۹۳/۶۰۰ء)۔
۱ ۹۰۵		⊗ ابو المعاسین : رگ بہ ابن تغری بردی۔
۱ ۹۰۵		* ابو المعاسین یوسف بن محمد : بن یوسف الفاسی (۵۹۳۸/۱۵۳۱ء تا ۶۰۱۳/۱۶۰۳ء)، مراکش کا مشہور عالم دین اور صوفی شیخ۔
۲ ۹۰۵		* ابو میحجن : عبداللہ (یا مالک یا عمرو) بن حبیب، بنو ثقیف کا ایک مخضرمی صاحب دیوان عرب شاعر اور مرد میدان (حیات ۵۱۶/۶۳۷ء)۔
۲ ۹۰۶		* ابو محمد صالح : بن یحصار بن غفیان الدکالی، مشہور مراکشی صوفی بزرگ (م ۵۶۳۱/۱۲۳۳ء)۔
۱ ۹۰۷		* ابو محمد عبداللہ : بن محمد بركة العمانی، المعروف بابن بركة، عمان کا اباضی مصنف (حیات ۵۳۲۸/۶۳۹ء)۔
۲ ۹۰۷		* ابو مخنف : لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف الازدی، دور اول کا عرب محدث اور مؤرخ (م ۵۱۵۷/۷۷۷ء)۔
۱ ۹۰۸		* ابو مدفع : رگ بہ سکہ۔
۱ ۹۰۸		* ابو مدین شعیب : بن الحسین (۵۲۰/۱۱۲۶ء تا ۵۹۳/۱۱۹۷ء)، اندلس کے مشہور صوفی بزرگ، مصنف اور شاعر۔
۱ ۹۱۰		* ابو مروان : (Abumeron)، رگ بہ ابن زہر۔
۱ ۹۱۰		* ابو مسلم : خراسان میں عباسیوں کی انقلابی تحریک کا رہنما (م ۵۱۳۷/۷۵۳ء)۔
۱ ۹۱۱		* ابو المعالی عبد الملک : رگ بہ الجوینی۔
۱ ۹۱۱		* ابو المعالی محمد بن عبید اللہ : ایک ایرانی فاضل، مذاہب کے بارے میں پہلی فارسی کتاب بیان الادیان (۵۳۸۵/۱۰۹۲ء) کا مصنف۔
۲ ۹۱۱		* ابو المعالی ہبہ اللہ : رگ بہ ہبہ اللہ۔
۲ ۹۱۱		* ابو معشر جعفر بن محمد بن عمر الباعثی : (Albumasar)، ماہر ہیئت و علم نجوم اور مصنف المدخل الکبیر وغیرہ (م ۵۲۷۲/۸۸۶ء)۔
۲ ۹۱۳		* ابو معشر نجیح : بن عبدالرحمن السندی المدنی، ایک یعنی آزاد شدہ غلام، مؤرخ، مصنف کتاب المغازی (م ۵۱۷۰/۷۸۷ء)۔
		* ابو منصور الیاس النفوسی : تہرت کے رستمی امام ابوالیقطان محمد بن اقلح کی طرف سے

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۹۱۳		جبل نفوسہ اور طرابلس کا والی (حیات ۵۲۶۶/۵۸۷۹)۔
۲ ۹۱۳		* ابو منصور: (عبدالملک)، رگ بہ الثعالبی۔
۲ ۹۱۳		* ابوالموثر الصلت: بن خمیس البهلوی العماتی، عمان کا اباضی مؤرخ اور فقیہ، مصنف الاحداث والصفات وغیرہ (حیات ۵۲۷۳/۵۸۸۶)۔
۱ ۹۱۵		* ابو موسیٰ: رگ بہ الاشعری۔
۱ ۹۱۵		* ابو النجم العجلی: الفضل (المنفصل) بن قدامة، پہلی صدی ہجری/ساتویں آٹھویں صدی عیسوی کا عرب شاعر (حیات ۵۱۰۵/۵۷۳۳)۔
۱ ۹۱۶		* ابو نصر: رگ بہ الفارابی۔
۱ ۹۱۶		* ابو نظارة: یعقوب بن رفائیل صنوع، James Sanua، (۵۱۲۵۵/۵۱۸۳۹ تا ۵۱۳۳/۵۱۹۱۳)، مصر کا پر نویس یہودی صحافی اور تمثیل نگار، حسن الاشارة فی مسامرات ابی نظارة اور رحلۃ ابی نظارة وغیرہ کا مصنف۔
۱ ۹۱۷		* ابو نعیم الاصفہانی: احمد بن عبد اللہ الشافعی (۵۳۳۶/۵۹۳۸ تا ۵۴۳۰/۶۱۰۳۸)، فقہ اور تصوف کا مستند عالم اور مصنف حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء وغیرہ۔
۱ ۹۱۷		* ابو نعیم الفضل: بن دکن الملانی (۵۱۳۰/۵۷۳۸ تا ۵۲۱۹/۵۸۳۳)، عالم حدیث، تاریخی اخبار کا ناقل اور مصنف کتاب المناسک و کتاب المسائل فی الفقہ۔
۲ ۹۱۸		* ابو نسی اول و ثانی: شرفاے مکہ؛ رگ بہ مکہ المعرمة۔
۲ ۹۱۹		* ابو نواس: الحسن بن ہانی الحکمی، عباسی دور کا مشہور ترین صاحب دیوان عرب شاعر (م نواح ۵۱۹۹/۵۸۱۳)۔
۲ ۹۱۹		* ابوالوفاء البوزجانی: محمد بن محمد بن یحییٰ (۵۳۲۸/۵۹۳۰ تا ۵۳۸۸/۵۹۹۸)، نامور عرب ریاضی دان اور مصنف کتاب الامتاع والمؤانسة وغیرہ۔
۱ ۹۲۵		* ابو ہاشم: معتزلی عالم دین؛ رگ بہ الجبائی۔
۱ ۹۲۵		* ابو ہاشم: عبد اللہ بن محمد بن الحنفیہ، اواخر پہلی صدی ہجری/ساتویں صدی عیسوی میں شیعویوں کے قائد اور ان کی شاخ کيسائیہ کے امام۔
۲ ۹۲۵		* ابو ہاشم: شریف مکہ؛ رگ بہ مکہ المعرمة۔
۲ ۹۲۵		* ابو الہذیل العلاف: محمد بن الہذیل بن عبد اللہ بن مکحول العبیدی (نواح ۵۱۳۳/۵۷۵۱ تا ۵۲۲۷/۵۸۳۲)، معتزلہ کا پہلا متکلم، ادیب اور شاعر۔
۱ ۹۲۹		* ابو ہریرہ: عمیر بن عامر الدوسی الیمانی، مشہور صحابی اور یکے از اساطین علم حدیث (م نواح ۵۵۸/۵۶۷۸، بعمر ۷۸ سال)۔
۱ ۹۳۱		* ابوالہول: جیزہ (مصر) کا سب سے بڑا اور شہرہ آفاق بت۔

صفحہ نمبر	عنوان	اشاران
۱ ۹۳۲	* ابو السجاء الحمدانی : رگ بہ بنو حمدان.	
۱ ۹۳۲	* ابو یزید (یا یزید) السطاسی : طیفور بن عیسیٰ بن مروشان، معروف ترین مسلم صوفیائے کرام میں سے ایک (م ۵۲۶۱/۵۸۳۷ یا ۵۶۶۳/۵۸۷۷).	
۲ ۹۳۳	* ابو یزید النکری : مُخَلَّد بن کیداد (۵۲۷۰/۵۸۸۳ تا ۵۳۳۶/۵۹۳۷)، شمالی افریقہ میں قاطمی حکومت کا باغی خارجی قائد.	
۱ ۹۳۷	* ابو یعزیٰ : (یا یعزیٰ) یلسنور بن مینون، چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی میں مشہور مراکشی ولی (م ۵۵۷۲/۶۱۱۷).	
۲ ۹۳۷	* ابو یعقوب السجزی : اسحاق بن احمد، چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کا اسماعیلی داعی اور اپنے فرقے کا ایک اہم مصنف.	
۲ ۹۳۷	* ابو یعقوب الخرمی : اسحاق بن حسان بن قومی، عرب شاعر (م تواج ۵۲۰۶/۵۸۲۱).	
۲ ۹۳۷	* ابو یعقوب یوسف : بن عبدالمؤمن، بنو مؤمن یعنی الموحدون کا دوسرا حکمران (از ۵۵۵۸/۶۱۶۳ تا ۵۵۸۰/۶۱۸۳).	
۲ ۹۳۹	● ابو یعلیٰ القراء : محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن احمد البغدادی، مشہور حنبلی امام، قیہ اور ابطال التأویلات لاختیار الصفات کے مصنف (م ۵۵۸/۶۱۰۶۶).	
۱ ۹۳۳	* ابو یقظان محمد بن الاقلح : رگ بہ (بنو) رستم.	
۲ ۹۳۵	* ابو یوسف : یعقوب بن ابراہیم الاتصاری الکوفی، ممتاز حنفی قیہ، حنفی دبستان کے ایک بانی (رگ بہ حنیہ)، قاضی القضاة اور مصنف کتاب الخراج وغیرہ (م ۵۹۸/۶۱۸۲).	
۲ ۹۳۵	* ابو یوسف یعقوب : بن یوسف بن عبدالمؤمن المنصور، الموحدون کا تیسرا فرمانروا (م مابین ۵۵۸۰/۶۱۸۳ و ۵۵۹۵/۶۱۹۹).	
۱ ۹۳۸	* الأیواء : مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے والی شاہراہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مقام وفات.	
۱ ۹۵۱	* آیواب : رگ بہ در بند.	
۲ ۹۵۱	* آبہر : (آوہر)، قزوین اور زنجان کی نصف راہ پر ایک چھوٹا قصبہ.	
۲ ۹۵۱	* الأبهری : ابیر الدین مفضل بن عمر الأبهری، حنفی ادیب اور فلسفہ درسی کی دو مشہور کتابوں ہدایۃ الحکمة اور ایساغوجی کا مصنف (م ۵۶۶۳/۶۱۲۶۳).	
۱ ۹۵۲	* آبی : (= ابہا)؛ سعودی عرب کے صوبہ عسیر [رگ باں] کا صدر مقام.	
۲ ۹۵۲	* آیب : رگ بہ تاریخ.	
۲ ۹۵۳	* ابی سینا : (Abyssinia)، رگ بہ الحبش.	
۲ ۹۵۳	* آیشے : رگ بہ آبشر.	
۱ ۹۵۳		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۹۵۳	(۲) عدن کے شمال مشرق میں ایک چھوٹا سا	* آئین : (۱) یمن کی وادی بناء کا ایک ضلع ؛
۱ ۹۵۳	مقام ؛ (۳) بعض اشخاص کا نام۔	* ابی ورد (باورد)، جمہوریہ ترکمان کا ایک ضلع اور شہر۔
۱ ۹۵۶		* الایوردی : ابوالمظفر محمد بن احمد ، صاحب دیوان شاعر اور نساب (م ۵۰۷ھ/۱۱۱۳ء)۔
۲ ۹۵۶		* اہمیہ : (Apemea)، رگ بہ افامیہ۔
۲ ۹۵۶		* اہولونیوس تیانه : (Apollonius of Tyana)، رگ بہ بلینوس۔
۲ ۹۵۶		* الہجراس : (Alpujraas)، رگ بہ البشرات۔
۲ ۹۵۶		* الہونت (Alpuante)، رگ بہ البت۔
۲ ۹۵۶		* آتا : (بمعنی باپ یا مورث اعلیٰ)، معزز و محترم افراد کے ناموں میں شامل لقب، مثلاً اتاترک۔
۱ ۹۵۷		* آتابک : (اتایگ)، سلجوقیوں اور ان کے جانشینوں کے عہد میں ایک بلند مرتبہ عہدہ۔
۱ ۹۶۱		* اتابک العساکر : (سپہ سالار اعظم)، عہد ممالیک میں سلطنت کا اہم ترین امیر۔
۲ ۹۶۱		* انابک : رگ بہ اتابک۔
۲ ۹۶۱		* اتابک العساکر : رگ بہ اتابک العساکر۔
۲ ۹۶۱		* اتاترک : غازی مصطفیٰ کمال (۱۸۸۱ء تا ۱۹۲۸ء)، جمہوریہ ترکیہ کے بانی اور پہلے صدر (از ۱۹۲۳ء)۔
۱ ۹۸۶		* اتالیق : اتابک (رگ باں) کے ہم معنی اصطلاح۔
۱ ۹۸۶		* آتبرہ : سودان میں دریائے نیل کی ایک معاون ندی اور اس کے دہانے پر ایک شہر۔
۲ ۹۸۶		* إتحاد : علم کلام کی ایک اصطلاح۔
۲ ۹۸۷		* آتر : موری تانیا کا ایک شہر اور حلقہ اضرار کا صدر مقام۔
۲ ۹۸۸		* أترار : سیر دریا کے دائیں کنارے پر ایک ویران شہر۔
۲ ۹۸۹		* آترک : خراسان کے شمال میں ایک دریا۔
۲ ۹۹۰		* آتسز بن أوق : عہد سلاجقہ کا ایک ترکمان سردار (م ۳۷۱-۳۷۲ھ/۹۷۹-۹۸۰ء)۔
۲ ۹۹۱		* آتسز : بن محمد بن انوشنگن (نواح ۳۹۱ھ/۹۸۰ء تا ۵۵۱ھ/۱۱۵۶ء)، انوشنگین خوارزم شاہ کا جانشین (از ۵۲۱ھ/۱۱۲۷ء)۔
۱ ۹۹۳		* آتک : سوویت ترکمستان کا ایک ضلع۔
۱ ۹۹۳		* آتل : (اتل) یا خزران اتل، قرون وسطیٰ میں جنوبی والگا پر سلطنت خزر کا دارالحکومت۔
۱ ۹۹۳		* اتھوپیا : رگ بہ الحبشہ۔
۱ ۹۹۳		* آتینہ : (ایتھنز Athens)، یونان کا دارالسلطنت۔
۱ ۹۹۶		* آتک : دریائے سندھ اور دریائے کابل کے مقام اتصال سے ذرا نیچے پاکستان میں ایک قلعہ۔

صفحہ نمبر	عمود	اشارات	عنوان
۲	۹۹۶		* اَلس : رگ بہ اطلس.
۲	۹۹۶		* الأثال : (الأثال)، ایک آلہ تصعید.
۱	۹۹۷		* أثر : ایک دینی و علمی اصطلاح.
۲	۹۹۷		* اثنا عشریہ : بارہ اماموں کو ماننے والا شیعی مسلک.
۱	۱۰۰۱		* آجا و سلمی : وسطی عرب میں الجبل کے دو پہاڑی سلسلے.
۳	۱۰۰۱		* إجازة : علم حدیث کی اصطلاح.
۱	۱۰۰۳		* إجتماع : رگ بہ استقبال.
۱	۱۰۰۳		* إجتهاد : ایک فقہی و علمی اصطلاح.
۱	۱۰۰۶		* الأجدابی : رگ بہ ابن الاجدابی.
۱	۱۰۰۶		* أجداییة : برقہ (Cyrenaica) کا ایک شہر.
۲	۱۰۰۶		* أجر : ایک فقہی، دینی و معاشرتی اصطلاح.
۲	۱۰۰۷		* أجرومیة : رگ بہ آجروم.
۲	۱۰۰۷		* أجل : کسی شے کی مدت زمانی، موت؛ ایک قرآنی اصطلاح.
۱	۱۰۰۹		* إجماع : ان چار اصولوں میں سے ایک جن سے شرع اسلامی ماخوذ ہے.
۱	۱۰۱۱		* آجمیر : راجستھان (بھارت) میں اسی نام کی ایک سابقہ نیم خود مختار ریاست کا صدر مقام اور حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے مزار کے لیے معروف.
۱	۱۰۱۲		* آجنادین : عہد فاروقی میں یونانیوں کے ساتھ ایک مشہور جنگ کا محل وقوع.
۲	۱۰۱۲		* آجوف : رگ بہ تصریف.



جلد ۲

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱	۱	⊗ اُج : (اوج، اوچھ، اوچہ) سابقہ ریاست بہاولپور میں پاکستان کا ایک نہایت قدیم اور مشہور شہر۔
۱	۶	* اُچے : (اچید، اچن یا اچین)، جزیرہ سمائرا کا سب سے شمالی حصہ، ایک سابقہ اسلامی ریاست اور موجودہ جمہوریہ انڈونیشیا کا ایک صوبہ۔
۲	۲۶	* اُچالی : (اوجیالی)، ۱۵۰۰ء تا ۱۵۸۷ء، سولہویں صدی عیسوی کا ایک ترک امیر البحر۔
۲	۲۷	⊗ احایش : عہد نبوی میں قریش مکہ کے چند حلیف قبائل کا مجموعہ۔
۱	۳۱	* احادیث : رک بہ حدیث۔
۱	۳۱	⊗ اُحد : مدینہ منورہ کے شمالی مضافات میں ایک پہاڑ اور وہاں لڑا جانے والا ایک نہایت اہم غزوہ۔
۱	۳۸	* اُحدات : چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی اور چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی کے مابین شام اور بالائی الجزیرہ میں اہم خدمات انجام دینے والی رضا کار فوج۔
۱	۴۰	* اُحدیۃ : رک بہ (۱) اللہ؛ (۲) وحدۃ۔
۱	۴۰	⊗ اِحرام : حج بیت اللہ [رک باں] اور عمرہ [رک باں] کا ایک اہم رکن۔
۱	۴۲	* الاحساء : رک بہ (۱) الحسا؛ (۲) ہفہوف۔
۱	۴۲	* الاحسانی : شیخ احمد بن زین الدین بن ابراہیم (۱۱۶۶ھ/۱۷۵۳ء تا ۱۲۴۱ھ / ۱۸۲۶ء)، فرقہ شیخی کا بانی۔
۱	۴۳	* احسن آباد گلبرگہ : بہمنی سلطنت کا پہلا دارالحکومت، سابق ریاست حیدر آباد (دکن) کے ایک ضلع کا صدر مقام اور حضرت خواجہ گیسو درازؒ کے مزار اور آثار قدیمہ کے لیے معروف۔
۲	۴۴	* الاحقاف : قرآن مجید کی چھیالیسویں سورۃ، نیز ایک جغرافیائی اصطلاح۔
۱	۴۵	* احکام : ایک قرآنی و شرعی اصطلاح۔
۱	۴۶	* اُحلاف : رک بہ حلف۔
۱	۴۶	* احمد : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک۔
۲	۴۷	* احمد الاول : بن محمد ثالث (۱۵۹۰ء تا ۱۰۲۶ھ/۱۶۱۷ء)، چودھواں عثمانی سلطان (از ۱۲۱۲ھ/۱۶۰۳ء)۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۴۹	۴۱۰۵۲/۵۱۰۵۲ تا ۴۱۰۶۹۵/۵۱۰۶۹۵	* احمد الثالی : بن سلطان ابراهیم (۴۱۰۵۲/۵۱۰۵۲ تا ۴۱۰۶۹۵/۵۱۰۶۹۵) ، اکیسواں عثمانی سلطان (از ۴۱۰۶۹۱/۵۱۰۶۹۱)۔
۲ ۵۰	۴۱۰۸۳/۵۱۰۸۳ تا ۴۱۰۷۳۶/۵۱۰۷۳۶	* احمد الثالث : بن محمد الرابع (۴۱۰۸۳/۵۱۰۸۳ تا ۴۱۰۷۳۶/۵۱۰۷۳۶) ، تیسواں عثمانی سلطان (از ۴۱۰۷۳۶/۵۱۰۷۳۶)۔
۲ ۲۵۷		* احمد بن ابی خالد الآحول : المأمون کا کاتب (سیکرٹری) اور اس کا دست راست (م ۴۸۲۶/۵۲۱۱۱)۔
۲ ۵۸		* (سید) احمد شہید : رگ بہ احمد یریلوی۔
۲ ۵۸		* احمد بن ابی بکر : رگ بہ (آل) محتاج۔
۲ ۵۸		* احمد بن ابی دؤاد : ابو عبد اللہ (۴۷۷۶/۵۱۶۰ تا ۴۸۵۳/۵۲۳۰) ، مشہور معتزلی قاضی القضاة اور عہد مامون و معتصم کی ایک اہم شخصیت۔
۱ ۶۰		* احمد بن ابی طاہر طیفور : رگ بہ ابن ابی طاہر۔
۱ ۶۰		* احمد بن ادريس : مراکش کے شریف اور متصوفین کے سلسلہ ادريسيہ کے بانی (م ۴۱۸۳۷/۵۱۲۵۳)۔
۲ ۶۰		* احمد بن حابط : ایک معتزلی اور اپنی تعلیمات کے اعتبار سے ملحد عالم (حیات ۵۲۳۲/۴۸۳۷)۔
۲ ۶۱		* احمد بن حنبل : (۴۷۸۰/۵۱۶۳ تا ۴۸۵۵/۵۲۳۱) ، امام بغداد ، مشہور و معروف عالم دین ، اہل سنت کے مذاہب اربعہ میں سے حنابلہ کے بانی ، وہابیت کے مورث اعلیٰ اور تحریک سلفیہ کے محرک ، نامور محدث اور فقیہ ، معتبر مجموعہ احادیث مسند احمد بن حنبل کے مؤلف۔
۲ ۷۳		* احمد بن خالد : ابو العباس شہاب الدین احمد بن حماد الناصری السلاوی (۵۱۲۵۰/۴۱۸۳۵ تا ۴۱۸۹۷/۵۱۳۱۵) ، مراکشی مؤرخ اور کتاب الاستقصاء لآخبار دول المغرب الاقضيٰ وغیرہ کا مصنف۔
۲ ۷۶		* احمد بن الخصيب : رگ بہ الخصيب۔
۲ ۷۶		* احمد بن خضر : رگ بہ قرہ خانيہ۔
۲ ۷۶		* احمد بن زيني دحلان : رگ بہ دحلان۔
۲ ۷۶		* احمد بن سعيد : رگ بہ بو سعيد۔
۲ ۷۶		* احمد بن سهل بن هاشم : والی خراسان ، سامانیوں کے عہد کی اہم سیاسی شخصیت (م ۴۹۲۰/۵۳۰۷)۔
۱ ۷۷		* احمد بن طولون : مصر میں طولونی خاندان کا بانی اور مصر کا شام سے الحاق کرنے والا پہلا مسلمان والی (م ۴۸۸۳/۵۲۷۰)۔
۲ ۷۹		* احمد بن علی بن ثابت : رگ بہ الخطيب البغدادي۔

- * احمد بن عیسیٰ : بن محمد بن علی بن العریض بن جعفر الصادقؑ، الملقب بہ المهاجر، ایک ولی اور حضرمی سادات کے مورث اعلیٰ (م ۵۳۳۵/۶۹۵۶)۔
- ۱ ۸۰
- * احمد بن فضلان : رکن بہ ابن فضلان۔
- ۲ ۸۰
- * احمد بن محمد بن حنبل : رکن بہ احمد بن حنبل۔
- ۲ ۸۰
- * احمد بن محمد : بن عبدالصمد ابو نصر، سلطان مسعود بن محمود غزنوی کا وزیر (حیات ۵۳۳۲/۶۱۰۳۱)۔
- ۲ ۸۰
- * احمد بن محمد بن عرفان : رکن بہ احمد بریلوی۔
- ۲ ۸۰
- * احمد بن محمد المنصور : رکن بہ احمد المنصور۔
- ۲ ۸۰
- * احمد بن یوسف : بن القاسم بن صبیح، یحییٰ برمکی کا کاتب، المأمون کا دیوان السره اور دبیر خاص، بعض رسائل کا مصنف (م ۵۳۱۳/۶۸۲۸)۔
- ۲ ۸۰
- * احمد احسان : ترک گوز (۵۱۲۸۵/۶۱۸۶۹ تا ۵۱۳۶۱/۶۱۹۳۲)، ترکی مصنف، مترجم اور صحافی، صاحب سفرنامہ یورپ مطبوعات خاطر لری۔
- ۱ ۸۱
- * احمد احسانی، شیخ : (یا احمد لسائی) بن زین الدین (۵۱۱۶۶/۶۱۷۵۳ تا ۵۱۲۲۳/۶۱۸۰۹)، سلسلہ شیخیہ کے بزرگ و پیشوا اور جوامع الکلم وغیرہ کثیر التعداد کتب کے مصنف۔
- ۲ ۸۲
- * احمد امین : (۵۱۳۰۴/۶۱۸۸۶ تا ۵۱۳۷۳/۶۱۹۵۳)، ایک مصری فاضل اور فخر الاسلام، ضحی الاسلام وغیرہ کا مصنف۔
- ۲ ۸۸
- * احمد بابا : پورا نام ابو العباس احمد بن احمد التکروری الصنهاجی (۵۹۶۳/۶۱۵۵۶ تا ۵۱۰۳۶/۶۱۶۲۷)، سودانی فقیہ، سوانح نگار اور مصنف نیل الایہاج بتطریز الدیاج وغیرہ۔
- ۱ ۸۹
- * احمد البدوی : ابو الفتیان، المعروف بہ السید، نیز القطب (نواح ۵۵۹۶/۶۱۱۹۹ تا ۵۶۷۵/۶۱۲۷۶)، مصر کے ایک مقبول ولی اور متعدد ادعیہ اور وصایا کے مصنف۔
- ۲ ۹۰
- * احمد بے : تونس میں خاندان حسینیہ کا دسواں حکمران (۵۱۲۵۳/۶۱۸۳۷ تا ۵۱۲۷۱/۶۱۸۵۵)۔
- ۱ ۹۳
- * احمد بیجان : رکن بہ بیجان احمد۔
- ۱ ۹۶
- * احمد پاشا : عہد آل عثمان میں بغداد کے والی حسن پاشا کا بیٹا اور اس کی وفات کے بعد والی بغداد (م ۵۱۱۶۰/۶۱۷۳۷)۔
- ۱ ۹۶
- * احمد پاشا برسلی : پندرہویں صدی عیسوی میں شیخی کے بعد اور نجاتی سے پہلے اہم ترین ترکی شاعر (م ۵۹۰۳/۶۱۳۹۶)۔
- ۲ ۹۶
- * احمد پاشا بونیوال : Claude-Alexandre Comte de Bonneval (۵۱۰۸۶/۶۱۶۷۵ تا ۵۱۱۶۰/۶۱۷۳۷)؛ ایک نومسلم ہسپانوی اور بعد ازاں ترکیہ کا

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۹۸	سپہ سالار .	* احمد پاشا خائن : عثمانی سلطان سلیمان اول کا وزیر اور سپہ سالار (م نواح ۱۵۳۱ھ/۱۵۲۳ء) .
۱ ۹۹		* احمد پاشا قرہ : عثمانی سلطان سلیمان اول کا صدر اعظم (م ۱۵۵۵ھ/۱۵۶۲ء) .
۱ ۱۰۰		* احمد پاشا گدک : (یا گدیک) ، عثمانی سلطان محمد ثانی کے عہد میں ترکیہ کا صدر اعظم (حیات ۱۵۸۵ھ/۱۶۳۸ء) .
۱ ۱۰۱		* احمد تائب : رگ بہ عثمان زادہ .
۲ ۱۰۲		* احمد تتوی : (ملا ٹھٹھوی) ، بن نصر اللہ الدیبلی ، ایک شیعہ فاضل اور فارسی کتب ، مثلاً تاریخ الفی وغیرہ کا مصنف (م ۱۵۸۸ھ/۱۶۹۶ء) .
۲ ۱۰۲		* احمد تکودر : رگ بہ ایلخانیہ .
۱ ۱۰۶		* احمد تھالیسری : رگ بہ تھالیسری .
۱ ۱۰۶		* احمد جام : (یا احمد جامی) ، شہاب الدین ابو نصر احمد ، المعروف بہ ژندہ پیل (۱۵۳۱ھ/۱۶۰۹ء تا ۱۵۳۶ھ/۱۶۱۳ء) ، دور سلاجقہ کے ایرانی صوفی اور متعدد فارسی کتابوں کے مصنف .
۱ ۱۰۶		* احمد جزار : رگ بہ جزار پاشا .
۱ ۱۱۰		* احمد جلائر : رگ بہ جلائر .
۱ ۱۱۰		* احمد جودت پاشا : (۱۲۳۷ھ/۱۸۲۲ء تا ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء) ، مشہور ترکی ادیب ، سیاست دان اور بہت سی کتب مثلاً قصص انبیاء و تواریخ خلفاء وغیرہ کا مصنف .
۱ ۱۱۰		* احمد حکمت : (۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰ء تا ۱۳۳۶ھ/۱۹۲۷ء) ، الملقب بہ مفتی زادہ ، ترکی ناول نگار اور صحافی .
۲ ۱۱۵		* احمد خان : (۱۲۳۲ھ/۱۸۱۷ء تا ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۸ء) ، جواد الدولہ عارف جنگ ڈاکٹر سرسید احمد خان ، انیسویں صدی عیسوی میں مسلمانان ہند کے عظیم رہنما ، ادیب ، عالم اور مصلح ، علی گڑھ کالج کے بانی اور بہت سی کتب مثلاً آثار الصنادید وغیرہ کے مصنف .
۲ ۱۱۶		* احمد الرازی : رگ بہ الرازی .
۲ ۱۲۲		* احمد راسم : ترکی ادیب ، متعدد ناولوں اور افسانوں کے علاوہ ترکی تاریخ استبدادوں کا کیمت ملیہ یہ کا مصنف (م ۱۹۳۲ھ/۱۳۵۱ء) .
۲ ۱۲۳		* احمد رسمی : احمد بن ابراہیم (۱۱۱۲ھ/۱۷۰۰ء تا ۱۷۸۳ھ) ، ترکی مدیر ، مؤرخ اور حدیقۃ الرؤساء وغیرہ کا مصنف .
۲ ۱۲۳		* احمد رفیق : ترک مؤرخ ، فوجی افسر ، مدیر اخبار عسکری مجموعہ اور مصنف ہجری

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۲۵	اوجنچو وغیرہ (م ۱۲۵۶/ھ ۱۹۳۷ء)	⊗ احمد، شیخ، سرہندی: (۱۵۶۳/ھ ۱۹۷۱ء تا ۱۶۲۴/ھ ۱۹۰۳ء) امام ربانی مجدد الف ثانی
۱ ۱۲۶	مکتوبات وغیرہ	ابو البرکات بدر الدین شیخ احمد نقشبندی سرہندی، عہد اکبر و جہانگیر کے بہت بڑے عالم، فقیہ، مذہبی و سیاسی مصلح، الحاد و زندقہ کے استیصال اور اتباع شریعت، احیائے سنت اور اقامت دین کے داعی، تصوف کے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بانی اور مصنف
۲ ۱۳۰		* احمد شاہ: ہندوستان کے کئی بادشاہوں کا نام: (۱) احمد شاہ بہادر، مجاہد الدین ابو نصر بن محمد شاہ (۱۱۳۸/ھ ۱۷۲۵ء تا ۱۱۸۹/ھ ۱۷۷۵ء)، مغل فرمانروائے ہند (از ۱۱۶۱/ھ ۱۷۴۸ء): (۲) احمد شاہ اول و ثانی و ثالث: دکن میں خاندان بہمنی [رگ باں] کے حکمران: (۳) احمد شاہ بن محمد شاہ، حاکم بنگالہ (۱۱۳۵/ھ ۱۷۳۱ء تا ۱۱۳۶/ھ ۱۷۳۲ء): (۴) احمد شاہ اول ثانی، شاہان گجرات [رگ باں]: (۵) احمد شاہ، خاندان نظام شاہی [رگ باں] کا بانی
۱ ۱۳۱		* احمد شاہ درانی: یا ابدالی (۱۱۳۶/ھ ۱۷۲۳ء تا ۱۱۸۳/ھ ۱۷۷۳ء)، افغانستان کے سدوزئی خاندان کا پہلا حکمران اور درانی سلطنت کا بانی
۱ ۱۳۵		⊗ احمد شوقی: بن علی بن احمد شوقی (۱۲۸۵/ھ ۱۸۶۸ء تا ۱۳۵۱/ھ ۱۹۳۲ء)، بیسویں صدی کے نصف اول میں عربی کا مشہور ترین صاحب دیوان مصری شاعر
۱ ۱۳۷		⊗ احمد شہید، سید: بن سید محمد عرفان (۱۲۰۱/ھ ۱۷۸۶ء تا ۱۲۳۶/ھ ۱۸۳۱ء)، انیسویں صدی عیسوی کے نصف اول میں ہندوستان کے مشہور بزرگ، عالم با عمل، مصلح اور مجاہد، نیز چند رسالوں کے مصنف
۲ ۱۳۳		* احمد الشیخ: (آمدو سیکو)، مغربی سودان کے تکروری فاتح الحاج عمر تل کا بیٹا اور جانشین (م ۱۳۱۶/ھ ۱۸۹۸ء)
۲ ۱۳۴		* احمد غلام خلیل: رگ بہ غلام خلیل
۲ ۱۳۴		* احمد فارس الشدیاق: رگ بہ فارس الشدیاق
۲ ۱۳۴		* احمد کوپرولو: رگ بہ کوپرولو
۲ ۱۳۴		* احمد گران: بن ابراہیم صاحب الفتح، الغازی، حبشہ کی فتح اسلامی کا قائد (م ۱۵۳۳ء)
۱ ۱۳۵		⊗ احمد بدعت افندی: (۱۲۶۰/ھ ۱۸۴۴ء تا ۱۳۲۸/ھ ۱۹۱۰ء) ترک صحافی، مضمون نگار، ناول نویس، افسانہ نگار اور مترجم
		* احمد المنصور: بن سلطان محمد الشیخ المہدی (۱۵۳۹/ھ ۱۹۵۶ء تا ۱۶۰۳/ھ ۱۹۸۰ء)

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۵۱	مراکش کے خاندان سعدی [رک باں] کا چھٹا حکمران (از ۵۹۸۶ھ/۶۱۵۷۸ء)	* احمد واصف : رک بہ واصف .
۲ ۱۵۳	احمد ولیق پاشا : (۵۱۲۳۸/۱۸۲۳ء تا ۵۱۳۰۸/۱۸۹۱ء)، ترک مدبر اور ماہر ترکیات .	* احمد واصف : رک بہ واصف .
۲ ۱۵۳	احمد ولوبو : (شیخ احمد، سیکو احمدو لوبو، سیکو احمد و سیدہ) قبیلہ بری (یا سوگرہ یا دائبہ) کا مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما (م ۵۱۲۶۰/۱۸۳۳ء) .	* احمد ولوبو : (شیخ احمد، سیکو احمدو لوبو، سیکو احمد و سیدہ) قبیلہ بری (یا سوگرہ یا دائبہ) کا مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما (م ۵۱۲۶۰/۱۸۳۳ء) .
۲ ۱۵۵	احمد بسوی : خواجہ، پیر ترکستان، مشہور صوفی شاعر اور درویش سلسلہ بسوی کے بانی (م ۵۵۶۲/۱۱۶۶ء) .	* احمد بسوی : خواجہ، پیر ترکستان، مشہور صوفی شاعر اور درویش سلسلہ بسوی کے بانی (م ۵۵۶۲/۱۱۶۶ء) .
۲ ۱۵۷	احمد یکنی ادیب : بارہویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانے کا ترکی شاعر اور مصنف عیبة الحقائق .	* احمد یکنی ادیب : بارہویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانے کا ترکی شاعر اور مصنف عیبة الحقائق .
۲ ۱۶۶	احمد آباد : بھارت میں ایک ضلع اور اس کا صدر مقام اور اسلامی ہند کا تاریخی شہر .	* احمد آباد : بھارت میں ایک ضلع اور اس کا صدر مقام اور اسلامی ہند کا تاریخی شہر .
۱ ۱۶۷	احمد نگر : بھارت کے ایک ضلع کا صدر مقام ؛ پندرہویں سولہویں صدی عیسوی میں نظام شاہی خاندان کا دارالحکومت .	* احمد نگر : بھارت کے ایک ضلع کا صدر مقام ؛ پندرہویں سولہویں صدی عیسوی میں نظام شاہی خاندان کا دارالحکومت .
۲ ۱۶۷	احمدو : رک بہ احمد شیخ .	* احمدو : رک بہ احمد شیخ .
۱ ۱۶۸	احمدی : رک بہ سکھ .	* احمدی : رک بہ سکھ .
۱ ۱۶۸	احمدی : تاج الدین ابراہیم بن خضر، آٹھویں صدی ہجری کا سب سے بڑا ترکی شاعر اور مصنف اسکندر نامہ وغیرہ (م ۵۸۱۵/۱۳۱۳ء) .	* احمدی : تاج الدین ابراہیم بن خضر، آٹھویں صدی ہجری کا سب سے بڑا ترکی شاعر اور مصنف اسکندر نامہ وغیرہ (م ۵۸۱۵/۱۳۱۳ء) .
۱ ۱۶۸	احمدیہ : رک بہ غلام احمد .	* احمدیہ : رک بہ غلام احمد .
۱ ۱۶۹	احمدیلی : مراغہ کا ایک شاہی خاندان .	* احمدیلی : مراغہ کا ایک شاہی خاندان .
۱ ۱۶۹	احمد، بنو : خاندان بنو نصر [رک باں] کے بنو الاحمد کا نسبی نام .	* احمد، بنو : خاندان بنو نصر [رک باں] کے بنو الاحمد کا نسبی نام .
۲ ۱۷۱	الاحنف بن قیس : ابوجبر صخر بن قیس بن معاویہ التیمی السعدی المنقری (۳ ق ۵/۶۱۹ء تا ۵۷۲/۶۹۱ء)، بصرے کے ایک تیمی شیخ اور ابتدائی اسلامی عہد کے سپہ سالار .	* الاحنف بن قیس : ابوجبر صخر بن قیس بن معاویہ التیمی السعدی المنقری (۳ ق ۵/۶۱۹ء تا ۵۷۲/۶۹۱ء)، بصرے کے ایک تیمی شیخ اور ابتدائی اسلامی عہد کے سپہ سالار .
۲ ۱۷۱	الأحوص : عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم بن ثابت (م نواح ۵۳۵/۶۵۵ء تا ۵۱۱۰/۶۲۸ء)، اموی عہد کا ایک رومانی شاعر .	* الأحوص : عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم بن ثابت (م نواح ۵۳۵/۶۵۵ء تا ۵۱۱۰/۶۲۸ء)، اموی عہد کا ایک رومانی شاعر .
۲ ۱۷۳	احیاء : ایک فقہی اصطلاح .	* احیاء : ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۱۷۵	آخ : رک بہ (۱) عائلہ ؛ (۲) اخوان ؛ (۳) مؤاخاة .	* آخ : رک بہ (۱) عائلہ ؛ (۲) اخوان ؛ (۳) مؤاخاة .
۱ ۱۷۵	آخبار : رک بہ تاریخ .	* آخبار : رک بہ تاریخ .
۱ ۱۷۵	آخبار مجموعہ : فتح اندلس سے متعلق کسی گمنام مصنف کی لکھی ہوئی مختصر تاریخ .	* آخبار مجموعہ : فتح اندلس سے متعلق کسی گمنام مصنف کی لکھی ہوئی مختصر تاریخ .
۲ ۱۷۵	اختری : مصلح الدین مصطفیٰ شمس الدین القرہ حصاری، عربی ترکی لغت اختری کبیر کا مصنف (م ۵۹۶۸/۱۵۶۱ء) .	* اختری : مصلح الدین مصطفیٰ شمس الدین القرہ حصاری، عربی ترکی لغت اختری کبیر کا مصنف (م ۵۹۶۸/۱۵۶۱ء) .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۷۶		* إختلاج : طب کی اصطلاح ؛ نیز علم الاختلاج ، یعنی اعضا کی غیر ارادی لرزش سے پیشگوئی کرنا .
۱ ۱۷۶		* إختلاف : اجماع کے بالمقابل ایک فقہی اصطلاح .
۲ ۱۷۶		* الآخرس : عبدالغفار بن عبدالواحد بن وهب (نواح ۵۱۲۲۰/۵۱۸۰۵ تا ۵۱۲۹۰/۵۱۸۷۳) ، عراق کا عرب شاعر .
۲ ۱۷۷		* آخرتر : رگ بہ نجوم .
۲ ۱۷۷		* أخشيكت : یا اخشیکٹ ، چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں فرغانہ کا دارالسلطنت .
۱ ۱۷۸		* أخشام : رگ بہ صلواة .
۱ ۱۷۸		* إخشيديّة : چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں مصر کا حکمران خالدان ؛ نیز رگ بہ مصر .
۱ ۱۸۰		* الأحضر : شمالی افریقہ میں شخصی نام ، الأخضر کی غیر فصیح مستقل صورت .
۱ ۱۸۰		* الأخضري : ابو زیاد عبدالرحمن بن سیدی محمد الصغير ، دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی کا الجزائر فیاض اور مصنف المسام المروتنی وغیرہ .
۲ ۱۸۰		* الأخطل : غیاث بن غوث بن الصبات (نواح ۵۶۳۰/۵۶۳۰ تا ۵۹۲/۵۷۱۰) ، اموی عہد کا مشہور عیسائی صاحب دیوان عرب شاعر .
۲ ۱۸۳		* الأخفش : متعدد نحوویوں کا عرف ، مثلاً : (۱) ابوالخطاب عبدالحمید بن عبدالمجید ، بہت سی نظموں کا اولین شارح (م ۵۱۷۷/۵۷۹۳) ؛ (۲) الاخفش الاوسط ؛ ابوالحسن سعید بن مسعدة ، غریب القرآن وغیرہ متعدد کتب کا مصنف (م مابین ۵۲۱۰/۵۸۲۵ و ۵۲۲۱/۵۸۳۵) ؛ (۳) الاخفش الاصغر ؛ ابو الحسن علی بن سلیمان ، چند کتب نحو کا مؤلف (م ۵۳۱۵/۵۹۲۷) .
۱ ۱۸۳		* إخلاص : ایک قرآنی اصطلاح ؛ نیز قرآن مجید کی ایک سورۃ .
۱ ۱۸۳		* أخلاط : یا خِلاط ، جھیل وان کے شمال مغربی کنارے پر ایک شہر اور قلعہ .
۱ ۱۸۷		* أخلاق : ایک مذہبی ، فکری ، معاشرتی اور فلسفیانہ اصطلاح .
۲ ۱۹۷		* أخميم : بالائی مصر میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر ایک شہر اور مشہور صوفی حضرت ذوالنونؒ کی جائے ولادت .
۲ ۱۹۸		* أخنوخ : رگ بہ ادریس علیہ السلام .
۲ ۱۹۸		* إخوان الصفاء : چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کے تصف آخر میں ایک سیاسی ، مذہبی اور فلسفی جماعت .
۲ ۲۰۰		* الاقوان المسلمون : جمعیت ؛ حسن البنا (۱۹۰۶ تا ۱۹۴۹) کی قائم کردہ مصر کی ایک سیاسی و مذہبی جماعت .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۲۰۹		⊙ آخوند : وسطی ایشیا اور تیموری دور کے بعد ایران میں علماء کے لیے "حوجہ افندی" کی جگہ مستعمل لقب .
۲ ۲۱۰		* آخوند پنجو : شیخ عبدالوہاب ابر پوری پشاوری معروف بہ سید غازی (۱۵۳۶/۵۹۳۳ تا ۱۶۳۰/۵۱۰۳۰) ، صاحب کشف و کرامات ولی اللہ .
۲ ۲۱۱		⊙ آخوند درویزہ : تنگر ہاری ثم پشاوری ، پشاور کے مشہور ولی اللہ اور عالم دین ، مصنف تذکرۃ الابرار و الاشرار وغیرہ (م ۱۶۳۸/۵۱۰۳۸) .
۲ ۲۱۳		* آخوند زادہ : مرزا فتح علی (۱۸۱۳/۵۱۲۲۸ تا ۱۸۷۸/۵۱۲۹۵) ، ترکی روزمرہ میں پہلا طبع زاد تمثیل نگار، مصنف حکایت ملا ابراہیم خلیل کیمیاگر وغیرہ .
۱ ۲۱۶		* آخوند صاحب سوات : میاں عبدالغفور بن عبدالواحد (نواح ۱۷۸۳/۵۱۱۹۹ تا ۱۸۷۷/۵۱۲۹۳) ، مشہور روحانی پیشوا ، مجاہد اور ریاست سوات (پاکستان) کے بانی .
۱ ۲۱۹		* آخی : تیرہویں اور چودھویں صدی عیسوی میں اناطولیہ کے پیشہ وروں کی انجمنوں (guilds) کے رؤسا کا لقب .
۱ ۲۲۳		* آخی اوران : نویں صدی ہجری/پندرہویں صدی عیسوی میں ترکیہ کا ایک نیم افسانوی ولی ، دباغوں کی انجمنوں کا سرپرست .
۱ ۲۲۶		* آخی بابا : قیر شہر میں اوران کے تکیے کے شیخ ، نیز اہل حرفہ کی انجمنوں کے صدر کا لقب .
۱ ۲۲۷		* آخی جوق : آخی خورد ، آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی میں تبریز کا ایک امیر (م نواح ۱۳۵۹/۵۷۶۰) .
۲ ۲۲۷		* آخیض : صحرائے عراق میں کربلا سے ۲۵ میل دور، چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں کوفے کے قرامطی والی اسمعیل بن یوسف الاخیضر کا تعمیر کردہ قلعہ .
۱ ۲۲۹		* آداء : ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۲۲۹		* آدات : رگ بہ نحو .
۱ ۲۲۹		* آدار : یا آذار ؛ رگ بہ تاریخ .
۱ ۲۲۹		* آدب : ایک اسلامی ، فکری ، تاریخی و ثقافتی اصطلاح .
۲ ۲۳۱		* آدیبات جدیدہ : ترکیہ کی نئی ادبی تحریک ؛ رگ بہ ترکی ادب .
۲ ۲۳۱		* ادغام : عربی صرف کی ایک اصطلاح .
۲ ۲۳۲		* آدرار : جبال کے لیے بربری اصطلاح ، جس کا اطلاق صحرائے اعظم کے متعدد گھوستانوں پر ہوتا ہے .
۲ ۲۳۵		* آدراسیت : مغربی ترکیہ کا ایک شہر .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۲۳۶		* ادرنہ : ایڈر بانویل ، ترکیہ کا ایک اہم شہر اور قدیم زمانے میں دارالسلطنت .
۱ ۲۳۵		* ادریس : قرآن مجید میں مذکور ایک قدیم پیغمبر .
۲ ۲۳۸		* ادریس اول : بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن الحسن ، المغرب میں ادریسیہ خاندان کا علوی بانی (م ۵۱۷ھ / ۷۹۳ء) .
۲ ۲۳۹		* ادریس ثانی : ادریس اول کا بیٹا اور جانشین (از ۵۱۷ھ / ۷۹۳ء تا ۵۲۱ھ / ۸۲۸ء) .
		* ادریسی : ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن ادریس الحمودی (۵۳۹ھ / ۱۱۰۰ء تا ۵۶۰ھ / ۱۱۶۵ء) ، اندلسی جغرافیہ دان ، سیاح اور الممالک و المسالك وغیرہ کا مصنف .
۲ ۲۵۰		* ادریسیہ : تیسری چوتھی صدی ہجری / نویں دسویں صدی عیسوی میں المغرب کا حکمران خاندان .
۱ ۲۵۲		* ادغہ : رگ بہ چرکیس .
۱ ۲۵۳		* ادفو : (ادفو یا آتفو) ، دریائے نیل کے مغربی کنارے پر بالائی مصر میں ایک صوبے کا صدر مقام .
۱ ۲۵۳		* ادل : حبشہ کے مسلمانوں اور عیسائیوں کی باہمی جنگوں میں اہم حصہ لینے والی مشرقی افریقہ کی ایک اسلامی ریاست .
۱ ۲۵۵		* ادلیقہ : رگ بہ انتلیہ .
۱ ۲۵۶		* ادسواہ : مغربی افریقہ کے عقبی علاقے میں فلٹی جہاد کے قائد سے موسوم ایک خطے کا نام .
۲ ۲۶۰		* ادثہ : (۱) جنوبی آناطولی کا ایک شہر ؛ (۲) سلطنت عثمانیہ کی ایک ولایت .
۱ ۲۶۶		* ادویہ : ایک طبی اصطلاح .
۲ ۲۶۰		* ادہ : [آطہ] ، ایک ترکی جغرافیائی اصطلاح ، بمعنی جزیرہ یا جزیرہ نما .
۲ ۲۶۰		* ادہ پازاری : (آطہ بازار) ، ترکیہ کے صوبہ قوجہ ایلی کا ایک بارونق شہر .
۱ ۲۶۱		* ادہ (آطہ) قلعہ : رومانیہ میں واقع ایک جزیرہ .
۱ ۲۶۳		* ادہم خلیل : رگ بہ الدم ، خلیل ادہم .
۱ ۲۶۳		* ادہمیہ : مشہور صوفی ابراہیم ابن ادہم کا سلسلہ درویشی .
۱ ۲۶۳		* ادیب صابر : شہاب الدین صابر بن اسماعیل ، مشہور فارسی شاعر (م ۵۳۶ھ / ۱۱۵۲ء) .
۱ ۲۶۳		* اذان : اعلان صلوات ، اسلام کے معروف شعائر میں سے ایک .
۲ ۲۶۶		* اذرح : شاذ طور پر اذرح ؛ معان اور الرقیم کے درمیان ایک مقام .
		* اذرعات : بائیل کا ادری Edrai ، موجودہ درعہ [ذراعہ] ، دمشق کے جنوب میں ولایت حوران کا صدر مقام .
۱ ۲۶۶		* اذرگون : (آذربون) ، تقریباً دو تین فٹ اونچا ایک پودا .
۲ ۲۶۸		* اذن : غلاموں سے متعلق قوانین میں ایک قصبی اصطلاح .

- * الأذواء : ذو کی جمع مکسر ؛ ذو سے شروع ہونے والے ناموں کے یعنی بادشاہ اور امراء .
- * آراکان : زبیریں برما کا انتہائی مغربی حصہ .
- * ارامار : آرس ، ترکیہ میں جلولر اور اشتازن کے ناحیوں پر مشتمل ایک قضا .
- * اربد : یا آربد ، ایک قدیم شہر اربلہ کا نام ؛ نیز رگ بہ اربل .
- * آربسک : (Arabesque) ، رگ بہ فن : الزخرفة الاسلامية .
- * اربل : قدیم اربلہ ، ولایت موصل کا ایک شہر ؛ نیز عراق عرب میں اس نام کے متعدد شہر .
- * اربولہ : (Norbonna) ، ۱۰/۵۱ء میں مسلمانوں کا مفتوحہ فرانسیسی شہر .
- * آرہالیق : عثمانی عہد حکومت میں انیسویں صدی عیسوی تک مستعمل ایک سرکاری مالیاتی اصطلاح .
- * آرتیریا : (Aritria) ، شمال مشرقی الریقہ میں بحر احمر کے کنارے مسلمانوں کی خاصی آبادی والا علاقہ .
- * آرتسرولی : ارمینیہ میں وسپرکان کا جاگیردار خاندان .
- * ارتش : سائبیریا کا ایک بڑا دریا .
- * ارتقاع : علم ہیئت کی ایک اصطلاح .
- * ارتقیہ : پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی سے نویں صدی ہجری/پندرہویں صدی عیسوی تک دیار بکر کا حکمران ترک خاندان .
- * آرتن : (بربر : آیت ارتن ؛ عربی : بنو رتن) ، قبائلیہ کلان کا ایک قبیلہ .
- * ارتنا : (اراتنا) اویغوری نسل کا ایک سردار اور ایشیائے کوچک میں ایل خانی حکومت کا جانشین (۵۳۳/۵۳۲ء) .
- * آرج : پندرہویں صدی عیسوی کا ایک عثمانی مؤرخ اور تواریخ آل عثمان وغیرہ کا مصنف .
- * ارجیاس (یا ارجیس) طاغی : وسطی آناطولی کا بلند ترین پہاڑ .
- * آرجی : (ارششدب) ، بالائی داغستان کی ایک قلیل التعداد قفقازی قوم .
- * آردب : رگ بہ گیل .
- * آردیل : مشرقی آذربائیجان کا ایک ضلع اور شہر .
- * آردستان : (آروسون) ، ایران کا ایک شہر اور خسرو اول انوشیروان کی جائے ولادت .
- * آردشیر : ایرانی فرمانرواؤں کا مشہور نام ؛ نیز رگ بہ ساسانیہ .
- * آردشیر خرہ : رگ بہ فیروز آباد .
- * آردکان : (اردکون) ، ایران کا ایک شہر .
- * آردل : (اردیل یا اردلستان) ، رومانیہ میں مغربی حصے پر مشتمل ٹرانسلوینیا کا موجودہ صوبہ .
- * آردلان : ایرانی صوبہ کردستان کا سابقہ نام .
- * الأردن : (یردن) ؛ (۱) فلسطین کا مشہور دریا ؛ (۲) جلیلین (وادی اردن اور شرق اردن

صفحہ عبود	اشارات	عنوان
۱ ۲۳۷		کے مغربی حصے) پر مشتمل عربوں کا ایک صوبہ، یعنی جند الاردن۔
۲ ۳۳۱		* اُردو: غیر منقسم ہندوستان کی لنگوائفرینکا اور پاکستان کی قومی زبان اور اس کا ادب۔
۲ ۳۶۹		* اُردی بہشت: رگ بہ تاریخ۔
۲ ۳۶۹		* آرر: رگ بہ ہرر۔
۲ ۳۶۹		* آررات: رگ بہ جبل الحارث۔
۲ ۳۶۹		* آرآن: ماورائے قفقاز کا تمام مشرقی علاقہ، موجودہ سوویت آذربائیجان۔
۲ ۳۷۱		* آرجان: فارس کا ایک شہر۔
		* آرجانی: ناصح الدین ابوبکر احمد بن محمد الانصاری (۵۳۶/۶۷-۶۱ تا ۵۳۳/۵۵)
۱ ۳۷۲		۔ ایک عرب شاعر۔ (۶۱۱۵)۔
۲ ۳۷۲		* آرزچیل: Arzachel، رگ بہ الزرقالی۔
۲ ۳۷۲		* آرز روم: ترکی ارمینیہ میں ایک ولایت اور اس کا صدر مقام۔
		* آرزن: مشرقی آناتولی کے متعدد شہروں کا نام، جن میں سے اہم ترین دریائے دجلہ کے
۲ ۳۷۵		معاون آرزن کے کنارے واقع ہے۔
۱ ۳۷۶		* آرزلجان: ولایت ارز روم میں ایک سنجاق کا صدر مقام۔
۱ ۳۷۷		* آرزن الروم: رگ بہ ارز روم۔
۱ ۳۷۷		* آرس: رگ بہ آرس۔
		* ارسطو طالیس یا ارسطو: (Aristotle)، چوتھی صدی قبل مسیح کا شہرہ آفاق یونانی
		فلسفی اور مقولات (Categories)، بوطیقا (Poetics) وغیرہ متعدد
۱ ۳۷۷		بلند پایہ کتب کا مصنف۔
۲ ۳۸۳		* آرش: رگ بہ دیۃ۔
۲ ۳۸۳		* آرشڈولہ: (اُرجڈوند)، ہسپانیہ کے موجودہ صوبہ مالقہ میں ایک قدیم شہر۔
۱ ۳۸۳		* آرش گول: ساحل الجزائر پر ایک شہر (اب ناپید)۔
۱ ۳۸۵		* آرشیں: رگ بہ ذراع۔
		* ارض: رگ بہ کرة الارض؛ نیز قانون اراضی کے لیے رگ بہ (۱) اقطاع، (۲) تیمار،
		(۳) خاص، (۴) خالصہ، (۵) خراج، (۶) زعامت، (۷) عشر، (۸) قطیعہ،
		(۹) مساحت، (۱۰) مقلسہ، (۱۱) ملک، (۱۲) وقف؛ مزید برآں لول، لائیڈن
۱ ۳۸۵		میں رگ بہ (۱) سیورغال، (۲) متروک، (۳) محلول، (۴) مقاطعہ، (۵) موات۔
۱ ۳۸۵		* ارضہ: گرم ممالک میں پایا جانے والا ایک کیڑا (دیمک)۔
		* اِرطغرل: (۱) ابن سلیمان شاہ، ترکی کے عثمانی خاندان اور سلطنت کے بانی عثمان اول کا
		باپ (م غالباً ۵۶۸/۶۱۲ تا ۶۲۸/۶۷۱)؛ (۲) ابن بایزید اول (۵۷۸/۶۲۶ تا
۲ ۳۸۵		۵۹۸/۶۳۹)۔

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۱ ۳۸۷		* آرغون : آرغون ، ایک آلہ موسیقی .
۱ ۳۹۱		* آرغنه : رک بہ ارگنی .
۱ ۳۹۱		* آرغون : رک بہ ایلخانیہ .
۱ ۳۹۱		* آرغون : ہلا کو کی نسل سے ہونے کا مدعی ایک مغل خاندان .
۱ ۳۹۱		* ارفة : (Edesa) ، رک بہ الرہا .
۱ ۳۹۳		* الارقم : ابو عبید اللہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے شروع زمانے کے ایک صحابی (م نواح ۵۵۳/۶۷۳) .
۱ ۳۹۳		* الارک : ہسپانیہ کے موجودہ ضلع کلتراوا لا ویڑا Calatrava la Vieja میں ایک قلعہ ، یعقوب المنصور اور الفانسو ہشتم کے مابین جنگ کا محل وقوع .
۲ ۳۹۳		* ارکائیوز : (Archives) ، رک بہ (۱) باش وکالت ارشوی ؛ (۲) دفتر ؛ (۳) دارالمخطوطات العمومیہ ؛ (۴) وثیقہ .
۲ ۳۹۳		* ارکان : رک بہ رکن .
۲ ۳۹۳		⊙ ارکانِ اسلام : وہ اعمال و ادارات و تاسیسات جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے ، یعنی تشهد ، صلوٰۃ ، زکوٰۃ ، صوم اور حج .
۲ ۳۹۳		* ارکش : (Arcos) ، ہسپانیہ کے متعدد مقامات ، دریاؤں ، دروں وغیرہ کا نام .
۲ ۳۰۷		* ارکوس : رک بہ ارکش .
۲ ۳۰۸		* ارکیدولہ : رک بہ آرشدونہ .
۲ ۳۰۸		* ارکائی روکا شترو : (Argyrocastro) ، رک بہ ارگری .
۲ ۳۰۸		* ارگری : البانوی ایپی رس Epires کا سب سے بڑا شہر .
۲ ۳۰۸		* ارگلی : کلیکیا (Cilicia) سے قونیہ جانے والی سڑک پر واقع ایک قلعہ .
۲ ۳۰۹		* ارگن : مراکش کے جنوبی ساحل پر پائی جانے والی ایک جھاڑی .
۲ ۳۱۰		* ارگنج : رک بہ خوارزم .
۱ ۳۱۱		* ارگن ، عثمان : عثمان نوری (۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء تا ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء) ، ایک ترکی عالم ، ماهر نشر و اشاعت اور مجلہ امور بلدیہ وغیرہ کا مصنف .
۱ ۳۱۱		* ارگنہ کون : مغلوں کی اصل سے متعلق داستان میں مذکور پہاڑوں سے گھرا ایک میدان .
۲ ۳۱۲		⊙ آرگنی : (ارغنه) ، دیار بکر سے خرپوت جانے والی سڑک پر ایک قضا کا مرکز .
۱ ۳۱۳		* ارگیل : الجزائر (رک بان) کا ہسپانوی نام .
۲ ۳۱۵		* ارم : آذر بیجان کا ایک قدیم ضلع .
۲ ۳۱۵		* ارم : اسلامی نسب ناموں میں مذکور ایک فرد یا قبیلہ
۱ ۳۱۶		* ارم ذات العماد : قرآن مجید میں مذکور ایک قوم .
۲ ۳۱۶		* ارمن : رک بہ ارمینیہ .
۲ ۳۱۸		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۱۸		⊙ ارسنگ : جنوبی اناطولیہ کے علاقہ طاش ایلی میں ایک قصبہ
۲ ۳۲۰		* ارمیا : ایک اسرائیلی پیغمبر .
۲ ۳۲۲		* آرمینیہ : ایشیائے قریب کے مرکزی اور بلند ترین حصے پر مشتمل ایک ملک .
۲ ۳۶۰		* ارسہ : ایران کے صوبہ آذربائیجان کا ایک ضلع .
۱ ۳۷۳		* اریط : (Arnedo) ، لوغرونو کا ایک چھوٹا سا قصبہ اور ایک قضا کا صدر مقام .
۲ ۳۷۳		* آرور : (الرور) سندھ کا ایک قدیم شہر .
۲ ۳۷۵		* اریوان : (یریوان) ، روسی ماورائے قفقاز میں ارسنی حکومت کا صدر مقام .
۲ ۳۷۶		* اریولہ : مشرق ہسپانیہ کا ایک شہر .
۲ ۳۷۶		⊙ اریسہ : بھارت کا ایک صوبہ .
۲ ۳۷۸		* آزارقہ : نافع بن الازرق الحنظلی سے منسوب خوارج کا ایک بڑا فرقہ .
۲ ۳۸۱		* ازبک : (اوزیک) ازبک بن محمد پہلوان بن الدگز، آذربائیجان کا پانچواں اور آخری اتابک .
۲ ۳۸۵		⊙ ازبکستان : وسط ایشیا میں واقع ایک اشتراکی جمہوریہ .
		* ازد : (اسد کی مبدل املا)؛ عسیر کی مرتفع سرزمین اور عمان میں علیحدہ علیحدہ قدیم عربوں کے دو قبائلی گروہ .
۱ ۳۸۸		* الازدی : ابو زکریا یزید بن محمد بن ایاس بن القاسم، موصل کا مؤرخ (م ۵۳۳ھ/۹۳۵ء) .
۲ ۳۹۲		* ازرقولیل : رگ بہ الزرقالی .
		* الازرقی : ابو الولید محمد بن عبداللہ بن احمد ، مکہ مکرمہ اور حرم کعبہ کا مؤرخ ، مصنف اخبار مکہ وغیرہ .
۲ ۳۹۲		⊙ ازرقی : حکیم ابو الحسن یا ابوبکر زین الدین بن اسماعیل الوراق ، ہرات کا مشہور فارسی شاعر (حیات ۵۳۷۳ھ/۸۱۰ء) .
۲ ۳۹۳		* آزل : رگ بہ ابد .
۲ ۳۹۹		* آزلجو : رگ بہ فن (کوزہ گری) ؛ نیز خنزف ، در لول لائڈ ن ' .
		* آزلی : باب کی وفات کے بعد مرزا یحییٰ معروف بہ صبح ازل (رگ باں) کا اتباع کرنے والے باہی .
۲ ۳۹۹		* آزلے : کئی کئی ہزار اونٹوں پر مشتمل کاروانوں کے لیے مستعمل اصطلاح .
۱ ۵۰۰		* ازسور : ساحل بحر اوقیانوس پر مراکش کا ایک شہر .
۲ ۵۰۱		* ازمید : (نقومیدیہ) ، ایک مستقل لواء (متصرفلق) اور اس کا صدر مقام .
۲ ۵۰۳		* ازمیر : سمرنا (Smyrna) ، ترکی ایشیا کا مشہور تجارتی شہر اور ولایت ازمیر کا صدر مقام .
۲ ۵۰۴		* ازلیق : (Nicaea) ، ایک قدیم بوزنظی شہر .
		* الازھر : (الجامع الازھر) ، مصر کی عظیم مسجد ، علمی مرکز اور چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں قائم شدہ عالم اسلام کی شہرہ آفاق یونیورسٹی .
۲ ۵۰۹		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۵۲۹		* الآزهری : جامع الازهر سے نسبت .
۲ ۵۲۹		* الآزهری : ابراہیم بن سلیمان الحنفی ، مصنف الرسالة المختارة في مناهي الزيارة وغيره (حيات ۱۱۰۰ھ/۱۶۸۸ء) .
۲ ۵۲۹		* الآزهری : ابو منصور محمد بن احمد بن الازهر (۲۸۲ھ/۸۹۵ء تا ۳۷۰ھ/۹۸۰ء) ، ایک عرب لغوی اور مصنف تہذیب اللغة وغيره .
۱ ۵۳۰		* الآزهری : احمد بن عطاء اللہ بن احمد ، علم بدیع و بیان پر ایک کتاب <u>نہایۃ الاعجاز فی الحقیقۃ و المجاز</u> کا مصنف (حيات ۱۱۶۱ھ/۱۷۳۸ء) .
۱ ۵۳۱		* الآزهری : خالد بن عبداللہ بن ابی بکر ، ایک مصری نحوی اور مصنف <u>المقدمة الازهریة فی علم العربیة</u> (م ۵۰۵ھ/۱۰۹۹ء) .
۱ ۵۳۱		* آزیمت : رگ بہ سمت .
۱ ۵۳۱		* آزیمک : رگ بہ نجوم .
۱ ۵۳۱		* آساس : رگ بہ اسمعیلیہ .
۱ ۵۳۱		* اساف : مگرے کا ایک بت .
۲ ۵۳۱		* اساک : (Isaak) ، رگ بہ اسحق .
۲ ۵۳۱		* أسامة : بن زید بن حارثہ بن شرحبیل الکلبی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبھی حضرت زید کے بیٹے اور آپ کے چہیتے صحابی (م ۵۵۳ھ/۶۷۳ء یا ۵۵۸ھ/۶۷۷ء) .
۲ ۵۳۱		* أسامة بن مرشد : بن علی بن مقلد بن تصر بن منقذ الشیرزی الکنانی (۳۸۸ھ/۱۰۹۵ء تا ۵۸۳ھ/۱۱۸۸ء) ، ایک جنگ آزمودہ عرب شاہسوار ، ادیب ، صاحب دیوان شاعر اور مصنف کتاب <u>الاعتبار اور البدیع فی البدیع</u> وغیرہ .
۲ ۵۳۳		* اسپرتہ : (سبرتا ؛ سبارطہ) سلطنت عثمانیہ کی سنجاق حمید ایلی کے بے کی جائے سکونت .
۲ ۵۳۸		* اسپندارمذ : ایرانی شمسی سال کا بارہواں مہینہ .
۲ ۵۳۹		* اسپهان : رگ بہ اصفہان .
۲ ۵۳۹		* اسپہید : سوار فوج کا افسر اعلیٰ ، عہد ساسانی میں ایک خاندان کا نام اور طبرستان کے بعض مسلم والیوں کا لقب .
۲ ۵۳۹		* استاد سیس : خراسان کی ایک مذہبی تحریک کا رہنما (م اواخر دوسری صدی ہجری/ آٹھویں صدی عیسوی) .
۱ ۵۳۰		* استاذ : ایک فارسی الاصل معرب لفظ ، بمعنی آقا ، معلم ، کاریگر .
۲ ۵۳۱		* استار : دواؤں یا سونے چاندی کے تولنے کا ایک وزن .
۲ ۵۳۱		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۵۳۲		⊗ استِثْناف : ایک شرعی و فقہی اصطلاح .
		* استانبول : (قسطنطنیہ) بوزنطی سلطنت کا دارالحکومت ، سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ ،
۱ ۵۳۳		جمہوریہ ترکیہ کا اہم ترین شہر .
۲ ۵۶۵		* استالکوی : جزیرہ ستینکو Stenco کا ترکی کا نام .
۱ ۵۶۶		* استبراء : ایک فقہی اصطلاح .
۲ ۵۶۶		* استجہ : Eclja ، اندلس کے صوبہ اشبیلیہ کے ایک ضلع کا صدر کا مقام .
۲ ۵۶۷		⊗ استِحسان : ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۵۷۱		⊗* استخارہ : امور خیر میں بذریعہ نماز و دعا انجام کار معلوم کرنا .
۲ ۵۷۳		* آسترا ہاڈ : (استرابار) ایران کا ایک شہر .
۱ ۵۷۵		* الأسترا ہاڈی : کئی مسلمان علما کی نسبت .
		* الأسترا ہازی : رضی الدین محمد بن الحسن ، ابن العاجب کی مشہور نحوی تصنیف
۲ ۵۷۵		الکافیہ کا شارح (م ۶۸۳/۶۸۵ یا ۵۶۸۶/۶۸۶) .
		* الاسترابازی : رکن الدین الحسن بن محمد بن شرف شاہ العلوی ، ایک شافعی عالم ،
۱ ۵۷۶		الکافیہ کی شرح الوافیہ یا المتوسط کا مصنف (م نواح ۵۷۱۵/۵۷۱۵) .
۱ ۵۷۷		* آسترا خان : بحر خزر سے ۶ میل دور دریائے وولگا کے کنارے ایک شہر اور ضلع .
۱ ۵۷۹		* استرغون : (Esztergom) ، ہنگری میں ایک قلعہ بند شہر .
۲ ۵۸۱		⊗ استسقاء : اساک باران کی صورت میں بارش کے لئے صلوات و دعا .
۲ ۵۸۳		⊗ استصحاب : ایک اہم فقہی اصطلاح .
۱ ۵۸۶		⊗ استصلاح : ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۵۹۱		* استیہام : عربی نحو کی ایک اصطلاح .
۲ ۵۹۱		* استقبال : علم ہیئت کی ایک اصطلاح .
۱ ۵۹۲		* استنبول : رگ بہ استانبول .
۱ ۵۹۲		* استنجاء : ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۵۹۲		* استنشاق : ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۵۹۲		* آستورگہ : (Astorga) ، رگ بہ آشرقہ .
		⊗ اسحق علیہ السلام : حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور بنی اسرائیل کے
۱ ۵۹۲		جد امجد .
		* اسحاق بن حنین : ابو یعقوب حنین بن اسحاق العبادی کا بیٹا ، عرب طیب ، فلسفی اور
۲ ۵۹۳		متعدد یونانی کتابوں کا مترجم .
		* اسحاق الموصلی : ابو محمد اسحاق (۵۱۵/۵۱۷ تا ۵۸۵/۵۸۷) ، اوائل
		عہد عباسیہ کا مشہور ترین مغنی اور ایک نامور مغنی ابراہیم بن

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۹۵		ماہان کا بیٹا .
۱ ۵۹۷		* الأسد : عربی میں شیر پیر کا معروف نام .
۲ ۶۰۲		* آسد : دوسری تیسری صدی عیسوی میں وسط عرب کا ایک قدیم قبیلہ .
۱ ۶۰۳		* آسد ، بنو : بنو کنانہ سے متعلق ایک عرب قبیلہ .
۱ ۶۰۶		* آسد : رگ بہ نجوم .
۱ ۶۰۶		* آسد بن عبداللہ : بن اسد القسری ، اپنے بھائی خالد بن عبداللہ (رگ بان) کے ماتحت خراسان کا اور عہد ہشام بن عبدالملک میں عراق کا والی (م ۵۱۲۰/۶۳۸ء) .
۱ ۶۰۶		* آسد بن الفرات : ابو عبداللہ (۵۱۳۲/۶۵۹ء تا ۵۲۱۳/۸۲۸ء) ، ایک عرب عالم دین اور فقیہ .
۱ ۶۰۷		* آسد آباد : ہمدان سے جنوب مغرب میں الجبال کا ایک شہر .
۱ ۶۰۸		* آسد اللہ اصفہانی : شاہ عباس اول کے عہد کا مشہور شمشیر ساز .
۲ ۶۰۸		* آسد الدولہ : متعدد شاہزادوں کا اعزازی لقب .
۱ ۶۰۹		* آسد الدین ، ابو الحارث : رگ بہ شیر کوہ .
۱ ۶۰۹		* آسدی : طوس کے دو شاعر : (۱) ابو نصر احمد بن منصور الطوسی ، غزنوی دور کا ایک عالم (مبعہد مسعود غزنوی: ۵۳۲۱/۶۱۰ء تا ۵۳۳۲/۶۱۰ء)؛ (۲) علی بن احمد ، سابق الذکر کا بیٹا، فارسی کا قادر الکلام شاعر، صاحب گرشاسپ نامہ (حیات ۵۳۵۸/۶۶۶ء) .
۱ ۶۰۹		⊗ اسراء : معراج نبوی کے لیے قرآنی اصطلاح .
۱ ۶۱۰		⊗ * اسرائیل : یہودیوں کے جد اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام .
۱ ۶۲۰		* اسرافیل : صور پھونکنے والے ایک رئیس فرشتے کا نام .
۲ ۶۲۰		* اسروشنہ : ماوراء النہر کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۱ ۶۲۱		* اسزیک : (Eszek ، اسگ Esseg) ، ہنگری اور ۱۹۱۹ء سے یوگوسلاویا کا ایک شہر .
۲ ۶۲۲		* اسب : ارتیریا (Eritrea) کے ساحل اور خلیج اسب کے شمال مغربی سرے پر ایک شہر اور بندرگاہ .
۱ ۶۲۳		* اسطرلاب : (اصطرلاب) ، متعدد فلکی آلات کا نام .
۲ ۶۲۳		* اسعد افندی احمد : بن محمد صالح افندی (۵۱۱۵۳/۶۱۷۳ء تا ۵۱۸۱۳/۶۷۳ء) ، عثمانی شیخ الاسلام .
۲ ۶۲۵		* اسد افندی : صحافر ، شیخ زادہ سید محمد (۵۱۲۰۳/۶۸۹ء تا ۵۱۲۶۳/۷۱۸۳۸ء) ، عثمانی وقائع نویس اور فاضل ، متعدد کتب مثلاً آس ظفر وغیرہ کا مصنف .
۲ ۶۳۶		* اسعد الفندی : صحافر ، شیخ زادہ سید محمد (۵۱۲۰۳/۶۸۹ء تا ۵۱۲۶۳/۷۱۸۳۸ء) ، عثمانی وقائع نویس اور فاضل ، متعدد کتب مثلاً آس ظفر وغیرہ کا مصنف .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۶۳۸	شاعر ، صوفی اور عثمانی شیخ الاسلام .	
۲ ۶۳۸	* اسد افندی محمد : بن سعد الدین (۵۹۷۸/۱۵۷۰ تا ۶۱۰۳۳/۱۶۲۵ء) ، عثمانی شیخ الاسلام ، شاعر ، مترجم اور مصنف .	
۲ ۶۳۹	* اسد افندی محمد : (۶۱۰۹۶/۱۶۸۵ تا ۶۱۱۶۶/۱۷۵۳ء) ، شیخ الاسلام ابو اسحق اسمعیل افندی کا فرزند ، قاضی مکہ (۶۱۱۳۷/۱۷۲۳ء) ، قاضی عمکر (۶۱۱۵۰/۱۷۳۷ء) اور بعد ازاں عثمانی شیخ الاسلام (۶۱۱۶۱/۱۷۳۸ء) .	
۲ ۶۳۲	⊙ آسُد سُوری : عہد غزنوی اور غور کے سوری خاندان کے ابتدائی دور میں پشتو کا نامور شاعر (م ۵۴۲۵/۱۰۳۳ء) .	
۲ ۶۳۱	* آسفار بن شیروہ : خلیفہ المقتدر کے دور میں اجیر سپاہ کا ایک دیلمی سردار اور کچھ عرصے کے لیے طبرستان اور رے کا حاکم (م ۵۳۱۹/۹۳۱ء) .	
۲ ۶۳۳	* اِسْفَرِیْن : گزشتہ زمانے میں صوبہ نیشاپور کا ایک چھوٹا سا قلعہ بند شہر ، آج کل شہر بلیس کے کھنڈوروں کا محل وقوع .	
۲ ۶۳۳	* اِسْفَزَار : رگ بہ سبزوار .	
۲ ۶۳۳	* اِسْفَنْد یار اوغلو : ایک ترکمانی خاندان ، ساتویں صدی ہجری/تیرھویں صدی عیسوی میں قونہ کی سلجوقی سلطنت کے زوال کے بعد قسطنطون کی خود مختار سلطنت کا بانی .	
۲ ۶۳۶	* اِسْفِید دِز : رگ بہ قلعہ سفید .	
۲ ۶۳۶	* اِلْاِسْکَافِی : ابو اسحق محمد بن احمد (یا ابراہیم) القراریطی ، المتقی باللہ کا وزیر (حیات ۵۳۳/۹۴۲ء) .	
۲ ۶۳۶	* اِلْاِسْکَنْدَر : سکندر اعظم ، یونان کا حکمران اور مشہور فاتح .	
۱ ۶۳۹	* اِسْکَنْدَر آغا : رگ بہ ابکاریوس .	
۲ ۶۳۹	* اِسْکَنْدَر بیگ : رگ بہ سکندر بیگ .	
۲ ۶۳۹	* اِسْکَنْدَر بیگ منشی : (نواح ۵۹۶۸/۱۵۶۰ تا ۶۱۰۳۸/۱۶۲۸ء) ، شاہ عباس اول کا منشی اور مصنف تاریخ عالم آرای عباسی .	
۱ ۶۵۰	* اِسْکَنْدَر خان : ماوراء النہر کا شیبانی حکمران (از ۵۹۶۸/۱۵۶۱ تا ۵۹۹۱/۱۵۸۳ء) .	
۱ ۶۵۰	* اِسْکَنْدَر لودی : رگ بہ لودی .	
۱ ۶۵۰	* اِسْکَنْدَر نامہ : اسکندر سے متعلق فارسی ، عربی اور ترکی زبانوں میں مشہور داستان .	
۱ ۶۵۱	* اِسْکَنْدَرُون : (Alexandretta ، اسکندرونہ ، اسکندریہ) ، بحیرہ روم کے ساحل پر حلب کی بندرگاہ .	
۱ ۶۵۱	* اِلْاِسْکَنْدَرِیَّة : مصر کی سب سے بڑی بندرگاہ ، عہد بطالمہ (Ptolemies) میں دنیا کا دوسرا	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۶۵۲		عظیم ترین شہر اور اب بحیرہ روم کا ایک اہم تجارتی مرکز . * الاسکندریہ : (اسکندرونہ) ، سکندر اعظم سے منسوب سولہ مختلف مقامات ، رگ بہ اسکندرون .
۲ ۶۶۰		* اُسکوب : قدیم زمانے میں ترکی ولایت قوصوہ کا اور اب یوگوسلاویا میں وردر بنت کا صدر مقام .
۲ ۶۶۰		* اُسکودار : اپنے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر قسطنطنیہ کا قدیم ترین اور سب سے بڑا محلہ .
۲ ۶۶۳		* اِسکی : (ترکی ، بمعنی پرانا) ، قدیم مقامات کے ناموں میں شامل لفظ .
۱ ۶۶۶		* اِسکی شہر : وسطی اناطولی کا شہر اور ایک ولایت کا صدر مقام .
۱ ۶۶۶		⊙ اسلام : دین اسلام .
۲ ۶۶۷		* اسلام آباد : اورنگ زیب عالمگیر کے تین مفتوحہ شہروں چٹاگانگ ، چانکا اور متھرا کا نیا نام .
۲ ۷۰۱		⊙ اسلام آباد : پاکستان کا دارالحکومت .
۲ ۷۰۱		⊙ اسلام آباد : قدیم نام انت ناگ ، وادی کشمیر کے جنوب مشرقی حصے میں دریائے جہلم پر واقع ایک مقام .
۲ ۷۰۳		* اسلامبول : رگ بہ استانبول .
۲ ۷۰۳		* اسلام گرای : کریمیا (قرم) کے تین خوانین : (۱) اسلام گرای اول بن محمد گرای (۱۵۳۳/۵۹۳۹) ؛ (۲) اسلام گرای ثانی بن دولت گرای (۱۵۹۲/۵۹۹۲) ؛ (۳) اسلام گرای ثالث بن سلامت گرای (۱۵۸۳/۱۶۳۳) تا (۱۶۵۳/۵۱۰۶۳) .
۱ ۷۰۵		* اِسلی : مراکش کا ایک دریا .
۲ ۷۰۵		* اِسْم : علم صرف کی ایک اصطلاح .
۱ ۷۰۶		⊙ اَسْمَاءٌ : ذات النطاقین ، مشہور صحابیہ ، حضرت ابوبکر صدیقؓ کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی والدہ (م نواح ۵۷۳/۶۹۲) .
۱ ۷۰۸		⊙ الاسماء الحسنیٰ : اللہ تعالیٰ کے نام .
۱ ۷۱۰		⊙ اسماء الرجال : رواۃ حدیث کے سوانح و سیرۃ کے بیان کا فن .
۲ ۷۱۷		⊙ اسمعیلؑ : ذبیح اللہ ، حضرت ابراہیمؑ کے سب سے بڑے صاحبزادے ، خدا کے نبی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جد امجد .
۱ ۷۲۸		* اسمعیلؑ : سابقاً ترکوں کا ایک قلعہ اور اب بساریا کی روسی ریاست کے ایک ضلع کا صدر مقام .
۲ ۷۳۳		⊙ اسمعیل اول : (۱۳۸۷/۵۸۹۲ تا ۱۵۲۳/۶۹۳) ، ایران میں دولت صفویہ کا بانی

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۷۳۶	(تخت نشینی : ۵۹۰۵/۸۱۳۹۹) .	* اسمعیل ثانی : بن شاہ طہماسپ اول ، ایران کا صوفی بادشاہ (از ۸۳۸/۵۱۵۷۶ تا
۲ ۷۳۹	۸۱۵۷۸/۵۹۸۶) .	* اسمعیل بن احمد : ابو ابراہیم (۸۳۳/۵۲۳۳ تا ۸۹۵/۵۲۹۵) ایک سامانی امیر اور
۱ ۷۴۰	ماوراء النہر میں اپنے خاندان کی سلطنت کا بانی .	
۲ ۷۴۰	اسمعیل بن بلبل : ابو الصقر ، المعتمد کا وزیر (نواح ۸۲۶۵/۵۸۷۹) .	* اسمعیل بن سبکتگین : غزنہ کے امیر آلتگین کا نواسا اور سبکتگین کا چھوٹا بیٹا اور
۱ ۷۴۱	چند ماہ کے لیے اس کا جانشین (۸۳۸۷/۵۹۹۷ تا ۸۳۸۸/۵۹۹۸) .	
۲ ۷۴۱	اسمعیل بن شریف : مولای ، سلطان مراکش ، خاندان علوی یا حسنی شرفا کا دوسرا	* اسمعیل بن شریف : مولای ، سلطان مراکش ، خاندان علوی یا حسنی شرفا کا دوسرا
۲ ۷۴۳	بادشاہ (از ۸۲۲/۵۱۰۸۲ تا ۸۷۲/۵۱۱۳۹) .	
۲ ۷۴۳	اسمعیل بن عبّاد : رگ بہ ابن عبّاد .	* اسمعیل بن عبّاد : رگ بہ ابن عبّاد .
۱ ۷۴۵	اسمعیل بن عبدالرشید : بن مٹھا خان ، اجین کا ایک عالم مستعلی (بوہرہ) شیخ ، فرقہ	* اسمعیل بن عبدالرشید : بن مٹھا خان ، اجین کا ایک عالم مستعلی (بوہرہ) شیخ ، فرقہ
۲ ۷۴۳	ہبتیہ کا بانی ، اسمعیلی ادب کی مفصل فہرست کا مؤلف (م نواح ۸۱۱۸۳/۵۱۱۸۳) .	
۱ ۷۴۵	اسمعیل بن القاسم : رگ بہ ابوالعتاہیہ .	* اسمعیل بن القاسم : رگ بہ ابوالعتاہیہ .
۲ ۷۴۵	اسمعیل بن نوح : ابو ابراہیم المنتصر ، سامانی خاندان کا چشم و چراغ (م ۸۳۹۵/۵۳۹۵) .	* اسمعیل بن نوح : ابو ابراہیم المنتصر ، سامانی خاندان کا چشم و چراغ (م ۸۳۹۵/۵۳۹۵) .
۱ ۷۴۵	اسمعیل پاشا : بن ابراہیم پاشا ، خدیو مصر (از ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۹ : ۱۸۹۵م) .	* اسمعیل پاشا : بن ابراہیم پاشا ، خدیو مصر (از ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۹ : ۱۸۹۵م) .
۱ ۷۴۷	اسمعیل پاشا : نشانجی ، ترکی سلطان سلیمان ثانی کا صدر اعظم (م ۱۱۰۱/۵۱۶۹۰) .	* اسمعیل پاشا : نشانجی ، ترکی سلطان سلیمان ثانی کا صدر اعظم (م ۱۱۰۱/۵۱۶۹۰) .
۲ ۷۴۷	اسمعیل حقی : ایک ترکی ادیب اور مؤرخ ادبیات ، رسالہ مکتب کا مدیر ، متعدد نظموں	* اسمعیل حقی : ایک ترکی ادیب اور مؤرخ ادبیات ، رسالہ مکتب کا مدیر ، متعدد نظموں
۲ ۷۴۷	اور کہانیوں کے علاوہ چودھویں صدی کے ترک مصنفین کے تذکرے	
۲ ۷۴۷	اون دردونجی عصرن توزک محرر لری وغیرہ کا مصنف (حیات ۱۹۰۷/۵۱۹۰۷) .	
۲ ۷۴۸	اسمعیل حقی : البروسوی یا الاسکو داری (۶۳/۵۱۶۵۲ تا ۱۱۳۷/۵۱۱۳۷) .	* (شیخ) اسمعیل حقی : البروسوی یا الاسکو داری (۶۳/۵۱۶۵۲ تا ۱۱۳۷/۵۱۱۳۷) .
۲ ۷۴۸	کثیر التصانیف صوفی اور صاحب روح البیان وغیرہ .	
۱ ۷۴۹	اسمعیل شہید ، شاہ : بن شاہ عبدالغنی بن شاہ ولی اللہ "محدث دہلوی (۱۱۹۳/۵۱۷۷۹ تا	* اسمعیل شہید ، شاہ : بن شاہ عبدالغنی بن شاہ ولی اللہ "محدث دہلوی (۱۱۹۳/۵۱۷۷۹ تا
۲ ۷۵۳	۱۲۳۶/۵۱۸۳۱) ، ہندوستان کے مشہور عالم و مصلح ،	
۱ ۷۴۹	سید احمد شہید کے مرید و رفیق جہاد اور تقویت الایمان وغیرہ	
۲ ۷۵۳	متعدد دینی کتابوں کے مصنف .	
۲ ۷۵۳	اسمعیل عاصم افندی : رگ بہ چلبی زادہ .	* اسمعیل عاصم افندی : رگ بہ چلبی زادہ .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۷۵۳		* اسمعیلیہ : نہر سویز کے تقریباً وسط میں واقع مصر کا ایک شہر .
۲ ۷۵۳		* اسمعیلیہ : امام جعفر الصادقؑ کے بڑے صاحبزادے اسمعیل کی طرف منسوب ایک شیعہ فرقہ ، نیز ایک سیاسی تحریک .
۱ ۷۶۳		* اسنا : (Esne) صید مصر کا ایک قصبہ .
۲ ۷۶۳		* اسناد : محدثین کا سلسلہ روایت ؛ علم حدیث کی ایک اصطلاح .
۲ ۷۶۳		* اسوان : (أسوان)، مصر کا ایک صوبہ اور اس کا دارالحکومت، نیز ایک عظیم الشان بند .
۱ ۷۶۸		* الاسود بن كعب العنسی : عیہلہ یا عبہلہ المذحجی ، یمن کی پہلی ردہ (تحریک ارتداد) کا رہنما (م ۵۱۱/۶۳۲ء) .
۱ ۷۶۹		* اسود بن یَعْفَر : بن عبدالاسود التمیمی ، ابو الجراح ، عہد قبل از اسلام کا ایک عرب شاعر .
۲ ۷۶۹		* اسہام : (ترکی : اسہام) ؛ ترکیہ میں خزانے سے جاری شدہ دستاویزات وغیرہ کے لیے ایک مالیاتی اصطلاح .
۲ ۷۷۰		* امیر : مشہور فارسی شاعر میرزا جلال الدین محمد اصفہانی بن میرزا مؤمن کا تخلص (م ۱۶۳۹/۵۱۰۳۹ - ۱۶۳۰/۷۱۶۳۰ء) .
۱ ۷۷۱		* امیر گڑھ : مدھیہ بردیش (بھارت) میں واقع ایک قدیم تاریخی قلعہ .
۱ ۷۷۲		* آسیوط : بالائی مصر کا سب سے بڑا شہر .
۲ ۷۷۳		* اشبرتال : (Spartel) ، مراکش اور افریقہ کے انتہائی شمال مغرب میں واقع ایک راس .
۱ ۷۷۳		* اشبیلیہ : (Seville) ، اسلامی اندلس کا ایک صوبہ اور اس کا صدر مقام، موجودہ سپین کا ایک بڑا شہر .
۲ ۷۸۰		* الأشتر : مالک بن الحارث النخعی ، حضرت علیؑ کے ایک پرجوش حامی اور ان کے عہد خلافت میں مختلف مقامات کے والی (م ۵۳۷/۶۵۸ء) .
۲ ۷۸۳		* الأشجع : رگ بہ غطفان .
۲ ۷۸۳		* الأشجع بن عمرو السلمی : ابو الولید ، دوسری صدی ہجری/آٹھویں صدی عیسوی کے آخر کا ایک عرب شاعر .
۱ ۷۸۳		* الأشدق : رگ بہ عمرو بن سعید .
۱ ۷۸۳		* الاشرافیون : (الحکماء) ، پیروان حکمۃ الاشراف یا حکمۃ المشرقیۃ ، نیز السہروردی کے مریدین .
۲ ۷۸۳		* اشراف : رگ بہ شریف .
۲ ۷۸۳		* اشرف : ایران کے صوبہ مازندان کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۱ ۷۸۶		* الاشری الملک : رگ بہ ایوبیہ .
		* اشرف اوغلتری : تیرہویں صدی کے نصف آخر میں سلجوقیوں کی طرف سے آناطولی

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۷۸۶	میں سرحدوں کے ترکمان نگران .	
		* اشرف جہالگیر : سمنانی (۵۶۸۸/۵۶۸۹ تا ۵۸۰۸/۵۸۰۵) ، مشہور صوفی بزرگ اور مصنف بشارۃ المریدین و مکتوبات اشرفی .
۳ ۷۸۸		⊙ اشرف حسن غزنوی : (سید حسن) بن محمد الحسینی ، غزنوی دور کا ایک صاحب دیوان فارسی شاعر (م ۵۵۶/۵۱۶۱) .
۲ ۷۸۹		* اشرف علی تھانوی : (۵۱۲۸۰/۵۱۸۶۳ تا ۵۱۳۶۲/۵۱۹۳۳) ، مشہور ہندوستانی عالم دین ، صوفی ، واعظ اور مفسر ، صاحب تصانیف کثیرہ مثلاً بیان القرآن ، بہشتی زیور وغیرہ .
۱ ۷۹۳		* اشرف علی خان (افغان) : ظریف الملک کوکتاش بہادر (۵۱۱۳۰/۵۱۷۲۷ تا ۵۱۱۸۶/۵۱۷۲۷) ، بادشاہ دہلی احمد شاہ کا رضاعی بھائی اور فارسی و اردو کا شاعر .
۱ ۷۹۴		* اشرفی : نیز شریفی ، دینار کا طلائی سکہ .
۱ ۷۹۵		* اشرفیہ : عبداللہ اشرف رومی (م ۵۸۹۹۴/۵۱۳۹۳) سے منسوب درویشوں کا ایک سلسلہ .
۱ ۷۹۵		* أشعب : الملقب بہ الطماع ، مدینے کا ایک مسخرہ نقالی (حیات ۵۱۵۳/۷۷۷۱) .
۱ ۷۹۵		* الأشعث : ابو محمد معدیکرب بن قیس بن معدیکرب ، حضر موت کے کندہ کے سردار (م نواح ۵۳۰/۷۶۶۱) .
۲ ۷۹۵		* الأشعری : ابو بردۃ عامر ، مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے بیٹے اور کوفہ کے قاضی (م نواح ۵۱۰۳/۷۷۲۱) .
۲ ۷۹۶		* الأشعری : ابوالحسن علی بن اسمعیل (۵۲۶۰/۸۷۳ - ۵۸۷۳/۹۳۰ تا ۵۳۲۳/۹۳۰ - ۵۹۳۱/۹۳۰) ، مشہور عالم دین ، اہل سنت کے علم کلام کے بانی اور متعدد کتابوں ، مثلاً مقالات الاسلامیین وغیرہ کے مصنف .
۲ ۷۹۶		* الأشعری ، ابو موسیٰ : ابن قیس الأشعری (۸ ق ۵۶۱۳/۷ تا ۶۶۲/۵۳۲) ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور سپہ سالار .
۲ ۸۰۲		* أشعریہ : (أشاعرہ) ، متکلمین اہل سنت کا ایک دبستان دینی ، منسوب بہ ابوالحسن الأشعریؓ .
۱ ۸۰۵		* اشکنجی : عہد آل عثمان کی ایک عسکری اصطلاح .
۱ ۸۰۷		⊙ أشمولیل : (Samuel) ، ایک اسرائیلی نبی .
۲ ۸۰۸		* الأشمونین : (الأشمونین) ، صعید مصر کا ایک قصبہ .
۲ ۸۱۱		* أشنو : (أشنوہ ، أشنوہ) آرمیہ کے جنوب میں آذربایجان کا ایک قصبہ اور ضلع .
۲ ۸۱۲		* آشیر : الجزائر سے ایک سو کلو میٹر دور شمالی افریقہ کا ایک قدیم حصار بند شہر .
۲ ۸۱۳		* إصبج : لبانی کا عربی پیمانہ .
۱ ۸۱۷		


صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۱۴		* اصحاب: : رگ بہ صحابہ .
۲ ۸۱۴		* اصحاب الأُخْدُود : قرآن مجید میں مذکور دور سابقہ کی ایک قوم .
۲ ۸۱۸		* اصحاب الأيكة : حضرت شعيب کی قوم .
۲ ۸۲۰		* اصحاب بدر : غزوہ بدر میں شامل صحابہ کرام .
۱ ۸۲۳		* اصحاب الحديث : رگ بہ اهل الحديث .
		* اصحاب الراے : (اهل الراے) ، فقہائے اهل حديث کی اپنے مخالفین کے لیے ایک اصطلاح .
۱ ۸۲۳		* اصحاب الرس : قرآن مجید میں مذکور ایک قدیم قوم .
۱ ۸۲۳		* اصحاب الفيل : مکہ مکرمہ پر حملہ آور ابرہہ حبشی کا لشکر .
۲ ۸۲۳		* اصحاب كهف : قرآن مجید میں مذکور دور سابقہ کے اهل ايمان کی ایک جماعت .
۱ ۸۲۴		* اصطخر : مدائن کے شمال میں فارس کا قدیم تاریخی شہر .
۱ ۸۳۲		* الاصطخري : ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي ، ایک عربی جغرافیا نگار ، مصنف المسالك و الممالک (حیات ۵۳۳ھ/۶۹۵ء) .
۲ ۸۳۱		* اصطرلاب : رگ بہ اسطرلاب .
۱ ۸۳۲		* اصفر : زرد رنگ کے لیے علامتی اصطلاح .
۱ ۸۳۲		* اصفهان : ایران کا مشہور شہر ، شاہان صفویہ کا دارالحکومت ، آج کل صوبہ اصفہان کا صدر مقام .
۲ ۸۳۲		* الاصفهاني : ابوبکر محمد بن داؤد بن علی (۵۲۵ھ/۵۸۶ تا ۵۲۹ھ/۶۹۰ء) ، دبستان فقہ ظاہری کا رئیس اور کتاب الزہراء کا مصنف .
۲ ۸۳۴		* الاصفهاني ، ابو الفرج : رگ بہ ابو الفرج .
۱ ۸۳۸		* الأصل : رگ بہ اصول .
۱ ۸۳۸		* الاصلح : متکلمین کی ایک اصطلاح .
۱ ۸۳۸		* الاصم : (بہرہ) ؛ متعدد اشخاص کا عرف ، مثلاً (۱) سفیان بن الابرذ الکلبی ، ایک اموی سپہ سالار (حیات ۵۷۸ھ/۶۹۷ء) ؛ (۲) ابو العباس محمد بن یعقوب النیسابوری (۵۲۳ھ/۵۸۱ تا ۵۹۱ھ/۶۹۵ء) ؛ نامور شافعی فقیہ اور محدث ؛ (۳) حاتم الاصم ، ابو عبدالرحمن بن علوان ، مشہور بلخی عالم (م ۵۳۷ھ/۶۵۱ء) .
۲ ۸۳۸		* الاصمعي : ابو سعید عبدالملک بن قریب ، (نواح ۵۱۲۳ھ/۵۷۱ تا ۵۲۱۳ھ/۵۸۲۸ء) ، نامور عالم دین ، ماهر لسان عربی اور نحوی .
۱ ۸۳۹		* الاصمعیات : رگ بہ الاصمعی .
۱ ۸۵۳		* اصول : علم عروض کی ایک اصطلاح .
۱ ۸۵۳		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۵۳		* اصول تفسیر : رک بہ قرآن .
۲ ۸۵۳		* اصول حدیث : رک بہ حدیث .
۲ ۸۵۳		* اصول فقہ : رک بہ فقہ .
۲ ۸۵۳		* آسیاہ : (Arzila)، مراکش کا ایک شہر اور بندرگاہ .
۱ ۸۵۵		* اضافہ : عربی نحو کی ایک اصطلاح .
۲ ۸۷۵		* اُضداد : عربی لسانیات کی ایک اصطلاح .
۱ ۸۶۰		* الأضحیٰ : رک بہ عید الاضحیٰ .
۱ ۸۶۰		* اِضمار : عربی نحو کی ایک اصطلاح .
۲ ۸۶۰		* اَطْرَابُلس : رک بہ طرابلس .
		* الأَطْرُوش : ابو محمد الحسن بن علی . . . بن علی زین العابدین (۵۲۳/۸۳۳ء تا
۲ ۸۶۰		۵۳۰/۹۱۷ء) ، حاکم طبرستان اور زیدی امام ، المعروف بہ الناصر الکبیر .
		* اَطْفِیَاش : قطب الائمہ محمد بن یوسف بن عیسیٰ بن صالح ، مزاب کا اباضی عالم ،
		مفسر قرآن اور مصنف همیان الزاد الی دارالمعاد وغیرہ (م ۵۱۳۲۲/۱۹۱۴ء
۱ ۸۶۳		بعمر ۹ سال) .
۲ ۸۶۳		* اَطْفِیح : وسطی مصر کا ایک چھوٹا سا شہر .
۲ ۸۶۵		* اَطْلَس : شمالی افریقہ کا سلسلہ کوہ .
		* اَظْفَرِی : محمد ظہیر الدین میرزا علی بخت بہادر گورگانی (۵۱۱۷۲/۱۷۵۸ء تا ۵۱۲۳۳/
		۱۸۱۹ء) ، ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے دور زوال کا ایک شہزادہ ، فارسی
۱ ۸۷۰		کا ادیب و انشاء پرداز اور واقعات اظفری وغیرہ کا مصنف .
۰ ۸۷۳		* اعتاق : رک بہ عبد .
۱ ۸۷۳		* اِعْتِقَاد : ایک مذہبی اصطلاح .
		* اِعْتِقَادِ خَان : محمد مراد کشمیری ، مغل شہنشاہ فرخ سیر کا معتمد اور وزیر (حیات
۲ ۸۷۳		۵۱۱۲۳/۱۷۱۳ء) .
۱ ۸۷۵		* اِعْتِکَاف : شرعی اصطلاح ، عبادت کی ایک شکل .
۲ ۸۷۵		* اِعْتِمَادِ الدَّوْلَہ : صفویوں کے عہد میں ایران کے وزیر اعظم کا خطاب .
۲ ۸۷۶		* اَعْرَاب : رک بہ بدوی .
۲ ۸۷۶		* اِعراب : عربی نحو کی اصطلاح .
		* اَلْاَعْرَاف : قرآن مجید کی ایک سورۃ ، نیز دوزخ اور جنت کے درمیانی خطے کے لیے
۱ ۸۷۹		قرآنی اصطلاح .
۱ ۸۸۰		* اَعْشَار : رک بہ عشر .
		* اَلْاَعْشٰی : (رتونداھا) ، متعدد قدیم عرب شعرا کا لقب : (۱) الاعشی البکری ؛ (۲)

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۸۸۰	الأعشى همدان؛ (۳) الأعشى الباهلی، عهد جاهلی کا ایک ممتاز مرثیہ گو؛ (۴) الأعشى المازنی، صحابی رسولؐ، وغیرہ۔	
۲ ۸۸۰	* ⑤ الأعشى؛ ابو بصیر میمون بن قیس بن جندل، مشہور قدیم عرب شاعر (آغاز اسلام کے وقت موجود)۔	
۱ ۸۸۳	* أعشى همدان؛ عبدالرحمن بن عبدالله، ایک عرب شاعر (م ۵۸۳/۶۰۲ء)۔	
۱ ۸۸۳	* أعظم گڑھ؛ اتر پردیش (بھارت) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام۔	
۲ ۸۸۳	* الأعمى الشتمری؛ رک بہ الشتمری۔	
۲ ۸۸۳	* الأعلیٰ؛ قرآن مجید کی ستاسویں سورت۔	
۱ ۸۸۵	* الأعمش؛ ابو محمد سلیمان بن مهران (نواح ۶۰/۵۶۸ء تا ۶۵/۵۱۳۸ء)، محدث اور نامور قاری۔	
۱ ۸۸۵	* الأعمى التطیلی؛ ابو العباس (یا ابو جعفر) احمد بن عبدالله بن ہریرہ العتبی، ایک اندلسی عرب شاعر (م ۱۱۳۰/۵۲۵ء - ۱۱۳۱/۶۱۱ء)۔	
۲ ۸۸۵	* أعوذ بالله؛ تلاوت قرآن مجید سے پہلے پڑھی جانے والی دعا۔	
۱ ۸۸۶	* أعیان؛ اسلامی سلطنتوں کے معززین اور بالخصوص عہد آل عثمان میں ترکیہ کے اہم سیاسی افراد کے لیے مخصوص اصطلاح۔	
۱ ۸۸۷	* آغا؛ رک بہ آغا۔	
۱ ۸۸۷	* آغا تودیمون؛ (Agathodaemon)، یونانی مصری دیوتا یا مصر کا بادشاہ یا حکیم و فلسفی اور علوم سری کا استاد۔	
۱ ۸۸۸	* آعاج؛ رک بہ آعاج۔	
۱ ۸۸۸	* ⑤ آغا دیر؛ (اجادیر) مراکش میں واقع چند بربری مواضع۔	
۲ ۸۸۹	* آغالہ؛ (بنو الأغلِب)، تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی میں بنو عباس کے نام پر افریقہ میں سو سال سے زیادہ حکومت کرنے والا ایک مسلم خاندان؛ (۱) ابراہیم بن الاغلب التیمی (از ۵۸۰/۱۸۳ء تا ۶۱۲/۵۱۹ء)، بائی خاندان؛ (۲) ابو العباس عبدالله اول بن ابراہیم (تا ۵۲۰/۸۱۷ء)؛ (۳) ابو محمد زیادة اللہ اول بن ابراہیم (تا ۵۲۳/۸۳۸ء)؛ (۴) ابو عقال الاغلب بن ابراہیم (تا ۵۲۶/۸۳۱ء)؛ (۵) ابو العباس محمد اول بن الاغلب (تا ۵۳۲/۸۵۶ء)؛ (۶) ابو ابراہیم احمد (تا ۵۳۹/۸۶۳ء)؛ (۷) زیادة اللہ ثانی بن محمد (تا ۵۴۰/۸۶۴ء)؛ (۸) ابو الغرائق محمد ثانی بن احمد (تا ۵۴۵/۸۷۵ء)؛ (۹) ابو اسحق ابراہیم ثانی بن احمد (تا ۵۴۹/۸۶۲ء)؛ (۱۰) ابو العباس عبدالله ثانی بن ابراہیم (۵۴۹/۸۶۲ء تا ۵۴۹/۸۶۲ء)؛ (۱۱) ابو مضر زیادة اللہ ثالث بن عبدالله (تا ۵۴۹/۸۶۲ء)۔	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۸۹۷		* الأغالی : رگ بہ ابوالقرج الاصفہانی .
۱ ۸۹۷		* آغوغر : صحرائے افریقہ میں ایک دریا کی گزرگاہ .
۱ ۸۹۸		* آغری : جمہوریہ ترکیہ میں مشرقی آناتولی کی ایک ولایت .
۲ ۸۹۸		* آغری طاغ : جمہوریہ ترکیہ کی مشرقی سرحد پر دو چوٹیوں والا ایک پہاڑ .
۱ ۹۰۱		* اغل : بمعنی بچہ یا خلف ؛ ترکی بولیوں میں مستعمل ایک لاحقہ .
		* الأغلِب العجلی : الاغلب بن عمرو بن عبیدہ بن حارثہ بن دلف بن جشم ، ایک مسلمان
۲ ۹۰۱		عرب شاعر، (م ۵۲۱/۶۳۲ء، بعمر ۹۰ سال).
۱ ۹۰۲		* الأغواط : جنوبی الجزائر کا ایک قصبہ اور نخلستان .
۲ ۹۰۳		* آفار : رگ بہ دناکل .
		* آفامیہ : (Apamea : فامیہ)، شام میں دریائے عاصی (Orontes) کے کنارے سلوقس کا بنا
۲ ۹۰۳		کردہ شہر .
۱ ۹۰۵		* آفراسیاب : تورانیوں کا افسانوی بادشاہ .
		* آفراسیاب : والیانِ بصرہ کے ایک سلسلے (آل افراسیاب) کا بانی (از ۵۱۰-۲۱/۵۱۶-۱۲ء
۲ ۹۰۶		تا ۳۳۳-۳۴/۵۱۶-۲۳ء).
		* آفراسیابیہ : آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی میں افراسیاب بن کیا حسن
		(از ۵۲۵-۳۳۹/۵۲۶ء تا ۵۷۶-۳۵۹/۶۱۳ء) سے منسوب خانوادہ ، ماژندران کا
۱ ۹۰۷		ایک حکمران خاندان .
۲ ۹۰۸		* الأفراتی : رگ بہ القرفراتی .
۲ ۹۰۸		* إفرن : ابتدائی تین ہجری صدیوں میں شمالی افریقہ کا ایک اہم بربر قبیلہ .
۱ ۹۱۰		* آفریدون : رگ بہ فریدون .
۱ ۹۱۰		* آفریدی : پاکستان کی شمالی و مغربی سرحد پر ایک بڑا اور طاقتور پٹھان قبیلہ .
۱ ۹۱۳		* آفریقہ : بربرستان کے مشرقی حصے کا عربی نام .
۲ ۹۱۵		* آفستین : (افستین) ، کثوث رومی ، ایک کڑوی بوٹی .
		* آفسوس : میر شیر علی ، صدر منشی فورٹ ولیم کالج کلکتہ ، مترجم گلستان سعدی وغیرہ
۲ ۹۱۶		و مصنف آرائش محفل (م ۱۲۲۳/۵۱۸۰۹ء).
۲ ۹۱۷		* آفسون : سحر ، جادو ، منتر وغیرہ .
۲ ۹۱۷		* آفشار : (اوشار اغز) ، ایک غز قبیلہ .
۱ ۹۲۱		* آفشین : وسط ایشیا ، بالخصوص علاقہ اشروسنہ کے امرا و رؤسا کا قبل از اسلام لقب .
۱ ۹۲۲		* الأفضل بن بدر الجمالی : ابو القاسم شاہنشاہ ، مصر کا فاطمی وزیر (حیات ۵۱۵/۵۱۱-۲۱ء
		* الأفضل ، ابو علی احمد : ملقب بہ کتیفات ، سابق الذکر کا بیٹا ، فاطمی وزیر (م ۵۲۶/۵۲۶ء
۲ ۹۲۳		۔ (۶۱۱۳۱ء).

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۹۲۵		* الأفضل : رسولی حکمران ، رک بہ رسولیہ .
۱ ۹۲۵		* الأفضل بن صلاح الدین : الملك الافضل ابو الحسن علی نور الدین (۵۶۵/۱۱۶۹ء تا ۵۲۲/۱۲۲۵ء) ، دمشق کا حاکم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین .
۲ ۹۲۵		* إفتار : رک بہ صوم .
۲ ۹۲۵		* الأفتس ، بنو : پانچویں صدی ہجری / گیارھویں صدی عیسوی میں اندلسی مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا شاہی خاندان .
۲ ۹۲۵		* أفعال : رک بہ فعل .
۲ ۹۲۷		* أفعی : سانپ .
۲ ۹۲۷		* أفغان : (۱) مشہور قوم ؛ (۲) پشتو زبان ؛ (۳) پشتو ادب .
۱ ۹۲۹		* افغانستان : پاکستان کی شمال مغربی جانب واقع ایک ملک .
۱ ۹۳۹		* الأفغانی ، جمال الدین : رک بہ جمال الدین افغانی .
۲ ۱۰۱۳		* الأفلاج : جنوبی نجد کا ایک ضلع .
۲ ۱۰۱۳		* افلاطون : (Plato)، مشہور یونانی فلسفی اور مصنف .
۲ ۱۰۱۵		* أفلاق : ولاشیا (Wallachia) کا ترکی نام .
۱ ۱۰۲۱		* أفلاک : رک بہ فلک .
۲ ۱۰۲۲		* أفلاکی : شمس الدین احمد ، سلسلہ مولویہ کے اولیا کا تراجم نگار اور مصنف مناقب العارفين (حیات ۵۳/۱۳۵۳ء) .
۲ ۱۰۲۲		* أفلح بن یسار : رک بہ ابو عطا السندی .
۲ ۱۰۲۲		* افن : (Offen) ؛ بوداپست [رک باں] کا جرمن نام .



جلد ۳

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱	* الفدی : عثمانی ترکی میں معززین کے لیے خطاب اور ایک قانونی اصطلاح .	۱
۱	* الآفوه الأودی : ابو ربیعہ صلاۃ بن عمرو ، زمانہ جاہلیت کا ایک صاحب دیوان عرب شاعر (حیات وسط چھٹی صدی عیسوی) .	۲
۱	* آفیون : (افیم) ؛ پوست کا خشک شدہ لیس دار عرق ؛ ایک نشہ آور دوا .	۲
۱	* ایون قرہ حصار : مغربی آناطولی کا ایک شہر ، ولایت خداوندگار (بروسہ) کی ایک سنجاق کا صدر مقام .	۳
۱	⊗ إقامة : آغاز نماز باجماعت کے کلمات اعلان .	۶
۱	⊗ اقبال : ڈاکٹر شیخ محمد اقبال (۱۲۸۹ھ/۱۸۷۳ء تا ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء) ، برعظیم پاک و ہند کے شہرہ آفاق مفکر اور شاعر ، نظریہ پاکستان کے بانی ، متعدد شعری مجموعوں اور کتب کے مصنف .	۷
۲	* إقباس : علم بلاغت کی ایک اصطلاح .	۱۶
۲	⊗ آقچہ : سلطنت عثمانیہ میں چاندی کا ایک سکہ	۱۷
۱	* آقراہذین : (قراہذین) ، وسائل دواسازی (Pharmacopoeias) .	۱۸
۱	* اقرار : عدلیہ کی ایک اصطلاح .	۲۰
۱	* أقراص : عربی علم الطب کی ایک اصطلاح .	۲۱
۱	⊗ الاقرع بن حابس : بن عقال بن محمد بن سفیان العجاشعی الدارمی الحنظلی التیمی ، مشہور صحابی رسول ۳ اور اپنے قبیلے کے بہادر سردار (م ۵۳۱/۶۵۱ء) .	۲۴
۱	* الریطش : (Crete) ، بحیرہ روم کا ایک معروف جزیرہ اور ملک .	۲۹
۲	* أقسرا : رگ بہ آق سرا .	۲۹
۲	⊗ الأصر : (Luxor) ، بالائی مصر کا ایک قدیم شہر ، ٹیبہ کی یادگاروں کے لیے مشہور .	۲۹
۱	⊗ إقطاع : حکومت کی طرف سے عطیہ قطععات اراضی کے لیے قسبی اصطلاح .	۳۰
۲	* إقليم : علم الارض و جغرافیا کی ایک اصطلاح .	۳۷
۲	* الإقواء : علم قوائی کی ایک اصطلاح .	۳۸
۱	* الاقصر : زمانہ جاہلیت میں عربوں کا ایک معبود یا ایک اسم وصف .	۳۹
۱	⊗ اکبر : ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر (۱۵۳۲ھ/۱۵۳۹ء تا ۱۶۰۵ھ/۱۶۰۵ء) ، ہندوستان کا تیسرا مغل فرمانروا (از ۱۵۵۶ھ/۱۵۶۳ء) .	۳۰
۱	⊗ اکبر الہ آبادی : خان بہادر سید اکبر حسین (۱۲۶۳ھ/۱۸۴۶ء تا ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۱ء) ، اردو کے منفرد اور طنز نگاری میں ممتاز شاعر .	۵۲

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۵۳		* آکثم بن صیفی : ابو حیدہ یا ابو الحفاد، دور جاہلیت کی کہانیوں کا ایک نیم افسانوی کردار۔
۱ ۵۵		* آکدریہ : وراثت سے متعلق ایک معروف اور مشکل فقہی اصطلاح۔
۱ ۵۶		* آکراہ : رک بہ کُرد۔
۱ ۵۶		* آکرم بے : رجائی زادہ محمود (۱۲۶۳ھ/۱۸۴۷ء تا ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء)، ترکی کا ممتاز غزل گو شاعر اور ادیب۔
۱ ۵۶		* آکری طاغ : رک بہ جبل الحارث۔
۱ ۵۷		* الاکسیر : (Elixir) یا اکسیر الفلاسفہ، کیمیا گری کی اصطلاح۔
۱ ۵۷		* اکشولبہ : (Ocsonoba)، پرتگال کا موجودہ صوبہ الغرب (Algarve)۔
۲ ۵۷		* آکرمین : رک یہ آق کرمان۔
۱ ۵۸		* آکلہ : طبی اصطلاح، بمعنی سرطانی رسولی۔
۱ ۵۸		* الاکلیل : مجمع الکواکب کے لیے علم ہیئت کی اصطلاح۔
۱ ۵۹		* آکنصوس : ابو عبداللہ محمد بن احمد (۱۲۱۱ھ/۱۷۹۷ء تا ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۷ء)، مراکش کا ایک ادیب اور مؤرخ، صنف الجیش العرموم الخماسی فی دولة اولاد مولانا علی السجلماسی۔
۲ ۵۹		* آگادیر : رک بہ آغادیر۔
۱ ۶۰		* آگدراغر : مراکش کی ایک بندرگاہ۔
۱ ۶۰		* آگردیر : رک بہ آگری در۔
۱ ۶۲		* آگری بوز : جزیرہ یوبویا (Euboea) اور اس کے دارالحکومت کا ترکی نام۔
۱ ۶۲		* آگری در : (آگردر)، جنوب مغربی آناطولی کا ایک چھوٹا سا قصبہ۔
۲ ۶۳		* آگین : (اکین)، مشرقی آناطولی کا ایک قصبہ۔
۲ ۶۳		* آل : رک بہ تعریف۔
۲ ۶۶		* آلات : رک بہ ایلات۔
۲ ۶۶		* الارکوس : رک بہ الارک۔
۲ ۶۶		* الامک : رک بہ نجوم۔
۲ ۶۶		* آلان : رک بہ آلان۔
۲ ۶۶		* الآئیہ : (علائیہ)، جنوبی آناطولی میں ایک بندرگاہ۔
۲ ۶۶		* الاوہ : رک بہ آلبہ و القلاع۔
۱ ۶۸		* الایکة : رک بہ (۱) اصحاب الایکة؛ (۲) مَدین۔
۱ ۶۸		* البانیا : رک بہ آرنا ودلق۔
۱ ۶۸		* البرز : وسط فارس کی سطح مرتفع کو بحر خزر کے نشیب سے جدا کرنے والا ایک

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۳ ۶۸		کوہستانی سلسلہ .
۳ ۶۸		* البرآکن : رگ بہ (بنو) رزین .
۳ ۶۸		* اَبستان : (اِبِلستین)، جنوب مشرقی اناطولی کا ایک شہر .
۱ ۷۰		* البصان : (اِیلْبسان)، وسطی البانیا کا ایک شہر .
۱ ۷۱		* البفیرة : رگ بہ بلنسیہ .
۱ ۷۱		* آلبہ و القلاع : رگ بہ آلبہ و القلاع .
		* اَلْبیرة : (Elvira)، اندلس کا ایک صوبہ (بعد ازاں غرناطہ) ، نیز اس کے دارالحکومت
۱ ۷۱		قسطیلیہ کا ایک نام .
۱ ۷۲		* اَلْبیکن : رگ بہ غرناطہ .
		⊗ اَلْتَمِش : ہندوستان میں خاندان غلاماں کا نامور حکمران (از ۵۶۰ء/۵۶۱ء تا
۱ ۷۲		۵۶۳ء/۵۶۳ء) .
		* اَلْجایتو خدا بندہ : ایران کا آٹھواں ایل خانی حکمران (از ۵۷۰ء/۵۷۱ء تا ۵۷۱ء/۵۷۱ء)
۱ ۷۹		۵۷۱ء) .
۱ ۸۰		* اَلْجبرا : رگ بہ علم الجبر و العقابلہ .
		* اَلْجزائر : (Algeria)، مراکش اور تونس کے مابین واقع شمالی افریقہ کے وسطی خطے پر
۳ ۸۰		مشتعل مشہور اسلامی ملک .
۳ ۱۱۷		* اَلْجیتو خدا بندہ : رگ بہ اَلْجایتو خدا بندہ .
۲ ۱۱۷		* اَلْجیرز : (Algeirs)، رگ بہ الجزائر .
۳ ۱۱۷		* اَلْش : (Elche)، مشرقی اندلس کا ایک چھوٹا سا قصبہ .
۱ ۱۱۸		* اَلْعَارَہ : (العرة) ، یمن کے جنوبی ساحل پر ایک مقام .
		* اَلْغ ییگ : محمد تورغای بن شاہ رخ (۵۹۶ء/۵۹۷ء تا ۵۸۵ء/۵۸۶ء) ، ترکستان
۳ ۱۱۸		اور ماوراء النہر کا حاکم ، ادیب ، فن کار ، عالم دینیات اور مصنف .
۳ ۱۲۲		⊗ اَلْف : عربی ، فارسی اور اردو کا پہلا حروف تہجی .
۱ ۱۲۳		* اَلْف باء : رگ بہ ہجاء .
۱ ۱۲۳		* اَلْف لیلۃ و لیلۃ : عربی زبان کا شہرہ آفاق مجموعہ حکایات .
۱ ۱۳۹		* اَلْفرد : رگ بہ نجوم .
۱ ۱۳۹		* اَلْفونشو : اندلسی مورخین کے ہاں الفانسو (Alfonso) کی املا .
۱ ۱۳۹		* اَلْفیۃ : ایک ہزار اشعار پر مشتمل کوئی نظم .
		* اَلْقاص میرزا : (۵۹۲۱ء/۵۹۲۱ء تا ۵۹۵۵ء/۵۹۵۵ء) شاہ اسمعیل اول صفوی کا دوسرا
۲ ۱۳۹		بیٹا اور شاہ طہماسب اول کا چھوٹا بھائی .
۱ ۱۴۰		* اَلْکَزَر : (القصر)، ہسپانیہ میں مختلف مقامات

صفحہ نمبر	اشارات	معنا
۲	۱۳۰	* اَلْكِنَّة : رگ بہ الحناء .
۲	۱۳۰	* اَلْغُورِثْمُس : (Algorithmus)، عربی اعداد سے حساب کے طریقے کا قدیم لاطینی نام .
۲	۱۳۱	* اَللَّان : قفقاز کی ایک قدیم قوم .
۱	۱۳۳	* اَللّٰہ : ذات باری تعالیٰ کا نام .
۲	۱۸۷	* اَللّٰہُ الْاَكْبَرُ : رگ بہ تکبیر .
۲	۱۸۷	* اَللّٰہُ وَرْدِي : صوبہ فارس کا ترکمان قبیلہ ؛ نیز مختلف اشخاص کا نام .
۲	۱۸۷	* اَللّٰہِم : یا اللہ کے معنوں میں مستعمل ایک دعائیہ کلمہ .
۲	۱۸۸	* اَلْمَا : قریم (Crimea) میں ایک چھوٹا سا دریا .
۱	۱۸۹	* اَلْمَا آتہ : سابقاً ورنی (Vernyi)، آجکل جمہوریہ اشتراکیہ قازقستان کا صدر مقام .
۱	۱۸۹	* اَلْمَادَاغ : رگ بہ الماطاغی .
۱	۱۸۹	* اَلْمَاس : ہیرا .
۲	۱۹۰	* اَلْمَاطَاغِي : شام کے انتہائی شمالی حصے میں واقع سلسلہ کوہ طوروس کی ایک شاخ .
۱	۱۹۲	* اَلْمَالِي : (المالو)، جنوب مغربی آناتولی کا قصبہ؛ سابقاً ترکمانی ریاست تکہ کا صدر مقام .
۱	۱۹۳	* اَلْمَجْسُطِي : (Almagest)، رگ بہ بطلمیوس .
۱	۱۹۳	* اَلْمِگَاوَرَس : (Almogavares) یا اَلْمِغَاوَر ، قرون وسطیٰ میں جبل ارغون سے بھرتی کیے جانے والے اجیر لشکر .
۲	۱۹۳	* اَلْمَلِيغ : (المالیغ، المالق)، وسط ایشیا میں الی کی بالائی وادی میں ایک مسلم حکومت کا صدر مقام .
۱	۱۹۵	* اَلْمَوْت : قرون وسطیٰ میں ایک مشہور قلعہ ؛ ایک حکمران خاندان ؛ ایک ریاست ؛ آجکل ایران کا ایک صوبہ .
۱	۱۹۹	* اَلْمَنَجَق : روسی آذربيجان میں نخچوان کے قریب ایک قدیم قلعہ .
۲	۲۰۳	* اَلْمَوَاح : رگ بہ لوح .
۲	۲۰۳	* اَلْمَوْر : راجپوتانہ (بھارت) میں ایک سابق ریاست .
۱	۲۰۳	* اَلْمَوْنَد : رگ بہ آق قویونلو .
۱	۲۰۳	* اَلْمَوْنَد : (Orontes)، ہمدان کے جنوب مغرب میں سلسلہ کوہستان زغروس (Zagros) کی ایک شاخ .
۲	۲۰۳	* اَلْمَوْنَد كُوہ : ہمدان کے جنوب میں ایک الگ تھلک مجموعہ کوہ (بلندی ۱۱۷۱۷ فٹ) .
۱	۲۰۶	* اِلٰہ : اللہ تعالیٰ کے علاوہ دور جاہلی میں مشرکین کے فرضی خداؤں کے لیے مستعمل کلمہ .
۱	۲۰۷	* اِلہ آباد : اترپردیش (بھارت) کا ایک اہم شہر، ہندوؤں کا تیرتھ اور عدالت عالیہ کا مستقر .
۱	۲۰۸	* اِلہ دین : رگ بہ الف لیلة و لیلة .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ - ۲۰۸		⊗ الہام : ایک مخصوص مذہبی اصطلاح .
۲ - ۲۱۰		* الی : (ایلی، ایلہ)، وسط ایشیا کا ایک بڑا دریا.
۲ - ۲۱۲		⊗ ایلاس : بنی اسرائیل کے ایک قدیم پیغمبر.
۱ - ۲۱۳		⊗ ایاسیہ : چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں کرمان کا ایک فرمانروا خاندان.
۲ - ۲۱۳		⊗ آیسع : بنی اسرائیل کے ایک نبی .
۲ - ۲۱۵		* آمارہ : عہد عثمانیہ میں ایک سنجاقی (ولایت بصرہ) اور اس کا صدر مقام .
۲ - ۲۱۵		⊗ آماسیہ : (آماسیہ)، شمالی آناتولی کا اہم شہر اور علمی و فکری مرکز .
۱ - ۲۲۳		⊗ ایمالہ : علم قراءت اور تجوید کی ایک اصطلاح .
۱ - ۲۲۳		⊗ آمالی : رک بہ درس .
۱ - ۲۲۳		⊗ امام : پیشوا ، قاعد وغیرہ کے معنوں میں مستعمل ایک کثیر المعانی اصطلاح .
۱ - ۲۲۶		* امام اعظم : رک بہ (۱) خلیفہ ؛ (۲) ابو حنیفہ .
۱ - ۲۲۶		* امام ہاڑہ : برعظیم پاک و ہند میں شیعہ مجالس کے مرکز .
۱ - ۲۲۶		* امام الحرمین : رک بہ الجوینی .
۱ - ۲۲۶		* امام زادہ : امام کی اولاد کے لیے ایرانی اصطلاح .
۲ - ۲۲۶		⊗ امام شاہ : امام الدین عبدالرحیم بن حسن (۵۸۵۶/۱۳۵۲ء تا ۵۹۲۶/۱۵۲۰ء)، گجرات (بھارت) کے ست پتھی فرقے کا بانی .
۱ - ۲۲۷		* امامت : بنت ابی العاصؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، حضرت زینبؓ کی صاحبزادی، حضرت علیؓ کی اہلیہ .
۲ - ۲۲۷		* امامت : رک بہ امام .
۲ - ۲۲۷		⊗ امامیہ : نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد بطور نص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بلا فصل امامت کا قائل ایک شیعہ فرقہ .
۱ - ۲۲۸		* آمان : (سلامتی، حفاظت)، ایک شرعی اصطلاح .
۱ - ۲۳۱		* آمان اللہ : رک بہ افغانستان .
۱ - ۲۳۱		⊗ آمانت : سید آغا حسن (۵۱۲۳۱/۱۸۱۵ء تا ۵۱۲۷۵/۱۸۵۹ء)، ایک اردو شاعر اور مصنف اندر سبھا وغیرہ .
۲ - ۲۳۳		* آمانت مقدسہ : استانبول کے طوپ قیوم محل میں ذات نبویؐ سے منسوب تیرکات .
۲ - ۲۳۳		* آمان، میر : رک بہ آمن، میر .
۲ - ۲۳۳		* آمالہ : رک بہ انبالہ .
۲ - ۲۳۳		* آمبرا : (Ambra)، رک بہ عنبر .
۱ - ۲۳۳		* آسون : (Ambon)، انڈونیشیا میں مجمع الجزائر ملکا کا ایک جزیرہ .
۱ - ۲۳۳		* آمتہ : رک بہ عبد .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۲۳۳		* امثال : رگ بہ مثل .
۱ ۲۳۳		* امر : معاملہ اور حکم کے معنوں میں مستعمل ایک قرآنی نیز فلسفیانہ اصطلاح .
۲ ۲۳۶		* اسرف القیس : چھٹی صدی عیسوی میں عہد جاہلیت کا سرخیل شعراء (م مابین ۵۳۰ و ۶۵۳) .
۱ ۲۳۱		* امرتسر : مشرقی پنجاب (بھارت) میں سکھوں کا متبرک شہر اور اسی نام کے ایک ضلع کا صدر مقام .
۲ ۲۳۱		* امرکوٹ : رگ بہ عمر کوٹ .
۲ ۲۳۱		* امروہہ : اتر پردیش (بھارت) کے ضلع مراد آباد کا ایک قصبہ اور قدیم اسلامی مرکز .
۱ ۲۳۲		* امریلی : (عمرالی)، ایک نیم حضری ترکمان قبیلہ .
۲ ۲۳۲		* امزیغ : رگ بہ بربر .
۲ ۲۳۲		* امغر : شیخ کا مرادف بربر لفظ .
۱ ۲۳۳		* امة : قوم اور ملت کے معنوں میں مستعمل قرآنی اصطلاح .
۲ ۲۳۵		* ام حبیبہ : ام المؤمنین ، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ، دختر ابو سفیان بن حرب .
۱ ۲۳۷		* ام درمان : جمہوریہ سودان کا ایک شہر .
۲ ۲۳۸		* ام سلمہ : ام المؤمنین (۲۸ ق ۵ / ۵۹۶ تا ۵۶۳ / ۶۸۲) ، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کی راویہ .
۲ ۲۵۰		* ام القری : مکہ معظمہ کا دوسرا نام .
۲ ۲۵۰		* ام الكتاب : سورہ فاتحہ کے لیے مستعمل اصطلاح .
۲ ۲۵۲		* ام کلثوم : بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت عثمان کی اہلیہ (م ۵۹ / ۶۳) .
۱ ۲۵۳		* ام کلثوم : بنت علی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت عمر فاروق کی اہلیہ (م ۵۳۹ / ۶۶۹) .
۲ ۲۵۳		* ام المؤمنین : ازواج مطہرات نبوی کے لیے مستعمل لقب .
۲ ۲۵۳		* ام ولد : قسبی اصطلاح ؛ منکوحہ باندی، جس سے مالک کا بچہ پیدا ہوا ہو .
۱ ۲۵۶		* امن ، میر : (میر اسن)، اردو کے ابتدائی ادیب اور مصنف باغ و بہار وغیرہ (کلیات ۱۸۰۶ / ۱۲۲۱) .
۲ ۲۵۹		* اسی : رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ایک قرآنی لقب .
۲ ۲۶۱		* اموریہ : (Amorium)، رگ بہ عموریہ .
۲ ۲۶۱		* امیر : ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی سربراہ ، حاکم ، فرمانروا ، سپہ سالار وغیرہ .
۲ ۲۶۵		* امیر آخور : (میر آخور) ، داروغہ اصطبل ، ایشیائی سلاطین کے دربار کا ایک باند عہدہ .
۲ ۲۶۵		* امیر الامراء : امیر اعلیٰ ، فوج کا سالار اعظم .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۶۶		* * آ میر الحاج : حج پر جانے والے لوگوں کے قافلے کا سردار .
۲ ۲۶۷		* آ میر حمزہ : " رک بہ حمزہ " بن عبدالمطلب .
۲ ۲۶۷		* آ میر خان ، نواب : (۱۱۸۲ھ / ۱۷۶۸ء تا ۱۲۵۰ھ / ۱۸۳۳ء) ، راجپوتانہ (بھارت) کی ریاست ٹونک کا بانی .
۲ ۲۶۸		* آ میر داد : (امیر انصاف) عہد سلاجقہ میں وزیر عدل .
۲ ۲۶۸		* آ میر سلاح : مہتمم سلاح خانہ ، عہد مالیک میں ایک اہم عہدے دار .
۱ ۲۶۹		* آ میر سلطان : السید شمس الدین محمد بن علی الحسینی البخاری (۵۷۷ھ / ۱۱۶۸ء تا ۵۸۳۳ھ / ۱۱۲۹ء) ، سلطان بایزید کا معاصر ایک ترک ولی اللہ .
۱ ۲۷۱		* آ میر علی ، سید : (۱۲۶۶ھ / ۱۸۴۹ء تا ۱۳۳۷ھ / ۱۹۲۸ء) ، ایک نامور ہندوستانی قانون دان ، سیاست دان ، مؤرخ اور مصنف .
۲ ۲۷۲		* آ میر غنیۃ : رک بہ میر غانیہ .
۲ ۲۷۲		* الامیر الکبیر : مملوکوں کے عہد میں قدامت خدمت اور بزرگی کے اعتبار سے ممتاز امرا ، بالخصوص سالار اعظم کے لیے مخصوص اصطلاح .
۱ ۲۷۳		* آ میر کروڑ جہان پہلوان سوری : پشتو زبان کا قدیم ترین شاعر (م ۱۱۵۳ھ / ۱۷۷۱ء) .
۱ ۲۷۳		* آ میر المؤمنین : خلیفۃ المسلمین کے لیے مستعمل اصطلاح .
۲ ۲۷۵		* آ میر مجلس : صاحب مراسم ، شاہان سلاجقہ کا ایک اہم عہدیدار .
۲ ۲۷۵		* امیر المسلمین : المرابطون کے عہد میں امیر المؤمنین کے بالمقابل اصطلاح .
۱ ۲۷۶		* آ میر بینائی : امیر الشعراء مفتی امیر احمد (۱۲۴۴ھ / ۱۸۲۸ء تا ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۰ء) ، اسیویں صدی کے نصف آخر میں اردو کے نامور شاعر اور محقق زبان .
۲ ۲۷۹		* آمین : رک بہ آمین .
۲ ۲۷۹		* آمین : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب؛ بعد ازاں اکثر عہدیداروں کے القاب کا جز .
۲ ۲۸۰		* آمین : عہد آل عثمان میں ایک انتظامی عہدے دار .
۲ ۲۸۱		* الامین : محمد (۱۷۰ھ / ۷۸۷ء تا ۱۹۸ھ / ۸۱۳ء) ، عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا اور اس کا جانشین (از ۱۹۳ھ / ۸۰۹ء) .
۲ ۲۸۳		* امین بن حسن الحلوانی المدنی : ایک عرب سیاح اور مصنف (حیات ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۰ء) .
۲ ۲۸۵		* امین پاشا : Carl Oscar Edward ، فریقہ کا ایک ممتاز جرمن سیاح اور آبادکار (۱۲۵۶ھ / ۱۸۳۰ء تا ۱۸۹۲ھ / ۱۳۱۰ء) .
۲ ۲۸۸		* آمین جی بن جلال : ایک نام آور بوہرہ عالم فقہ اور مصنف (م ۱۰۱۰ھ / ۱۶۰۲ء) .
۱ ۲۸۹		* آیینہ : قدیم اسرائیلی روایات میں حضرت سلیمان کی ایک بیوی .
۱ ۲۸۹		* امینوکل : (Amenokal) ، کسی آزاد سیاسی رہنما کے لیے ہربری اصطلاح .
۲ ۲۸۹		* اُمیۃ (ہنو) : رک بہ خلافت ہنو .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۲۸۹		⊗ اُمیۃ بن ابی الصّات : زمانہ جاہلیت کا ایک عرب شاعر .
۲ ۲۹۱		* ⊗ اُمیۃ بن عبد شمس : بنو امیہ کا مورث اعلیٰ .
۲ ۲۹۳		* اناطولیہ : رگ بہ اناطولی .
۲ ۲۹۳		* اناہید : رگ بہ زہرہ .
۲ ۲۹۳		* اباد قلیس : (Empedocles)، ایک قدیم یونانی فلسفی .
۲ ۲۹۳		* الّابّار : دریائے فرات کے بائیں کنارے پر ایک شہر .
۲ ۲۹۳		* الّابّاری : (= ابن الّابّاری) ، ابوالبرکات عبدالرحمن بن محمد (۵۱۳/۵۱۱ تا ۵۷۷/۵۸۱ء) ، عربی زبان کا نحوی ، ماہر لسانیات اور مصنف .
۲ ۲۹۷		* الّابّاری : (= ابن الّابّاری) ، ابوبکر محمد بن القاسم ، (۲۷۱/۵۸۵ء تا ۳۲۸/۶۰۰ء) ، مشہور محدث و لغوی ابو محمد الّابّاری کا بیٹا اور کتاب الاضداد وغیرہ کا مصنف .
۱ ۲۹۸		* الّابّاری : ابو محمد القاسم بن محمد بن بشار ، ایک محدث و لغوی اور شارح المفضلیات (م نواح ۳۰۳/۵۹۱ء) .
۲ ۲۹۸		⊗ اَنبَالہ : بھارتی پنجاب کی ایک قسمت اور اس کا صدر مقام، نیز ایک اہم چھاؤنی .
۲ ۲۹۸		* اَلیاء : رگ بہ نبی .
۲ ۳۰۰		⊗ الّالیاء : قرآن مجید کی اکیسویں سورت .
۲ ۳۰۰		* الّالْبِیق : آلہ تقطیر یا آلہ کشید کا سر یا ٹوپی .
۲ ۳۰۱		* اَلمَرُو : جنوب مشرقی مدغاسکر کا ایک قبیلہ .
۲ ۳۰۲		* الّتیوک : (Antioch)، رگ بہ انطاکیہ .
۲ ۳۰۳		* الّجَمَن : محفل و مجلس وغیرہ کے معنوں میں مستعمل ایک کلمہ .
۲ ۳۰۳		* اَنجُو : (اینجو)، عہد مغلیہ میں شاہی جاگیریں ؛ نیز فارس (شیراز) میں شرف الدین محمود شاہ کا بنا کردہ حکمران خاندان (از ۵۰۳/۵۱۳ء تا ۵۵۸/۵۶۷ء) .
۱ ۳۰۶		⊗ اِنجیل : نصاری (عیسائیوں) کی کتاب مقدس .
۲ ۳۰۷		* اَندجان : فرغانہ کا ایک قصبہ .
۲ ۳۱۹		* اَندخوئی : (اَندخوذ) ، صوبہ مزار شریف (افغانستان) کا ایک شہر .
۱ ۳۲۱		* اَندراب : متعدد مقامات کا نام : (۱) شمالی افغانستان میں ایک ضلع ؛ (۲) مرو کے پاس ایک قصبہ ؛ (۳) اران میں ایک مقام ، موجودہ لبران ؛ (۴) دریائے اردبیل کے کنارے ایک مقام .
۱ ۳۲۱		* اَندرون : عہد سلاطین عثمانیہ میں محل شاہی میں کام کرنے والوں کے لیے مستعمل اصطلاح .
۲ ۳۲۱		* الّاندلس : (نیز الّاندلس) ، موجودہ ہسپانیہ اور پرتگال پر مشتمل قدیم اسلامی ملک ،

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۲۲		جہاں مسلمانوں نے آٹھ سو برس (۵۹۲/۶۱۱ تا ۵۸۹۴/۶۱۳۹۲) حکومت کی۔
۱ ۳۶۳		* آلدی : جمہوریہ اشتراکیہ داغستان میں آٹھ آئی پیریائی - قفقازی مسلم قبیلے۔
۲ ۳۶۴		⊗ انڈمان : خلیج بنگال میں، جزیروں کا ایک مجموعہ۔
۲ ۳۶۹		⊗ انڈونیشیا : بحر ہند اور بحر الکاہل کے درمیان ایشیا کے جنوب مشرق میں واقع ایک اسلامی ملک۔
۱ ۳۰۱		* انڈیا : رگ بہ ہندوستان۔
۱ ۳۰۱		⊗ انزلی : (Enzeli)، صوبہ گیلان (ایران) کے صدر مقام رشت کی بندرگاہ۔
۱ ۳۰۱		⊗ انس بن مالک : مشہور انصاری صحابی اور خادم رسول ﷺ (م نواح ۵۹۲/۶۱۰)۔
۲ ۳۰۲		* الانسان الکامل : تصوف کی ایک اصطلاح۔
۱ ۳۰۵		⊗ انشاء : سید انشاء اللہ خان (۱۱۶۹ - ۱۲۵۶/۵۱۱۰ - ۱۳۵۴ تا ۱۲۳۳/۱۸۱۷)۔
۲ ۳۰۸		* انشاء : دستاویز و مکتوب نویسی کے معنوں میں ایک علمی اصطلاح۔
۲ ۳۰۹		⊗ انشاء اللہ : ایک مخصوص اسلامی اصطلاح۔
۱ ۳۱۰		⊗ الانشراح : قرآن مجید کی چورانویں سورت۔
۲ ۳۱۱		⊗ الانشقاق : قرآن مجید کی چوراسیویں سورت۔
۲ ۳۱۲		⊗ انصاب : عربوں کے معبودان باطل کے معنوں میں مستعمل ایک قرآنی اصطلاح۔
۲ ۳۱۶		⊗ انصار : آنحضرت ﷺ کے مدنی مددگار دو قبیلوں اوس اور خزرج کے افراد۔
۲ ۳۲۲		⊗ الانصار (۲) : مدینے کے بنو اوس اور بنو خزرج، جنہوں نے مہاجرین کی حمایت و نصرت کی۔
۲ ۳۲۸		* الانصاری المہروی : المعروف بہ عبداللہ الانصاری (۵۳۹۶/۶۰۵ تا ۵۳۸۱/۸۹-۶۱۰)۔
۲ ۳۲۹		* الانطاکی : داؤد بن عمر (۵۹۵۰/۱۵۳۳ تا ۱۰۰۸/۱۵۹۹) ، ایک عثمانی عرب عالم، محقق، شاعر اور مصنف کتب طب و فلکیات و طبیعیات۔
۱ ۳۳۲		* الانطاکی : (ابو الفرغ)، یحییٰ بن سعید بن یحییٰ (۵۳۷۰/۶۹۸۰ تا ۵۳۵۸/۱۰۶۶) ، ملکی فرقے کا ایک عیسائی عرب طبیب اور مؤرخ۔
۱ ۳۳۳		* انطاکیہ : شمالی شام کا ایک قدیم و معروف شہر، سلطنت روما کی ایشیائی ولایات کا صدر مقام۔
۲ ۳۳۶		⊗ انطالیہ : (ادالیہ)، اناطولی کے جنوب میں خلیج انطالیہ کے کنارے اسی نام کی ولایت کا صدر مقام۔
۲ ۳۳۱		* انطروتوس : رگ بہ طروتوس۔
۲ ۳۳۱		* انطون قرح : رگ بہ قرح۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۳۱		⊗ الأَنْعَام : قرآن مجید کی چھٹی سورت .
۲ ۳۳۳		* اِنْف : علم الہیئت کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۳۵		* اِنْفَا : دارالبيضاء (کاسا بلانکا Casablanca) کا قدیم نام ، افریقہ کا ایک معروف شہر .
۱ ۳۳۵		⊗ الأَنْفَال : قرآن مجید کی آٹھویں سورت .
۲ ۳۳۹		⊗ الأَنْطَار : قرآن مجید کی بیسیویں سورت .
۱ ۳۵۰		⊗ اَنْقَرَه : جمہوریہ ترکیہ کا مرکز حکومت .
۱ ۳۷۵		* اَلْاِنْكِشَارِيَه : رگ بہ بنی چری .
۱ ۳۷۵		* اَنْگُورَه : رگ بہ انقرہ .
۱ ۳۷۵		* اَنْعَار : رگ بہ غطفان .
۱ ۳۷۵		* اَنْيَه : ایک مخصوص فلسفیانہ اصطلاح .
۲ ۳۷۶		* اَنْوَاء : قدیم عربوں کے ہاں (موسم کے) حساب کا ایک طریقہ .
۲ ۳۷۹		* اَنْوَار سَمِيْلِي : کلیلۃ و دمنۃ کا فارسی ترجمہ ؛ رگ بہ کاشفی .
۲ ۳۷۹		* اَنْوَح : (Enoch، احنوخ ، حنوک)، رگ بہ ادریس .
۲ ۳۷۹		⊗ اَنْوَر پاشا : ترکیہ کا مشہور قائد و سیاست دان ، وزیر جنگ ، انجمن اتحاد و ترقی کا ممتاز رہنما، احرار ترکوں کا سالار (م ۱۳۳۰ھ/۱۹۲۲ء) .
۱ ۳۸۹		⊗ اَنْوَرِي : اوحد الدین ، شاہان سلجوقیہ ، بالخصوص سلطان سنجر کے عہد کا عظیم صاحب دیوان فارسی شاعر (م نواح ۵۶۳ھ/۱۱۶۸ء) .
۲ ۳۹۶		* اَنْوَرِي : حاجی سعد اللہ افندی (۱۱۳۶ھ/۱۷۳۳ء تا ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۳ء) ، ایک عثمانی مؤرخ اور مصنف .
۲ ۳۹۷		* اِنْوَس : بحر ایجہ کے ساحل تراکیا (Thrace) پر واقع ایک قدیم شہر اور بندرگاہ .
۱ ۳۹۸		* اَنْوَشْرَوَان : ایران کا ساسانی شاہنشاہ خسرو اول (از ۵۳۱ء تا ۵۷۹ء) .
۱ ۳۹۹		* اَنْوَشْرَوَان بن خالد بن محمد الکاشانی : سلجوقی سلاطین کا وزیر اور مصنف (م ۵۳۲ھ/۱۱۳۷-۱۱۳۸ء) .
۲ ۳۹۹		* اَنْوَنُو : رگ بہ عصمت انونو .
۲ ۳۹۹		* اَنْهَلُوَاژَه : (نہر والہ ؛ آج کل پٹن) ، صوبہ بمبئی (بھارت) کا شہر ، سابقاً گجرات کی اسلامی سلطنت کا صدر مقام .
۲ ۵۰۰		* اَنْيَزَا : رگ بہ عنیزہ .
۲ ۵۰۰		⊗ اَنْيَس : میر پیر علی (۱۲۱۶ھ/۱۸۰۱ء - ۱۸۰۴ء تا ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۳ء) ، اردو کے نامور اور ممتاز مرثیہ گو شاعر .
۲ ۵۰۵		* اَوَائِل : ایک علمی اصطلاح .
۱ ۵۰۹		* اَوَاذِلَة : عَوَاذِلَة ؛ رگ بہ عَوَاذِلَة .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۰۹		* آوار : داغستان اور آذربائیجان کی اشتراکی جمہوریتوں میں آباد قفقاری قوم.
۱ ۵۱۲		* آوناد : ایک قرآنی، نیز متصوفانہ اصطلاح.
۱ ۵۱۲		* آوج : رگ بہ علم احکام النجوم.
۱ ۵۱۲		* آوجلہ : ایک سیراب و زرخیز خطہ، نیز برقہ (کیرنائق Cyrenaica) کے جنوب میں تین نخلستان.
۱ ۵۱۳		* الآوحد : نجم الدین ایوب؛ رگ بہ ایوبیہ.
۱ ۵۱۳		* آوحدی : (مراغی) رکن الدین (۵۶۸۰/۱۲۸۱ - ۶۱۲۸۲ تا ۵۷۳۸/۶۱۳۳۸) مشہور فارسی شاعر اور دہ نامہ و جام جم کا مصنف.
۱ ۵۱۵		* آود غوست : (یا اود غوشت)، افریقہ کا ایک قدیم (آجکل نابود) شہر.
۱ ۵۱۶		* آود فو : (آوتفو)، رگ بہ آدفو.
۱ ۵۱۶		* آودھ : اتر پردیش (بھارت) کا ایک علاقہ، اسلامی دور کا ایک اہم صوبہ اور اٹھارھویں - اسیسویں صدی عیسوی کی ایک مسلم سلطنت.
۱ ۵۲۰		* آور : (آوار)؛ رگ بہ آوراس.
۱ ۵۲۰		* آوراد : رگ بہ ورد.
۱ ۵۲۰		* آوراس : الجزائر میں سلسلہ کوہستان اطلس کا ایک حصہ.
۲ ۵۲۲		* آوراق و اسناد : (Archives)، رگ بہ (۱) یاش وکالت ارشوی؛ (۲) وثیقہ.
۲ ۵۲۲		* آورامار : رگ بہ آرابار.
۱ ۵۲۳		* آوران : (Oran)، رگ بہ وهران.
۱ ۵۲۳		* آورخان : یا آرخان (۵۶۸۷/۶۱۲۸۸ تا ۵۷۶۱/۶۱۳۵۹)، خاندان عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کا سب سے بڑا بیٹا اور جانشین (از ۵۷۲۶/۶۱۳۲۶ تا ۵۷۶۱/۶۱۳۵۹).
۲ ۵۲۸		* آورخان ولی کانک : (۱۹۱۳ تا ۱۹۵۰)، ترکی زبان کا ممتاز ترقی پسند شاعر.
۱ ۵۲۹		* آورشیلیم : رگ بہ اَلْقُدْس.
۲ ۵۲۹		* آورفہ : (Orfa)، رگ بہ الرہا.
۲ ۵۲۹		* آورگنج : رگ بہ خوارزم.
۲ ۵۲۹		* آورمز : (Ormuz)، رگ بہ ہرمز.
۲ ۵۲۹		* آورنگ آباد : (۱) سابقاً بہمتی سلطنت، پھر سلطنت مغلیہ اور بعد ازاں ریاست حیدر آباد دکن کا ایک اہم شہر، آجکل صوبہ بمبئی (بھارت) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام؛ (۲) ضلع گیا (بہار، بھارت) میں ایک قصبہ.
۱ ۵۳۰		* آورنگ آباد سید : اتر پردیش (بھارت) کے ضلع بلند شہر کا ایک چھوٹا سا قصبہ.
۱ ۵۳۰		* آورنگ زیب : رگ بہ محی الدین آورنگ زیب عالمگیر.
۱ ۵۳۰		* آورنوس : غازی، ایک ترک خانہ اور سید سالار (۵۸۷۰/۶۱۳۱۲).

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۵۳۲	* اورلوس اوغللری : غازی اورنوس کے اخلاف .	
۲ ۵۳۳	* اوروج : ایک قدیم عثمانی مورخ، مصنف تواریخ آل عثمان وغیرہ.	
۱ ۵۳۵	* اوریس : (Aures)، رگ بہ اوراس.	
۱ ۵۳۵	* الاوزاعی : ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو (۵۸۸/۴۷۰ تا ۵۱۵/۴۷۷)، شام کے ممتاز ترین فقیہ، محدث اور عالم.	
۱ ۵۳۵	* اوزون حسن : ترکمان خانوادہ آق قویونلو کا امیر، دیار بکر کا حاکم (از ۵۸۵۸/۱۳۵۳ء) اور بعد ازاں ارمینیا، الجزیرہ اور ایران کے علاقوں پر مشتمل ایک ریاست کا بادشاہ (از ۵۸۷۲/۱۳۶۷ء تا ۵۸۸۲/۱۳۷۸ء).	
۱ ۵۴۷	* الاوس : مدینہ منورہ کے دو بڑے قبیلوں میں سے ایک.	
۱ ۵۴۷	* اوس بن حجر : ابو شریح (نواح ۵۳۰ تا ۵۶۲/۵۳ء)، عہد جاہلیہ میں بنو تمیم کا سب سے بڑا شاعر.	
۲ ۵۴۹	* الاوسی : علی بن عثمان، سراج الدین الفرغانی الحنفی، مشہور عالم، مفتی، محدث اور مقبول عام عقائد نامہ القصیدۃ اللامیۃ فی التوحید وغیرہ کے مصنف (حیات ۵۶۹/۱۱۷۳ء).	
۲ ۵۵۰	* الاوسی : رگ بہ قطب الدین بختیار کاکی.	
۱ ۵۵۱	* اوغل : رگ بہ اغل.	
۱ ۵۵۱	* اوفات : (وفات) حبشہ کے علاقے مشرقی شوا (Shoa) میں واقع ایک مسلم سلطنت (۵۶۸۳/۱۲۸۵ء تا ۵۸۱۸/۱۳۱۵ء).	
۱ ۵۵۱	* اوقات : رگ بہ زمان.	
۱ ۵۵۲	* اوقاق : رگ بہ وقف.	
۱ ۵۵۲	* اوگنڈہ : رگ بہ یوگنڈہ.	
۱ ۵۵۲	* اولاد : مورث اعلیٰ یا کسی بزرگ قبیلہ کے نام سے پہلے آنے والا لفظ.	
۱ ۵۵۲	* اولاد البلد : سودان کی سہیدہ تحریک کے زمانے (۵۱۳۰۰/۱۸۸۱ء تا ۵۱۳۱۶/۱۸۹۸ء) میں شمالی دریائی علاقے کے قبائل.	
۱ ۵۵۲	* اولاد الشیخ : (بنو حمویہ)، شام میں ہجرت کر جانے والا صوفیہ اور شافعی فقہا کا ایک ایرانی خاندان؛ بانی : ابو عبداللہ محمد بن حمویہ الجوبینی (م ۵۵۰/۱۳۳۵ء).	
۱ ۵۵۳	* اولاد الناس : آزاد کردہ نومسلم اور تربیت یافتہ فوجی غلاموں پر مشتمل مملوکوں کا اعلیٰ طبقہ.	
۲ ۵۵۵	* اولجایتو : رگ بہ الجایتو.	
۲ ۵۵۶	* اولوئیہ : (ولورا، ولونا)، جنوبی البانیا کا ایک شہر.	
۲ ۵۵۶		

صفحہ عدد	اشارات	عنوان
۲ ۵۵۷		* اولیاء : رگ بہ ولی.
		* اولیا آنا : سوویت جمہوریہ کے صوبہ قزاق کے موجودہ شہر جمبول کا قدیم نام اور
۲ ۵۵۷		۶۱۹۱۷ سے قبل ضلع سیر دریا کا صدر مقام.
		* اولیا چلبی : بن درویش محمد ظلی (۱۰۲۰ھ / ۱۶۱۱ء تا نواح ۱۰۹۵ھ / ۱۶۸۳ء) مشہور
۲ ۵۵۸		ترکی سیاح اور مصنف سیاحت نامہ.
۱ ۵۶۵		* اول : یکے از اسماء الحسنیٰ؛ نیز ایک فلسفیانہ اور علمی اصطلاح.
۲ ۵۶۶		* اولیس اول : جلائری خاندان کا دوسرا بادشاہ (از ۵۶ھ / ۱۳۵۵ء تا ۷۶ھ / ۱۳۷۳ء).
۱ ۵۷۰		* اویس ثالی : جلائری خاندان کا ساتواں بادشاہ (از ۸۱۸ھ / ۱۴۱۵ء تا ۸۲۲ھ / ۱۴۱۹ء).
		* اویس القرنی : سید التابیین اویس بن عامر، ایک مشہور تابعی بزرگ (م نواح ۷۳ھ /
۱ ۵۷۰		۶۵ھ).
		* الاهدل : جنوب مغربی عرب میں حضرت جعفر صادقؑ کی اولاد میں سے سادات کا
۲ ۵۷۱		ایک خاندان.
		* امگر : (۱) شمالی طوارق کے سابقہ گروہ میں بعض قبائلی؛ (۲) قبیلہ امگر اور ان کا
۲ ۵۷۳		مقبوضہ علاقہ.
۱ ۵۷۵		* اہل : ایک معروف لسانی اصطلاح.
۱ ۵۷۶		* اہل الاثر : رگ بہ (۱) اہل الحدیث؛ (۲) اہل السنۃ والجماعۃ.
۱ ۵۷۶		* اہل الہواء : فرقہ باطلہ کے معنوں میں ایک اسلامی اصطلاح.
۱ ۵۷۶		* اہل البدعۃ : رگ بہ بدعۃ.
۱ ۵۷۶		* اہل البیت : ایک قرآنی اصطلاح.
۱ ۵۷۸		* اہل البیوتات : عربوں کے اعلیٰ اور اشرف خاندان اور قبیلے.
۲ ۵۷۸		* اہل التوحید : رگ بہ المعتزلہ.
۲ ۵۷۸		* اہل الجبل : ایک معروف لسانی و جغرافیائی اصطلاح.
		* اہل الحدیث : (نیز اصحاب الحدیث و اہل الاثر)، تمسک بالحدیث کا قائل ایک معروف
۱ ۵۷۹		دینی مکتب فکر.
۲ ۵۷۹		* اہل حدیث : ایک معین و مخصوص مسلک، جو ائمہ فقہ کی تقلید کا قائل نہیں.
۱ ۵۸۳		* اہل حق : مغربی ایران میں باطنی اور مخفی عقائد کا حامل گروہ.
۲ ۵۸۶		* اہل الحل العقد : خلیفہ یا حاکم کو مقرر یا معزول کرنے کے مجاز.
۱ ۵۸۷		* اہل الدار : رگ بہ الموحدون.
۱ ۵۸۷		* اہل الذکر : اہل ایمان اور علمائے دین وغیرہ کے لیے ایک قرآنی اصطلاح.
۱ ۵۸۸		* اہل الذمۃ : رگ بہ ذمۃ.
۱ ۵۸۸		* اہل السرای : رگ بہ اصحاب الراي.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۸۸		* اہل الردۃ : رگ بہ ردۃ۔ ⊙ اہل السنۃ والجماعۃ : سنت نبویہ و تعامل صحابہ پر مبنی مسلک ؛ ملت اسلامیہ کی سب سے بڑی جماعت۔
۱ ۵۸۸		* اہل الصفہ : (اصحاب الصفہ)، محض عبادت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پذیرگی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے صحابہ کرام کی جماعت۔
۲ ۵۹۱		* اہل العباء : رگ بہ اہل البیت۔
۲ ۵۹۳		⊙ اہل العدل : رگ بہ المعتزلہ۔
۲ ۵۹۳		* اہل الفرض : رگ بہ میراث۔
۲ ۵۹۳		* اہل القبالۃ : رگ بہ القبالۃ۔
۲ ۵۹۳		⊙ * اہل القبلیۃ : رگ بہ (۱) قبلیۃ ؛ (۲) اسلام ؛ (۳) مسلم۔
۲ ۵۹۳		* اہل القیاس : رگ بہ (۱) اصحاب الراۃ ؛ (۲) قیاس ؛ (۳) فقہ۔
۲ ۵۹۳		* اہل الکتاب : کسی الہامی کتاب کے ماننے والوں ، خصوصاً یہود و نصاریٰ کے لیے ایک قرآنی اصطلاح۔
۱ ۵۹۷		* اہل الکساء : رگ بہ اہل البیت۔
۱ ۵۹۷		* اہل الکھف : رگ بہ اصحاب الکھف۔
۱ ۵۹۷		⊙ اہل النظر : معتزلہ کی خود اپنے لیے ایجاد کردہ اصطلاح۔
۲ ۵۹۷		* اہل وارث : انڈونیشیا میں وارث کے معنوں میں مستعمل کلمہ۔
۲ ۵۹۷		⊙ اہلورد : Wilhelm Ahlwardt (۱۸۲۸ء تا ۱۹۰۹ء) ، مشہور المالوی مستشرق اور ابن الطقطقی کی کتاب الفخری وغیرہ متعدد کتابوں کا مرتب ۔
۲ ۵۹۸		* اہل الہواز : رگ بہ اہل الہواز۔
۲ ۵۹۸		* الہواز : یا آہواز ، ایران کا مشہور شہر اور صوبہ خوزستان کا صدر مقام۔
۲ ۵۹۹		* ایاد : حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے ایک بڑا عرب قبیلہ۔
۱ ۶۰۲		⊙ ایاز : اویماق ، ابو النجم ، امیر ؛ محمود غزنوی کا مقرب اور صوبہ لاہور کا حاکم (م ۵۳۳۹/۵۷۰ء)۔
۲ ۶۰۶		* ایاز : امیر، ہمدان کا حکمران (م ۵۳۹۳/۵۱۱۰ء)۔
۱ ۶۰۷		⊙ * ایاس بن معاویہ : ابو وائلہ ، (م ۵۱۲۱/۵۷۳ء) حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کے عہد میں قاضی بصرہ اور انتہائی ذہین و فطین شخصیت۔
۲ ۶۰۷		* ایاسلوق : رگ بہ آیا سولوک۔
۲ ۶۰۷		* آیالت : بیگریگی لک ، مملکت عثمانیہ میں ایک انتظامی اکائی۔
۲ ۶۱۳		* ایک : (ایبک) ، عزالدین ابو المنصور المعظمی ، والی دمشق (۵۵۹۷/۱۲۰۰ء تا ۵۶۱۵/۱۲۱۸ء) ، امیر صلخہ و زرغہ (م ۵۶۱۵/۱۲۱۸ء تا ۵۶۳۸/۱۲۳۹ء)۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۶۱۳		⊙ ایک : سلطان قطب الدین ، ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ (از ۵۶۰۲/۱۲۰۶ء تا ۵۶۰۷/۱۲۱۰ء) ، بانی خاندان غلاماں۔
۲ ۶۱۶		* آیت : بربری زبان کا ایک لاحقہ ، بمعنی بیٹا۔
۱ ۶۲۰		* ایتھنز : (Athens) ، رگ بہ آئینہ۔
۱ ۶۲۰		* ایجاب : ایک شرعی اصطلاح۔
۲ ۶۲۰		⊙ الایچی : عضد الدین عبدالرحمان بن احمد (۵۶۸۰/۱۲۸۱ء تا ۵۷۵۶/۱۳۵۵ء) ، شافعی مسلک کے ممتاز عالم ، نامور متکلم اور الموافق فی علم الکلام وغیرہ متعدد کتابوں کے مؤلف۔
۱ ۶۲۳		* ایچ اوغلان : (خادم اندرون) ، عثمانی سلاطین کے محل کے کم عمر خدمتگار۔
۱ ۶۲۵		* ایچ آیل : ایشیائے کوچک کا ایک سابق صوبہ : آجکل ولایت ادنہ (آٹنہ) میں ایک سنجاق۔
۲ ۶۲۵		* آیدین : رگ بہ آیدین۔
۲ ۶۲۵		* آیدین اوغلو : رگ بہ آیدین اوغلو۔
۲ ۶۲۵		* ایڈج : رگ بہ مال امیر۔
۲ ۶۲۵		* آئر : ۱۷ تا ۲۱ درجہ عرض البلد شمالی اور ۹ تا ۱۰ درجہ طول البلد شرقی کے درمیان واقع صحرائے اعظم کا پہاڑی علاقہ۔
۲ ۶۲۶		* آیر : (ایار ، ایار) ، شامی جنتری کا آٹھواں مہینا۔
۱ ۶۲۷		⊙ ایران : (قدیم نام پرسس Persis یا پرشیا Persia) پاکستان کا ہمسایہ ، مشہور اسلامی ملک۔
۱ ۷۰۱		⊙ ایرج میرزا : جلال الممالک (۵۱۲۹۱/۱۸۷۳ء تا ۵۱۳۳۳/۱۹۲۳ء) ، فتح علی شاہ قاجار کا پرپوتا اور عہد مظفرالدین شاہ قاجار میں صدر الشعراء۔
۲ ۷۰۳		* ایساغوجی : (Isagoge) ارسطو کے مقولات کے دیباچے کا عربی ترجمہ۔
۱ ۷۰۳		* آسپر : (Asper) ، رگ بہ آچہ۔
۱ ۷۰۳		* ایسیک کول : (ایسی گول) ، ترکستان میں ایک بڑی پہاڑی جھیل۔
۲ ۷۰۷		* ایشان : ترکستان میں شیخ ، مرشد اور پیر کے معنوں میں مستعمل کلمہ۔
۱ ۷۰۸		⊙ الابطاء : اصطلاحاً قافیے کا ایک عیب۔
۱ ۷۰۹		⊙ ایقاع : علم موسیقی کی ایک اصطلاح۔
۱ ۷۱۷		* ایلات : حکومت ایران کی اصطلاح کے مطابق خانہ بدوش لوگ۔
۱ ۷۱۸		⊙ ایلاف : قرآن مجید کی ایک سو نویں سورہ۔
۲ ۷۲۰		* ایلتمش : رگ بہ ایلتمش۔
۲ ۷۲۰		* آلہی : ترکی اصطلاح ، بمعنی قاصد۔
۲ ۷۲۲		* ایلخانیہ : ساتویں/آٹھویں صدی ہجری میں ایران میں ایک مغل حکمران خاندان۔
		* ایلاگیز : (ایلاگز) شمس الدین ، آذربائیجان کا اتابک ، ایک سلجوق غلام ، بعد ازاں اران

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۷۲۳		کا حکمران (م ۵۵۶۸/۷۱۱۷۲)۔
۱ ۷۲۳		* ایلدم، خلیل ادھم : (۱۸۶۱/۷۱۲۷۷ تا ۱۹۳۸/۷۱۳۵) ، ایک نامور ترک ماہر آثار قدیمہ اور مؤرخ۔
۱ ۷۲۵		* ایلغازی : اُرتقی خاندان کے دو نیم آزاد فرمائروا : (۱) نجم الدین ایلغازی اول بن اُرتقی (م ۵۵۱۶/۷۱۱۲۲) ؛ (۲) قطب الدین ایلغازی ثانی بن نجم الدین الہی (از ۷۵۷۲/۷۱۱۷۶ تا ۷۵۸۰/۷۱۱۸۳)۔
۲ ۷۲۸		* ایلک خانیہ : چوتھی سے ساتویں صدی ہجری/دسویں سے بارہویں صدی عیسوی تک وسط ایشیا کا ایک حکمران ترک خاندان ۔
۱ ۷۳۰		* ایلورا : دولت آباد (بھارت) کے قریب تاریخی اہمیت کے غار ۔
۲ ۷۳۰		* ایلول : (اللیل) ، شامی جنتری میں بارہویں اور ترکی تقویم میں نویں مہینے (ستمبر) کا نام۔
۲ ۷۳۰		* ایلہ : آجکل اسرائیل کے غیر قانونی قبضے میں خلیج عقبہ پر واقع ایک معروف بندرگاہ ۔
۲ ۷۳۰		* ایلہاء ابو ماضی : (۷۱۳۰۷/۷۱۸۸۹ تا ۷۱۳۷۷/۷۱۹۵۷) لبنان کا مشہور عربی شاعر اور صحافی۔
۲ ۷۳۲		* ایلہاء : رگ بہ القدس۔
۲ ۷۳۳		* ایمان : ایک شرعی اصطلاح ۔
۲ ۷۳۳		* ایمر : (ایمور) ، اوغز کا ایک قبیلہ ۔
۲ ۷۳۶		* ایمرتیا : رگ بہ قفقاز ۔
۱ ۷۳۸		* ایمیق : مغولی اور ترکی میں بمعنی قبیلہ یا قبائل کا گروہ اور آجکل صوبہ ۔
۱ ۷۳۸		* ایمن بن خریم : بن فاتک بن الاخرم الاسدی ، اموی عہد کا ایک نامور عرب شاعر۔
۲ ۷۳۸		* اینال : الملک الاشرف ، سیف الدین العلائی ، سلطان مصر و شام (از ۷۸۵۷/۷۱۳۵۳ تا ۷۸۶۵/۷۱۳۶۰)۔
۲ ۷۳۸		* آیتہ بختی : اہل وینس کے عہد میں خلیج کورنتھہ (قورنتہ) پر ایک خوش منظر مقام ، لپانتی (Lepante) کا ترکی نام۔
۲ ۷۴۰		* ایوان : (آیوان) ، ایک فارسی کلمہ، بمعنی دیوان خانہ شاہی۔
۲ ۷۴۱		* آیوز : (عیواض) ، سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں اونچے گھرانوں کے خدمت گار ، نیز کور اوغلو کی عوامی داستانوں کا مرکزی کردار ۔
۱ ۷۴۳		* آیار : ماہ مئی کے مطابق ترکی مہینا ۔
۱ ۷۴۳		* آیام التشریق : رگ بہ تشریق ۔
۱ ۷۴۳		* آیام العجوز : بحیرہ روم کے قریب واقع اسلامی ممالک میں آخر سرما کے دوران بے حد خراب موسم کے دن ۔
۱ ۷۴۳		* آیام العرب : زمانہ قبل از اسلام (تیسرا ابتدائی عہد اسلام) میں عرب قبائل کی باہمی جنگیں ۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۷۳۷		* آیام نحر : رگ بہ اشریق .
۲ ۷۳۷		* آیل : (ایل) پہاڑی بکرے کی قسم کا ایک جانور .
۲ ۷۳۸		* آیوب : قرآن مجید میں م۔ کور ایک سابق نبی .
۱ ۷۵۰		* آیوب خان : امیر افغانستان شیر علی خان کا چوتھا بیٹا اور امیر یعقوب خان کا بھائی (م ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء) .
۱۰ ۷۵۱		* آیوب خان : (محمد آیوب خان)، رگ بہ پا کستان .
۱ ۷۵۱		* آیوب صبری پاشا : سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج کا ایک افسر اور ادیب .
۲ ۷۵۱		* آیوب ، نجم الدین شازی : رگ بہ ایوبیہ (بنو ایوب) .
۲ ۷۵۱		* آیوب نجم الدین الملک الصالح : رگ بہ ایوبیہ .
۲ ۷۵۱		* آیوبیہ : (بنو ایوب) چھٹی - ساتویں صدی ہجری میں مصر ، شام ، فلسطین ، الجزیرہ اور یمن پر فرمانروا خاندان : بانی : سلطان صلاح الدین ایوبی .



www.bhatkallys.com

۱ ۷۷۷		* با : (= ابو) نسب کو ظاہر کرنے کے لیے مستقل کلمہ .
۲ ۷۷۷		* با : (الباء) رگ بہ ہجاء .
۲ ۷۷۷		* باب : دروازہ اور اسلامی عہد میں بالخصوص مساجد اور قلعوں میں اس کی طرز تعمیر .
۱ ۷۸۳		* باب : شیعہ مذہب کے ابتدائی دور میں امام وقت کے سب سے بڑے پیرو مختار .
۱ ۷۸۳		* باب : علی محمد الشیرازی (۱۲۳۶ء/۱۸۲۰ء تا ۱۲۶۶ھ/۱۸۵۰ء)، باب ہونے کا مدعی اور ایران میں بابی تحریک کا سرغنہ .
۲ ۷۹۰		* بابُ الأبواب : کوہ قفقاز کے مشرقی سرے پر واقع درے اور قلعے کا عربی نام .
۱ ۷۹۳		* باب آلان : باب اللان یا درِ الان (موجودہ داریال یا دریال) ، وسطی قفقاز میں ایک درہ .
۱ ۷۹۳		* باب الحديد : رگ بہ در آهنیں .
۱ ۷۹۳		* باب سر عسگری : یا سر عسکر قپوسی ، انیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا دفتر جنگ .
۲ ۷۹۳		* باب عالی : عثمانی ترکی کے عہد میں وزیر اعظم کے عہدے ، اس کے دفتر اور سرکاری قیام گاہ ، نیز وسیع تر معانی میں حکومت عثمانیہ کے لیے مستعمل اصطلاح .
۲ ۷۹۳		* باب المشیخة : (لیز شیخ الاسلام قپوسی ، باب فتویٰ) ، انیسویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ میں شیخ الاسلام یعنی مفتی اعظم استانبول کا دفتر یا محکمہ .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۷۹۶	* باب المندب : بحر احمر اور خلیج عدن کے درمیان کی آبائیں .	
۱ ۷۹۷	* باب ہمایوں : استانبول میں سلطان کے محل بینی سراى یا طوپ قپوسراى کا صدر دروازہ .	
۱ ۷۹۸	* بابا : ترکی و فارسی میں کلمہ احترام .	
۱ ۷۹۹	* بابا اسحق : رگ بہ بابائی .	
۱ ۷۹۹	* بابا اسکی : (بابائے عتیق) ، مشرق تراکیہ (Thrace) میں ایک چھوٹا سا قصبہ .	
۲ ۷۹۹	* بابا اسکیسى : رگ بہ بابا اسکی .	
۲ ۷۹۹	* بابا افضل الدین محمد : بن حسین الکاشانی ، المعروف بہ بابا افضل ، ایک ایرانی مفکر اور شاعر (م مابین ۵۶۵۳/۱۲۵۶ء و ۵۶۶۶/۱۲۶۸ء) .	
۱ ۸۰۱	* بابا بیگ : ایک اوزبک سردار ، ۵۱۲۸۷/۱۸۷۰ء تک حاکم شہر سبز (م نواح ۵۱۳۱۶/۱۸۹۸ء) .	
۲ ۸۰۱	* بابا طاغی : (بابا طغی) ، بابا صاری صالقی سے منسوب دوبروجہ (رومانیہ) کا ایک شہر .	
۱ ۸۰۳	* بابا طاہر : ایران کا مشہور صوفی رباعی گو (م ۵۳۰۱/۱۰۰۰ء) .	
۱ ۸۱۰	* بابا طغی : رگ بہ بابا طاغی .	
۱ ۸۱۰	* بابا فغانی : رگ بہ فغانی .	
۲ ۸۱۰	* بابان : بارہویں - تیرہویں صدی ہجری میں عراقی کردستان کا ایک حکمران خاندان ؛ بانی : احمد الفقیہ .	
۲ ۸۱۱	* بابائی : مغول حملے سے کچھ عرصہ پہلے ترکمان علاقے کی ایک مذہبی و مجلسی تحریک .	
۱ ۸۱۳	* بابر : ظہیر الدین محمد (۵۸۸۸/۱۳۸۳ء تا ۵۹۳۷/۱۵۳۰ء) ، ہندوستان کا پہلا مغل فرمائروا (از ۵۹۳۲/۱۵۲۶ء) ، شاعر اور توزک نگار .	
۱ ۸۲۰	* بابک : المأمون اور المعتصم کے ادوار خلافت میں آذربیحان کی ایک نیم سیاسی و نیم مذہبی تحریک کا سرغنہ (م ۵۲۲۳/۸۳۸ء) .	
۱ ۸۲۷	* بابل : ایک قدیم سلطنت (Babylonia) اور شہر (Babylon) .	
۱ ۸۲۹	* بابلیون : (Babylon) ، نواح قاہرہ (مصر) میں قرون وسطی کا ایک قدیم شہر .	
۱ ۸۳۰	* بابویہ القمی : ابو جعفر محمد الصدوق ، مشہور شیعہ محدث ، فقیہ ، باہر اسماء الرجال اور متعدد کتابوں کا مصنف (م ۵۳۸۱/۹۹۱ء) .	
۲ ۸۳۰	* بابیت : انیسویں صدی عیسوی میں ایران کی ایک اہم نیم سیاسی و نیم مذہبی تحریک .	
۲ ۸۳۹	* باتمان : رگ بہ بتمن .	
۰ ۸۳۹	* باتو (خالوادہ) : باتو خان نبیرہ چنگیز خان کے جانشین ، اردوے مٹلا کا حکمران خاندان (از ۵۶۳۸/۱۲۳۰ء تا ۵۹۰۸/۱۵۰۲ء) .	
۲ ۸۴۴	* باتو خان : ایک منگول شہزادہ ، روس کا فاتح اور اردوے مٹلا کا بانی (از ۵۶۳۸/۱۲۳۰ء تا ۵۹۰۸/۱۵۰۲ء) .	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۳۸		* ہاتھرسٹ : (Bathurst) ، مغربی افریقہ میں گمبیا (Gambia) کا صدر مقام اور بندرگاہ .
۱ ۸۳۹		* آلباتیہ : رگ بہ علم نجوم .
۱ ۸۳۹		* باج : فارسی لفظ باڑ کا معرب ، بمعنی خراج ، تاوان ، ٹیکس ، محصول چنگی .
۲ ۸۵۳		* باج : طوس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ، فردوسی کا مولد .
۲ ۸۵۳		* باجدا : عربوں کی حکومت کے دور وسطیٰ میں عراق کا ایک چھوٹا سا قلعہ بند شہر .
۲ ۸۵۳		* باجرسا : (باجرمق) ، عہد بنو عباس میں زاب خرد اور جبل حمیرین کے مابین ایک ضلع اور قدیم شہر .
۱ ۸۵۳		* باجروان : دو شہروں کا نام : (۱) آذربائیجان میں ، موغان کا ایک شہر اور قلعہ ؛ (۲) الجزیرہ میں دیار مضر کا ایک شہر .
۲ ۸۵۳		* باجسرا : بغداد کے قریب ایک قصبہ .
۱ ۸۵۵		* باجلان : عراق میں آباد ایک قبیلہ .
۱ ۸۵۶		* باجوری : (یا بیجوری) ، ابراہیم بن محمد (۵۱۱۹۸/۵۱۲۸۳ تا ۵۱۲۷۶/۵۱۸۶۰) ، ایک شافعی فاضل اور مصنف .
۲ ۸۵۶		* باجوڑ : پاکستان کے شمال مغربی کوہستانی علاقے کا ایک خطہ .
۱ ۸۵۷		* باجہ : (قدیم صورت Vaga ، آجکل Beja) ، تونس میں متعدد مقامات : (۱) تونس سے ایک سو کیلو میٹر مغرب میں ایک اہم شہر ؛ (۲) باجۃ الزيت ، ضلع رصفہ میں ایک ساحلی شہر ؛ (۳) باجۃ القدیمة : موجودہ شہر منوبہ کے قریب ایک قدیم بستی (اب ناپید) .
۲ ۸۵۹		* باجہ : (Beja) ، اندلس (آجکل پرتگال) کا ایک قدیم شہر اور ضلع .
۲ ۸۶۰		* الباجی : ابو الولید سلیمان بن خلف ، ممتاز اندلسی عالم اور مصنف (م ۵۳۷۴/۵۱۰۸۱) .
۱ ۸۶۲		* باحسان : رگ بہ حسان با .
۱ ۸۶۲		* باخرز : (گواخرز) ، خراسان میں دریائے ہرات کے کنارے ایک زرخیز خطہ .
۱ ۸۶۲		* الباخرزوی : ابو الحسن (و ابو الفاسم) علی بن حسن ، ایک عرب شاعر اور انتخاب کلام شعراء (دمیۃ القصر) کا مؤلف (م ۵۳۶۷/۵۱۰۷۵) .
۱ ۸۶۲		* باخمرا : قرون وسطیٰ میں عراق کا ایک مقام (آجکل ناپید) .
۲ ۸۶۳		* بادرایا : رگ بہ بدرہ .
۲ ۸۶۳		* بادیس : سراسر میں بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بندرگاہ اور شہر (اب ناپید) .
۱ ۸۶۵		* البادسی : تین لاسور سراسر : (۱) ابو یعقوب یوسف الزہلی البادسی ، آٹھویں صدی ہجری کے ایک متبحر فاضل اور ولی اللہ ؛ (۲) عبدالحق البادسی (حیات ۵۷۲۲/۵۱۳۲۲) ، مصنف المقصد الشریف ؛ (۳) علی بن محمد الشیخ الوطاسی ، ابوالحسن (و ابو عسول) ، صوبہ ریف کا جاگیردار (حیات ۵۹۵۶/۵۱۵۳۹) .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۸۶۵	⊗ بادشاہی مسجد، لاہور : رگ بہ مسجد .	
۲ ۸۶۵	* بادغیس : (بادغیس) ، افغانستان کا ایک شمال مغربی صوبہ .	
۱ ۸۶۶	* بادوریا : خلافت عباسیہ کے دور میں بغداد کے جنوب مغرب میں ایک ضلع .	
۲ ۸۶۶	* بادوسبانیہ : (بادوسبانیہ) ، ایک طویل عرصے (از ۵۳۵/۶۶۵ تا ۵۱۰۰۶/۱۵۹۹ء) تک بحیرہ خزر کا ایک چھوٹا سا حکمران خاندان .	
۲ ۸۶۸	* بادولت : رگ بہ اسیر یعقوب بیگ کاشغری .	
۲ ۸۲۸	* بادہوا : سلطنت عثمانیہ میں بے قاعدہ اور ہنگامی آمدنی کے لیے ایک مالیاتی اصطلاح .	
۱ ۸۶۹	* بادیس بن حبوس : رگ بہ زیری (بنو) .	
۱ ۸۶۹	* بادیس : بن المنصور بن بلقین (= بلکین) المعروف بہ نصیرالدولہ ابو مناد بادیس، افریقہ کا زیری فرمانروا (از ۵۳۸۶/۶۹۹۶ تا ۵۳۰۶/۱۰۱۶ء) .	
۱ ۸۷۰	* بادینان : رگ بہ بہدینان .	
۱ ۸۷۰	⊗ بادیہ : عرب میں متعدد بدوی آبادیاں .	
۱ ۸۷۲	* بارابہ : (بارایا) ، جمہوریہ اشتراکیہ نووسائبرسک میں واقع مغربی سائیریا کا وسیع چٹیل میدان .	
۱ ۸۷۳	⊗ باربیا د مینار : Barbier De Meynard (۱۸۲۷ تا ۱۹۰۸ء) ، فارسی، ترکی اور عربی زبانوں کا ماہر فرانسیسی مستشرق اور مروج الذهب، المسالک والمعالمک وغیرہ متعدد عربی کتابوں کا مرتب و مترجم .	
۲ ۸۷۳	* بارح : دائیں سے بائیں جانب گزرنے والا بدشگون جانور یا پرندہ .	
۱ ۸۷۵	* بارزان : عراق میں دریائے زاب کلاں کے کنارے ایک گرد گاؤں .	
۲ ۸۷۵	* بار فروش : (سابقاً ، بار فروش دہ) ، استان دوم (مازندران) کا سب بڑا تجارتی شہر .	
۱ ۸۷۶	* بارک زئی : رگ بہ افغانستان .	
۱ ۸۷۶	* بارما : رگ بہ حمرین (جبل) .	
۱ ۸۷۶	* بازود : نطف یا نفت، ایک کیمیائی آتش گیر مادہ .	
۱ ۹۱۱	* البارودی : محمود سامی (۱۸۳۹/۱۲۵۵ تا ۱۹۰۴/۱۳۲۲ء) ، معروف مصری سیاست دان اور صاحب دیوان شاعر .	
۱ ۹۱۵	* البارونی : سلیمان پاشا (۱۸۷۰/۱۲۸۷ تا ۱۹۳۰/۱۳۵۹ء) ، طرابلس الغرب کا ایک اباضی عالم اور سیاست دان .	
۱ ۹۱۷	* البارة : شمالی شام میں ایک مقام ، قرون وسطیٰ میں اسقفی شہر .	
۱ ۹۱۸	* بارہ دری : رگ بہ فن، تعمیر .	
۱ ۹۱۸	* بارہ سید : (یا سادات بارہ) ، ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے عہد زوال میں مشہور بادشاہ گرسید ہرادران (سید عبداللہ خان و حسین علی خان) کا خاندان .	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۹۲۱		* ② بارہ وفات : برعظیم پاک و ہند میں یوم وصال نبویؐ کے لیے مستعمل اصطلاح۔
۲ ۹۲۱		* بارہبرئیس : (Barhebraeus)، رگ بہ ابن العبری۔
۲ ۹۲۱		* ② الباری : رگ بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنیٰ۔
۲ ۹۲۱		* باز : رگ بہ بیزرہ۔
۲ ۹۲۱		* بازار : رگ بہ سوق
		* باز بہادر : اکبر (رگ باں) کے زمانے میں مالوے کا آخری خود مختار فرماں روا
۲ ۹۲۱		(م ۱۵۷۰/۱۵۷۸ء)۔
۲ ۹۲۲		* بازرگان : رگ بہ تجارت۔
		* باز لقر : (بزنکر)، مصری سودان میں خدیوی و مہدوی زمانوں میں آتشیں اسلحہ سے
۲ ۹۲۲		مسلح غلاموں کی فوج۔
		* بازو کیوں : (بازوکی)، شاہ اسماعیل صفوی اور سلطان سلیم کے عہد میں ایران یا
۱ ۹۲۳		ترکیہ میں آکر آباد ہونے والا ایک قبیلہ۔
۲ ۹۲۳		* بازہر : ہر قسم کے زہر کا تریاق۔
۲ ۹۲۶		* بازیرگان : (بیزیرگان، بازرگان)، عثمانی ترکی میں عیسائی اور یہودی تاجر۔
۱ ۹۲۷		* ② الباسط : رگ بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنیٰ۔
۱ ۹۲۷		* باسفورس : رگ بہ بوغاز اچی۔
۱ ۹۲۷		* باش دفتر دار : رگ بہ دفتر دار۔
		* باش وکالت آرشیوی : وزیر اعلیٰ کے دفتر کے مسودات، آج کل حکومتِ ترکیہ کے مرکزی
۱ ۹۲۷		سرکاری کاغذات (Archives)۔
۲ ۹۳۰		* باش وکیل : وزیر اعلیٰ کے لیے مستعمل ایک اصطلاح۔
۱ ۹۳۱		* باشا : رگ بہ پاشا۔
		* ② باشقورت : (باشقرد)، کوهستان یورال کے وسطی اور جنوبی حصے میں آباد ایک
۱ ۹۳۱		ترکی النسل قوم۔
۲ ۹۳۸		* باشمالیق : رگ بہ بشمقلیق۔
		* باشی بوزوق : (یا باشی بوزوق)، روزگار کی تلاش میں استانبول آنے والوں اور غیر فوجیوں
۲ ۹۳۸		کے لیے ایک عثمانی اصطلاح۔
		* باصہ چی : (راہزن)، روسیوں کی طرف سے ترکستان کی ۱۹۱۸ء میں سوویت دشمن
۲ ۹۳۸		مسلم انقلابی تحریک کا نام۔
۱ ۹۳۹		* باطل و فاسد : رگ بہ فاسد۔
۱ ۹۳۹		* باطمینان : رگ بہ (۱) باتمان ؛ (۲) بتمن۔
۱ ۹۳۹		* الباطن : شمال مشرقی عرب میں ایک وسیع وادی۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۹۳۹		* الباطن : رگ بہ (۱) اللہ : (۲) الاسماء الحسنی .
۲ ۹۳۹		* الباطنیۃ : مشرقی عرب میں ایک پست سطح کا ضلع .
۱ ۹۳۱		* باطنیۃ : قرآن مجید اور احادیث کے ظاہری الفاظ کے باطنی معنوں پر زور دینے والا اسماعیلی شیعہ فرقہ .
۲ ۹۳۳		* الباطیۃ : رگ بہ نجوم .
۲ ۹۳۳		* باعباد : حضرمی مشائخ اور علما کا خاندان .
۱ ۹۳۴		* الباعث : رگ بہ (۱) اللہ : (۲) الاسماء الحسنی .
۱ ۹۳۴		* باعلوی : (آل باعلوی) ، حضرموت کے شہر تریم کے آس پاس آباد جنوبی عرب کے سادات و صوفیہ کا ایک بارسوخ اور صاحب علم کتبہ .
۱ ۹۳۵		* الباعونی : حوران کے قریہ باعون (یا باعونہ) کی نسبت سے علما کا ایک خاندان .
۱ ۹۳۷		* باغ : جمالیاتی ذوق کے مطابق درخت یا پھول یا آرائشی پودے یا سبزہ اگا کر آراستہ اور مزین کردہ قطعہ زمین .
۲ ۹۳۹		* باغچہ سرا : (بغچہ سرا) ، خاندان گرای کے عہد میں تاتار ریاست قریم کا دارالسلطنت (از ۵۸۲۶ / ۱۴۲۳ء تا ۵۸۸۸ / ۱۴۸۳ء) ؛ آجکل سوویت یونین کا ایک اہم شہر .
۲ ۹۴۳		* بافضل : رگ بہ فضل ، با .
۲ ۹۴۶		* بافقیہ : رگ بہ فقیہ ، با .
۲ ۹۴۶		* الباقر : شیعہ فرقے کے پانچویں امام کا لقب ؛ رگ بہ محمد بن علی .
۲ ۹۴۶		* باقر گنج : سابق مشرقی پاکستان کا ایک سابق ضلع .
۲ ۹۴۶		* الباقلائی : محمد بن الطیب بن جعفر (۵۳۳۸ / ۹۵۰ء تا ۵۴۰۳ / ۱۰۱۳ء) ، ایک متبحر عالم ، اشاعرہ کے افضل المتکلمین اور بہت سی کتب کے مصنف .
۲ ۹۴۷		* باقلمون : رگ بہ ابو قلمون .
۲ ۹۸۰		* باقی : محمود عبدالباقی (۵۹۳۳ / ۱۵۲۶ء تا ۵۱۰۰۸ / ۱۶۰۰ء) ، ایک معروف ترکی شاعر .
۲ ۹۸۰		* باقی باللہ : حضرت خواجہ ابو المؤید رضی الدین ، المعروف بہ عبدالباقی یا محمد باقی نقشبندی (۵۹۷۱ / ۱۵۶۳ء تا ۵۱۰۱۳ / ۱۶۰۳ء) ، ہندوستان کے مشہور صوفی بزرگ اور حضرت مجدد الف ثانی کے مرشد .
۱ ۹۸۲		* باقی خالی : عباس قلی آغا (۵۱۲۰۹ / ۱۷۹۳ء تا ۵۱۲۹۱ / ۱۸۳۷ء) ، ایک آذربائیجانی مؤرخ ، شاعر اور فلسفی .
۱ ۹۸۳		* الباقی : رگ بہ (۱) اللہ : (۲) الاسماء الحسنی .
۱ ۹۸۳		* باکثیر : رگ بہ کثیری .
۱ ۹۸۳		* باکسایا : دریا کے دجلہ کے مشرقی میں ایک شہر . عہد عباسیہ میں ایک چھوٹا انتظامی ضلع .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۹۸۵	* ہاکو : جمہوریہ اشتراکیہ آذربائیجان کا صدر مقام .	
۲ ۹۸۷	* ہالا : (۱) ۱۸۳۶/۵۱۲۶۲ سے سابق عثمانی سول سروس کے ایک درجے کے لیے مخصوص لفظ ؛ (۲) ولایت انقرہ کی ایک قضا .	
۱ ۹۸۸	* بالاحصار : وسطی آناتولی میں ایک گاؤں .	
۲ ۹۸۸	* بالاحصار : پاکستان و افغانستان میں قدیم اثری ٹیلوں پر تعمیر شدہ قلعہ یا گڑھی، مثلاً پشاور اور کابل میں .	
۳ ۹۸۹	* ہالا کوٹ : ضلع ہزارہ (پاکستان) میں درہ کاغان کے دہانے پر واقع ایک قصبہ اور سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کی جائے شہادت .	
۲ ۹۹۶	* ہالا گھاٹ : وسطی اور جنوبی بھارت میں متعدد مرتفع علاقوں کا نام .	
۱ ۹۹۷	* ہالیک : رگ بہ بعلبک .	
۱ ۹۹۷	* ہالیس : شمالی شام میں دریائے فرات کے کنارے پرانے زمانے کا ایک شہر .	
۱ ۹۹۹	* ہالیش : (ترکی : یستق)، تیرھویں صدی عیسوی کا ایک مغولی سکھ .	
۲ ۱۰۰۰	* ہالیش : (ہلش ، Velez) ، ریف اور آئبیریا کی مختلف آبادیوں کے ناموں کا جز .	
۲ ۱۰۰۱	* ہالطہ جی : انیسویں صدی کے آغاز تک سلاطین عثمانیہ کے محل کے محافظ دستوں کے افراد .	
۱ ۱۰۰۳	* ہالطہ لیمالی : باسفورس کے یورپی ساحل پر واقع ایک شہر .	
۲ ۱۰۰۳	* ہالیغ : حد بلوغ کو پہنچنے والے افراد کے لیے ایک فقہی اصطلاح .	
۳ ۱۰۰۵	* ہالفروش : رگ بہ ہار فروش .	
۲ ۱۰۰۵	* ہالقی بن صافون : رگ بہ عوج بن عناق .	
۲ ۱۰۰۵	* ہالک : شہر یا قلعہ ، بہت سے شہروں کے ناموں کا جز .	
۱ ۱۰۰۶	* ہالی : جنوبی حبشہ میں مسلمانوں کی ایک تجارتی ریاست .	
۲ ۱۰۰۶	* ہالی : رگ بہ (۱) جاوا ؛ (۲) انڈونیشیا .	
۲ ۱۰۰۶	* ہالیار (جزائر) : رگ بہ سیورقہ .	
۲ ۱۰۰۶	* ہالیکسیری : (ہالیکسیر) ، ترکی امارت قرہ سی میں واقع ایک شہر .	
۱ ۱۰۰۷	* ہالیمز : (ہالیہ مز) ، سلطنت عثمانیہ میں مستعمل ایک چوڑی نالی کی توپ .	
۱ ۱۰۰۸	* ہالیوس : (ہالیوز) ، باب عالی میں وینس کے سفیر کا ترکی لقب .	
۲ ۱۰۰۵	* ہالخرمہ : رگ بہ مخرمہ ، ہا .	
۲ ۱۰۰۸	* ہالمدجج : رگ بہ السوینی ، سعد بن علی .	
۱ ۱۰۰۹	* ہالیان : افغانستان میں ایک تاریخی اہمیت کا حامل شہر اور ضلعی صدر مقام .	
۲ ۱۰۱۱	* ہان : طبی فوائد کا حامل سوهانجنہ کا درخت .	
۲ ۱۰۱۲	* ہانت سعاد : مشہور صحابی حضرت کعب بن زہیر کا مشہور لقب قصیدہ .	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۰۱۳		* باندہ : اتر پردیش (بھارت) میں ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۲ ۱۰۱۳		* بانکی پور : (یا عظیم آباد) ، پٹنہ کے مغرب میں اپنے کتاب خانے کے باعث معروف ایک بستی .
۱ ۱۰۱۵		* بانیاں : (یا بلنیاں) ، لٹاکیہ کے جنوب میں شام کا ایک چھوٹا سا ساحلی شہر .
۲ ۱۰۱۵		* باؤلی : برعظیم پاک و ہند میں سیڑھی والے کنوؤں کے لیے مستعمل اصطلاح .
۲ ۱۰۱۴		* باؤنی : مدھیہ پردیش (بھارت) میں واقع ایک سابق مسلم ریاست .
۱ ۱۰۱۸		* باورد : رگ بہ ابی ورد .
۱ ۱۰۱۸		* باوند : طبرستان میں سات سو سال سے زیادہ (۵۳۵/۶۶۵ء تا ۵۷۰/۶۳۹ء) حکومت کرنے والا ایک ایرانی خاندان .
۱ ۱۰۱۸		* باویان : موصل میں سنگ تراشی کے نمونوں کے باعث مشہور ، کردوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں .
۱ ۱۰۱۹		* باہرمز : رگ بہ ہرمز ، با
۲ ۱۰۱۹		* باہلہ : عرب قدیم کا ایک حضری و نیم حضری قبیلہ .
۲ ۱۰۱۹		* الباہلی : ابو نصر احمد بن حاتم الباہلی ، عرب ماہر لسانیات اور مصنف (م ۸۳۱ء)
۲ ۱۰۲۲		* الباہلی الحسین : رگ بہ الحسین الخلیج . (۶۸۳ء)
۲ ۱۰۲۲		* الباہلی : عبدالرحمن بن ربیعہ الباہلی ، المعروف بہ ذوالنور ، خلافت فزوق میں ایک عرب سپہ سالار اور ترکستان کے بعض علاقوں کا فاتح .
۲ ۱۰۲۳		* باہنگ : رگ بہ ملایا .
۲ ۱۰۲۳		* باہو : رگ بہ سلطان باہو .
۲ ۱۰۲۳		* بائبرت : رگ بہ یائی بورد .
۲ ۱۰۲۳		* بالیبیل : رگ بہ (۱) انجیل ؛ (۲) تورات ؛ (۳) زبور .
۲ ۱۰۲۳		* ہالی بورد : (بائبرت) ، آناتولی کے شمال مشرق میں ایک قصبہ اور ایک قضا کا مرکز .
۲ ۱۰۲۸		* ہالیدو : (ہاندو) ، رگ بہ ہیدو .



جلد ۲

صفحہ عمود

اشارات

عنوان

- * ہای : (Bey)، تونس میں ۲۶ جولائی ۱۹۵۷ء (قیام جمہوریہ) تک وہاں کے حکمرانوں کا لقب۔
- * ہایزید : (طوغو ہایزید)، کوہ ارارات کے جنوب میں سرحد ایران کے قریب ترکیہ کا ایک قصبہ۔
- * ہایزید اول : یلدرم (۵۵۵ھ/۱۳۵۳ء تا ۵۸۰ھ/۱۳۰۳ء)، عثمانی سلطان مراد اول کا بیٹا اور جانشین (از ۵۹۱ھ/۱۳۸۹ء)۔
- * ہایزید ثانی : (مابین ۵۸۵۱ھ/۱۳۴۷ء و ۵۸۵۷ھ/۱۳۵۳ء تا ۵۹۱۸ھ/۱۵۱۲ء)، سلطان محمد ثانی کا بیٹا اور مشہور عثمانی سلطان (از ۵۸۸۶ھ/۱۳۸۱ء)۔
- * ہایزید انصاری : (یا ہایزید)، پیرروشان (یاروشن) بن عبداللہ قاضی بن شیخ محمد (۵۹۳۱ھ تا ۱۵۲۵ء تا ۵۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء)، افغانوں کی ایک مذہبی اور قومی تحریک کے بانی اور خیرالبیان وغیرہ رسائل کے مصنف۔
- * ہایزید البسطامی : رگ بہ ابو یزید البسطامی۔
- * ہایسنغر : ایران کے خانوادہ آق قویلوٹو کا ایک سلطان (از ۵۸۹۶ھ/۱۳۹۰ء تا ۵۸۹۷ھ/۱۳۹۲ء)۔
- * ہایسنغر : غیاث الدین (۵۹۷ھ/۱۳۹۳ء تا ۵۸۳۷ھ/۱۳۳۳ء)، شاہ رخ کا بیٹا اور امیر تیمور کا پوتا۔
- * ہایسنغر : (۵۸۸۲ھ/۱۳۷۷ء تا ۵۹۰۵ھ/۱۳۹۹ء)، سمرقند کے تیموری سلطان محمود کا دوسرا بیٹا اور کچھ عرصے کے لیے اپنے والد کا جانشین (از ۵۹۰۰ھ/۱۳۹۳ء تا ۵۹۰۲ھ/۱۳۹۶ء)۔
- * ہایقرا : (نواح ۵۷۹۵ھ/۱۳۹۲ء تا ۵۸۱۹ھ/۱۳۱۶ء)، امیر تیمور کا پوتا اور بلخ کا حکمران۔
- * ہایقرا : (ثانی)، رگ بہ حسین مرزا بن منصور بن ہایقرا۔
- * ہایقرا : (ثالث)، بن عمر شیخ (حیات ۸۱۷-۵۸۱۸ھ/۱۳۱۳-۱۳۱۵ء)، ہمدان کا تیموری حکمران۔
- * بیغاء : (نیز بیغاء)؛ بمعنی طوطا۔
- * البیغاء : ابو الفرج عبدالواحد بن نصر (۵۳۱۳ھ/۹۲۵ء تا ۵۳۹۷ھ/۱۰۰۶ء تا ۱۰۰۷ء/۱۰۰۷ء)، ایک مشہور عرب شاعر اور انشا پرداز۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۲۳		* بُبْشْتَر : رگ بہ بُرْشْتَر.
۲ ۲۳		* بُت : رگ بہ بُد.
۲ ۲۳		* البتانی : (Albatenius 'Albetegni)، ابو عبد اللہ محمد بن جابر بن سنان البتانی الحرانی الصابی (نواح ۵۲۳۳ / ۵۸۵۸ تا ۵۳۱۷ / ۶۹۲۹)، ایک نامور عرب ہیئت دان اور الزیج وغیرہ متعدد کتابوں کا مصنف.
۲ ۲۳		* بَتَجَن : خط استوا کے قریب ایک چھوٹا سا انڈونیشی جزیرہ.
۱ ۲۶		* بَتَدِین : (بیت الدین)، بیروت سے پینتالیس کلومیٹر دور لبنان کا ایک قصبہ.
۱ ۲۶		* البُتْر : دو بڑے بربری قبائل میں سے ایک قبیلہ.
۲ ۲۶		* بَشْرُون : (یا بَشْرُون)، بیروت سے چھین کلومیٹر شمال میں لبنان کا ایک چھوٹا سا ساحلی شہر.
۱ ۲۸		* بَتِک، بَتِکچِی : ایک ترکی لفظ، بمعنی لکھا ہوا اور لکھنے والا.
۲ ۲۸		* بَتَلِیس : رگ بہ بَدِلیس.
۱ ۳۰		* بَتَمَن : رگ بہ وزن.
۱ ۳۰		* بَتَمِی : (باطوم)، اشترکی شورائیہ اجرستان کا صدر مقام اور بحر اسود کی بندرگاہ.
۱ ۳۰		* بتول : رگ بہ (۱) (حضرت) مریم * ؛ (۲) (حضرت) فاطمة الزهراء *.
۱ ۳۲		* بَتُولَجَه : رگ بہ مناستر.
۱ ۳۲		* بَشْرُون : رگ بہ بَشْرُون.
۱ ۳۲		* البَشْنِیَّة : جبل الدروز کے مغرب میں شام کا ایک معروف ضلع (صدر مقام : اذرعات).
۱ ۳۳		* بَشْنِیَّة : جمیل (رگ باں) کی محبوبہ.
۱ ۳۳		* بَجاق : جنوبی بس سریا (Bessarbia)، آج کل سلطنت روس کا حصہ.
۱ ۳۳		* بَجَانَه : (Pechina)، ایک قدیم ہسپانوی شہر، آج کل ایک چھوٹا سا قصبہ.
۱ ۳۵		* بَجَاوَه : رگ بہ بجہ.
۲ ۳۵		* بَجایہ : (Bougie)، الجزائر کا ایک ساحلی شہر.
۱ ۳۶		* بَجَه : (بجہ) دریائے نیل اور بحر احمر کے درمیان آباد خانہ بدوش قبائل.
۲ ۳۲		* بَجَه : رگ بہ باجہ.
۲ ۳۲		* بَجَث : رگ بہ میزانیہ.
۲ ۳۲		* بَجَم : (بجکم) اصلاً ایک ترک غلام، بعد ازاں عہد بنی عباس کا ایک امیر الامراء اور مشہور سپہ سالار (م ۵۳۲۹ / ۶۹۳۱ء).
۱ ۳۶		* البَجَلِی : الحسن بن علی بن ورسند، افریقہ میں مراکشی بہروں کے ایک فرقے کا پیشوا.
۲ ۳۶		* بَجَمَزِی : (یا بَجَمَزَا)، خلفائے عباسیہ کے عہد میں بغداد سے شمال مشرق میں ایک گاؤں، جہاں ایک اہم جنگ لڑی گئی.

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۶		* بجنور: اتر پردیش (بھارت) کا ایک ضلع اور مشہور شہر.
		* بجنورد: (بوجنورد)، کوہ الاطاع کے دامن میں خراسان کا ایک شہر اور اسی نام کا
۱ ۳۷		ایک ضلع.
۲ ۳۷		* بحرہ: ایک عرب قبیلہ.
۲ ۳۸		* بچق: رگ بہ بچاق.
		* البحری: ابو عباده الولید بن عبید اللہ (۶۰۰ھ/۵۲۰ء تا ۲۸۳ھ/۸۹۷-۸۹۸ء) ایک
		صاحب دیوان عرب شاعر، ادیب اور منتخب اشعار کے ایک مجموعے الحماسہ
۲ ۳۸		کا مرتب.
۲ ۵۲		* بحث: ایک علمی و فنی اصطلاح.
		* بحدل بن ائف بن ولجہ: بن قنافہ، بنو کلب کے عیسائی قبیلے بنو حارثہ بن جناب کا
۱ ۵۲		ایک فرد اور یزید اول کا نانا.
۲ ۵۲		* بحر: رگ بہ عروض.
۲ ۵۲		* بحر: سمندر، نیز مستقل طور پر بہنے والا ہر بڑا دریا.
۲ ۵۲		* بحر ایض: رگ بہ بحر الروم.
۲ ۵۲		* بحر آدریاس: بحر ایڈریٹک کا عربی نام.
۲ ۵۲		* بحر آسود: رگ بہ (۱) بحر بنتس: (۲) قرہ دنز.
۱ ۵۳		* بحر البتات: (بحر الکثر) خلیج فارس کے مغربی ساحل سے پرے ایک مجمع الجزائر.
۱ ۵۳		* بحر بنتس: (بنتس) یا بحیرہ آسود، ایک معروف سمندر.
۱ ۵۵		* بحر الخزر: بحیرہ کیسپین (Caspian) کا معروف عربی نام.
۲ ۵۶		* بحر خوارزم: (بحر یورال یا بحیرہ آرال)، رگ بہ آرال.
۲ ۵۶		* بحر روم: یا البحر الرومی، بحر متوسط (Mediterranean)، ایک مشہور سمندر.
۲ ۶۱		* بحر الزنج: خلیج عدن سے لیکر سفالہ اور مدغاسکر تک بحر الہند کا مغربی حصہ.
۲ ۶۲		* بحر ظلمات: رگ بہ بحر محیط.
		* بحر العلوم: ایک اعزازی لقب؛ عبدالعلی محمد بن نظام الدین الانصاری لکھنوی
		(۱۱۳۳ھ/۱۷۳۱-۱۷۳۲ء تا ۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ء) انیسویں صدی عیسوی
۲ ۶۲		کے بہت بڑے ہندوستانی عالم، شارح کتب اور متعدد تصانیف کے مصنف.
		* بحر غزال: (۱) بحر الجبل، بالائی نیل ایض کا ایک معاون؛ (۲) بحر غزال میں گرنے
۱ ۶۵		والی ندیوں کی گزرگاہوں کا علاقہ؛ (۳) جمہوریہ سوڈان کا ایک صوبہ.
۱ ۶۸		* بحر فارس: خلیج فارس.
۱ ۷۲		* بحر قلزم: قدیم ایام میں بحیرہ احمر کا معروف عربی نام.
۱ ۷۶		* بحر لوط: بحیرہ مردار (Dead Sea) کا جدید عربی نام.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۷۷		* بحر مایوطس : قدیم جھیل میوطن (Maecotis) اور موجودہ بحیرہ ازوف (Azov).
۲ ۷۸		* البحر المحيط : بحر اوقیانوس.
۲ ۸۰		* بحر المغرب : رگ بہ بحر الروم.
۲ ۸۰		* بحر الهند : (Indian Ocean)، دنیا کا ایک مشہور سمندر.
۱ ۸۳		* بحران : مہینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر حجاز کا ایک مقام.
۲ ۸۳		* بحرئ : جمال الدین محمد بن عمر بن مبارک بن عبداللہ بن علی الجمیری الحضرمی الشافعی (۵۸۶۹/۶۵ تا ۵۹۳/۱۵۲۳ء)، جنوبی عرب کے ایک عالم صوفی اور متعدد کتابوں کے مصنف.
۱ ۸۳		* بحرین : رگ بہ البحرین.
۱ ۸۳		* البحرین : کائنات اور اس کی ترکیب سے متعلق ایک قرآنی تصور.
۲ ۸۵		* البحرین : (بحرین)، خلیج فارس میں ایک ریاست.
۱ ۹۳		* البحریہ : مصر میں مملوکوں کا ایک فوجی دستہ.
۲ ۹۳		* بحرۃ : صحرائے لبیا میں نخلستانوں کا ایک مجموعہ.
۱ ۹۵		* بحرۃ : بحری بیڑہ یا بحری فوج.
۲ ۱۰۳		* بحشل : ابوالحسن سلم بن اسہل بن اسلم بن زیاد بن حبیب الزاز الواسطی، محدث، حافظ، مؤرخ اور واسط کی ایک تاریخ کا مؤلف (م مابین ۵۲۸۸/۱۰۱۰ء و ۵۲۹۲/۵۹۰ء).
۲ ۱۰۳		* البعوث : قرآن مجید کی نویں سورۃ التوبہ کا ایک نام (رگ بہ البراءة).
۲ ۱۰۶		* بحیرا : (بحیری)، آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے آپؐ کی نبوت کی پیشگوئی کرنے والا عیسائی راہب اور تورات و انجیل کا بڑا عالم.
۲ ۱۰۷		* بحیرہ : ایک لسانی و قرآنی اصطلاح.
۲ ۱۰۷		* بحیرۃ : بحر کی تصغیر، ایک جغرافیائی اصطلاح.
۲ ۱۰۷		* بحیرہ : مصری ڈیلٹا کا مغربی صوبہ یا مدیریہ.
۲ ۱۰۸		* البحیرۃ المیتۃ : (یا المنتنہ)، رگ بہ بحر لوط.
۱ ۱۱۰		* بخارا : عالم اسلام اور وسط ایشیا میں اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک عظیم مرکز، آج کل اشتراکی جمہوریہ ازبکستان کا صدر مقام.
۲ ۱۱۰		* بخارست : (Bucharest؛ ترکی : بکرش)، افلاق (Wallachia) کا ایک شہر، آج کل رومانیہ کا دارالحکومت.
۲ ۱۱۷		* بخارلک : (سائیریا کے بخاری)، مغربی سائیریا کا ایک چھوٹا سا مسلمان تاجر قبیلہ.
۲ ۱۱۹		* البخاری : امام ابو عبداللہ محمد بن اسمعیل ابن المغیرہ بن بردزبہ البخاری (۵۱۹۳/ تا ۵۸۰۹ء) فارسی الاصل، نامور محدث، ناقد حدیث،

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۱۳۰		امام اور صاحب الجامع الصحيح (صحیح بخاری)۔
۲ ۱۳۳		* البُخاری : ابوالمعالی علاؤالدین محمد بن عبدالباقی المکی ، خطیب مدینہ منورہ اور مصنف الطراز المنقوش فی محاسن الجبوش (حیات ۱۵۸۳/۵۹۹۱ء)۔
۲ ۱۳۳		* بخت خان : محمد بخش، برعظیم پاک و ہند کی جنگ آزادی (۱۸۵۷ء) میں آزاد فوجوں کا سپہ سالار اعظم (م ۱۸۵۹ء)۔
۲ ۱۳۶		* بختاور خان : اورنگ زیب (رگ بان) کا معتمد علیہ خواجہ سرا اور خدمت گار خاص (م ۱۶۸۵/۴۱۰۹۶ء)۔
۱ ۱۴۸		* بختگان : ایران کے صوبہ فارس میں کھاری پانی کی سب سے بڑی جھیل۔
۲ ۱۴۸		* بخت نصر : (بختر شہ، بنو کد نصر) ۵۸۶ ق م میں یروشلم پر حملہ آور ہونے والا بابلی سپہ سالار (م ۵۶۱ ق م)۔
۱ ۱۳۰		* بختی : سلطان احمد اول کا تخلص۔
۱ ۱۳۰		* بختیار : عراق، اہواز اور کرمان کے بویہی فرمانروا معزالدولہ کا بیٹا اور عزالدولہ کے نام سے اس کا جانشین (از ۵۳۵۶/۵۹۶۷ء تا ۵۳۶۶/۹۷۷-۹۷۷ء)۔
۱ ۱۳۱		* بختیار خلجی : رگ بہ محمد بختیار خلجی۔
۱ ۱۳۱		* بختیار کاکی : رگ بہ قطب الدین۔
۱ ۱۳۱		* بختیار نامہ : یا "دس وزیروں کی تاریخ"، سند باد کی ہندی داستان کا اسلامی چربہ۔
۱ ۱۳۲		* بختیاری : دسویں صدی عیسوی میں شام سے ترک وطن کر کے ایران آ بسنے والا مختلف النسل شیعویوں کا ایک گروہ۔
۲ ۱۳۳		* بختیشوع : اطبا کا مشہور و معروف عیسائی خاندان۔
۱ ۱۳۵		* البخراء : (Palmyrena)، عہد بنو امیہ کا قدیم مقام اور خلیفہ ولید ثانی کی جائے وفات۔
۲ ۱۳۵		* بخش : عہد مغول سے ایرانی و ترکی ادبیات میں مستعمل اصطلاح، بمعنی بھکشو، منشی وغیرہ۔
۱ ۱۳۶		* بخشیش : اکثر اسلامی زبانوں میں مستعمل لفظ، بمعنی انعام، عطیہ وغیرہ۔
۲ ۱۳۶		* بخل : کنجوسی کے معنوں میں معروف اصطلاح۔
۱ ۱۳۸		* بداء : لسائیات، نیز شیعہ علم کلام و عقائد کی ایک معروف اصطلاح۔
۲ ۱۳۱		* بداؤں : (بداؤں یا بداؤوں)، اتر پردیش (بھارت) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام۔
۱ ۱۳۳		* بداؤلی : (بداؤنی)، عبدالقادر، عہد اکبری کا مشہور عالم، مؤرخ اور منتخب التواریخ وغیرہ کا مصنف (م ۱۶۱۵/۴۱۰۳۳ء)۔
۲ ۱۳۳		* بدجوز : (Badajoz)، رگ بہ بطلیوس۔
۱ ۱۳۵		* بدخ : رگ بہ شاہ طاغ۔
		* بدخشان : (بدخشان)، آمو دریا کے بالائی حصوں میں قیمتی معدنیات کے لیے معروف

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱	۱۳۵	کوہستانی علاقہ.
۲	۱۵۱	* بُدَّ : (بُت کا معرب)، مندر، پگوڈا اور گوتم بدھ (یا کسی بھی بت) کے لیے مستعمل لفظ.
۱	۱۵۳	* بُدْر : مکے اور مدینے کے درمیان حجاز کا مشہور چشمہ اور مقام، عہد نبویؐ کی پہلی اہم جنگ غزوہ بدر کا محل وقوع.
۱	۱۵۴	* بُدْر (پیر) : شیخ بدر الدین بدر عالم، سلسلہ جنیدیہ کے ایک ولی (م ۸۳۳/۶۱۳۳۰).
۲	۱۵۴	* بُدْر بن حَسَنَوِيه : رگ بہ حَسَنَوِيه، بنو.
۲	۱۵۴	* بُدْر الجَمَالِي : فاطمیوں کے عہد کا مشہور سپہ سالار اور وزیر (م ۳۸۷/۶۱۰۹۳).
۲	۱۵۹	* بُدْر جَاج : سلطان محمد بن تعلق کے عہد کا ایک قصیدہ گو شاعر (م ق از ۵۲۲/۶۱۳۵۱).
۱	۱۶۱	* بُدْر خَانِي : دو حریت پسند کرد لیڈر: (۱) ثریا (۱۸۸۳ء تا ۱۹۳۸ء)؛ (۲) جلادت (۱۸۹۳ء تا ۱۹۵۱ء).
۲	۱۶۲	* بُدْر الخَرَشْنِي : کبدوقیہ (Cappadocia) کے مقام خرشنہ کا ایک امیر، خلیفہ القاہر باللہ ابو منصور کا حاجب اور الراضی کا معتمد (م ۳۳۰/۹۳۱-۶۹۳۲).
۱	۱۶۳	* بُدْر الدَّوْلَه : رگ بہ اَرْتَقِيَه.
۱	۱۶۳	* بُدْر الدِّين : رگ بہ لَوْلُو.
۱	۱۶۳	* بُدْر الدِّين بن قَاضِي سَمَاوَنَه : (۶۰/۱۳۵۸ء تا ۱۱۶/۶۱۳۱۶ء)، عہد عثمانیہ کا ایک مشہور فقیہ، صوفی اور کثیرالتصنیف مصنف.
۲	۱۶۵	* بُدْرَه : (بادرایا)، وسط عراق میں ایران کی سرحد کے قریب ایک چھوٹا سا تاریخی قصبہ.
۱	۱۶۶	* بُدْرِي ظُرُوف : دہات کی مرصع کاری.
۲	۱۶۶	* بُدْعَه : ایک فقہی اصطلاح.
۲	۱۶۷	* بُدَل : عثمانی عہد حکومت میں ایک مالیاتی اصطلاح.
۲	۱۶۹	* بُدَل : رگ بہ ابدال؛ نیز ایک نحوی اصطلاح.
۲	۱۶۹	* بُدَل عَسْكَرِي : رگ بہ بُدَل.
۲	۱۶۹	* بُدَل نَقْدِي : رگ بہ بُدَل.
۲	۱۶۹	* بُدْلَاء : رگ بہ ابدال.
۲	۱۶۹	* بُدْلِيْس : (بیتلیس)، مشرقی آناتولی کی ایک ولایت اور اس کا مرکزی شہر.
۱	۱۷۳	* بُدْلِيْسِي : ادریسی، دربار آق قویونلو کا کردی النسل نشانجی، مشہور خطاط، شاعر، عثمانی ترکوں کا مؤرخ اور ہشت بہشت وغیرہ کا مصنف (م ۲۶۶/۱۵۲۰ء).
۲	۱۷۵	* بُدْلِيْسِي : شرف الدین خان، ایک کردی الاصل فارسی مؤرخ اور مصنف شرف نامہ (حیات: ۱۰۰۸/۱۵۹۶-۱۵۹۷ء).
۲	۱۷۷	* بُدْن : رگ بہ جِسْم.
۲	۱۷۷	* بُدْن : رگ بہ بُودِيْن.

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۱۷۷		* بَدَن بَابَا : میسور (بھارت) کے ایک ولی۔
۱ ۱۷۸		* بَدُو : رگ بہ بلوی۔
۱ ۱۷۸		* بَدُوخ : ایک مصنوعی طلسماتی لفظ، نیز الوق، الحثک الغزالی وغیرہ۔
۱ ۱۸۰		* بَدَوَات : کاشغر (رگ بآن) کے امیر یعقوب بیگ کا لقب۔
		* بَدَوِي : مختلف ممالک، بالخصوص عرب و افریقہ کے صحرائین خانہ بدوش قبیلوں کے لیے ایک لسانی اصطلاح۔
۱ ۱۸۰		* البَدَوِي : رگ بہ احمد البدوی۔
۱ ۲۳۲		* البَدَوِيَّة : رگ بہ بدوی۔
۱ ۲۳۲		* بَدَوِيَع : بکے از اسماء الحسنیٰ (رگ بآن)؛ نیز ایک مستقل علم (علم البدیع)۔
		* البَدَوِيَعُ الْأَسْطَرَلَامِي : ابوالقاسم، عبہ اللہ بن الحسن بن احمد، ایک نامور عرب فاضل، طیب، قسبی، مہلت ذاق اور شاعر (م ۵۳۳ھ/۱۱۳۹ء-۱۱۳۰ء/۱۷۱۳ء)۔
۲ ۲۳۳		* بَدَوِيَعُ الْمَعْنِي : المعنی بہ قطب الحداد یا شاہ مدار، ہندوستان کے مشہور ولی (م ۸۳۳ھ/۱۴۳۰ء)۔
۲ ۲۳۵		* بَدَوِيَعُ الزَّمَان : رگ بہ الہمدانی (بدیع الزمان)۔
۱ ۲۳۷		* بَدَوِيل : رگ بہ ابدال۔
۱ ۲۳۷		* بَدَوِيلُ بْنُ وَرْقَاءِ الْعَزَازِي : صحابی رسول اللہ ﷺ (م ۱۰-۱۱ھ/۶۳۲-۶۳۳ء)۔
۲ ۲۳۸		* بَدَوِيْن : رگ بہ پاکستان۔
۲ ۲۳۸		* بَدَوِيْن : شہر یونان، ترکی ہنگری کا صدر مقام (نیز رگ بہ یوڈاپسٹ)۔
		* بَدَوِيْن : سلطان زین العابدین، کشمیر کے شاہ سیری سلاطین کا آٹھواں بادشاہ (از ۸۲۳ھ/۱۴۲۱ء تا ۸۷۷ھ/۱۴۷۲ء)۔
۲ ۲۳۷		* بَدَوِيْن : شیخ جونپوری، سلطان سکندر لودھی کے عہد (۸۹۳ھ/۱۴۸۸ء تا ۹۲۳ھ/۱۵۱۷ء) کے ایک شطاری بزرگ۔
۱ ۲۵۲		* البَدَوِيْنُون : (بزنٹی Pozanti)، سلسلہ کوہ طورس کے درے میں واقع ترکی کا ایک مشہور مقام؛ خلیفہ المأمون کی جاے وفات؛ موجودہ کلک بوغازی۔
۲ ۲۵۲		* البراءُ بْنُ عَازِبٍ : بن حارث الاوسی الانصاری، ابو عمارہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور راوی احادیث (م ۷۲ھ/۶۹۱ء-۶۹۲ء)۔
۱ ۲۵۳		* البراءُ بْنُ مَالِكٍ : بن النضر بن ضَمَمٍ الانصاری التجاری، حضرت انسؓ بن مالک کے بھائی، مشہور صحابی، مرد میدان اور مستجاب الدعوات (شہادت ۷۲ھ/۶۹۲ء)۔
۲ ۲۵۳		* البراءُ بْنُ مَعْرُورٍ : بن معر، ابو بشر الانصاری الخزرجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور جو سلمہ کے قیب (م ۱۵ھ/۶۲۲ء)۔
۲ ۲۵۵		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۲۵۶	لیز کسی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے معنوں میں ایک قہمی اصطلاح.	* برآءة : (۱) کسی الزام یا ناگوار شے سے نجات پانے،
۲ ۲۵۸		* برآءة : (۲) قرآن مجید کی نویں سورہ.
۱ ۲۶۱		* براہرہ : دریائے نیل کے کناروں پر پہلی اور تیسری آبشار کے درمیان آباد، قوی زبان بولنے والے مسلمان.
۱ ۲۶۲		* برات : ایک ترکی اصطلاح، بمعنی فرمان سلطانی.
۲ ۲۶۵		* برات لی : اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کی تجارتی و مالی مراعات یافتہ غیر مسلم آبادی.
۲ ۲۶۵		* برائثا : بغداد قدیم میں ایک تاریخی اہمیت کا محلہ.
۱ ۲۶۶		* برادوست : (برادست)، کردوں کے دو ضلعے.
۱ ۲۶۸		* ہزار : سابقاً سلطنت مغلیہ اور نظام دکن کی ریاست کا، پھر برطانوی ہند کا ایک صوبہ؛ آج کل مدھیہ پردیش (بھارت) کا ایک حصہ.
۱ ۲۶۹		* البراق : معراج میں آنحضرتؐ کی سواری.
۱ ۲۷۱		* براق حاجب : کرمان کے قتلخ خوانین کا پہلا خان (م ۵۶۳/۱۲۳۲ء).
۱ ۲۷۲		* براق خان : (برق خان)، چغتائی ریاست کا ایک فرمانروا (م نواح ۵۶۷/۱۲۷۱ء).
۲ ۲۷۳		* براکلمان : Carl Brockelmann (۱۸۶۸ تا ۱۹۵۶ء)، ایک مشہور جرمن مستشرق اور <i>Geschichte Der Arabischen Litteratur</i> (تاریخ الادب العربی) کا مصنف.
۲ ۲۸۲		* البرامکہ : (یا آل برمک)، خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور کے وزرا کا ایرانی الاصل خاندان.
۲ ۲۸۳		* البرائیس : بربروں کے دو بڑے گروہوں میں سے ایک گروہ.
۱ ۲۸۵		* براؤن : Edward G. Browne (۱۸۶۲ تا ۱۹۲۶ء)، ایک مشہور انگریز مستشرق اور مصنف <i>A Literary History of Persia</i> ، وغیرہ.
۱ ۲۸۶		* براہمہ : برہمن کی جمع.
۲ ۳۱۰		* براہولی : (بروہی)، پاکستان کے ضلع قلات کے باشندے اور ان کی زبان.
۲ ۳۱۱		* برہا : قبطی مصری اصطلاح، بمعنی عبادت گاہ یا قدیم یادگار عمارت.
۲ ۳۱۲		* برہر : قبائلی علاقہ، یعنی دریائے نیل کے دونوں کناروں پر پانچویں آبشار سے دریائے عطبرہ تک پھیلا ہوا علاقہ میرقاب، نیز ترکی و مصری عہد حکومت کا ایک صوبہ اور شہر.
۲ ۳۱۳		* برہر : مصری سرحد (سیوہ) سے بحر اوقیانوس کے ساحل اور دریائے نالیجر کے بڑے موڑ تک آباد ایک قوم اور ان کی زبان.
۱ ۳۳۹		* برہروسہ : رگ بہ خیرالدین.
۱ ۳۳۹		* برہری : (بربرا)، برطانوی شمالی لینڈ کے زیر حفاظت علاقے کا سابق صدر مقام اور بندرگاہ.

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۳۰		* بربری : پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکمنستان میں آباد مشرقی ہزارہ قبیلہ۔
۲ ۳۳۰		* بریشتر: (بیشتر)، سرقسطہ (مدینۃ البیضاء) کے شمال مشرق میں ایک قدیم شہر۔
۲ ۳۳۲		* بریط : رگ بہ عود۔
۲ ۳۳۲		* برہہ : رگ بہ بارابہ۔
		* البرہہاری : ابو محمد الحسن بن علی بن خلف البرہہاری، ایک نامور حنبلی عالم حدیث،
۲ ۳۳۲		فقہ اور مصنف (م ۵۳۲۹/۴۹۳۱)۔
۲ ۳۳۵		* البرت : (Portus)، جزیرہ نمائے آئیریا کے لیے عربی لفظ۔
		* برتقال : (پرتگال)، یورپ کا معروف ملک اور دریائے دویرہ Douira پر واقع ایک
۱ ۳۳۷		قدیم شہر۔
۲ ۳۵۰		* برتنگ : رگ بہ بدخشان۔
		* برج : دفاعی دہلیز یا محبس کے طور پر کام آنے والی اور فصیل قلعہ سے ملی ہوئی یا
۲ ۳۵۰		الک مستطیل یا مدور عمارت ۔
۱ ۳۵۱		* برج : عسکری فن تعمیر کی اصطلاح۔
۱ ۳۵۲		* برج : رگ بہ علم نجوم۔
۱ ۳۵۲		* برجرد : رگ بہ بروجرد۔
		* برجوان : ابوالفتح، ایک غلام، کچھ عرصے تک خلیفہ الحاکم کے عہد میں فرمانرواے
۱ ۳۵۲		مصر (م ۵۳۹۰/۴۱۰۰)۔
۱ ۳۵۳		* برجیہ : معلوک عہد کی ایک فوجی جمعیت۔
۲ ۳۵۵		* بردان : خلفائے عباسیہ کے زمانے میں عراق کا ایک شہر۔
۱ ۳۵۶		* بردر : جنوب مغربی ایشیائے کوچک میں ایک جھیل اور قصبہ۔
۲ ۳۶۷		* بردسیر : رگ بہ کرمان۔
۲ ۳۷۷		* بردو : شہر تونس سے سوا میل دور جنوب مغرب میں حکمرانوں (Beys) کی اقامت گاہ۔
		* بردة : (۱) اونی کپڑے کی دھاری دار چادر، خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
		کی وہ چادر جو آپؐ نے کعب بن زہیر کو ان کے قصیدے پر عطا فرمائی؛
۲ ۳۷۸		(۲) البوصیری (رگ بان) کا مشہور قصیدہ۔
۱ ۳۸۰		* بردی : یا بردان (موجود جیحون)، وسطی ایشیا کا ایک معروف دریا۔
۱ ۳۸۰		* بردی : (نیز ابنہ یا ابانہ)، الجبل الشرقی کی مشرقی ڈھلانوں پر بہنے والا سدا رواں دریا۔
۲ ۳۸۲		* بردیمان : (Bardesanes)، رگ بہ دیصانیہ۔
۲ ۳۸۲		* بردعة : (Partav)، قفقاز کے جنوب میں ایک قصبہ، سابقاً آران (قدیم البانیہ) کا دارالحکومت۔
۱ ۳۸۵		* بر : یکے از اسمائے الہی؛ نیز نیکی اور خیر کے مفہوم میں ایک قرآنی اصطلاح۔
		* البرادی : ابوالفضل ابوالحسین بن ابراہیم الدرعی، آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۳۸۷	عیسوی میں شمالی افریقہ کا ایک اباضی فاضل اور مصنف۔	
۱ ۳۸۸	* البراسان : (البراکن Albarracin)، رگ بہ رزین، بنو۔	
۱ ۳۸۸	* برّی : شاہ لطیف برّی قادری، پوٹھوہار (پاکستان) کے ایک بزرگ ولی (م ۱۱۱۷ھ/۱۷۰۵-۱۷۰۶ء)۔	
۲ ۳۸۹	* برّزال : بن ورنید، زناہہ گروہ کا ایک بربر اباضی قبیلہ۔	
۱ ۳۹۰	* البرزالی : علم الدین القاسم بن محمد بن یوسف (۵۶۶۵/۱۲۶۷ء تا ۵۷۳۹/۱۳۳۹ء)، ایک شامی مؤرخ، عالم حدیث اور مصنف۔	
۲ ۳۹۲	* برّزخ : ایک معروف اسلامی و قرآنی اصطلاح۔	
۲ ۳۹۳	* البرزلی : ابوالقاسم بن احمد بن محمد (م نواح ۵۸۳۳/۱۱۳۳ء)، قیروان کا ایک عالم حدیث و فقہ، تونس میں استاد فقہ اسلامی اور چند کتب کا مصنف۔	
۱ ۳۹۴	* برّزندہ : اردبیل کے ضلع گرمی میں ایک قصبہ۔	
۱ ۳۹۵	* برزولامہ : ابوالعلاء عطا بن یعقوب المعروف بہ تا کوک (م ۵۳۹۱/۱۰۹۸ء) سے منسوب ایک فارسی رزمیہ۔	
۲ ۳۹۶	* برّزویہ : (حصن برزیہ) شہر اور بکاس کے جنوب اور سیہون کے مشرق میں واقع ایک قلعہ۔	
۱ ۳۹۷	* برس : لب فرات کے شہر جلع سے نو میل جنوب مغرب میں ایک ویران موضع۔	
۱ ۳۹۸	* برسبای : الملک الاشرف ابوالنصر، مصر کا ایک مملوک سلطان (از ۵۸۲۵/۱۳۲۲ء تا ۵۸۳۱/۱۳۳۸ء)۔	
۱ ۴۰۰	* برسقی : سلاجقہ کبار کے عہد کا ایک بڑا منصب دار (م ۵۳۸۸/۱۰۹۴-۱۰۹۵ء)۔	
۲ ۴۰۲	* البرسقی : رگ بہ آق سنقر۔	
۲ ۴۰۲	* برسولہ : رگ بہ برشلونہ۔	
۲ ۴۰۲	* برسوق : رگ بہ برسق۔	
۲ ۴۰۲	* برسہ : (بورسہ، بروسہ)، کوہسار کشیش طاع کے دامن میں ایک شہر اور ۵۷۲۶/۱۳۲۶ء سے ۵۸۰۵/۱۴۰۲ء تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت۔	
۲ ۴۰۹	* برشاور : رگ بہ پشاور۔	
۲ ۴۰۹	* برشلونہ : (Barcelona)، جزیرہ نما آئیریا (الاندلس) کا ایک مشہور شہر۔	
۲ ۴۱۰	* برشوئیس : رگ بہ علم نجوم۔	
۲ ۴۱۰	* برصیصا : ایک نیم افسانوی نیم تاریخی شخصیت، سینٹ انطونی St. Antony کے زمانے کا ایک راہب۔	
۱ ۴۱۲	* برطاس : (برداس)، دریائے والگا کے طاس میں ایک وثنی المذہب قبیلہ۔	
۱ ۴۱۳	* برّحش : بن سعید، سلطان زنجبار (از ۵۱۲۸۷/۱۸۷۰ء تا ۵۱۳۰۶/۱۸۸۸ء)۔	
۱ ۴۱۵	* برّحش : (Burgos)، شمالی اندلس میں ایک صوبہ اور اس کا صدر مقام۔	

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۱۵		⊗ آرغواطہ : تیسری صدی ہجری کے آخر میں ایک نیا مذہب اختیار کرنے والا مضمودہ بربروں کا ایک گروہ۔
۱ ۳۱۹		* البرغوثیہ : محمد بن عیسیٰ الکاتب المعروف بہ برغوث کی طرف منسوب ایک فرقہ۔
۲ ۳۱۹		* برقی بابا : (باراق بابا)، ایلاخانی عہد کا ایک مشہور ترک درویش (م نواح ۷۰۷/۵۰۸ تا ۶۱۳)۔
۲ ۳۲۰		* برقعید : عباسی دور کا ایک چھوٹا سا شہر۔
۲ ۳۲۱		* برقلس : (Proclus) : ۴۱۰ یا ۴۱۲ تا ۴۸۵ء، ایتھنز میں درس گاہ فلسفہ (افلاطونی اکادمی) کا صدر اور متعدد کتابوں کا مصنف۔
۲ ۳۲۳		* برقوق : الملک الظاهر سیف الدین، چرکسی یا برجی سلسلہ معالیک کا مصر میں پہلا حکمران (از ۸۳۴/۵۸۲ تا ۸۰۱/۶۱۳)۔
۲ ۳۲۵		* برقہ : موجودہ المرج، افریقہ کا ایک شہر اور اس سے ملحقہ علاقہ، یعنی سرینیکا (Cyrenaica)۔
۲ ۳۳۰		* برکات : مکہ مکرمہ کے چار شریفوں کا نام : (۱) برکات اول : ابن حسن بن عجلان، شریفوں کے آخری سلسلے کا بانی (از ۸۲۱/۵۸۱ تا ۸۳۵/۶۱۳) و (از ۸۵۱/۵۸۱ تا ۸۵۹/۶۱۳)؛ (۲) برکات ثانی بن محمد بن برکات اول (از ۹۱۰/۵۹۱ تا ۹۳۱/۶۱۵)؛ (۳) برکات ثالث ابن محمد ابراہیم، برکات اول کا پوتا (از ۸۲/۵۱۰ تا ۹۳/۶۱۷)؛ (۴) برکات رابع ابن یحییٰ، برکات ثالث کا پوتا (از ۱۳۵/۵۱۳ تا ۲۳۳/۶۱۷)۔
۱ ۳۳۲		* برکۃ : ایک معروف اسلامی اصطلاح۔
۱ ۳۳۳		* برکہ خان : ایک مغول مسلمان شہزادہ، چنگیز خان کا پوتا، التون اردو کا فرمانروا (از ۶۵۳/۵۶۵ تا ۶۶۳/۶۱۲)۔
۲ ۳۳۵		⊗ برکہارٹ : J. L. Burkhardt (۱۱۹۸/۵۱۷ تا ۱۲۳۲/۶۱۸) ، ایک نامور مستشرق، سیاح اور مصنف۔
۲ ۳۳۶		⊗ برکی : پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ایک افغان خاندان یا قبیلہ۔
۱ ۳۳۱		* برکیاروق : بن ملک شاہ، چوتھا سلجوقی سلطان (از ۳۸۵/۵۹۳ تا ۳۹۸/۶۰۵)۔
۲ ۳۳۳		* برگس : (برغوس)، بلغاریا کی دوسری بڑی بندرگاہ اور پانچواں بڑا شہر۔
۲ ۳۳۵		* برگمہ : (برغمہ، برغامس)، مِسیا Mysia کا ایک شہر۔
۲ ۳۳۶		* برگوی : (برکوی، برکلی)، محمد بن پیر علی (نواح ۲۶/۵۲۰ تا ۲۳/۵۹۸)۔
۱ ۳۳۸		* برگہ : (برگی)، مغربی ایشیائے کوچک میں ایک چھوٹا سا قصبہ۔
۱ ۳۳۹		* برلام اور جوزالت : رگ بہ بلوہر و یوداسف (یوداسف)۔
۱ ۳۹۹		* بولس : (Brollos)، مصر کے ڈیلٹا کے شمال میں ایک ضلع اور جھیل۔
۱ ۳۵۰		* برما : جنوب مشرقی ایشیا کا ایک معروف ملک۔
۱ ۳۵۲		* برمک (آل) : رگ بہ برامکہ۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۵۲		* برمکیہ : رگ بہ برامکہ۔
۱ ۳۵۲		* برمنی : رگ بہ برما۔
۱ ۳۵۲		* برمہ : رگ بہ برما۔
۲ ۳۵۲		* برن : بلند شہر (بھارت) کا قدیم نام؛ رگ بہ بلند شہر۔
۲ ۳۵۲		* برنباس : رگ بہ انجیل۔
۲ ۳۵۲		* برنتہ : ترکی کے مشرقی حصے میں رائج ایک قدیم اصطلاح۔
۱ ۳۵۳		* برلق : رگ بہ بن غازی۔
۱ ۳۵۳		* برقی : ضیاء الدین (۵۶۸۳/۱۲۸۵ء تا ۵۷۵۸/۱۳۵۷ء)، سلاطین دہلی کے زمانے کا مؤرخ اور عالم، تاریخ فیروز شاہی وغیرہ کا مصنف۔
۲ ۳۵۵		⊙ البروج : قرآن مجید کی پچاسویں سورۃ۔
۲ ۳۵۶		* البروج : رگ بہ علم نجوم۔
۲ ۳۵۶		* بروجرڈ : ایران میں ہمدان سے اہواز جانے والی سڑک پر ایک شہر۔
۱ ۳۵۷		* بروج : رگ بہ بھڑوچ۔
۱ ۳۵۷		* بروسہ : رگ بہ برسہ۔
۱ ۳۵۷		⊙ برونی : (Brunei)، نیز دارالسلام، بورنیو کے شمال مغربی ساحل پر واقع ایک اسلامی خود مختار ریاست۔
۱ ۳۵۸		* بروہ : اطالوی شمالی لینڈ میں ایک ساحلی شہر۔
۱ ۳۵۹		⊙ برہان : ایک اصطلاح، بمعنی فیصلہ کن حجت یا قطعی اور واضح دلیل۔
۲ ۳۶۲		* برہان : پانچویں-چھٹی صدی ہجری/گیارہویں-بارہویں صدی عیسوی میں بخارا کا فرمانروا خاندان؛ نیز معروف بہ خاندان صدرالصدور۔
۲ ۳۶۲		* برہان عماد شاہ : رگ بہ عماد شاہ۔
۲ ۳۶۲		* برہان : تخلص محمد حسین بن خلف التبریزی، فارسی لغت برہان قاطع کا مؤلف (حیات ۱۰۶۲/۱۶۵۲ء)۔
۲ ۳۶۲		* برہان پور : مدھیہ پردیش (بھارت) کا ایک شہر، سابقاً فاروقی خاندان کا دارالحکومت (از ۵۸۰۱/۱۳۹۸ء تا ۵۱۰۱/۱۶۰۱ء)۔
۱ ۳۶۵		* برہان الدین قاضی احمد : مشرقی ایشیائے کوچک میں آذری بولی کا شاعر (م ۵۸۰۰/۱۳۹۸ء)۔
۲ ۳۶۷		* برہان الدین غریب : شیخ محمد بن ناصر الدین محمود (۵۶۵۳/۱۲۵۶ء تا ۵۷۳۸/۱۳۳۷ء)، حضرت شیخ جمال الدین ہانسویؒ کے بھانجے اور ایک صاحب وجد و حال بزرگ و فقیہ۔
۲ ۳۶۷		* برہان الدین قطب عالم : بن عبداللہ بن ناصر الدین بن جلال الدین، ثانی مخدوم جہانیاں (۵۷۹۰/۱۳۸۸ء تا ۵۸۵۷/۱۳۵۳ء)، ہندوستان کے مشہور

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۳۶۹	عالم اور صوفی بزرگ۔	
۱ ۳۷۱	* برہان الدین مرغینانی : رگ بہ المرغینانی۔	
۱ ۳۷۱	* برہان شاہ اول : رگ بہ نظام شاہ۔	
۱ ۳۷۱	* برہان شاہ ثانی : رگ بہ نظام شاہ۔	
	* برہان الملک : میر محمد امین سعادت خان، اودھ کے نواب وزیروں کے خانوادے کا بانی	
۱ ۳۷۱	(م ۱۱۵۱/۵۱۳۹ء)۔	
	* برہمن : منشی چندر بہان، عہد شاہجہان کا ممتاز شاعر، انشا پرداز اور مصنف	
۱ ۳۷۳	(م ۱۰۷۳/۵۱۶۶۲ء)۔	
۱ ۳۷۳	* برہوئی : (بروہی)، رگ بہ براہوئی۔	
۱ ۳۷۳	* برہوت : (بلہوت)، حضر موت میں ایک وادی۔	
۲ ۳۷۳	* برہیبریس : (Barhebraeus)، رگ بہ ابن العبری۔	
۲ ۳۷۳	* البریجہ : رگ بہ مرگان۔	
۲ ۳۷۳	* برید : ڈاک کے لیے عربی اصطلاح۔	
۲ ۳۷۷	* بریدہ : سعودی عرب کے ضلع القصیم کا صدر مقام۔	
	* بریدۃ بن العصیب : صحابی رسول اور قبیلہ سلم بن افسی کے سردار (م ۵۶۰/۵۶۸۰ء)	
۲ ۳۷۹	یا (۵۶۳/۵۶۸۳ء)۔	
۱ ۳۸۰	* برید شاہی : دکن میں حکمرانوں کا ایک خاندان؛ بانی : قاسم برید (م ۵۹۱۰/۵۱۵۰ء)۔	
	* البریدی : چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں بصرہ کے ایک بریدی (پوسٹ	
۲ ۳۸۲	ماسٹر) کے سیاسی اعتبار سے اہم تین بیٹے۔	
	* بریرۃ : حضرت عائشہ کی آزاد کردہ لونڈی اور مشہور صحابیہ (م مابین ۵۶۰/۵۶۸۰ء	
۶ ۳۸۳	و (۵۶۳/۵۶۸۳ء)۔	
	* بریلوی : برصغیر پاک و ہند میں اہل السنۃ والجماعۃ (حزب الاحناف) کا ایک مشہور مسلک؛	
۱ ۳۸۵	بانی : احمد رضا خان بریلوی قادری (۵۱۲۷۲/۵۱۸۵۶ء تا ۵۱۳۳۰/۵۱۹۲۱ء)۔	
۱ ۳۸۵	* بریلی : اتر پردیش (بھارت) کے ایک ضلع کا صدر مقام۔	
۲ ۳۸۸	* البریمی : مشرقی عرب میں ایک نخلستان اور ہستی۔	
	* بڑودہ : گجرات کاٹھیاواڑ کی ایک سابق ہندوستانی ریاست (جو اب صوبہ بمبئی میں شامل	
۱ ۳۹۱	ہے) اور اس کا صدر مقام۔	
۱ ۳۹۳	* بزّاحہ : بنو اسد یا بنو طی کے علاقہ نجد میں ایک کنواں۔	
۲ ۳۹۳	* بزاعہ : شمالی شام میں ایک مقام۔	
۲ ۳۹۳	* بزرتہ : رگ بہ بنزرت۔	
۲ ۳۹۳	* بزرجمہر : رگ بہ بزرگ مہر۔	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۹۳		* بزرگ (بن شہریار) : چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کا ایک ایرانی ناخدا اور عجائب الہند کا مصنف۔
۱ ۳۹۵		* بزرگ امید، کیا : نزاری اسماعیلیوں کا الموت (رگ باں) میں دوسرا داعی (۵۳۲م/۴۱۱۳۸)۔
۱ ۳۹۶		* بزرگ مہر : (بزر جمہر) ، ایک افسانوی شخصیت ، مبینہ طور پر خسرو اول انوشروان (چھٹی صدی عیسوی) کا وزیر۔
۲ ۳۹۷		* بزازستان : رگ بہ قیصریہ۔
۲ ۳۹۷		* بزم عالم : رگ بہ والدہ سلطان۔
۲ ۳۹۷		* بزلتی : رگ بہ البرندون۔
۱ ۳۹۸		* بزہ : رگ بہ بسطہ۔
۱ ۳۹۸		* بزیدخ : رگ بہ چرکس۔
۱ ۳۹۸		* بزین بن موسی : الحائک، امام جعفر الصادق (م ۸۰۸/۷۶۵) کا ایک ملحد ہم عصر۔
۲ ۳۹۸		* البساسیری : ابوالحارث ارسلان المظفر، عہد آل بویہ کے اواخر میں ایک اعلیٰ فوجی قائد (م ۱۰۶۰/۵۳۵)۔
۲ ۵۰۲		* بساط : رگ بہ قالی۔
۲ ۵۰۲		* بساؤن : عہد اکبری کا ایک ممتاز ہندو مصور (م نواح ۱۰۰۹/۱۶۰۰)۔
۲ ۵۰۲		* بسبرائے : بن ہری گربھ داس کایستھ، کرکارنی (حیات ۱۰۶۲/۱۶۵۱)، فارسی زبان کا ایک ہندو مصنف، سنسکرت کتاب وکرم چترم کا فارسی مترجم۔
۲ ۵۰۷		* بست : ایک فارسی اصطلاح ، بمعنی حرم، مامن ؛ نیز مظفرالدین شاہ قاجار کی نافذ کردہ اصلاحات۔
۱ ۵۰۹		* بست جالندھر، دوآبہ : رگ بہ دوآب۔
۱ ۵۰۹		* بست : سجستان کا ایک ویران شہر۔
۲ ۵۱۲		* بستان : رگ بہ (۱) باغ ؛ (۲) بوستان۔
۲ ۵۱۲		* بستانچی : بوستان جی، قدیم سلطنت عثمانیہ میں شاہی محلات کے باغات اور ناؤ گھروں کا نگران۔
۱ ۵۱۵		* بستانچی باشی : بستانچیوں کے اوجاق کا افسر اعلیٰ۔
۱ ۵۱۷		* بستان زادہ : سولہویں اور سترہویں صدی عیسوی میں نامور عثمانی علما کا ایک گھرانہ : (۱) مصطفیٰ افندی (بانی خاندان) ، تعلیمی اور عدالتی عہدوں پر فائز ایک معروف ترکی عالم (م ۱۵۷۷/۱۵۷۰) ؛ (۲) بستان زادہ محمد افندی بن مصطفیٰ افندی، قاضی دمشق، احیاء العلوم کا مترجم (م ۱۵۹۸/۱۰۰۶) ؛ (۳) یحییٰ بن محمد افندی (م ۱۶۳۹/۱۰۳۹) ، مصنف مرآة الاخلاق و گل صد برگ۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۵۱۸	(۱) پطرس بن پولوس بن عبداللہ البستانی	* البستانی : مارونی فرقے کا ایک علمی خاندان : (۱) پطرس بن پولوس بن عبداللہ البستانی
۲ ۵۲۱	(۲) سلیمان البستانی (۶۱۸۵۶ تا ۶۱۹۲۵) ، الیاذہ ہومیروس (ایلیڈ Iliad ، از ہومر) کے منظوم عربی ترجمے کا مصنف : (۳) ودیع البستانی (۶۱۸۸۸ تا ۶۱۹۵۳) ، مترجم رباعیات خیام وغیرہ .	* البستانی : ابوالفتح علی بن محمد ، چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی کا ایک صاحب دیوان عربی شاعر (م نواح ۵۳۰۰ / ۶۱۰۱۰) .
۲ ۵۲۲	بَسَجَرَت رَکْ بَہ بِاشْقَرَت .	* بَسَجَرَت رَکْ بَہ بِاشْقَرَت .
۲ ۵۲۳	بُسْعَاقِ : اَطْعَمَ ، ابو اسحق فخرالدین احمد بن حلاج ، صاحب دیوان شاعر ، "مطبخی" و "اشتبہائی" رنگ میں تحریف مضحک (Parody) کا استاد (م ۵۸۲۷ / ۶۱۳۲۳ یا ۶۱۳۲۷ / ۵۸۳۰) .	* بُسْعَاقِ : اَطْعَمَ ، ابو اسحق فخرالدین احمد بن حلاج ، صاحب دیوان شاعر ، "مطبخی" و "اشتبہائی" رنگ میں تحریف مضحک (Parody) کا استاد (م ۵۸۲۷ / ۶۱۳۲۳ یا ۶۱۳۲۷ / ۵۸۳۰) .
۱ ۵۲۳	بُسر : بن ارطاة بن عمیر ، پہلی صدی ہجری میں ایک عرب سپہ سالار اور بعض روایات کی رو سے صحابی (حیات ۵۶۰ / ۶۶۸۰) .	* بُسر : بن ارطاة بن عمیر ، پہلی صدی ہجری میں ایک عرب سپہ سالار اور بعض روایات کی رو سے صحابی (حیات ۵۶۰ / ۶۶۸۰) .
۱ ۵۲۴	بسریمی : (Besarmyans) ، شمالی روس میں آباد گلاروف تاتاری ، نسلی اعتبار سے ایک منفرد قوم .	* بسریمی : (Besarmyans) ، شمالی روس میں آباد گلاروف تاتاری ، نسلی اعتبار سے ایک منفرد قوم .
۱ ۵۲۶	بسی سریبا : (Bessarabia) ، رَکْ بَہ بِجَاقِ .	* بسی سریبا : (Bessarabia) ، رَکْ بَہ بِجَاقِ .
۲ ۵۲۶	بَسَط : صَوْقِیہ کی ایک اصطلاح .	* بَسَط : صَوْقِیہ کی ایک اصطلاح .
۱ ۵۲۷	بسطام : (بسطام) ، خراسان کا ایک شہر .	* بسطام : (بسطام) ، خراسان کا ایک شہر .
۱ ۵۲۸	بسطام : بن قیس بن مسعود بن قیس ، ابوالصہباء یا ابو زریق ، زمانہ جاہلیت کا بطل ، شاعر اور بنو شیبان کا سردار .	* بسطام : بن قیس بن مسعود بن قیس ، ابوالصہباء یا ابو زریق ، زمانہ جاہلیت کا بطل ، شاعر اور بنو شیبان کا سردار .
۲ ۵۲۹	البسطامی : رَکْ بَہ ابو یزید .	* البسطامی : رَکْ بَہ ابو یزید .
۲ ۵۲۹	البسطامی : عبدالرحمن بن محمد علی بن احمد الحنفی الحروفی ، ایک مشہور حنفی عالم ، صوفی اور مصنف (م ۵۸۵۸ / ۶۱۳۵۳) .	* البسطامی : عبدالرحمن بن محمد علی بن احمد الحنفی الحروفی ، ایک مشہور حنفی عالم ، صوفی اور مصنف (م ۵۸۵۸ / ۶۱۳۵۳) .
۱ ۵۳۰	البسطامی : علاء الدین علی بن محمد (۵۸۰۳ / ۶۱۳۰۰ تا ۵۸۷۵ / ۶۱۳۷۰) ، مؤلف شرح الکشاف وغیرہ .	* البسطامی : علاء الدین علی بن محمد (۵۸۰۳ / ۶۱۳۰۰ تا ۵۸۷۵ / ۶۱۳۷۰) ، مؤلف شرح الکشاف وغیرہ .
۲ ۵۳۰	بسطہ : (Baza) ، ہسپانیہ میں صوبہ غرناطہ کی ایک قسمت کا صدر مقام .	* بسطہ : (Baza) ، ہسپانیہ میں صوبہ غرناطہ کی ایک قسمت کا صدر مقام .
۲ ۵۳۱	بسکرہ : الجزائر کے جنوب مشرق اور صحرائے اعظم کے شمالی کنارے پر ایک قصبہ .	* بسکرہ : الجزائر کے جنوب مشرق اور صحرائے اعظم کے شمالی کنارے پر ایک قصبہ .
۲ ۵۳۳	بسکسک آہازہ : (روسی) ، ایک مسلمان قوم کا روسی نام .	* بسکسک آہازہ : (روسی) ، ایک مسلمان قوم کا روسی نام .
۲ ۵۳۶	بسکہ بے : رَکْ بَہ بِشْکَہ (Beshike) .	* بسکہ بے : رَکْ بَہ بِشْکَہ (Beshike) .
۲ ۵۳۶	بسلی : رَکْ بَہ چرکس .	* بسلی : رَکْ بَہ چرکس .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۵۳۶		* بِسْمِ اللّٰهِ : رُكَّ بَه بِسْمَلَةَ.
۲ ۵۳۶		* بِسْمِجِي : سوویت حکام کے خلاف ترکستانی مسلم اقوام کی ایک انقلابی تحریک (۱۹۱۸ تا ۱۹۳۰ء).
۲ ۵۳۶		* بِسْمَلَةَ : بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا.
۲ ۵۳۶		* بستی : ملطیہ سے حلب اور کلیکیا سے دیار بکر جانے والی سڑکوں کے مقام اتصال پر ایک بستی.
۱ ۵۳۱		* البسوس : بنت منقذ بن سلمان التمیمیہ، ایام العرب کی ایک روایتی شخصیت.
۱ ۵۳۲		* بسیط : رُكَّ بَه عَرُوض.
۱ ۵۳۳		* بسیط و مرکب : نحو، طب اور فلسفے کی ایک اصطلاح.
۱ ۵۳۳		* البسیط : رُكَّ بَه (۱) اللّٰهُ؛ (۲) الاسماء الحسنی.
۲ ۵۳۳		* البسیط : (Albacete)، ہسپانیہ میں اسی نام کے صوبے کا سب سے بڑا شہر.
۲ ۵۳۳		* البشارات : (Alpujarras)، ہسپانیہ میں جبل الثلج (Sierra Nevada) پر مشتمل کوہستانی خطہ اور اس میں واقع سرسبز وادیاں.
۱ ۵۳۵		* بشارین : بحر احمر اور عطبرا ندی کے قریب ایک خانہ بدوش بچہ قبیلہ.
۱ ۵۳۶		* بشلیق : مشرقی ترکستان کا ایک قدیم اور آج کل ویران شہر.
۲ ۵۳۶		* بش ہرمق : ایشیائے کوچک اور دیگر علاقوں میں پہاڑی سلسلوں کے ترکی نام.
۲ ۵۳۷		* بشجرت : (بشکرت)، رُكَّ بَه باشقرت.
۱ ۵۳۹		* بشر بن ابی خازم : چھٹی صدی عیسوی کے نصف آخر (عہد جاہلیت) میں بنو اسد بن خزیمہ کا ممتاز ترین عرب شاعر.
۱ ۵۳۹		* بشر بن البراء : ایک مدنی خزر جی صحابی (م نواح ۵۷/۶۲۹ء).
۲ ۵۵۰		* بشر بن غیاث : بن ابی کریمہ (عبدالرحمن) ابو عبدالرحمن المرسی، فرقہ مرجئہ کا ایک ممتاز عالم دینیات (م ۵۲۱۸/۸۳۳ء).
۱ ۵۵۱		* بشر بن مروان : بن الحکم، ابو مروان، ایک اموی شہزادہ (م نواح ۵۷۳/۶۹۳ء).
۲ ۵۵۲		* بشر بن المعتز : ابو سهل الہلالی، ایک معتزلی عالم (م مابین ۵۲۱۰/۸۲۵ء و ۵۲۶۶/۸۳۰ء).
۱ ۵۵۵		* بشر بن الولید : بن عبدالملک، ایک اموی شہزادہ، اپنی علمیت کے باعث معروف بہ عالم بنو مروان (حیات ۵۱۲۷/۷۳۵ء).
۲ ۵۵۶		* بشر العالی : ابو نصر بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن ہلال بن ماہان العالی (نواح ۵۱۵۱/۷۶۸ء تا نواح ۵۲۲۶/۸۳۱ء)، ایک صوفی بزرگ.
۱ ۵۵۷		* البشر : مشرقی شام میں سلیم اور تغلب کے درمیان ایک لڑائی کا مقام.
۱ ۵۶۳		* بشرا : (Basharra)، شمالی لبنان کا ایک بہت قدیم موضع.
۲ ۵۶۳		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۴ ۵۶۳		* بشار بن برد : ابو معاذ ، دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی میں عراق کا مشہور صاحب دیوان عربی شاعر (حیات ۵۱۶ء / ۴۷۸ء)۔
۲ ۵۷۰		* بشار الشعیری : دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی میں کوفے کا ایک شیعہ دانشور۔
۱ ۵۷۱		* بشکر : رگ بہ باشقرت۔
۲ ۵۷۱		* بشکطاش : (بشقطاش)، رگ بہ استانبول۔
۲ ۵۷۱		* البشکش : (Basques) ، ساحل بحر اوقیانوس پر جبل البرانس (Pyrenees) کے مغرب میں آباد ایک قوم۔
۱ ۵۷۲		* بشکہ : (بشکہ کورفزی، بسکہ)، ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر جزیرہ بوزجہ آطہ کے بالمقابل ایک خلیج۔
۲ ۵۷۲		* بشک : رگ بہ سکہ۔
۲ ۵۷۲		* بش محاسبہ : رگ بہ میزانہ۔
۲ ۵۷۲		* بشمق : (باشماق)، رگ بہ النعل الشریف۔
۲ ۵۷۲		* بشمقلیق : عثمانی دور حکومت میں بعض جاگیری بحاصل کے لیے مستعمل اصطلاح۔
۲ ۵۷۳		* بشیر بن سعد : السابقون الاولون میں سے انصاری خزر جی صحابی (۵۱۲م / ۴۶۳ء)۔
۱ ۵۷۳		* بشیر چلبی : نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی کا ایک نامور ترک طبیب۔
۲ ۵۷۳		* بشیر شہاب ثانی : بن قاسم بن عمر حیدر الشہابی (۵۱۸۰ / ۶۱۷ء تا ۵۱۲۶ / ۶۱۸۰ء)۔
۲ ۵۷۳		* (۶۱۸۵ء)، لبنان کا امیر (از ۱۷۸۸ء تا ۱۸۳۰ء)۔
۲ ۵۷۸		* البصرہ : شط العرب پر زبرین دوآبہ عراق کا ایک مشہور شہر۔
۲ ۵۸۳		* البصرۃ : مراکش کا ایک قصبہ (اب ناپید)۔
۲ ۵۸۵		* بصری (Bostra) ، جنوبی شام کا ایک شہر۔
۲ ۵۹۰		* البصیر : ابو علی الفضل بن جعفر الانباری النخعی الکاتب، تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی کے نصف آخر کا ایک شاعر (م مابین ۵۲۵۶ / ۶۸۶۹ء و ۵۲۷۹ / ۶۸۹۲ء)۔
۲ ۵۹۱		* بصیری : (نواح ۵۸۷۰ / ۶۱۳۶۵ء تا ۵۹۳۲ / ۶۱۵۳۵ء)، ترکی اور فارسی کا مشہور شاعر۔
۲ ۵۹۲		* البطائح : رگ بہ البطیحة۔
۲ ۵۹۲		* البطائحی : ابو عبداللہ محمد بن فاتک، ملقب بہ المأمون، فاطمی خلیفہ الامر کا وزیر (م نواح ۵۵۱۹ / ۶۱۱۲۵ء)۔
۲ ۵۹۳		* البطاحرة : (بطحری)، جنوبی عرب کے ساحل پر جزائر کوریہ مورہ کے بالمقابل آباد ایک مختصر سا کم حیثیت قبیلہ۔
۲ ۵۹۳		* بطرس البستانی : رگ بہ البستانی۔
۲ ۵۹۳		* البطروجی : نورالدین ابو اسحق، اندلس کا ایک عرب ہٹ دان، کتاب فی الہیئة کا مصنف اور مشہور فلسفی ابن طفیل (م ۵۸۱ / ۶۱۱۸۵ء) کا دوست اور شاگرد۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۹۵		* بطروش : (Pedroche) ، ہسپانیہ کے ضلع پوزوبلانکو (Pozoblanco) میں ایک چھوٹا سا مقام.
۱ ۵۹۶		* بطریق : لاطینی لفظ Patricius کا معرب، عیسائیوں کا ایک مذہبی عہدے دار.
۱ ۵۹۷		* البَطَّال : ابو محمد عبداللہ المعروف بہ سید بطل غازی، اموی عہد میں بوزنطہ کے خلاف جنگوں میں عربوں کا سالار اور بعض رزمیہ داستاتوں کا ہیرو.
۱ ۵۹۷		* بطلمیوس : (Ptolemaeus) ، ایک یونانی سائنس دان ، جغرافیہ نگار ، ماہر علم ہیئت و موسیقی وغیرہ.
۲ ۶۰۱		* بَطْلِيس : رگ بہ بدلیس.
۲ ۶۰۷		* بَطْلِيوس : (Badajoz) ، ہسپانیہ کا ایک صوبہ اور اس کا قلعہ بند صدر مقام.
۲ ۶۰۷		* البَطْلِيوسِي : ابو محمد عبداللہ بن محمد (۵۳۳ھ/۱۰۵۲ء تا ۵۵۲ھ/۱۱۳۷ء) ، ایک مشہور اندلسی نحوی، فلسفی اور متعدد کتابوں کا مصنف.
۲ ۶۰۹		* بطن : ایک مختلف المعانی عربی اصطلاح.
۲ ۶۰۹		* بَطْنان : حلب کے مشرق میں ایک وادی.
۲ ۶۱۰		* البَطِيحَة : دلدلی زمین، خصوصاً شمال میں کوفے اور واسط اور جنوب میں بصرے کے درمیان دریائے فرات اور دجلہ کی زبرین گزرگاہ.
۲ ۶۱۲		* بَطِين : رگ بہ علم نجوم.
۱ ۶۲۳		* بَعث : اوس و خزرج میں ۶۱۷ء کی لڑائی کا مقام.
۱ ۶۲۳		* بَعث : ایک کثیر المعانی دینی و قرآنی اصطلاح.
۲ ۶۲۳		* بَعَث : رگ بہ نبی.
۲ ۶۲۹		* بَعْقوبه : (بعقوبا)، بغداد سے ۴۰ میل شمال مشرق میں ایک شہر.
۲ ۶۲۹		* بَعْل : مختلف المعانی لفظ : (۱) شوہر؛ (۲) آقا و مالک؛ (۳) وہ پودا یا درخت جو زمین کے اندرونی آبی ذخائر سے سیراب ہو؛ (۴) حضرت الیاسؑ کی قوم کا بت.
۱ ۶۳۰		* بَعْلَبَك : اندرون لبنان میں ایک قصبہ، ہیلیوپولس (Heliopolis) کے قدیم شہر کے کھنڈروں کے لیے معروف.
۲ ۶۳۳		* البَعِيث : خدش بن بشر المجاشعی، بصرے کا ایک ہجو گو شاعر (م ۱۳۳ھ/۷۵۲ء).
۱ ۶۳۷		* بَغَا الشَّرَائِي : الصغیرہ، نیز المخاطب بہ مولی امیر المؤمنین، المتوکل کا ترک سپہ سالار (م ۲۵۳ھ/۸۶۸ء).
۲ ۶۳۷		* بَغَا الكَبِير : ایک ترک نژاد فوجی سردار، المعتصم اور اس کے جانشینوں کے عہد کا ایک ممتاز سپہ سالار (م ۲۳۸ھ/۸۶۲ء).
۱ ۶۳۸		* بَغِيور : رگ بہ فغفور.
۲ ۶۳۸		* بَغْدَاد : دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد عراق کا دارالسلطنت، خلافت عباسیہ کا دارالخلافہ اور عالم اسلام کا ثقافتی مرکز.
۲ ۶۳۸		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۶۷۷		* بغداد خاتون : ایک نامور ایرانی خاتون، امیرالاسراء امیر چوبان کی بیٹی اور امیر حسن جلائری اور بعد ازاں ایلخانی سلطان ابوسعید کی بیوی (م ۵۷۳۶/۶۱۳۳۵)۔
۱ ۶۷۸		* البَغْدَادِي، الخطيب : رگ بہ الخطيب البغدادي۔
۱ ۶۷۸		* البغدادي : عبدالقادر بن عمر؛ رگ بہ عبدالقادر۔
۱ ۶۷۸		* البغدادي : ابو منصور عبدالقادر بن طاهر الشافعي، ایک معروف عالم اور الہیات، فقہ، حساب اور وراثت وغیرہ پر متعدد کتابوں کا مصنف (م ۵۳۲۹/۶۱۰۳۷)۔
۱ ۶۷۹		* بُغْدَان : (بُغْدَان ایل)، صوبہ مولداوہ (Moldavia) کا ترکی نام۔
۱ ۶۸۲		* بُغْرَا : ساندنی، دم پخت گوشت وغیرہ، نیز وسط ایشیا کے متعدد امیروں کا نام۔
۱ ۶۸۲		* بُغْرَا خان : رگ بہ قرہ خانیہ۔
۱ ۶۸۲		* بُغْرَاس : (قدیم نام پجراہی Pagrae)، انطاکیہ سے اسکندریہ جانے والی سڑک پر ایک شہر۔
۲ ۶۸۳		* البَغْطُورِي : مَقْرِين بن محمد، ایک اباضی مؤرخ، سوانح نگار اور مصنف سیر مشائخ نفوسہ (حیات ۵۵۹۹/۶۱۲۰۲)۔
۱ ۶۸۳		* بَغْل - خَجَر۔
۱ ۶۸۵		* بَغْلِي : رگ بہ درہم۔
۱ ۶۸۵		* البَغْوِي : محی السنۃ ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد الفراء، شافعی مذہب کے عالم محدث، مفسر قرآن اور مصنف (م ۵۵۱۰/۶۱۱۱۷ یا ۵۵۱۶/۶۱۲۲۲)۔
۱ ۶۸۶		* بَقَاء و فَنَاء : دو صوفیانہ اصطلاحات۔
۲ ۶۸۸		* البَقَاع : (بکا)، علم طبقات الارض کی ایک اصطلاح اور لبنان کا ایک میدان۔
۲ ۶۸۹		* بَقْر : گائے، بیل۔
۲ ۸۹۰		* بقراط : (Hippocrates)، ایک قدیم یونانی دانشور اور فلسفی۔
۱ ۶۹۲		* بَقْر عِيد : رگ بہ (۱) بیرام (= بیرم)؛ (۲) عید۔
۱ ۶۹۲		* البَقْرَة : قرآن مجید کی دوسری اور سب سے بڑی سورہ۔
۲ ۶۹۳		* بَقْط : یونانی دنیا میں باہمی ذمہ داریوں سے متعلق ادائیگیوں پر مشتمل معاہدہ۔
۱ ۶۹۵		* البُقْعَة : رگ بہ البقاء۔
۱ ۶۹۵		* البِقَارَة : سودان کے عربی بولنے والے خانہ بدوش قبائل
۱ ۶۹۶		* بَقَال : کنجڑا، پرچون فروش۔
۱ ۶۹۷		* بَقَم : رنگنے کے کام آنے والی سپن کی لکڑی۔
۱ ۶۹۸		* البَقْلِيَة : عراق زبیرین کے سواد میں قرامطہ سے منسلک ایک فرقہ۔
۲ ۶۹۸		* البِقُوم : حجاز اور اس کے نواح میں آباد ایک قبیلہ۔
۱ ۶۹۹		* بَقْمَة : خراسان کے اغز قبائل کا ایک سردار (حیات ۵۳۳۵/۶۱۰۳۳)۔
۱ ۶۹۹		* بَقِي بن مَخْلَد : ابو عبدالرحمن الاندلسی، الحافظ (۵۲۰۱/۶۸۱۷ تا ۵۲۷۶/۶۸۸۹)۔

اشارات

عنوان

صفحہ عمود

- قرطبہ کے ایک نامور محدث ، مفسر اور مصنف۔
- ۲ ۶۹۹ * بقیع الغرقد : (جَنَّةُ الْبَقِيْعِ)، مدینہ منورہ کا قدیم ترین اور پہلا اسلامی قبرستان۔
- ۱ ۷۰۰ * البقیعہ : البقاع کے شمال اور جبل انصاریہ کے جنوب میں چشموں سے پر ایک چھوٹا سا میدان۔
- ۲ ۷۰۱ * بک : رگ بہ پیگ۔
- ۱ ۷۰۲ * بکباہی : رگ بہ بن یاشی۔
- ۱ ۷۰۳ * بکتاش : رگ بہ بکتاشیہ۔
- ۱ ۷۰۲ * بکتاشیہ : ترکیہ میں حاجی بکتاش ولی سے منسوب ایک سلسلہ درویشاں۔
- ۱ ۷۰۳ * بکتگین : رگ بہ بکتگین (بنو)۔
- ۲ ۷۰۵ * بکر صوباشی : مرکزی عراق کا ایک فوجی سالار اور صوبائی گورنر (حیات ۱۰۲۹ھ/۱۶۲۰ء)۔
- ۲ ۷۰۵ * بکر بن وائل : عرب قبائل کا ایک گروہ۔
- ۱ ۷۰۶ * بکرش : رگ بہ بخارسٹ۔
- ۱ ۷۱۱ * البکری : رگ بہ (۱) بکریہ؛ (۲) [محمد بن عبدالرحمن صدیقی و محمد بن محمد] صدیقی۔
- ۱ ۷۱۱ * البکری : ابوالحسن احمد بن عبداللہ بن محمد ، اسلام کے ابتدائی سنین سے متعلق بعض قصوں کا مصنف یا راوی (اواخر تیسری صدی ہجری)۔
- ۱ ۷۱۱ * البکری : عبداللہ رگ بہ ابو عبید۔
- ۱ ۷۱۲ * البکری : ابوالمکارم شمس الدین محمد بن عبدالرحمن الصدیقی الشافعی الاشعری (۵۸۹۸ھ/۱۳۹۲ء تا ۵۹۵۲ھ/۱۵۴۵ء)، ایک عرب شاعر اور صوفی۔
- ۱ ۷۱۲ * البکری بن ابی السرور : طریقہ بکریہ (سلسلہ شاذلیہ) کے مصری شیوخ کے خاندان کے دو عرب مصنف : (۱) محمد بن ابی السرور بن محمد بن علی الصدیقی (م ۱۰۲۸ھ/۱۶۱۹ء)، مصنف عیون الاخبار ونزہۃ الابصار؛ (۲) ابو عبد اللہ شمس الدین محمد بن محمد (۵۱۰۰۵ھ/۱۵۹۶ء تا ۱۰۶۰ھ/۱۶۵۰ء)، بعض اہم تاریخی کتب کا مؤلف۔
- ۲ ۷۱۲ * البکری : محبی الدین مصطفیٰ بن کمال الدین بن علی الصدیقی الحنفی الخلوی (۱۰۹۹ھ/۱۶۸۸ء تا ۱۱۶۲ھ/۱۷۴۹ء)، ایک عرب مصنف اور صوفی۔
- ۲ ۷۱۳ * البکریہ : ابوبکر وفائی (م ۹۰۲ھ/۱۴۹۶ء) سے منسوب دہشتوں کا ایک سلسلہ۔
- ۲ ۷۱۳ * البکریہ : حضرت ابوبکرؓ کی اولاد۔
- ۲ ۷۱۳ * بکسر : صوبہ بہار (بھارت) کے ضلع شاہ آباد میں ایک شہر اور انگریزوں کے ساتھ ایک اہم جنگ کا محل وقوع۔
- ۲ ۷۱۳ * بکاء : بکثرت گریہ و زاری کرنے والے مسلمان زاہد و صوفیہ۔
- ۱ ۷۱۵ * بکر (بھکر) : پاکستان میں سکھر اور روہڑی کے درمیان دریائے سندھ کا ایک قلعہ بند جزیرہ۔
- ۱ ۷۱۷

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۷۱۷		* بکہ : رگ بہ مگہ.
۲ ۷۱۷		* بکوینا : رگ بہ خوتین.
۲ ۷۱۷		* بکیر بن ماہان : ابو ہاشم ، خلافت بنو امیہ کے آخری ایام کا ایک عباسی داعی (م ۱۲۷ھ/۷۴۵-۷۴۳ء).
۲ ۷۱۸		* بکیر بن وشاح (= وساج) : عبدالملک بن مروان کی خلافت کے آغاز میں خراسان کا ایک والی (م نواح ۷۷۷ھ/۶۹۶-۶۹۷ء).
۲ ۷۱۹		* بگہ : (Begga)، رگ بہ بچہ.
۲ ۷۱۹		* بگ نمر : رگ بہ شاہ آرمین.
۲ ۷۱۹		* بگتگین : بالائی الجزیرہ میں چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی میں ایک اہم جاگیردار خاندان.
۲ ۷۲۱		* بگرمی : انیسویں صدی عیسوی میں ایک حبشی مسلم ریاست.
۱ ۷۲۳		* بگارہ : رگ بہ بقارہ.
۱ ۷۲۳		* بگی : (بجی)، رگ بہ (۱) سلاویسی (Celebes)؛ (۲) انڈونیشیا.
۱ ۷۲۳		* بلاد ثلاثہ : عثمانی قانون اور انتظامی امور میں ایوب، غلطہ اور اسکودار کے تین قصبوں یا نوآبادیوں کے لیے مستعمل اصطلاح.
۲ ۷۲۳		* بلاد العرب : رگ بہ عرب.
۲ ۷۲۳		* البلاذری : ابوالحسن احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد، ممتاز عرب مؤرخ اور فتوح البلدان، انساب الأشراف وغیرہ کا مصنف (م نواح ۷۲۷ھ/۷۸۹-۷۸۸ء).
۲ ۷۲۵		* بلاساغون : ساتویں سے تیرہویں صدی ہجری تک وسط ایشیا کے ترکی خاقانوں کا ایک صدر مقام.
۱ ۷۳۰		* بلاط : یا بلاط؛ (۱) آئی بیریہ کی رومی شاہراہیں؛ (۲) دریائے تاجہ کے کنارے ایک ویران اندلسی شہر؛ (۳) اندلس کی ایک اقلیم وغیرہ.
۱ ۷۳۱		* بلاط : (بلاط)، قاریہ میں قدیم ملتیہ (Miletos) کی جگہ آج کل ایک چھوٹا سا گاؤں.
۲ ۷۳۱		* بلاط : یونانی سے ماخوذ ایک جغرافیائی اصطلاح، اسلامی مغرب اور بلاد مشرق میں متعدد شہر اور دیہات.
۲ ۷۳۲		* بلاط الشهداء : چارلس مارٹل کے زیر قیادت مسیحی فوجوں اور اندلس کے عامل امیر عبدالرحمن الغافی کے مابین جنگ کا محل وقوع.
۱ ۷۳۵		* بلاطس : قرون وسطیٰ میں شام کا ایک ویران قلعہ.
۲ ۷۳۵		* بلاغت : ایک علمی و تنقیدی اصطلاح؛ نیز معانی، بیان اور بدیع پر مشتمل علم.
۲ ۷۳۳		* بلال : انڈونیشی اصطلاح، بمعنی مؤذن.
۲ ۷۳۳		* بلال بن ابی بردہ : رگ بہ الاشعری ابو بردہ.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
		* بلال بن جریر المَعْمَدی : ابو النداء ، عدن کا زُرَیعی وزیر اور والی (از ۵۳۱/۶۱۳۶ء تا ۵۳۲/۶۱۳۷ء)۔
۲	۷۳۳	* بلال بن رباح : (ابن حمامة)، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حبشی نژاد صحابی
۱	۷۳۵	* اور مؤذن (م سائین ۵۱۷/۶۳۹ و ۵۲۱/۶۴۳ء)۔
۲	۷۳۶	* بلاوات : موصل سے سولہ میل جنوب مشرق میں ایک چھوٹا سا گاؤں۔
۱	۷۳۷	* بلای : (Poley)، جنوبی ہسپانیہ میں ایک پرانا قلعہ۔
۲	۷۳۷	* بلباس : پانچ ایرانی عراقی قبائل کا وفاق۔
۲	۷۳۸	* بلبل : فارسی، ترکی اور اردو شاعری میں عشق مجازی کا ترجمان، ایک خوش آواز پرندہ۔
		* بلبن : غیاث الدین بلبن، خاندان غلاماں کا نامور بادشاہ، سلطنت دہلی کا فرماٹروا
۲	۷۵۱	(از ۶۶۳-۶۶۵/۶۱۲۶۶ تا ۶۸۶/۶۱۲۸۷ء)۔
۲	۷۵۳	* بلبیس : (Phebes)، ازمینہ وسطی مصر کا ایک اہم شہر۔
۲	۷۵۴	* بلتستان : (تبت خرد)، گلگت اور لداخ کے درمیان پاکستان کا شمالی علاقہ۔
۵		* بلج بن بشر : بن عیاض القشیری، عہد بنی امیہ کا ایک بہادر لیکن متکبر عرب فوجی
۲	۷۵۵	سردار (م ۱۲۳/۷۴۲ء)۔
۱	۷۵۷	* بلجک : (یلہ چک)، شمال مغربی ایشیا کے کوچک دریائے قرہ صو کے کنارے ایک قصبہ
۲	۷۵۷	* بل حارث : رگ بہ حارث بن کعب۔
۲	۷۵۷	* بلخ : افغانستان میں مزار شریف کے قریب ایک قدیم تاریخی شہر۔
۲	۷۶۸	* بلخان : بحیرہ خزر کے مشرق میں دو سلسلہ ہائے کوہ۔
۲	۷۶۸	* بلخش : وسط ایشیا میں آرال کے بعد سب سے بڑی جھیل۔
		* البلخی : ابو زید احمد بن سہل، الکندی کا شاگرد، ممتاز عالم دین، جغرافیہ نگار اور
۲	۷۶۹	تقویم البلدان وغیرہ متعدد کتابوں کا مصنف (م ۳۲۲/۹۳۴ء)۔
		* البلخی : ابوالقاسم عبداللہ بن احمد بن محمود، ایک معتزلی عالم اور المقالات وغیرہ کا
۱	۷۷۱	مصنف (م ۳۱۹/۹۳۱ء)۔
۱	۷۷۲	* البلد : قرآن مجید کی ۹۰ ویں سورہ۔
۲	۷۷۳	* بلدر : رگ بہ بردر۔
		* بلدیہ : (Municipality)، عربی، ترکی اور دوسری اسلامی زبانوں میں شہری اداروں
۲	۷۷۳	کے لیے مستعمل اصطلاح۔
۱	۷۹۵	* بلرم : (Palermo)، جزیرہ صقلیہ میں ایک مقام۔
۲	۷۹۶	* بلطہ جی : رگ بہ بالطہ جی۔
۲	۷۹۶	* بلعم بن باعور : ایک اسرائیلی افسانوی شخصیت۔
		* بلعمی : دو سامانی وزراء : (۱) ابوالفضل محمد بن عبدالقاسم سامانی اور اسماعیل بن احمد

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
		کا وزیر (م ۵۳۲۹/۴۹۳۰)؛ (۲) ابو علی محمد بن محمد البلعمی، اول الذکر
۲ ۷۹۸		کا بیٹا اور عبدالملک اول بن نوح کا وزیر (م ۵۳۶۳/۴۹۷۳)۔
۲ ۸۰۰		* بَلْعَبْر : رگ بہ عنبر (بنو)۔
		* بَلْغَار : اسلامی ادب میں دریائے والکا اور دریائے ڈینیوب کے درمیان دو ریاستوں کی
۳ ۸۰۰		بنیاد رکھنے والی ایک ترکی النسل قوم۔
۱ ۸۰۹		* بَلْغَار طَاغ : کلیکیائی طوروس (Cilician Taurus)۔
۳ ۸۰۹		* بَلْغَار مَعْدَن : بلغار طاغ کی شمالی ڈھلانوں پر چاندی کی مشہور کانیں۔
۲ ۸۰۹		* بَلْغَارِیَا : ترکی النسل قوم بلغار سے منسوب بلقان کی ایک ریاست۔
۳ ۸۱۶		* بَلْغَرَاد : یوگوسلاویا (اور سربیا) کا دارالحکومت۔
۲ ۸۲۱		* بَلْفُورْٹ : رگ بہ قلعة الشقیف۔
۱ ۸۲۲		* بَل فِقِیْہ : رگ یہ فقیہ بل۔
۱ ۸۲۲		* اَلْبَلْقَاء : شرق اردن کا ایک علاقہ۔
		* ⑤ بَلْقَان : جنوب مشرقی یورپ کا ایک معروف جزیرہ نما، جو عرصہ دراز تک ترکوں کے
۲ ۸۲۳		زیر اقتدار رہا۔
۱ ۸۳۵		* بَلْقَاوہ : (= بالق لاوہ) بحیرہ اسود میں کریمیا کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ۔
۱ ۸۳۶		* بَلْقِیس : حضرت سلیمانؑ کے عہد میں ملک سبا کی ذہین و حسین ملکہ۔
۱ ۸۳۸		* بَلْقِیْن : رگ بہ قین۔
		* اَلْبَلْقِیْنِی : آٹھویں- نویں صدی ہجری/چودھویں- پندرہویں صدی عیسوی میں مصری علما
۱ ۸۳۸		کا ایک خاندان۔
		* بَلْک : نورالدولہ بلک بن بہرام بن اُرتق، صلیبیوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لینے
۱ ۸۳۰		والا ایک بہادر کماندار (م ۵۵۱۸/۴۱۱۳)۔
۱ ۸۳۲		* بَلْکَار : (= بَلْکَر)، رگ بہ (۱) بَلْکَر ؛ (۲) قفقاز۔
۱ ۸۳۲		* بَلْکَر : وسطی قفقاز کی ایک مسلم قوم۔
۲ ۸۳۳		* بَلْکُوَارَا : رگ بہ سامرا۔
۲ ۸۳۳		* بَلْگَرَام : ہندوستان کے ضلع ہردوئی میں ایک قدیم مردم خیز قصبہ۔
		* بَلْگَرَامِی : (۱) عبدالجلیل بن سید احمد الحسینی الواسطی ۵۱۰۷۱/۵۱۶۶ تا ۵۱۱۳۸/
		۵۱۷۲۵) ہندوستان کے ایک معروف عالم اور وقائع نگار؛ (۲) سید علی بن
		سید زین الدین حسینی (۵۱۲۶۸/۵۱۸۵۱ تا ۵۱۳۲۹/۵۱۹۱۱) ہندوستان کے
۱ ۸۳۵		ممتاز عالم، متعدد زبانوں کے ماہر اور مترجم تمدن عرب اور تمدن ہند وغیرہ۔
۲ ۸۳۶		* بَلْکِیْن بن محمد بن حماد : رگ بہ حماد (بنو)۔
۲ ۸۳۶		* بَلْکِیْن : (= بَلْکِیْن، بَلْقِیْن) بن زیری بن مناد، افریقیہ کا پہلا زیری فرمانروا (م ۵۳۷۳/۴۹۸۳)۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۳۷		* پِلِی ٹون : (Belitung) ، انڈونیشیا میں ایک جزیرہ۔
۲ ۸۳۷		* پِلور : معدنی شیشہ ، ایک معروف صنعت۔
۲ ۸۳۹		* پِلور کوشک : ایک ترکی عوامی کہانی کا عنوان اور ترکی کہانیوں کا ایک مجموعہ۔
۲ ۸۵۰		* پِلھے شاہ : سید محمد عبداللہ شاہ ، پنجابی زبان کے مشہور صوفی شاعر (م ۱۱۶۷-۱۱۶۸ھ/۶۱۷۵۷ یا ۶۱۷۵۳)۔
۲ ۸۵۲		* پِلْمہ : بحر متوسط سے سوڈان کو جانے والی شاہراہ پر فزان اور شاد (Chad) کے درمیان نخلستانوں کا مرکز۔
۱ ۸۵۳		* پِلْمَجہ : عثمانی ترکوں میں مقبول عام چیستانوں کا عوامی نام۔
۱ ۸۵۶		* پِلَنْجَر : خزر کا ایک اہم شہر۔
۲ ۸۵۶		* پِلْنَد شہر : (بَرْن) ، اتر پردیش (بھارت) کا ایک قدیم شہر۔
۱ ۸۵۸		* پِلَنْسِیہ : (Valenica) ہسپانیہ کا ایک بڑا شہر۔
۲ ۸۶۰		* پِلوچ : ایران اور پاکستان ، بالخصوص بلوچستان میں آباد قبائل۔
۲ ۸۶۷		* پِلوچستان : بلوچوں کی سر زمین ، پاکستان کا ایک صوبہ۔
۲ ۸۷۳		* پِلوچی : بلوچوں کی زبان۔
۲ ۸۸۱		* پِلوْدِن : (بُلُوادین) ، رگ بہ بولوادین۔
۲ ۸۸۱		* پِلُوغ : رگ بہ بالغ۔
۲ ۸۸۱		* پِلُوک : رگ بہ بولوک۔
۲ ۸۸۱		* پِلُوک ہاشی : رگ بہ بولوک ہاشی۔
۲ ۸۸۱		* پِلوَنہ : رگ بہ پلوَنہ۔
۲ ۸۸۱		* پِلُوہر و یوداسف : چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کی ایک عربی کتاب بلوہر و یوداسف کے دو بڑے کردار۔
۱ ۸۸۶		* البَلَوِی : ابو محمد عبداللہ بن محمد المدینی ، چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کا ایک مصری مؤرخ اور مصنف سیرۃ ابن طولون۔
۲ ۸۸۷		* پِلْمہرا : دکن کے راشٹر کوٹ خاندان سے تعلق رکھنے والے راجا (از تقریباً ۷۵۳ تا ۷۹۷ء)۔
۲ ۸۸۸		* پِلْمِدہ : (پِلْمِدہ) ، الجزائر کا ایک قصیدہ۔
۲ ۸۸۹		* پِلْمِری جزائر : رگ بہ میورقہ۔
۲ ۸۸۹		* پِلْمِغ : اسماعیل برسوی ، ایک ترکی شاعر ، سیرت نگار اور مصنف (م ۱۱۳۲ھ/۱۷۲۹ء)۔
۱ ۸۹۰		* پِلْمِغ : محمد امین ، نینی شہر کا ترکی شاعر (م ۱۱۷۳ھ/۱۷۶۰ء)۔
۲ ۸۹۰		* پِلْمِنوس : (Apollonius) یا پلیناس ؛ (۱) پرغہ واقع پامفیلیا کا ایک مشہور ریاضی دان (تقریباً ۲۰۰ ق م) ؛ (۲) طوانہ واقع کپاڈوشیا کا ایک یونانی فلسفی۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۸۹۰		(پہلی صدی عیسوی)۔
۱ ۸۹۵		* بَلِيَه : اونٹنی، جسے زمانہ قبل از اسلام میں مردے کی قبر کے قریب باندھنے کی رسم تھی۔
۲ ۸۹۵		* بَلِيَه بَدْرَا : (Patras)، یونان کا چوتھا اور جزیرہ نماے موریا کا سب سے بڑا شہر۔
۱ ۸۹۹		* بَم : ایران کا ایک ضلع اور شہر۔
۲ ۹۰۰		* بَم پُور : ایران کا ضلع اور ایک چھوٹا سا شہر۔
۱ ۹۰۱		* بَمَا کو : مغربی افریقہ میں جمہوریہ مالی کا دارالحکومت۔
۲ ۹۰۲		* بَمْبَار : رگ بہ (۱) منڈے؛ (۲) سوڈان۔
۲ ۹۰۲		* بَمْبِي : بھارت کا ایک صوبہ۔
۱ ۹۰۳		* بَمْبِي : صوبہ بمبئی (بھارت) کا دارالحکومت اور ملک کا دوسرا بڑا شہر اور بندرگاہ۔
۲ ۹۰۳		* بِنَاء : تعمیر، راج یا معمار کا فن۔
۲ ۹۰۸		* بِنَات : ہنگری کا ایک سرحدی صوبہ۔
۲ ۹۰۸		* بِنَات النَّعْش : رگ بہ (۱) علم نجوم؛ (۲) نذیر احمد (شمس العلماء)۔
		* بِنَارِس : (کاشی)، اتر پردیش (بھارت) میں دریائے گنگا کے کنارے ہندوؤں کا مقدس اور
۲ ۹۰۸		قدیم شہر۔
		* بِنَاكْت : (بِنَاكْت)، دریائے الک (موجودہ آہنگان) اور دریائے جیحون کے سنگم پر
۱ ۹۱۰		ایک قصبہ۔
		* بِنَاكْتِي : فخرالدین ابو سلیمان داؤد بن ابی الفضل محمد، ایک ایرانی شاعر اور مؤرخ
۲ ۹۱۰		(م ۵۷۳۰/۱۳۲۹-۱۳۳۰ء)۔
۲ ۹۱۱		* بِنَالُوَقَه : (Banjaluka)، یوگوسلاویا کا ایک شہر۔
۱ ۹۱۳		* بِنَاوَلْت : (Benevento)، اٹلی کا ایک صوبہ اور اس کا دارالحکومت۔
۱ ۹۱۳		* بِن بَاشِي : (یک ہزاری)، ایک ترکی عسکری منصب۔
۲ ۹۱۳		* بِنْبَلُونَه : (Pampeluna)، شمالی اندلس میں صوبہ بُرہ کا صدر مقام۔
۲ ۹۱۵		* البُنْت : (Alpuente)، صوبہ بلنسیہ (ہسپانیہ) کے شمال مغرب میں واقع ایک بلدیہ۔
۲ ۹۱۶		* بِنْتَم : (بِنْتَن)، رگ بہ جاوا۔
۲ ۹۱۶		* بِنَج : بھنگ، ایک معروف نشہ آور بوٹی۔
۲ ۹۱۷		* بِنَجْرَمِسِن : کالی منتان (بورنیو، انڈونیشیا) کے جنوبی ساحل پر ایک شہر۔
۱ ۹۱۸		* بِنَجْلَكَه : (Banjaluka)، رگ بہ بنالوقہ۔
۱ ۹۱۸		* بِنَجْمَن : رگ بہ نیامین۔
۱ ۹۱۸		* البَوْت : (Alpuente)، رگ بہ البنت۔
۱ ۹۱۸		* بَنَد : ایک مختلف المعانی فارسی اصطلاح۔
		* البُنْدَارِي : قوام الدین ابو ابراہیم الفتح بن علی بن محمد الاصفہانی، ایک مؤرخ اور

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۹۱۹	چند عربی کتب کا مصنف (حیات ۵۸۶/۵۹۰ تا ۵۶۳۳/۵۱۲۳۵)	* بندر : مسندر یا کسی بڑے دریا کی بندرگاہ۔
۲ ۹۱۹		* بندر : بجاق (Bessarabia) کا ایک شہر۔
۱ ۹۲۰		* بندر پہلوی : بحیرہ خزر پر ایران کی سب سے بڑی بندرگاہ۔
۱ ۹۲۱		* بندر عباس : آٹھویں آستان میں واقع ایک ایرانی بندرگاہ۔
۲ ۹۲۲		* بندر مہ : بحیرہ ماسوا پر ایک بندرگاہ۔
۱ ۹۲۳		* بندق : رگ بہ بارود۔
۲ ۹۲۳		* بندق دار : رگ بہ بیبرس۔
۲ ۹۲۳		* بندقنی : رگ بہ سکہ۔
۲ ۹۲۳		* بندقیہ : رگ بہ بارود۔
۲ ۹۲۳		* بندہ (جزائر) : (بانڈہ)، انڈونیشیا میں دس چھوٹے چھوٹے جزیروں کا مجموعہ۔
۲ ۹۲۳		* بندہ : رگ بہ عبد۔
۱ ۹۲۵		* بندہ نواز : رگ بہ گیسو دراز۔
۱ ۹۲۵		* بنزت : (بیزرت Bizerta)، تونس کے شمالی ساحل پر ایک شہر۔
۱ ۹۲۵		* بنغازی : لیبیا کا سب سے بڑا شہر اور اس کا ایک دارالحکومت۔
۱ ۹۲۶		* بنقی : (Banqui)، جمہوریہ وسطی افریقہ کا صدر مقام۔
۲ ۹۲۷		* بنگ : رگ بہ بنج۔
۱ ۹۲۸		* بنگال : رگ بہ بنگالہ۔
۱ ۹۲۸		* بنگالہ : مغربی بنگال (بھارت) اور بنگلہ دیش پر مشتمل سابق برطانوی ہند کا صوبہ۔
۱ ۹۲۸		* بنگالی : (زبان) رگ بہ بنگلہ۔
۱ ۹۵۱		* بنگلہ : جنوبی سائرا (انڈونیشیا) کے مشرقی ساحل کے قریب ایک جزیرہ۔
۱ ۹۵۱		* بنگلہ : سابقاً پاکستان کی دو قومی زبانوں میں سے ایک اور اب بنگلہ دیش کی سرکاری زبان۔
۲ ۹۵۱		* بنگن پلے : ۱۹۴۸ء میں ریاست مدراس میں ضم ہو جانے سے پہلے جنوبی ہند میں ایک چھوٹی سی ریاست۔
۲ ۹۷۹		* بنگول : (چپاچور)، قدیم ترکی ارمینیہ میں ایک ولایت کا صدر مقام۔
۲ ۹۸۰		* بنگول طاغ : ارز روم (ترکیہ) کے جنوب میں ایک سلسلہ کوہ۔
۲ ۹۸۰		* بن : رگ بہ قہوہ۔
۲ ۹۸۱		* بناء : رگ بہ بناء۔
۲ ۹۸۱		* البناء : احمد بن محمد، رگ بہ الدمیاطی۔
۲ ۹۸۱		* البناء حسن : (۵۱۲۲۳/۵۱۹۰۶ تا ۵۱۳۶۸/۵۱۹۴۹ء)، الاخوان المسلمون کے بانی اور ناظم اعلیٰ، مصر کے نامور عالم۔
۲ ۹۸۱		

صفحہ نمبر	اخبارات	سوال
۱۰۱۳	ایک فارسی شاعر ام	۱. تالی : کمال الدین شبر علی بنی ہروری، ایک فارسی شاعر ام
۱۰۱۳		۲. ہنگام : (تیز ہنگام)، قدیم سلطنت عثمانیہ کا ایک عرق محصول
		۳. تالی : (تیز التالی) ، بارہویں صدی ہجری (تھارہویں صدی عیسوی) میں فارس کا ایک
۱۰۱۴		۴. اہل علم خاندان
۱۰۱۶		۵. ہون : (Bannu) ، پاکستان کے صوبہ سرحد کا ایک شہر اور ضلع
۱۰۱۷		۶. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۷. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۸. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۹. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۱۰. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۱۱. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۱۲. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۱۳. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۱۴. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۱۵. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۱۶. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۱۷. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۱۸. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۱۹. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۲۰. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۲۱. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۲۲. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۲۳. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۲۴. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۲۵. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۲۶. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۲۷. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۲۸. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے
۱۰۱۷		۲۹. ہون : (ہون) ، حضرت یحییٰ کی اولاد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح
۱۰۱۷		۳۰. ہون : (ہون) ، ایک عربی کلمہ، جو قبائل کے نام میں نظیر لفظ شامل ہوتا ہے

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲	۱۰۰۳	* بوداپست : (Budapest) ہنگری کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت.
۲	۱۰۰۵	* بودین : رگ بہ بدین.
۲	۱۰۰۵	* بوذاسف : رگ بہ بلوہر و یوڈاسف.
۲	۱۰۰۵	* بور : رگ بہ بعل.
۲	۱۰۰۵	* بوران : عباسی خلیفہ المأمون کی زوجہ اور اس کے ایرانی وزیر حسن بن سہل کی بیٹی (۶۸۸۳/۵۲۷۱۴).
۲	۱۰۰۵	* بوران : (یا بوران دخت) ، خسرو پرویز کی بیٹی اور ایک مختصر عرصے کے لیے ساسانی ملکہ (۶۳۰ء).
۱	۱۰۰۶	* بورق : سہاگہ.
۱	۱۰۰۶	* بورقو : (Borkou) ، تبستی اور اندی کے پہاڑی جھرمٹوں کے درمیان نخلستانوں کا ایک سلسلہ.
۲	۱۰۰۹	* بورک : رگ بہ لباس.
۲	۱۰۰۹	* بورکاوچہ مصطفیٰ : رگ بہ بدرالدین بن قاضی سماونہ.
۲	۱۰۰۹	* بورکو : (برکو) ، رگ بہ بورقو.
۲	۱۰۰۹	* بورنو : (برنو) ، مغربی سوڈان کی ایک ریاست.
۲	۱۰۱۵	* بورنیو : جمہوریہ افڈونیشیا کا ایک صوبہ.
۲	۱۰۱۵	* بوری : تاج الملوک، رگ بہ بوری (بنو).
۲	۱۰۱۵	* بوری برس : بن آلپ ارسلان، ایک سلجوق امیر (م ۵۳۸۸/۹۵۰۹۵ء).
۱	۱۰۱۶	* بوری بن ایوب : رگ بہ ایویہ.
۱	۱۰۱۶	* بوری بن تکین : رگ بہ قرہ خانیہ.
۱	۱۰۱۶	* بوری (بنو) : دمشق پر حکومت کرنے والا ایک ترکی النسل خانوادہ (از ۵۳۹۷/۱۱۰۳-۱۱۰۳ تا ۵۳۹/۱۱۵۳ء).
۱	۱۰۱۶	* البورینی : بدرالدین الحسن بن محمد الدمشقی الصفوری (۵۶۳/۱۱۵۵ء تا ۵۷۲/۱۱۵۷ء).
۱	۱۰۱۸	* بوزابہ : سلجوقیوں کے تحت ولایت فارس کا والی (م ۵۳۲/۱۱۳۷ء).
۱	۱۰۱۹	* بوزجہ ادہ : (Tenedos)، ایک ترکی جزیرہ.
۲	۱۰۲۰	* البوزجانی : رگ بہ ابوالوفاء.
۲	۱۰۲۰	* بوزوق : (رگ بہ یوزغاد (= یوزگت)).
۲	۱۰۲۰	* بوزنطی : رگ بہ روم.

جلد ۵

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱		* بوزنطیہ : (روم)، شہنشاہ اغسطس (۲۷ ق م تا ۶۱۹ء) کی بنا کردہ غیر مسیحی اور شہنشاہ قسطنطین کے عہد (۳۱۲ تا ۴۳۰ء) سے مسیحی سلطنت.
۱ ۱۲		* بوستان : باغ؛ فارسی زبان میں شیخ سعدی کی مشہور منظوم تصنیف.
۱ ۱۲		* بوسعید : (البوسعیدی)، ازدی نسل سے عمان اور زنجبار کا ایک حکمران خاندان؛
۲ ۱۲		بانی : احمد بن سعید (۵۱۱۹۶/۶۱۷۸۲ء).
۱ ۱۶		* بوسنہ : یوگوسلاویا کے دو جغرافیائی اور تاریخی خطوں بوسنیا اور ہرزگووینا پر مشتمل علاقہ
۱ ۳۷		* بوسنہ سرای : رگ بہ سرای.
۱ ۳۷		* بوشنج : (فوشنج، پوشنگ)، دریائے ہری رود کے جنوب اور ہرات سے جنوب مغرب میں ایک قدیم ایرانی شہر.
۱ ۳۸		* بوشہر : (بوشیر)، ایران کے استان ہفتم (فارس) کا ایک ضلع اور شہر.
۲ ۵۰		* بوشیر : رگ بہ بوشہر.
۲ ۵۰		* بوسیر : (ابوسیر)، مصر میں واقع کئی مقامات.
۲ ۵۱		* البوصیری : ابو عبد اللہ شرف الدین محمد (۵۶۰۸/۱۲۱۲ء تا ۵۶۹۶/۱۲۹۶-۱۲۹۷ء)، ایک مشہور عربی عالم، صوق، شاعر اور مصنف قصیدہ بردہ.
۲ ۵۳		* بو عبدل : رگ بہ نصر، بنو.
۲ ۵۳		* بو علی قلندر : رگ بہ ابو علی (بو علی) قلندر.
۲ ۵۳		* بو علی سینا : رگ بہ ابن سینا.
۲ ۵۳		* بوغا الشرابی : رگ بہ بغا الشرابی.
۲ ۵۳		* بوغا الکبیر : رگ بہ بغا الکبیر.
۲ ۵۳		* بوغاز : رگ بہ بوغاز ایچی.
۲ ۵۳		* بوغاز ایچی : (بوغاز ایچی)، آبنائے باسفورس اور بالخصوص اس کے درمیانی حصے میں داخل سواحل، قطعات آب، خلیجوں اور راسوں کے لیے ایک ترکی اصطلاح.
۱ ۵۷		* بوق : قرنا، نرسنگا، نفیری وغیرہ، پھونک سے بجنے والے آلات موسیقی.
۱ ۶۱		* بوقا : شمالی شام کا ایک قدیم مقام (اب ناپید).
۱ ۶۲		* بوقلا : دو دستوں والے مٹی کے برتن کے لیے الجزائری عربی اصطلاح.
۱ ۶۲		* بوقلمون : رگ بہ ابوقلمون.
۱ ۶۲		* بوقیر : رگ بہ ابوقیر.

اشارات

عنوان

صفحہ عمود

۱ ۶۲

* بوکریش : (بکرش)، رگ بہ بخارست.

۱ ۶۲

* بوکووینا : (Bukovina)، رگ بہ ختن.

۱ ۶۲

⊙ بوگرا : بنگلہ دیش کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام.

۱ ۶۳

* بولاق : مملوک اور ترکی عہد میں قاہرہ کے قریب ایک چھوٹا سا شہر اور دریائے نیل پر ایک بندرگاہ.

۱ ۶۳

* بولو : (بولی)، اناطولی کی ایک شمال مغربی ولایت کا صدر مقام.

۱ ۶۵

* بولوادین : (بعض اوقات کرمک)، ولایت افیون قرہ حصار میں ایک بلدیہ اور قضا.

۱ ۶۶

* بولور طاغ : رگ بہ پامیر.

۱ ۶۶

* بولوک : (بولک)، مشرق ترکی اور فارسی میں صوبہ یا علاقہ؛ تنظیمات کے بعد اناطولی کی ترکی زبان میں پیدل یا سوار فوج کا ایک دستہ.

۱ ۶۷

* بولوک باشی : مملکت عثمانیہ میں عمال کے مختلف گروہوں، بالخصوص بولوک کے سردار.

۲ ۶۷

* بون : (Bone)، رگ بہ العنابة.

۲ ۶۷

* بوئے : رگ بہ العنابة.

۱ ۶۸

* البونی : محی الدین ابوالعباس احمد بن علی، پراسرار علوم (سحر و طلسمات، کہانت اور غیب دانی) کا ایک ممتاز عرب مصنف، صاحب سِرِّ الْحِکْمِ (م ۵۶۲۲/۴۱۲۲۵).

۱ ۶۸

* بوئیوال : رگ بہ احمد پاشا بوئیوال.

۲ ۶۸

* بوہرہ : المستعلی کے دعویٰ خلافت کے حامی اسماعیلیوں سے متعلق دو جماعتوں سلیمانوں اور داؤدیوں میں منقسم ایک تجارت پیشہ شیعہ فرقہ.

۲ ۷۲

* بویسہ (بنو) : چوتھی یا پانچویں صدی ہجری میں ایران کی سطح مرتفع، عراق، خراسان اور ماوراء النہر پر سامانیوں کے دوش بدوش حکومت کرنے والا ایک اہم شیعہ خاندان.

۲ ۸۹

* بہ آفرید بن فروردین : ایران کا ایک مذہبی فتنہ گر اور متنبی (م ۵۱۳۱/۴۷۳۹).

۱ ۹۰

⊙ بہاء اللہ : میرزا حسین علی نوری، المعروف بہ جمال مبارک و جمال قدم (۵۱۲۳۳/۴۱۸۱۷ تا ۵۱۳۱۰/۴۱۸۹۲)، بہائی مذہب کا بانی.

۲ ۹۳

* بہاء الحق : رگ بہ بہاء الدین زکریا.

۲ ۹۳

* بہاء الدولہ : رگ بہ بویہ (بنو).

۲ ۹۳

* بہاء الدین زکریا : (بہاء الحق) ملتانی (۵۵۷۸/۱۱۸۲-۱۱۸۳ تا ۵۶۶۱/۴۱۲۶۲)، شیخ شہاب الدین سہروردی کے ممتاز خلیفہ اور برعظیم پاک و ہند میں سہروردی سلسلے کے بانی.

۱ ۹۶

* بہاء الدین زہیر : ابوالفضل بن محمد بن علی الہامی الآزدی (۵۵۸۱/۴۱۸۶ تا ۵۶۵۶/۴۱۲۵۸)، عہد ایوبی کا مشہور عربی شاعر اور سلطان الصالح کا وزیر.

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۹۷		* بہاء الدین عاملی : رگ بہ عاملی۔
۱ ۹۷		* البہالی : رگ بہ عاملی۔
۱ ۹۷		* بہالی محمد الفندی : (۱۵۹۵-۱۵۹۶/۱۰۰۰ تا ۱۶۵۳/۱۰۶۳)، مشہور عثمانی فقیہ، عالم دین، شاعر، روم اہلی کا قاضی عسکر اور شیخ الاسلام۔
۱ ۹۸		* بہالیت : بہاء اللہ کا بنا کردہ مذہب۔
۱ ۱۰۳		* بہادر : بمعنی شجاع اور بطل؛ نیز خاندانی لقب اور اعزازی خطاب۔
۱ ۱۰۳		* بہادر خان : رگ بہ (فاروقی خاندان) بہادر شاہ۔
۱ ۱۰۳		* بہادر شاہ : رگ بہ نظام شاہی۔
۱ ۱۰۳		* بہادر شاہ اول : محمد معظم (۱۶۳۳/۱۰۵۳ تا ۱۷۱۲/۱۱۲۳)، اورنگ زیب عالمگیر کا تیسرا بیٹا اور مغلیہ خاندان کا فرمانروا (از ۱۷۰۷/۱۱۱۸ تا ۱۷۰۷/۱۱۱۸)۔
۱ ۱۰۳		* بہادر شاہ ثانی : ابوالمظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی (۱۷۷۵/۱۱۸۹ تا ۱۸۶۲/۱۲۷۹)، ہندوستان کا آخری مغل تاجدار (از ۱۷۵۳/۱۱۶۳ تا ۱۸۵۷/۱۲۷۳)۔
۱ ۱۰۶		* بہادر شاہ گجراتی : گجرات کا سلطان (از ۱۵۲۶/۹۳۲ تا ۱۵۳۷/۹۴۳)۔
۲ ۱۱۰		* بہادر : رگ بہ کیل۔
۲ ۱۲۰		* بہار : بھارت کا ایک صوبہ اور اسلامی دور میں ایک علمی و ثقافتی مرکز۔
۲ ۱۱۲		* بہار : ملک الشعراء میرزا محمد تقی (۱۸۸۶/۱۳۰۳ تا ۱۹۵۱/۱۳۷۱)، فارسی کا مشہور شاعر، ادیب، مضمون نگار، محقق اور مصنف۔
۱ ۱۱۶		* بہار بالو بیگم : مغل شہنشاہ جہانگیر کی بیٹی اور شاہزادہ دانیال کے بیٹے طہمورث کی بیوی (ولادت ۱۵۹۰ء)۔
۲ ۱۱۶		* بہار دانش : رگ بہ عنایت اللہ کنبو۔
۲ ۱۱۶		* بہارستان : رگ بہ حاسی۔
۲ ۱۱۶		* بہارلو : ایران کا ایک ترک قبیلہ۔
۱ ۱۱۷		* بہاری : ملا غلام یحییٰ بن نجم الدین البارہوی البہاری (نواح ۱۰۶۰/۱۶۵۰ تا ۱۲۲۸/۱۷۱۶)، ہندوستان کے ایک معروف عالم دین اور مصنف۔
۱ ۱۱۷		* بہاری : محب اللہ بن عبد الشکور العثماني الصديقي الحنفي، ہندوستان کے مشہور عالم، منطقی، اصولی، لکھنؤ کے قاضی اور مصنف مسلم الثبوت وغیرہ (م ۱۱۱۹/۱۷۰۷)۔
۱ ۱۱۹		* بہاول پور : دریائے ستلج کے بائیں کنارے پر واقع صوبہ پنجاب (پاکستان) کی اسی نام کی قسمت کا صدر مقام اور سابق ریاست بہاولپور کا دارالحکومت۔
۱ ۱۱۹		* بہجت مصطفیٰ آندی : (۱۷۸۸/۱۷۷۴ تا ۱۸۳۳/۱۲۳۹)، عہد آل عثمان کا

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۴ ۱۱۹	عالم، طیب اور مصنف.	
۲ ۱۲۰		* آہدینان : (بادینان)، موصل کے شمال مشرق میں چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی سے تیرہویں صدی ہجری/انیسویں صدی عیسوی تک ایک کرد امارت.
۲ ۱۲۱		* بہراء : قبائل قضاہ میں سے ایک قبیلہ.
۲ ۱۲۱		* بہرام : (وہرام)، زرتشتیوں میں فتح و ظفر کا دیوتا؛ نیز سامانی خاندان کے چوتھے، پانچویں، چھٹے، بارہویں اور چودھویں حکمران کا نام.
۲ ۱۲۳		* بہرام : مصر میں فاطمیوں کا ایک ارمن عیسائی سپہ سالار، اور خلیفہ الحافظ کا وزیرالسیف (از ۵۲۹ھ/۱۱۳۵ء تا ۵۳۱ھ/۱۱۳۷ء؛ م ۵۳۵ھ/۱۱۴۰ء).
۱ ۱۲۵		* بہرام شاہ : ابن طغرل شاہ سلجوقی، ۵۶۵ھ/۱۱۷۰ء میں چند روز کے لیے کرمان کا حکمران (م ۵۷۰ھ/۱۱۷۵ء-۵۷۵ھ/۱۱۸۰ء).
۱ ۱۲۵		* بہرام شاہ غزنوی : سلطان مسعود سوم کا بیٹا، ایک غزنوی حکمران (از ۵۱۰ھ/۱۱۱۷ء تا ۵۵۲ھ/۱۱۵۷ء).
۱ ۱۳۰		* بہرام شاہ : الملک الامجد (مجد الدین) بن فرخ شاہ بن شاہنشاہ بن ایوب، سلطان صلاح الدین کے بھانجے یا بھتیجے کا بیٹا، بعلبک کا حکمران (از ۵۷۸ھ/۱۱۸۲ء تا ۶۲۶ھ/۱۲۲۸-۱۲۲۹ء) اور عہد ایوبی کا ایک ممتاز ادیب، عالم اور صاحب دیوان شاعر (م ۶۲۷ھ/۱۲۲۹-۱۲۳۰ء).
۱ ۱۳۱		* بہر سیر : (بہ ازد شیر)، رگ بہ المدائن.
۱ ۱۳۱		* بہروز : امیر رستم کا فرزند اور اسی کی طرح دنبلی کا امیر (م ۹۸۵ھ/۱۵۷۷ء).
۱ ۱۳۱		* بہروز خان : بن شہبندر خان، امیر دنبلی، المعروف بہ سلیمان خان الثانی (م ۱۰۴۱ھ/۱۶۳۱ء).
۱ ۱۳۱		* بہزاد : اسناد کمال الدین، ایران کا سب سے نامور میناتوروی مصور (م ۹۴۰ھ/۱۵۳۳-۱۵۳۴ھ یا ۱۵۳۳ھ/۹۴۲-۱۵۳۵ء).
۲ ۱۳۵		* بہستون : رگ بہ بیستون.
۲ ۱۳۵		* بہسنی : رگ بہ سنی.
۲ ۱۳۵		* بہشت : رگ بہ جنت.
۲ ۱۳۵		* بہشتی : احمد بن سلیمان (نواح ۸۷۱ھ/۱۴۶۶ء تا ۹۱۷ھ/۱۵۱۲ء)، عہد عثمانیہ کا ایک ترکی شاعر، مؤرخ اور مصنف مثنوی لیلی مجنوں وغیرہ.
۱ ۱۳۶		* بہ قباد : (= اچھی اراضی)، عہد عباسیہ میں صوبہ عراق کے تین اضلاع کا مجموعہ.
۲ ۱۳۶		* بہلول (امیر) : تین مشہور کرد شخصیتیں : (۱) ابن امیرالوند بے، حاکم قلعہ الاسکندریہ و قلعہ میاقارقین؛ (۲) ابن امیر جمشید (م ۵۶۰ھ/۱۳۵۹ء)؛ (۳) ابن امیر فریدون، حاکم طبرستان و داغستان (م ۵۸۸ھ/۱۳۷۵ء).
۲ ۱۳۶		* بہلول لودھی : لودھی خاندان شاہی کا بانی اور سلطنت دہلی کا ایک فرمانروا (از ۸۵۵ھ/۱۳۵۵ء)

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۱۳۷	* بہلول : المجنون الکوفی ، عہد ہارون و مأمون عباسی کا ایک دانش مند دیوانہ اور نیم افسانوی شخصیت۔	۶۱۳۵۱ تا ۵۸۹۳/۶۱۳۸۸۔
۳ ۱۳۸	* بہمن : رگ بہ تاریخ۔	
۳ ۱۳۹	* بہمنی سلطنت : دکن کی ایک آزاد ریاست : بانی : حسن گنگو المعروف بہ سلطان علاء الدین حسن بہمن شاہ (از ۵۳۸/۶۱۳۳۷ تا ۵۷۹/۶۱۳۵۸)۔	
۳ ۱۳۹	* بہمنیار : ابن المرزبان، ابوالحسن، کیا رئیس، ابن سینا کا ایک نامور شاگرد اور مصنف دانش نامہ (م ۵۳۵۸/۶۱۰۶۶)۔	
۱ ۱۶۵	* البہسما : قرون وسطیٰ میں وسطی مصر کا ایک مشہور شہر۔	
۲ ۱۶۵	* بہو : فن تعمیر کی ایک اصطلاح ، کمرہ ملاقات، نیز الگ تھلگ خیمہ یا کوشک وغیرہ۔	
۱ ۱۶۷	* البہوتی : شیخ منصور بن یونس البہوتی المصری ، ایک نامور حبلی عالم (م ۵۱۰۵/۶۱۰۵)۔	
۲ ۱۶۸	* بے : رگ بہ بیک۔	
۲ ۱۶۹	* بے اوغلو : رگ بہ استانبول۔	
۲ ۱۶۹	* بے لک : (بیک لک)، ایک قدیم ترکی عہدہ اور منصب۔	
۲ ۱۷۱	* بیایانک : بارہ نخلستانوں پر مشتمل، ایران کے دشت کبیر کا ایک حصہ۔	
۲ ۱۷۲	* بیاتلی یحییٰ کمال : رگ بہ یحییٰ کمال بیاتلی۔	
۳ ۱۷۲	* بیان : وضاحت اور ابانت کے معنوں میں علم البیان اور فن خطابت کی ایک اصطلاح۔	
۱ ۱۷۹	* بیان بن سمان التیمی : کوفے کا ایک شیعہ رہنما (م ۱۱۹/۶۷۳)۔	
۱ ۱۸۰	* بیئندر : (بایندر)، ایک ترکمانی اوغوز قبیلہ۔	
۲ ۱۸۰	* بیبان : کوہ تلی اطلس (Tellian Atlas) کے ایک سلسلے کے درے۔	
۳ ۱۸۱	* بیبرس : (سیرت)، عوامی کہانیوں کی ایک ضخیم عربی کتاب اور مملوک سلطان بیبرس اول کی مبینہ سوانح حیات۔	
۳ ۱۸۱	* بیبرس الاول : الملک الظاهر رکن الدین الصالحی (۵۶۲۰/۶۱۲۲۳ تا ۵۶۷۶/۶۱۲۷۷)۔	
۳ ۱۸۲	* مملوک دولت البحرہ کا چوتھا سلطان (از ۵۶۵۸/۶۱۲۶۰)۔	
۳ ۱۸۲	* بیبرس ثانی : الملک المظفر رکن الدین المتصوری جاشنگیر (چاشنگیر)، مصر کا مملوک سلطان (از ۵۷۰۸/۶۱۳۰۹ تا ۵۷۰۹/۶۱۳۱۰)۔	
۱ ۱۸۸	* بیبرس المنصوری : مملوک سپہ سالار، مؤرخ اور مصنف (م ۵۷۲۵/۶۱۳۲۵)۔	
۱ ۱۸۹	* بیبلون : رگ بہ بابل و بابلیون۔	
۱ ۱۹۰	* بیہی : مشرقی ترکی میں بمعنی چھوٹی بوڑھی ماں، معزز خاتون۔	
۳ ۱۹۰	* بیت : ایک ترکمانی اوغوز قبیلہ۔	

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۱۹۱		* یَت : عربی لفظ بمعنی جائے رہائش۔
۱ ۱۹۲		* یَت : رگ بہ عروض۔
۱ ۱۹۲		* یَت اللہ : رگ بہ کعبہ۔
۱ ۱۹۲		* یَت جبرین : (یَت جبریل)، یَت المقدس کے جنوب مغرب میں ایک بڑا فلسطینی گاؤں۔
۲ ۱۹۳		* یَت الجوزہ : رگ بہ علم نجوم۔
۲ ۱۹۳		⊙ البیت الحرام : رگ بہ (۱) مسجد : (۲) المسجد الحرام۔
۲ ۱۹۳		* یَت الحکمة : المأمون الرشید عباسی کا بنا کردہ بغداد کا ایک علمی ادارہ۔
۲ ۱۹۳		* یَت الدین : رگ بہ بتدین۔
۲ ۱۹۳		* یَت راس : شرق اردن کا ایک گاؤں۔
۱ ۱۹۵		* یَت الفقیہ : تہامة اليمن میں ایک شہر۔
۲ ۱۹۶		* یَت لحم : بیت المقدس سے دس کلومیٹر دور فلسطین کا ایک بڑا گاؤں، حضرت عیسیٰؑ کا مولد اور مشہور زیارت گاہ۔
۲ ۱۹۷		⊙ یَت المال : ایک شرعی اصطلاح : مسلم ریاست کا قومی خزانہ۔
۲ ۲۱۶		⊙ یَت المدراس : یا بیت المدراس، عہد نامہ عتیق کا دارالمطالعہ اور تحقیق گاہ۔
۱ ۲۱۷		* یَت المقدس : رگ بہ القدس۔
۱ ۲۱۷		* یَتاب : رگ بہ ثراما (اردو)۔
۱ ۲۱۷		* یَت لحم : رگ بہ یَت لحم۔
۱ ۲۱۷		* یج : (یج)، ترکوں کے ہاں شہر وی انا کا نام۔
۱ ۲۲۸		* یجا پور : ایک تاریخی شہر، عادل شاہی سلطنت کا دارالحکومت اور آج کل بھارت کے صوبہ میسور کے ضلع یجا پور کا صدر مقام۔
۲ ۲۲۳		* یجان احمد : ایک ترک صوفی اور مصنف انوارالعاشقین و درمکون وغیرہ (حیات ۱۳۶۵-۱۳۶۶ء)۔
۱ ۲۲۵		* یجا نگر : رگ بہ وجیا نگر۔
۱ ۲۲۵		⊙ یجر : George Percy Badger (۱۸۱۵ء تا ۱۸۸۸ء)، ایک انگریز مستشرق اور انگریزی-عربی لغت وغیرہ کا مصنف۔
۱ ۲۲۵		* یجوان : رگ بہ باجلان۔
۱ ۲۲۵		⊙ یجہ : رگ بہ باجہ۔
۱ ۲۲۵		* یجان : (یجان)، یمن کی ایک ندی اور وادی مرخہ اور وادی حریب کا درمیانی علاقہ۔
۱ ۲۲۷		* یجان القصاب : وادی یجان کا درمیانی حصہ۔
۱ ۲۲۸		* یدہ پای : رگ بہ کلیة و دمتہ۔
		⊙ یدر (معہ آباد) : عہد اسلامی میں دکن کی بھمنی اور برہمنی شاہی سلطنتوں کا

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۲۲۸	دارالحکومت اور آج کل بھارت کے ایک ضلع کا صدر مقام.	
۲ ۲۳۱		* یَدَق : رگ بہ شطرنج.
۲ ۲۳۱		⊙ یَدِل : میرزا عبدالقادر، ابوالمعانی (۵۳/۱۰۵۳ تا ۳۳/۱۱۳۳ھ/۲۰/۱۷۷۵ء)، عہد عالمگیری کا نامور صاحب دیوان فارسی شاعر و مصنف، عارف کامل اور عظیم مفکر.
۱ ۲۳۵		* یَدُو : ہلاکو کا پوتا اور ایران کا چھٹا ایلخانی فرمانروا (۶۹۳/۱۲۹۵ء).
۱ ۲۳۶		* الْبِيْذِق : ابوبکر بن علی الصنهاجی، چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی میں تاریخ الموحدين کے وقائع ابتدائیہ کا مصنف.
۲ ۲۳۷		* یَثَر : عربی زبان میں کنویں کے لیے جامع لفظ.
۲ ۲۳۳		⊙ یَثَرِ زَيْمٍ : رگ بہ زمزم.
۲ ۲۳۳		* یَثَرِ السَّيْح : جنوبی فلسطین کا ایک مقام، بیرسبا (شیبا) کا معرب.
۱ ۲۳۳		⊙ یَثَرِ مَعْوَلَه : بنو سلیم کی ملکیت میں ایک کنواں اور عہد نبوی میں ستر کے قریب صحابہ کرام کی شہادت گاہ.
۲ ۲۳۶		* یَثَرِ سَيْمُون : اسلام کے ابتدائی زمانے میں نواح مکہ مکرمہ میں ایک کنواں.
۱ ۲۳۷		⊙ یَرَام : یوم مسرت و تقریح، عیدین کے لیے ایک ترکی اصطلاح.
۲ ۲۵۰		* یَرَايِيَه : آٹھویں - نویں صدی ہجری/چودھویں - پندرہویں صدی عیسوی میں حاجی ییرام ولی کا بنا کردہ ایک طریقہ تصوف.
۱ ۲۵۱		* یَرَجَنْد : فارس کا ایک ضلع اور شہر.
۱ ۲۵۲		* یَرِق : رگ بہ علم.
۱ ۲۵۲		* یَرِقِ دَار : علم بردار کے معنوں میں ایک فارسی اور عثمانی اصطلاح.
۲ ۲۵۲		* یَرِقِ دَارِ مِصْطَفٰی پَاشَا : رگ بہ مصطفیٰ پاشا یریق دار.
۲ ۲۵۲		⊙ یَرِم خان (محمد) : خان خانان (امیرالامراء)، عہد اکبری کا ایک نامور امیر اور سپہ سالار (۶۸/۱۵۶۱ء).
۱ ۲۵۷		* یَرِم علی : ماورائے خزر ریلوے پر مرو شہر کے قریب ایک مقام.
۱ ۲۵۷		* یَرِم علی خان : قاچاری شاہزادہ اور مرو کا فرمانروا (از ۱۹۷/۱۷۸۳ء تا ۲۰۰/۱۷۸۶ء).
۲ ۲۵۷		* یَرُوْت : جمہوریہ لبنان کا صدر مقام.
۱ ۲۶۱		* یَرُوْن : عثمانی شاہی محل کے بیرونی محکمے اور شعبے.
۲ ۲۶۱		* الْبِيْرُوْلِي : برهان الحق ابو الريحان محمد بن احمد (۶۲/۱۱۶۲ تا ۳۸/۱۲۳۸ء)، سلطان محمود غزنوی کے عہد کا مشہور عالم، محقق، سیاح، فلسفی، ریاضی دان، جغرافیہ نگار، سوانح نگار، مؤرخ، مترجم اور مصنف تحقیق ما للہند، الآثار الباقیہ وغیرہ.

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۲۷۱		* آلِیْرہ : الجزیرہ کے شمال مغرب میں دریائے فرات کے کنارے ایک مقام.
۱ ۲۷۱		* یْرہ جک : عراق میں دریائے فرات کے بائیں کنارے پر ایک قصبہ.
۲ ۲۷۳		* یِزا : رگ بہ بیاسہ.
۲ ۲۷۳		* یِزبان : رگ بہ دلِسز.
۲ ۲۷۳		* یِزرہ : پرندوں بالخصوص شاہین، باز وغیرہ سے شکار کھیلنے کا فن.
۲ ۲۸۱		* یِزستان : رگ بہ قیصریہ.
۲ ۲۸۱		* یِزور : رگ بہ بازہر.
۲ ۲۸۱		* یِزینا : رگ بہ دِدو (Dido).
۲ ۲۸۱		* یِسان : دریائے اردن کی وادی میں ایک چھوٹا سا فلسطینی قصبہ.
۲ ۲۸۳		* یِستون : بغداد سے ہمدان جانے والی شاہراہ پر کرمان شاہ سے مشرق میں ایک پہاڑ.
۱ ۲۸۳		* یِستی : رگ بہ سکہ.
۱ ۲۸۳		* یِشہ : مغربی عرب میں اسی نام کی وادی کے کنارے پر ایک نخلستان.
۱ ۲۸۵		* یِشرع : آزاد قلندروں کے لیے ایک تضحیک آمیز فارسی اصطلاح.
۱ ۲۸۵		* یِشہر : (بکشہری)، صوبہ قونیہ میں ایک قضا کا صدر مقام.
۱ ۲۸۶		* البیضاء : لیبیا کے علاقہ برقہ (Cyrenaica) میں ایک اہم شہر.
۲ ۲۸۶		* البیضاء : متعدد مقامات کا نام.
۲ ۲۸۶		* البیضاوی : امام عبداللہ بن عمر ابوالخیر، شیراز کے قاضی القضاة، مشہور شافعی فقیہ، مصنف اور صاحب تفسیر بیضاوی (م مابین ۵۶۸۵/۶۱۲۸۶ و ۵۷۱۶/۶۱۳۱۶).
۱ ۲۸۸		* یِطار : حیوانات کے معالج کے لیے قدیم طبی اصطلاح.
۱ ۲۸۹		* یِیع : فروخت کرنے کے معنوں میں لسانی و فقہی اصطلاح.
۲ ۲۹۱		* یِیعہ : ایک شرعی اصطلاح، ایک ایسا عمل جسے انجام دے کر کوئی شخص کسی دوسرے کے اقتدار کو تسلیم کرے.
۲ ۲۹۳		* یِیعہ : رگ بہ کنیسہ.
۲ ۲۹۳		* یِیغا : ایشیائے کوچک کے شمال مغرب میں صوبہ چناق قلعه کی ایک قضا کا صدر مقام.
۱ ۲۹۳		* یِیغہ : رگ بہ مساحہ.
۱ ۲۹۳		* یِیقرا : (بیقرہ)، رگ بہ بایقرا.
۱ ۲۹۳		* یِیکل : (بیکال، بایقال)، مشرق ترکیہ میں دنیا کی عمیق ترین اور سب سے بڑی پہاڑی جھیل.
۱ ۲۹۵		* یِیک : (بک، بے)، ایک ترکی اعزازی لقب.
۱ ۲۹۶		* یِیکدلی : اوغوز ترکمانوں کی شاخ بوز اوق کا ایک قبیلہ.
۱ ۲۹۷		* یِیکر بیگی : یا بیلر بای، یعنی امیرالامراء، ابتداءً ترکی سپہ سالار اعظم کا ایک لقب.
۱ ۲۹۹		* یِیکم : بیگ کی تائیت، ایک تعظیمی لقب.

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۲۹۹		* بینگن ہلے : (بنگن ہلے)، برطانوی عہد میں جنوبی ہند کی ایک چھوٹی سی مسلمان ریاست۔
۲ ۳۰۰		* بیلان : (Belen)، کوہسار امانوس (الماطاخ) میں اسکندرون سے مشرق کی جانب ایک گاؤں۔
۱ ۳۰۲		* بیلقان : اران (البانیہ) کا ایک قدیم شہر۔
۱ ۳۰۲		* البیلمان : رگ بہ مجلس۔
۱ ۳۰۲		* بیلن : رگ بہ بیلان۔
۱ ۳۰۲		* بیلو : (بیلوس)، رگ بہ بالیوس۔
۱ ۳۰۲		* بیلہ جک : رگ بہ بلجک۔
۱ ۳۰۲		* بیاین (Beleyn)، نیز معروف بہ بوگوس، اتریا میں چرواہوں اور مزارعوں کا ایک جتھا۔
۲ ۳۰۲		* بیمارستان : بمعنی ہسپتال۔
۱ ۳۱۲		* بیعہ : رگ بہ معاقل۔
۱ ۳۱۲		* بینگ : رگ بہ (۱) جہبذ ؛ (۲) صیرق ؛ (۳) بیت المال۔
		* بینورت : ابن عباد، مشرق صقلیہ میں نارمنوں کی مقاومت کرنے والا مسلم رہنما۔
۱ ۳۱۲		(م ۵۳۷۹/۸۶/۱۰۸۶ء)۔
۲ ۳۱۲		* بینون : جنوبی عرب کا ایک قدیم قلعہ اور قصبہ۔
۱ ۳۱۳		* بینہ : رگ بہ بیانہ۔
		* بیورلدی : اعلیٰ افسر کی طرف سے کسی ماتحت افسر کو دیے جانے والے حکم کے لیے
۱ ۳۱۳		عہد عثمانیہ کی سرکاری اصطلاح۔
۲ ۳۱۳		* بیول : Frantz Buhl، ڈلمارک کا ایک مشہور مستشرق (۱۸۵۰ء تا ۱۹۳۲ء)۔
۱ ۳۱۳		* البیہسیہ : رگ بہ ابو بیہس۔
۱ ۳۱۳		* بیہق : نیشاپور کے مغرب میں صوبہ خراسان کا ایک ضلع۔
۲ ۳۱۳		* بیہقی، ابوالفضل : محمد بن الحسین (م ۵۳۷۰/۷۰ء)، فارسی کا نامور مؤرخ۔
		* البیہقی : ابراہیم بن محمد، خلیفہ المقتدر کے عہد (۵۲۹۵/۸۰ء تا ۵۳۲۰/۳۲ء)
۱ ۳۱۴		کا ایک عرب ادیب اور مصنف المحاسن والمساوی۔
		* البیہقی : ابوبکر احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ الخسروجردی (۵۳۸۳/۸۳ء تا
۱ ۳۱۴		۵۳۵۸/۶۶ء)، ایک شافعی محدث و قیہ اور مصنف کتاب السنن الکبریٰ۔
		* البیہقی : ظہیرالدین ابوالحسن علی بن زید بن قندق (۵۳۹۳/۱۰۰۰ء تا ۵۵۶۵/۱۱۶۹ء)،
۲ ۳۱۸		ایک ایرانی فاضل اور متعدد کتابوں کا مصنف۔
۱ ۳۲۰		* بیاسہ : (Baeza)، ہسپانیہ کے صوبہ جیان میں ایک شہر۔
۱ ۳۲۱		* بیانہ : (Baena)، ہسپانیہ کے صوبہ قرطبہ کا ایک چھوٹا سا شہر۔
۱ ۳۲۲		* بینہ : ایک قانونی، شرعی و فقہی اصطلاح۔
۱ ۳۲۳		* البینۃ : قرآن مجید کی اٹھانوہیں سورہ۔

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوائے
۲ ۳۲۳	یومیۃ : علی بن الحجازی بن محمد البیومی الشافعی (م ۱۱۸۳/۵۱۷۹ء) کا بنا کردہ ایک مصری مسلک تصوف.	* یومیۃ : علی بن الحجازی بن محمد البیومی الشافعی (م ۱۱۸۳/۵۱۷۹ء) کا بنا کردہ ایک مصری مسلک تصوف.
۱ ۳۲۵	بھائییا : ایک قدیم قلعہ بند شہر ؛ موجودہ نام بھٹا واہن (قسمت بہاولپور، پاکستان).	* بھائییا : ایک قدیم قلعہ بند شہر ؛ موجودہ نام بھٹا واہن (قسمت بہاولپور، پاکستان).
۱ ۳۲۹	بھارت : رگ بہ ہندوستان.	* بھارت : رگ بہ ہندوستان.
۱ ۳۲۹	بھٹائی : شاہ عبدالطیف (۱۱۰۱/۵۱۶۸۹ء تا ۱۱۶۵/۵۱۷۵۲ء) ، نامور سندھی صوفی شاعر اور پیشوائے دین.	* بھٹائی : شاہ عبدالطیف (۱۱۰۱/۵۱۶۸۹ء تا ۱۱۶۵/۵۱۷۵۲ء) ، نامور سندھی صوفی شاعر اور پیشوائے دین.
۱ ۳۳۲	بھینڈہ : پنجاب کا ایک قدیم تاریخی قلعہ بند شہر اور آج کل بھارتی پنجاب کا مشہور قصبہ.	* بھینڈہ : پنجاب کا ایک قدیم تاریخی قلعہ بند شہر اور آج کل بھارتی پنجاب کا مشہور قصبہ.
۱ ۳۳۳	بھٹی : برعظیم پاک و ہند میں دور دور تک پھیلا ہوا ایک راجپوت قبیلہ.	* بھٹی : برعظیم پاک و ہند میں دور دور تک پھیلا ہوا ایک راجپوت قبیلہ.
۲ ۳۳۳	بھرتپور : بھارت کی ایک سابق ریاست اور اس کا صدر مقام ؛ آج کل راجستھان کا ایک حصہ.	* بھرتپور : بھارت کی ایک سابق ریاست اور اس کا صدر مقام ؛ آج کل راجستھان کا ایک حصہ.
۲ ۳۳۵	بھڑوچ : گجرات (بھارت) کا ایک ضلع.	* بھڑوچ : گجرات (بھارت) کا ایک ضلع.
۱ ۳۳۷	بھکر : رگ بہ بکر.	* بھکر : رگ بہ بکر.
۲ ۳۳۷	بھمبر : گجرات (پاکستان) سے نو میل کے فاصلے پر اسی نام کی ایک ندی کے کنارے آباد ایک چھوٹا سا شہر.	* بھمبر : گجرات (پاکستان) سے نو میل کے فاصلے پر اسی نام کی ایک ندی کے کنارے آباد ایک چھوٹا سا شہر.
۱ ۳۳۸	بھنبھور : سسی پنوں کی مشہور لوک کہانی سے وابستہ سندھ سے عراق جانے والی شاہراہ پر بلوچستان کا ایک خطہ اور شہر.	* بھنبھور : سسی پنوں کی مشہور لوک کہانی سے وابستہ سندھ سے عراق جانے والی شاہراہ پر بلوچستان کا ایک خطہ اور شہر.
۱ ۳۴۰	بھوپال : برعظیم پاک و ہند میں حیدرآباد کے بعد سب سے اہم مسلم ریاست.	* بھوپال : برعظیم پاک و ہند میں حیدرآباد کے بعد سب سے اہم مسلم ریاست.
۲ ۳۴۳	بھوپال : (شہر)، ریاست بھوپال اور اب مدھیہ پردیش (بھارت) کا صدر مقام.	* بھوپال : (شہر)، ریاست بھوپال اور اب مدھیہ پردیش (بھارت) کا صدر مقام.
۱ ۳۴۵	بھیرہ : پنجاب (پاکستان) میں دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر واقع ایک قدیم شہر.	* بھیرہ : پنجاب (پاکستان) میں دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر واقع ایک قدیم شہر.




۱ ۳۴۷	پ : فارسی و اردو کا تیسرا حرف.	* پ : فارسی و اردو کا تیسرا حرف.
۱ ۳۴۷	پالی : برطانوی ہند میں تانبے کا سب سے چھوٹا سکہ.	* پالی : برطانوی ہند میں تانبے کا سب سے چھوٹا سکہ.
۲ ۳۴۷	پادری : (پرتگالی : Padre)، عیسائی واعظ، پیشوا.	* پادری : (پرتگالی : Padre)، عیسائی واعظ، پیشوا.
۲ ۳۴۷	پادزھر : رگ بہ ہازھر.	* پادزھر : رگ بہ ہازھر.
۲ ۳۴۷	پادشاہ : مسلمان فرمانروایان ملک کا لقب.	* پادشاہ : مسلمان فرمانروایان ملک کا لقب.
۲ ۳۴۸	پارا چنار : پاکستان میں گرم ایجنسی کا انتظامی مرکز، فوجی چھاؤنی اور صحت افزا مقام.	* پارا چنار : پاکستان میں گرم ایجنسی کا انتظامی مرکز، فوجی چھاؤنی اور صحت افزا مقام.
۱ ۳۴۹	پارتھیا : بحیرہ خزر کے جنوب مشرق میں کوہ البرز سے ہرات تک پھیلا ہوا پہاڑی علاقہ.	* پارتھیا : بحیرہ خزر کے جنوب مشرق میں کوہ البرز سے ہرات تک پھیلا ہوا پہاڑی علاقہ.

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۳۳۹	● پارچہ بالی : رگ بہ (۱) قن : (۲) نسج (پارچہ بافی)۔	
۱ ۳۳۹	● پارسی : ایران کے قدیم مذہب کے پیرو۔	
۱ ۳۵۰	* پارہ : ایک ترکی سکہ۔	
۲ ۳۵۰	● بازہر : رگ بہ بازہر۔	
۲ ۳۵۰	* پاسبان اوغلو : پاسبان اوغلی یا پازواند اوغلو (۱۵۵۰ء تا ۱۶۰۰ء)، ودین کا باغی پاشا اور وہاں کا حکمران۔	
۱ ۳۵۳	* پاسے : (Pase)، سماترا میں آج کے شمالی ساحل پر ایک ضلع اور قدیم زمانے میں مشرقی ایشیا کی ایک مشہور سلطنت۔	
۱ ۳۵۳	* پاشا : ترکیہ میں قریبی عہد تک مستعمل سب سے بڑا اعزازی لقب۔	
۱ ۳۶۰	* پاشالیق : ایک ترکی اصطلاح : (۱) کسی پاشا کا منصب یا لقب ؛ (۲) کسی پاشا کے زیر اختیار علاقہ۔	
۲ ۳۶۰	● پاشقرت : رگ بہ پاشقرت۔	
۲ ۳۶۰	● پاک پٹن : (اجودھن)، پنجاب (پاکستان) کا شہر، حضرت فرید الدین گنج شکرؒ کے مزار کے لیے معروف۔	
۱ ۳۶۱	● پاکداسن بییاں : لاہور (پاکستان) کا ایک قدیم قبرستان۔	
۱ ۳۶۲	● پاکستان : جمہوریۂ اسلامیۂ پاکستان (قیام : اگست ۱۹۴۷ء)۔	
۱ ۵۴۱	* ہالانگ : تکمیل سلوک کے بعد بعض ترک جوان درویشوں کے گلے میں ڈالی جانے والی ڈوری اور اس میں لٹکا ہوا عقیق کا ستارہ۔	
۲ ۵۴۱	* ہالعاترا : (پالمیرا = Palmyra = تدمر)، دمشق سے شمال مشرق میں صحراے عرب کے ایک نخلستان میں واقع مشہور تاریخی شہر۔	
۱ ۵۴۵	● ہالیم ہانگ : رگ بہ انڈونیشیا۔	
۱ ۵۴۵	* ● ہالین پور : آج کل بھارت کے صوبہ بھنبی میں شامل، برطانوی ہند کی ایک سابق مسلم ریاست۔	
۲ ۵۴۵	● ہاسیر : وسطی ایشیا کا ایک معروف پہاڑی سلسلہ۔	
۱ ۵۴۶	● ہاتج پیر : رگ بہ پنج پیر۔	
۲ ۵۴۶	* ہائی پت : بھارت کے ضلع کرنال کی ایک تحصیل اور اس کا صدر مقام، اسلامی عہد کی تین عظیم جنگوں کا محل وقوع۔	
۲ ۵۴۴	* ہانگ : (= ہانگانگ) رگ بہ ملایا، جزیرہ نما۔	
۲ ۵۴۴	* ہپرولہ : (Patrona)، رگ بہ ریالہ۔	
۲ ۵۴۴	* ہشی : (= ہشی)، تھائی لینڈ کا ایک ضلع۔	
۲ ۵۴۸	* ہٹرو وارادین : (Petrovardin)، یوگوسلاویا کا ایک مشہور فوجی قلعہ اور شہر۔	
۲ ۵۸۰	● ہٹہ : بھارت کے صوبہ بہار کا دارالحکومت اور مشہور تاریخی مقام۔	

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۵۸۱	* پٹیالہ : برطانوی ہند کے صوبہ پنجاب میں سکھوں کی سب سے بڑی ریاست اور اس کا صدر مقام۔	
۱ ۵۸۲	* پٹھان : رگ بہ (۱) افغان؛ (۲) افغانستان؛ (۳) پشتو۔	
۱ ۵۸۲	* پچنک : (Pecenegs)، قرون وسطیٰ کی ایک ترکی النسل قوم۔	
۱ ۵۸۲	* پچوی : ابراہیم آفندی (۱۵۷۳ء تا نواح ۱۰۶۰ھ/۱۶۵۰ء)، ایک ترک مؤرخ اور مصنف تاریخ پچوی۔	
۱ ۵۸۵	* پرتو پاشا : دو عثمانی سیاستدانوں کا نام : (۱) پرتو محمد پاشا، وزیر اور امیر البحر (حیات ۱۵۷۳ء/۱۵۸۲ء)؛ (۲) پرتو محمد سعید پاشا، ترک منصب دار اور شاعر (م ۱۲۵۱ھ/۱۸۳۶ء)۔	
۱ ۵۸۶	* پرشیا : (Persia)، رگ بہ ایران۔	
۲ ۵۸۷	* ہرگنہ : سلطنت دہلی کی اصطلاح میں دیہات کا مجموعہ، ایک انتظامی اکائی۔	
۲ ۵۸۷	* ہرنگ سبل : (Prang Sabil، پرانگ سابل)، مجمع الجزائر شرق الہند میں جہاد کے لیے مستعمل کلمہ۔	
۲ ۵۸۸	* ہروالہ : رگ بہ معین الدین سلیمان۔	
۱ ۵۸۹	* ہریم : (Perim)، بحر احمر کے دہانے پر ایک جزیرہ۔	
۱ ۵۸۹	* ہریم چند : اصل نام دھنپت رائے (۱۸۸۰ء تا ۱۹۳۷ء)، اردو اور ہندی کے مشہور افسانہ نگار اور ناول نویس۔	
۲ ۵۹۰	* ہزترن : رگ بہ پسنترن۔	
۱ ۵۹۳	* ہساروتز : رگ بہ ہساروتز۔	
۱ ۵۹۳	* ہست : ایک قسم کی غذا۔	
۱ ۵۹۳	* ہسیر : سابقاً جنوب مشرقی بوریو میں ایک سلطنت اور اب انڈونیشیا کے صوبہ کالی منتان کا ایک حصہ۔	
۱ ۵۹۳	* ہسرور : ضلع سیالکوٹ (پاکستان) کا ایک پرانا شہر اور تحصیل کا صدر مقام۔	
۱ ۵۹۷	* ہسترن : (ہزترن)، جاوا اور مادورا کے جزیروں میں دینیات کے طلبہ کی تربیت گاہوں کے لیے مستعمل اصطلاح۔	
۲ ۵۹۷	* ہشاروتز : (Pozarevac)، یوگوسلاویا میں ضلع (= بانات) ڈینیوب کا ایک ترقی پذیر تجارتی قصبہ۔	
۱ ۶۰۲	* ہشاور : صوبہ سرحد (پاکستان) کا دارالحکومت اور مشہور تاریخی شہر۔	
۲ ۶۰۳	* ہشتو : (ہختو)، پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے، بلوچستان کے ایک حصے اور تقریباً نصف افغانستان میں بولی جانے والی ہشتونوں کی زبان۔	
۱ ۶۱۳	* ہشین : پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کی ایک تحصیل اور اس کا صدر مقام۔	
۲ ۶۳۷	* ہکتھال : Muhammad Marmaduke Pickthal (۱۸۷۵ء تا ۱۹۳۶ء)، مشہور مسلمان مستشرق، مصنف اور مترجم قرآن مجید۔	
۱ ۶۳۸		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۶۳۰		* پُل : (Pul) فلپہ ، مغربی افریقہ کا ایک قبیلہ۔
۲ ۶۳۶		* پَلائی : (Polei)، جنوبی ہسپانیہ میں ایک قدیم قلعہ۔
۲ ۶۳۶		* پلونہ : (Plevna)، شمالی بلغاریا کا ایک اہم شہر۔
۲ ۶۳۸		⊗ پنجاب : پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ۔
		⊗ پنجابی : دہلی (بھارت) سے خیرپور (سندھ) اور پشاور اور درہ کاغان سے سری نگر (مقبوضہ کشمیر) تک کے علاقے کی زبان۔
۲ ۶۶۳		⊗ پنج پیر : برصغیر پاک و ہند کے فرقہ پانچ پیرہ کے بزرگوں کے لیے عوامی اصطلاح۔
۱ ۶۸۳		⊗ پنج تن : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی اہل بیت کے لیے مشہور اصطلاح۔
۱ ۶۹۵		* پنج دہ : سوویت روس کی جمہوریہ ترکمان میں ایک قریہ۔
۱ ۶۹۵		⊗ پنج لد : پنجاب (پاکستان) میں پانچ دریاؤں کا سنگم۔
۱ ۶۹۷		* پنگلو : رگ بہ پنگولو۔
۱ ۶۹۷		* پنگولو : (Panghulu)، سابق ولندیزی مجمع الجزائر شرق الہند میں دینی و غیردینی امور کا ناظم اعلیٰ۔
۲ ۷۰۰		* پواسا : مجمع الجزائر شرق الہند میں ماہ رمضان کا نام۔
		⊗ پوپ : Arthur Upham Pope (پیدائش ۱۸۸۱ء)، اسلامی ملکوں، بالخصوص ایران کے آرٹ کا ممتاز ترین ماہر امریکی مستشرق۔
۱ ۷۰۳		⊗ پوپر : William Popper (پیدائش ۱۸۷۳ء)، ایک ممتاز عربی دان امریکی مستشرق۔
۲ ۷۰۳		⊗ پونہوہار : رگ بہ (۱) پاکستان ؛ (۲) پنجاب۔
۲ ۷۰۳		⊗ پونہوہاری : رگ بہ پنجابی۔
۲ ۷۰۳		* پورٹ سعید : بحیرہ روم کے ساحل اور نہر سویز کے دہانے پر مصر کی مشہور بندرگاہ۔
۲ ۷۰۶		⊗ پورٹو نووو : (Porto-Novo)، جنوب مغربی افریقہ میں جمہوریہ دہومی کا دارالحکومت۔
۱ ۷۰۷		* پوست : کھال کے معنوں میں ایک اصطلاح۔
		⊗ پوکاک : Edward Pocock (پیدائش ۱۶۰۳ء)، مشہور عربی دان انگریز مستشرق اور متعدد کتب کا مصنف۔
۱ ۷۰۷		* پولہ : مغل شہنشاہ اکبر کے عہد کا ایک سکھ۔
۲ ۷۰۸		⊗ پولینڈ : (لہستان)، یورپ کا مشہور ملک اور خطہ۔
۲ ۷۲۲		* پوماق : بلغاریا اور تراکیا (Thrace) میں بلغاری زبان بولنے والے مسلمان۔
۱ ۷۲۸		* پونا : بھارت کے صوبہ مہاراشٹر کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام۔
۱ ۷۲۹		* پوتیانک : انڈونیشی بورنیو کی ایک سابق ولندیزی ریڈانسی۔
		* پہلوان : محمد بن ایلدگیز، شمس الدین، آذربائیجان کا اتابک اور حکمران (از ۱۱۷۲/۸۵۶۸ء -

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۷۳۱		* پیاسٹر : رگ بہ غروش. (۱۱۸۶/۵۵۸۲ تا ۱۱۷۳ء)
۱ ۷۳۲		* پیالہ پاشا : ایک عثمانی امیر البحر کبیر (م ۱۵۷۸/۵۹۸۵ء)
۱ ۷۳۲		* پیر : مرشد کے معنوں میں علم تصوف کی ایک اصطلاح.
۱ ۷۳۳		* پیرا : (پیرہ)، رگ بہ استانبول.
۱ ۷۳۳		* پیراک : رگ بہ ملایا، جزیرہ نما.
۱ ۷۳۳		* پیر پنجال : مقبوضہ کشمیر میں کوہ ہمالیہ کے سات میں سے ایک مشہور سلسلہ کوہ.
۱ ۷۳۳		* پیری محمد پاشا : ایک عثمانی وزیر اعظم (م ۱۵۳۲/۵۹۳۹ یا ۱۵۳۳/۵۹۳۰ء)
۲ ۷۳۳		* پیری محی الدین رئیس : یونانی الاصل عثمانی جہازران اور ماہر نقشہ کشی (م نواح ۵۹۶۰/۱۵۵۳ء)
۲ ۷۳۵		* پیسا : تین پائی یا چوتھائی آنے کے برابر برطانوی ہند کا ایک سکہ.
۱ ۷۳۸		* پیش گوئی : آئندہ کی خبر دینا ؛ رگ بہ (۱) کہانت ؛ (۲) جفر ؛ (۳) فال ؛ (۴) رمل ؛ (۵) تعبیر وغیرہ.
۲ ۷۳۸		* پیشوا : ایک تاریخی اصطلاح : (۱) دکن کے بہمنی سلاطین کے وزراء ؛ (۲) شیوا جی کا وزیر اعظم ؛ (۳) مرہٹہ جمعیت کا سربراہ
۲ ۷۳۸		* پیللا : Charles Pellat (۱۹۱۳ تا ۱۹۶۹ء) ، بیسویں صدی کا ایک معروف عربی دان فرانسیسی مستشرق.
۱ ۷۴۱		* پینانگ : (یا پلاوینانگ) ، وفاق ملیشیا کا ایک جزیرہ.
۲ ۷۴۱		



جلد ۶

ت

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۱		* تاء : عربی حروف تہجی کا تیسرا حرف.
		* تَابَطْ شَرًّا : ثابت بن جابر بن سفیان، قبیلہ فہم کا قدیم عرب صاحب دیوان شاعر اور بدوی بہادر.
۱ ۱		
۱ ۲		* تَابِع : لغوی معنی چاکر، شاگرد، معتقد؛ اصطلاحاً صحابہ کرامؓ کے جانشین.
۲ ۳		* تات : (تت) ، ترکی ممالک میں شامل خارجی عناصر.
		* تاتار : (تتار؛ تتر) ، مغول؛ ازمندہ متوسطہ میں وسط ایشیا کے مغولوں پر مشتمل ایک مشہور جنگجو، سفاک اور حکمران قوم.
۲ ۱۱		
۱ ۱۳		* تاج : بادشاہوں کے سر کے پہناوے کے لیے ایک معروف اصطلاح.
۲ ۱۸		* تاج الدولۃ : رگ بہ تیش.
۲ ۱۸		* تاج الدین : رگ بہ السبکی.
		* تاج الدین بن زکریا : بن سلطان العثماني القرشي النقشبندی الحنفی السنبھلی، مہاجر مکہ، ہندوستان کے نقشبندی سلسلے کے ایک شیخ طریقت، مصنف اور مترجم نجات الانس (از جامی) وغیرہ (م ۵۰۵ھ/۱۱۰۷ء).
۲ ۱۸		* تاج محل : شاہ جہان کا اپنی محبوب بیگم ممتاز محل کے لیے آگرے میں بنوایا ہوا بے مثال اور خوبصورت ترین یادگار مقبرہ.
۲ ۲۲		* تاج الملوک : رگ بہ بُوری.
۲ ۲۲		* تاجہ : جزیرہ نماے آئیبریہ (ہسپانیہ و پرتگال) کا سب سے لمبا دریا.
۱ ۲۳		* تاجیک : (تازیک، تاژیک)، مختلف ادوار میں مختلف اقوام کے لیے مستعمل ایک اصطلاح.
۱ ۲۵		* تاجیکی : تاجیکوں کی زبان.
۱ ۲۵		* تادلا : (یا تادلا)، مراکش کا ایک ضلع
۱ ۲۸		* تارم : (Tarim، ترم)، موجودہ چینی ترکستان کا سب سے بڑا دریا.
		* تارم : (طرم)، دریائے قزیل اوزن کی گزرگاہ کے قریب ایک ولایت اور اس کے کنارے ایک قصبہ.
۲ ۲۹		
۲ ۳۶		* تارودالت : مراکش کے جنوب مغرب میں علاقہ سوس کا ایک بڑا شہر.

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۳۶	* تاریخ : (مقالہ اول) ۱۔ ایک مشہور علم؛ حولیات، یعنی وقائع کا بیان بہ ترتیب تاریخی؛	
۲ ۳۸	۲۔ کسی عصر خاص کی تعیین، حسابِ ازمان۔	
۲ ۴۶	* تاریخ : مقالہ (دوم) ، عصر ، تعیین وقت۔	
۲ ۴۴	* تاریخ : (مقالہ سوم) ، علم التاریخ ، ادبیات کی ایک اصطلاح۔	
۲ ۴۹	* تازا : مشرقِ مراکش کا ایک شہر۔	
۲ ۴۹	* تاشقین بن علی : خاندانِ مرابطین کا ایک بادشاہ، رگ بہ المرابطون۔	
۲ ۴۹	* تاشکنت : (تاشکند) ، وسطِ ایشیا کا مشہور تاریخی شہر۔	
۲ ۸۳	* تافتہ : ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔	
۱ ۸۳	* تالیلات : جنوبِ مشرقِ مراکش میں ایک علاقہ۔	
۲ ۸۳	* تاکرنا : (Takoronna) ، اسلامی سپین میں مرکزی تودہ کوہی ، آج کل سیرانیا د روندہ (Serrania de Ronda)۔	
۱ ۸۵	* تالیس : ایران کے صوبہ گیلان کے شمال میں ایک اقلیم اور اس کے باشندے۔	
۱ ۸۶	* تامل زبان پر اسلام کا اثر : رگ بہ ہندوستان۔	
۱ ۸۶	* تان سین کلاونت : عہدِ اکبری کا بے نظیر مغنی اور موسیقی دان ، مصنف بدہ پرکاش (۱۵۸۹ء/۱۵۹۹ء)۔	
۱ ۸۶	* تاویل : (اپنے اصل کی طرف لوٹانا) ، ایک مخصوص تفسیری اصطلاح۔	
۱ ۸۷	* تاهرت : (تہرت) ، الجزائر میں وهران کی شمال مشرق سرحد پر واقع ایک شہر۔	
۲ ۸۸	* تبالہ : مکہ معظمہ سے جنوب مشرق جانب عسیر کے اندرونی علاقے میں ایک قصبہ۔	
۲ ۸۹	* تبت : چین کے جنوب میں ایک ملک۔	
۲ ۹۳	* تبریز : ایران کی ولایت آذربيجان (رگ باں) کا مرکز۔	
۱ ۹۸	* التبریزی : ابو زکریا یحییٰ بن علی (۴۲۱ھ/۵۰۳ء تا ۵۰۲ھ/۵۱۱ء) ، فقہ لغتِ عربی کا مشہور و معروف ماہر ، مصنف اور شارح۔	
۲ ۱۲۳	* تبریزی : شمس الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی ، المعروف بہ شمس تبریزی ، ایک صوفی کامل اور جلال الدین رومیؒ کے مرشد (حیات ۵۶۳ھ/۱۲۳۵ء)۔	
۲ ۱۲۴	* التبریزی : رگ بہ محمد حسین بن خلف۔	
۲ ۱۲۴	* آتسہ : (Tetessa) ، تونس کی سرحد پر الجزائر کا ایک شہر۔	
۱ ۱۲۹	* آتسہ : (آبو) ، صحرائے اعظم کے مشرق حصے کے باشندے۔	
۲ ۱۳۱	* تبوک : عہدِ نبویؐ میں شمالِ عرب اور بوزنطی سلطنت کی سرحد کے قریب درب الحج پر واقع ایک شہر۔	
۲ ۱۳۲	* تپتیر : (Teptyar) ، اورن برگ ، اویا اور ہرم میں آباد مخلوط النسل ترک۔	
	* تیش بن آلپ ارسلان ، تاج الدولہ : ملک شام کا ایک سلجوق حاکم (از ۵۳۷ھ/۱۱۰۷ء	

صفحہ نمبر	عمود	اشارات	عنوان
۱	۱۳۳		تا ۵۳۸۸/۹۵ (۶۱.۹۵).
۲	۱۳۳		* تجارۃ : سوداگری، بیوپار، ایک فقہی اور قانونی اصطلاح.
			* التجانی : ابو عبد اللہ محمد بن احمد، تونس کا ایک عرب عالم، سیاح اور مصنف (حیات
۳	۱۳۶		۵۲۰۹/۳۰۹ (۶۱۳.۹).
			* تجالیہ : (تجانی، تجینی) صوفیوں کا ایک طریقہ؛ سلسلہ : ابوالعباس احمد بن محمد بن
۱	۱۳۸		المختار بن سالم التجانی (۵۱۱۵۰/۳۷ تا ۵۱۲۳۰/۸۱۵).
۱	۱۵۱		* تجلید : فن جلد سازی.
۱	۱۶۳		* تجنیس : (جناس)، محسنات لفظیہ سے متعلق علم بدیع کی ایک اصطلاح.
۱	۱۶۴		* تجوید : قراءت قرآن کا فن.
۲	۱۶۹		* تجیب، بنو : اندلس میں اموی عہد اور ملوک الطوائف فرمانرواؤں کے دور کا ایک خاندان.
			* تحسین : میر محمد عطا حسین خان (مرصع رقم)، ایک ہندوستانی مصنف اور خوشنویس
۲	۱۷۰		(م ۵۱۲۰۰/۸۵ تا ۵۱۳۰۰/۳۸۳)، دیکھئے نیز ص ۳۸۳، عمود ۱.
			* تحصیل : ہندوستان میں مالید جمع کرنے کے معنوں میں ایک مالیاتی اصطلاح، نیز ایک
۱	۱۷۲		انتظامی آگاہی.
۱	۱۷۲		* تحت باہی : پاکستان کے صوبہ سرحد میں مردان کے قریب واقع شکر سازی کا ایک اہم مرکز.
۲	۱۷۲		* تختی : آناطولی میں شیعیت کی طرف میلان رکھنے والا ایک فرقہ.
۲	۱۷۳		* تخلص : ایک کثیر المعانی ادبی اصطلاح.
۱	۱۷۸		* تدبیر : تدبیر منزل وغیرہ کے مفہوم میں ایک فلسفیانہ اصطلاح.
۲	۱۸۰		* تدیس : الجزائر کے ساحل پر ایک شہر.
۲	۱۸۲		* تدیس : (اخفای عیب)، کسی راوی کا حدیث کے کسی عیب کو چھپانا، ایک محدثانہ اصطلاح.
۱	۱۸۳		* تدمر : رگ بہ پالمائرا (Palmyra).
۱	۱۸۳		* تدمیر : (Tudmir)، اندلس کا ایک کورہ (صوبہ).
			* تدورے : (Tidore)، جزیرہ نماے ملایا کے مشرق حصے میں ہلماہیرا کے مغرب کی طرف
۲	۱۸۳		ایک برکاتی جزیرہ.
۲	۱۸۵		* تذکرہ : ایک کثیر المعانی اصطلاح (یادگار، یادداشت، ٹکٹ، پرمٹ وغیرہ).
۱	۱۸۶		* تذهیب : کتابوں کی طلاکاری کا مشہور اسلامی فن.
۱	۱۹۸		* ترانجی : (تارانچی) مشرق ترکی میں بمعنی کاشتکار.
۲	۱۹۹		* تراویح : رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جانے والی نماز.
۲	۲۰۰		* تربت حیدری : رگ بہ زاوہ.
			* تربت شیخ جام : ایران کے شمال مشرق میں افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ولایت
۲	۲۰۰		خراسان میں ایک مقام.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۰۲		* تَرْتُوشَه : (Tortosa)، رگ بہ طرُوشَه.
۱ ۲۰۲		* تَرَجْمَان : (آرامی الاصل عربی لفظ)، بات سمجھانے والا، سلطنت عثمانیہ میں ایک اہم عہدہ اور ایک سرکاری اصطلاح.
۲ ۲۰۳		* تَرَجْمَان : ترک صوفیوں کی ایک اصطلاح.
۱ ۲۰۵		* تَرِحَالَه : (ترکالہ، ترکالہ)، مغربی تھسلی (تسالیہ) میں واقع ایک شہر.
۲ ۲۰۶		* تَرَشِيزَ : ایران کا ایک شہر اور ولایت نیشاپور میں ضلع بشت کا صدر مقام.
۲ ۲۰۷		* تَرخان ییگ : ایک عثمانی جرنیل، تسالیہ کا فاتح اور وہاں کا سرزبان (م. ۵۸۶/۴۱۳۵۶).
۱ ۲۱۱		* تُرک : وسط ایشیا کے علاقہ قفقاز میں ایک بہت بڑا دریا.
۱ ۲۱۲		* تُرک : ترکیہ میں آباد ایک مسلم قوم.
۲ ۳۵۹		* تُرکستان : (ترکوں کا ملک)، وسط ایشیا کا ایک مسلم ملک، آج کل روس میں شامل ایک ریاست.
۱ ۳۶۲		* تُرکمان : پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی سے وسط ایشیا کی ایک ترکی قوم کے لئے مستعمل کلمہ.
۲ ۳۶۹		* تُرکمان چای : آذربائیجان کے ناحیہ گرم رود میں ایک گاؤں.
۱ ۳۷۱		* تُرکمنیہ : (ترکمنستان) ایران و افغانستان کے شمال میں ایک سوویت اشتراکی جمہوریہ.
۲ ۳۷۳		* تُرکیب بند : ہم قافیہ اشعار کے متعدد بندوں پر مشتمل نظم.
۱ ۳۷۳		* تُرْمِذَ : آمو دریا (رگ باں) کے شمالی کنارے پر ایک قدیم تاریخی شہر.
۲ ۳۷۸		* التِّرْمِذِي : ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حسین، المشہور بہ حکیم، خراسان کے سنی عالم دین، محدث، حنفی فقیہ، صوفی اور چند کتابوں کے مصنف (م ۵۲۸۵/۴۸۹۸).
۱ ۳۷۹		* التِّرْمِذِي : ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ سورہ بن موسیٰ السلمی، مشہور محدث و فقیہ اور صحاح ستہ میں سے ایک صحیح الجامع الترمذی کے مصنف (م ۸۸۸/۴۸۸۹-۵۲۷۵/۸۸۸-۴۸۸۹ یا ۵۲۷۹/۸۹۲-۴۸۹۳).
۲ ۳۸۱		* تِرْمِذِي : سید برہان الدین صوفی، المعروف بہ سید حسین ترمذی، سید سردان، ساتویں صدی ہجری / تیرہویں صدی عیسوی کے ایک بزرگ اور صوفی (حیات ۵۶۳۱/۴۱۲۳۳).
۲ ۳۸۲		* تِرْمِذِي : سید علی کبروی، پیر بابا، صوفی سرحد کے مشہور ولی اللہ (م ۵۹۹۱/۴۱۵۸۳).
۲ ۳۸۵		* تِرْنَاتَه : (Ternate)، مجمع الجزائر ملایا کے مشرق میں ایک چھوٹا سا آتش فشاں جزیرہ.
۱ ۳۸۷		* تَرَوِيَه : ۸ ذوالحجہ، احرام باندھ کر حجاج کا منیٰ کی طرف روانہ ہونے کا دن.
۱ ۳۸۸		* تَرِي : چوتھائی طلائی دینار کے برابر ایک طلائی سکہ.
۲ ۳۸۸		* تَرِيهولس : (Tripolis)، رگ بہ طرابلس.
۲ ۳۸۸		* تَرِيم : (۱) شمالی حضرموت کا ایک بڑا اور قدیم شہر.
۲ ۳۹۲		* تَرِيم : (۲) ہلالی یمن میں واقع ایک قلعہ کا نام.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۹۳		* تزویج : رگ بہ نکاح .
۲ ۳۹۳		* تَسْبِيح : سُبحانِ اللہ (رگ باں) کا ذکر کرنا .
۲ ۳۹۳		* تَسْتَر : رگ بہ سُستر .
۲ ۳۹۳		* تَسْمِيه : رگ بہ بَسْمَلہ .
۲ ۳۹۳		* تَسْنِيم : (۱) بہشت کا ایک چشمہ؛ (۲) سطح زمین سے قبروں کو اونچا کرنا .
		* تَسْوِج : (طسوج) ، (۱) بعض پیمانوں کا چوبیسواں حصہ ، مثلاً چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ ؛ (۲) قسمت علاقہ ، تسوک یا ضلع ؛ (۳) صوبہ آذربيجان میں ایک چھوٹا سا شہر .
۱ ۳۹۵		* التَّسْوِير : علم احکام نجوم کا ایک عمل .
۱ ۳۹۹		* تَشْبِيہ : (۱) تشیل اور تجسیم ، یعنی ذات باری کو انسان جیسا سمجھنا ؛ (۰) تعطیل ، یعنی خدا کی صفات کی قطعی نفی کرنا .
۲ ۴۰۳		* تَشْرِيح : لغوی معنی : کھولنا ؛ اصطلاحی معنی : (۱) کسی فن یا علم کا بیان یا کسی کتاب کی تفسیر ؛ (۲) علم تشریح الابدان ، یعنی جسم کو کھولنا اور اس کی بناوٹ کی تشریح کرنا .
۲ ۴۱۰		* تَشْرِيف : ایام حج کے آخری تین دن ، یعنی ۱۱ تا ۱۳ ذوالحجہ .
۱ ۴۱۳		* تَشْهَد : کلمہ شہادت کی تلاوت ، بالخصوص نماز میں ؛ اصطلاحاً التحیات پڑھنا .
۱ ۴۱۴		* تَشْرِب : سوری تقویم کے پہلے دو مہینے .
۱ ۴۱۶		* تَصْدِيق و تصور : (۱) فلسفیانہ نقطہ نظر سے علم منطق کی دو اصطلاحات ؛ (۲) دینی نقطہ نظر سے اُبی کی تصدیق کرنے اور اس پر ایمان لانے کے معنوں میں ایک دینی اصطلاح .
۱ ۴۱۶		* تَصَوُّف : ایک نظریہ اور طریقہ ؛ اسلامی اصطلاح میں صوفی بن کر خود کو متصوفانہ زندگی کے لیے وقف کر دینا .
۱ ۴۱۸		* تَصْوِير : ایک فنی اصطلاح ، بمعنی صورت دینا ، ڈھالنا ؛ پیکر ، شبیہ ، شکل ، رسم اور مثال وغیرہ .
۲ ۴۳۷		* تَطْوَان : رگ بہ تِطاوین .
۱ ۴۴۶		* تَطِيلہ : (Tudela) ، ہسپانیہ کا ایک چھوٹا سا شہر .
۱ ۴۴۶		* تَعْبِير : رگ بہ رُویا .
۲ ۴۴۶		* تَعْرِيف : ایک کثیرالاستعمال اصطلاح ، بمعنی توضیح ، حد ، وصف و بیان .
۱ ۴۴۷		* تَعَزُّز : جنوبی عرب کا اہم قصبہ اور ترکی عہد حکومت میں تعزیرہ کے سنجاق کا صدر مقام .
۱ ۴۵۳		* تَعْزِير : سزا دینے کے معنوں میں ایک فقہی اصطلاح .
		* تَعْزِيہ : لغوی معنی تلقین صبر ، تسلی دینا اردو میں امام حسین علیہ السلام کی تربت ،

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۵۵		ضریح یا عمارتِ روضہ کی شبیہ.
۱ ۳۶۱		* تعطیل : عام عقائد کی ایک اصطلاح، بمعنی خدا کے تصور کو تمام صفات سے منزہ کرنا (رک بہ تشبیہ).
۲ ۳۶۱		* تعلیق : رک بہ فن، خطاطی.
۲ ۳۶۱		* تعمیر : رک بہ فن، تعمیر.
۲ ۳۶۱		* تعویذات : رک بہ حمائل.
۲ ۳۶۱		⊗ تغابن : (التغابن)، قرآن مجید کی ایک سو آٹھویں سورہ.
۱ ۳۶۲		* تغایمور : مغول خان، جرجان میں ۵۸۰۸/۵۱۳۰۵ سے پہلے ایک سو سال تک حکمرانی کرنے والے خاندان کا بانی فرمائروا (از ۵۳۷/۵۱۳۳۷ تا ۵۵۳/۵۱۳۵۳).
۲ ۳۶۶		* تغزغز : ایک ترکی النسل قوم.
۲ ۳۶۸		* تغاب : قدیم عربوں میں قبائل ربیعہ میں سے بنو وائل و تغلب سے متعلق ایک اہم قبیلہ.
۲ ۳۸۰		⊗ تغایق : (تغلق)، دہلی کا ایک شاہی خاندان (۵۲۰/۵۱۳۲ تا ۵۸۱۶/۵۱۳۱۳).
۱ ۳۸۲		* التغتازنی : سعد الدین بن عمر (۵۲۲/۵۱۳۲۲ تا ۵۹۲/۵۱۳۹۰)، بلاغت، منطق، ماوراء الطبیعیات، کلام، فقہ اور دوسرے علوم کا مشہور ماہر اور متعدد کتابوں کا مصنف.
۲ ۳۸۸		⊗ تفسیر : قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا علم.
۲ ۵۳۷		* تقضیل : اصطلاحاً دو چیزوں کا ایک صفت میں اشتراک اور ایک کا اس صفت مشترک میں زیادہ ہونا.
۲ ۵۳۸		* تفلس : گرجستان کا صدر مقام.
۱ ۵۶۷		* تقتمیش : بن تولی خواجہ، آلتون اردو (Golden Horde) کا ایک خان (م ۵۸۰۹/۵۱۳۰۶).
۲ ۵۷۱		* تقدیر : رک بہ قدر.
۲ ۵۷۱		* تقرت : (یا تگرت)، الجزائر صحران کا ایک قصبہ.
۱ ۵۷۳		* تقلید : (۱) فقہی اصطلاح : قربانی کے جانوروں کی گردن میں بطور نشان قلاوہ ڈالنا؛ (۲) فوجی اصطلاح : کسی فوجی محکمے میں کسی شخص کو کسی منصب پر فائز کرنا؛ (۳) فقہی اصطلاح : کسی قول کو دلیل کے بغیر قبول کر لینا.
۱ ۵۷۹		* تقی الدین : رک بہ المظفر.
۱ ۵۷۹		* تقی خان مرزا : المعروف بہ میر نظام، ایران کا وزیر اعظم (م ۵۱۲۶۸/۵۱۸۵۱).
۱ ۵۸۰		* تقی کاشی : تقی الدین محمد المتخلص بہ ذکری، ایک ایرانی تذکرہ نویس اور چند ادبی کتابوں کا مؤلف (حیات ۱۶۰۱۶/۵۱۶۰۷-۱۶۰۸/۵۱۶۰۸).
۲ ۵۸۰		* تقیہ : (حذر، بچاؤ)، شیعہ اصطلاح میں غیر کے خوفِ ضرر سے خلاف اعتقاد کچھ کہنا یا کرنا.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۵۸۵		* تکبیر : کلمہ اللہ اکبر کہنا، ایک قرآنی اصطلاح۔
		* ٹکورور : (Tuculor)، سنیگالی فوٹہ کے نشیبی علاقوں کے بڑے حصے اور بوندو کے بیشتر علاقے میں آباد زندگی نژاد لوگ۔
۲ ۵۸۶		* تکریت : سامرا کے شمال اور سلسلہ جبل حمیرین کے دامن میں واقع دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر ایک عراقی قصبہ۔
۱ ۵۹۳		* تکش : بن ایل آرسلان، خوارزم شاہیوں کے چوتھے اور نہایت شاندار خاندان کا ایک بادشاہ (از ۵۶۷/۱۱۷۲ء تا ۵۹۶/۱۲۰۰ء)۔
۱ ۵۹۶		* تکلیت : (پچی کاری)، ایک فنی اصطلاح، کسی ادنیٰ دھات کے اندر کسی بیش قیمت دھات کی جڑت کا کام۔
۱ ۵۹۷		* تکلیف : ایک فقہی اصطلاح، ایسا فعل مخاطب پر لازم کرنا جس میں مشقت اور کافت ہو۔
۲ ۶۰۷		* تکودر : (اسلامی نام احمد)، ایران کے مغولی خاندان ایلخانیہ میں پہلے پہل اسلام قبول کرنے والا بادشاہ (از ۵۸۱/۱۲۸۲ء تا ۶۸۳/۱۲۲۳ء)۔
۱ ۶۰۹		* تکہ : (یا تکہ Tekke)، ایک ترکمان قبیلہ۔
۲ ۶۰۹		* تکہ اوغلی : آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں تکہ ایلی (رک یاں) پر حکومت کرنے والا ایک آناطولی حکمران خاندان۔
۱ ۶۱۱		* تکہ ایلی : ایشیائے کوچک کا ایک ضلع، سابقاً تکہ اوغلی کی سرزمین۔
۱ ۶۱۲		* تکرت : رگ بد تقرت۔
۱ ۶۱۳		* تلیہ : لپیک کا کامہ ادا کرنا، مناسک حج میں سے ایک۔
۱ ۶۱۳		* تلخیص : خلاصہ کرنا، ترکی دواوین کی ایک اصطلاح۔
۲ ۶۱۳		* تلخیصی : ترکیب میں تلخیص کی تیاری اور اسے محل تک پہنچانے کا ذمہ دار عہدیدار۔
۱ ۶۱۳		* تل : (Tell)، شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے کے لیے یورپی جغرافیہ نگاروں کی اصطلاح۔
۱ ۶۱۵		* تل ہاشر : شمالی شام میں عینتاب کے قریب نہر ساجور پر ایک قلعہ۔
		* تل الحمارنة : (تل العمرنة)، صوبہ العینہ میں ایک چھوٹے سے قصبے مآوی کے بالمقابل دریائے نیل کے دائیں کنارے پر ایک جگہ۔
۱ ۶۱۹		* تل الکبیر : مصر کے دالیہ (ڈیلٹا) کا ایک گاؤں۔
۲ ۶۱۹		* تلہ : (Telloh)، عراق میں بہت سے مصنوعی ٹیلوں والی ایک جگہ۔
۲ ۶۲۰		* تلمستان : تلمسان کے پہاڑوں کے سلسلہ کوہ کی ایک ماہی پشت چٹان پر آباد افریقہ کا ایک شہر اور عہد مرابطین میں مشہور علمی مرکز۔
۲ ۶۲۰		* تلمسانی : متعدد مشہور علما کی نسبت : (۱) عقیف الدین سلیمان بن علی (۵۶۱۶/۱۲۱۹ء تا ۶۹۰/۱۲۹۱ء)، معروف عالم، سرکاری عہدے دار اور مؤلف؛ (۲) شمس الدین محمود بن سلیمان (۵۶۶۱/۱۲۶۳ء تا ۶۸۸/۱۲۸۹ء)

اول الذکر کا بیٹا اور ایک عیش پسند اور عاشق مزاج شاعر؛ (۳) ابواسحاق
ابراہیم بن ابی بکر ۵۶۰/۵۶۱ تا ۶۱۲/۶۱۳ء، صاحب علم و فضل،
مالکی فقیہ، شاعر اور مصنف۔

۱ ۶۳۲

* تَمَتُّعٌ : رگ بہ احرام۔

۱ ۶۳۳

* تَمَثَالٌ : رگ بہ تصویر۔

۱ ۶۳۳

* التَّمَسَّاحُ : نیل کے دالیہ کے مشرق میں واقع ایک جھیل۔

۱ ۶۳۳

* تَمَسَّاحٌ : مگر مچھ۔

۲ ۶۳۳

* تَمَغَادٌ : الجزائر کا ایک رومی شہر۔

۱ ۶۳۵

* تَمَغْرُوتٌ : مراکش کے جنوب میں وادی درعہ کا سب سے بڑا شہر۔

۲ ۶۳۵

* التَمَغْرُوتِيٌّ : ابوالحسن علی بن محمد، ایک مراکشی فاضل اور ایک دلچسپ سفر نامے
(رحلۃ) کا مصنف (م ۱۰۰۳/۱۵۹۳-۱۵۹۵ء)۔

۲ ۶۳۶

* تَمِنٌ : (تَمِينٌ) رگ بہ تُوْمَانٌ۔

۱ ۶۳۷

* تَمُوچِينٌ : (Temucin)، رگ بہ چنگیز خان۔

۱ ۶۳۷

* تَمُوْزٌ : (تَمُوْزٌ)، سریانی تقویم کا دسواں مہینا۔

۱ ۶۳۷

* تَمِيمٌ بن مَرْ : عرب کا ایک حضری قبیلہ۔

۲ ۶۳۷

* تَمِيمٌ بن المَعز بن باديس : بنو زبیری میں سے ^{www.bhatkallys.com} خالوادۃٰ صنہاجہ کا پانچواں بادشاہ اور
دیارِ بربڑ کے مشرقی حصے کا حکمران (از ۵۴۳/۶۲ء تا
۵۵۰/۶۱ء)۔

۲ ۶۳۲

* تَمِيمٌ بن المَعز بن المنصور : (۵۳۳/۹۳۸-۵۳۹/۹۳۹ء تا ۵۳۷/۹۸۵ء)، چھٹے فاطمی خلیفہ
العزیز کا بھائی اور ایک صاحبِ فضیلت اور ادب دوست شہزادہ۔

۱ ۶۳۳

* تَمِيمٌ دَارِيٌّ : ابو رُقَيْبِہ، ایک مشہور صحابی، اسلام کے پہلے واعظ اور مشہور قصہ
«جساسہ» کے راوی۔

۲ ۶۳۳

* تَنَاسُخٌ : آواگون، یعنی ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف نفسِ ناطقہ کا انتقال،
ہندوؤں کا مشہور عقیدہ۔

۲ ۶۵۱

* التَّنَاوُتِيُّ : پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی میں اباضی فرقے کے متعدد شیخ:
(۱) ابو یعقوب یوسف بن محمد التناوتی، نہایت متقی، پرہیزگار اور
صاحبِ کرامات؛ (۲) ابو عمار عبدالکافی التناوتی، ایک صاحبِ ثروت
عالم اور چند کتب کے مصنف (م قبل از ۵۷۰/۱۱۷۳ء)؛ (۳) عدی بن
اللؤلؤ التناوتی، صاحبِ تقویٰ و کرامات

۱ ۶۵۳

* تَنْجُنگِ پیراک : انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ کی بندرگاہ۔

۱ ۶۵۵

* تَنْزِيلٌ : رگ بہ (۱) وحی؛ (۲) تکفیت۔

۲ ۶۵۵

صفحہ عمود	عنوان
۲ ۶۵۵	* تنیس : (Tenes)، الجزائر کے ساحل پر وادی شلف میں ایک شہر۔
۲ ۶۵۷	* التنسی : محمد بن عبداللہ بن عبدالجلیل ابو عبداللہ، پندرہویں صدی عیسوی میں تلمسان کے زبانی بادشاہوں کا مقرب، تاریخ نویس اور چند کتب کا مؤلف (۵۸۹۹م/۶۱۳۹۳)۔
۲ ۶۵۷	* تنظیمات : (تنظیمات خیریہ، یعنی سود مند قانون سازی)، مملکت عثمانیہ کی حکومت اور نظم و نسق کے سلسلے میں سلطان عبدالعزیز کے عہد میں رائج کی جانے والی اصلاحات۔
۱ ۶۶۷	* تنگہ : (سنسکرت : ٹنکا)، چاندی کا ایک وزن (= ۳ ماشہ)، ایک قدیم ہندوستانی سکہ۔
۲ ۶۶۷	* تنگہ : (تنگچہ)، قدیم مغول سلطنت میں چاندی کا ایک چھوٹا سکہ۔
۱ ۶۶۸	* التین : ۳۱ ستاروں پر مشتمل ایک مجموعہ کواکب۔
۲ ۶۶۸	* تنوخ : عربوں کے ہم نسب حلیف قبائل کا قدیم مجموعہ۔
۱ ۶۷۷	* التنوخی : انقاضی ابو علی محسن (۵۳۲ھ/۶۳۹ء تا ۵۳۸ھ/۶۹۹ء)، ایک عرب مصنف، ادیب اور شاعر۔
۱ ۶۷۹	* التوائاں : آسمان پر دو آدمیوں کی صورت میں جڑے ہوئے ستارے (صورت جوزاء)۔
۲ ۶۷۹	* توبہ : یعنی (خدا کی طرف) رجوع کرنا، کسی گناہ کی خدا سے معافی مانگنے اور ندامت کا اظہار کرنے کے معنوں میں ایک اسلامی اصطلاح۔
۲ ۶۸۲	* توبو : رک بہ تبو۔
۲ ۶۸۲	* توحید : اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں ایک ماننا اور اس پر ایمان لانا، اسلام کا بنیادی عقیدہ، نیز دلائل سے اسے ثابت کرنے کا علم۔
۱ ۷۰۱	* تودد : الف لیلة کی ایک حکایت کی ہیروئن (بطلہ)۔
۱ ۷۰۳	* تورات : حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب مقدس (عہد نامہ قدیم کے ابتدائی پانچ صحیفے)۔
۱ ۷۱۳	* توران : ایران کے شمال مشرق میں واقع ایرانی علاقہ۔
۲ ۷۲۷	* توران شاہ : توران شاہ بن ایوب الماک المعظم شمس الدولہ فخرالدین، یمن کے ایوبی خاندان کا مورث اعلیٰ، (از ۵۶۹ھ/۱۱۷۳ء تا ۵۷۶ھ/۱۱۸۰ء)۔
۲ ۷۲۹	* تورغای : (Turgai)، وسطی ایشیا کے چٹیل میدانوں کے دریاؤں کا مجموعہ اور ایک چھوٹا قصبہ۔
۱ ۷۳۱	* تورفان : (طرفان)، چینی ترکستان کا ایک قصبہ۔
۱ ۷۳۳	* تورکو : (Turku)، عثمانی ترکی میں لوگ گیت کا عام نام۔
۱ ۷۳۷	* توریہ : علم بلاغت کی ایک اصطلاح۔
۱ ۷۳۸	* توژر : (توژر)، جنوبی تونس میں ایک قصبہ۔
۱ ۷۳۰	* توغ : رک بہ طوغ۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۷۳۰		* توغرت : رگ بہ تقرت.
۱ ۷۳۰		* توفیق پاشا : (۱۸۵۲ تا ۱۸۹۲ء)، خدیو مصر اسمعیل پاشا کا سب سے بڑا بیٹا اور مصر کا حکمران (از ۱۸۷۹ء).
۱ ۷۳۲		* توفیق فکرت : محمد توفیق (۱۸۶۷ء/۱۲۸۳ھ تا ۱۹۱۵ء/۱۳۳۳ھ)، ترکی شاعری کے جدید دبستان کا بانی اور چند کتب کا مصنف.
۱ ۷۳۲		* توفیق محمد : چایلاق توفیق (۱۸۳۳ء/۱۲۵۹ھ تا ۱۸۹۳ء/۱۳۱۱ھ)، ایک ترکی صحافی مصنف اور ادیب.
۲ ۷۳۶		* توقات : (Tokat)، کیپاڈوسیا کے شمالی حصے میں ایشیائے کوچک کا ایک شہر.
۲ ۷۳۷		* تووِیع : ایک ایسی دستاویز جس پر حکمران کے دستخط یا دستخط کے مساوی علامت ہو، ایک قانونی و دفتری اصطلاح.
۱ ۷۳۹		* تووِکل : (۱) ایک معروف قرآنی اصطلاح، بمعنی خدا پر بھروسہ کرنا.
۱ ۷۵۱		* تووِکل : (۲) اصطلاح کی قرآن و حدیث کی روشنی میں تشریح و توضیح.
۲ ۷۵۱		* تووِکل : تووِکل یا تووِکل بن حاجی اردبیلی، ایک درویش عالم اور صفویہ خاندان کے بانی اور مؤسس کی سوانح عمری پر مشتمل کتاب <u>صفوة الصفاء</u> کے مصنف (حیات ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۵ء).
۲ ۷۵۲		* تولوبہ جی : رگ بہ طولوبہ جی.
۲ ۷۵۳		* تومان : ایک ترکی اسم عدد، بمعنی دس ہزار.
۲ ۷۵۶		* تونس : (Tunis)، تونس کا دارالحکومت اور معروف شہر.
۱ ۷۷۵		* تونس : بلاد مغرب کی مشرقی ڈھلانوں پر مشتمل افریقہ کا ایک مشہور اسلامی ملک.
۱ ۷۷۶		* التونسی : محمد بن عمر بن سلیمان، انیسویں صدی عیسوی میں تونس کا مشہور عالم اور عربی کا مصنف.
۲ ۷۷۱		* تہامہ : جزیرہ نماے سینا سے شروع ہو کر ساحل عرب کی جنوبی اور مغربی جانب پھیلا ہوا نشیب ارو تنگ قطعہ زمین.
۲ ۷۷۱		* تھائیسری : مولانا احمد بن محمد، ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین، شاعر اور مصنف (م ۸۲۰ھ/۱۳۱۷ء).
۱ ۷۷۸		* تہجد : قیام لیل، خصوصاً نصف شب اور فجر کے درمیان پڑھی جانے والی نماز.
۱ ۷۶۲		* تہران : (طہران)، ایران کا موجودہ پایے تخت اور مشہور شہر.
۲ ۷۷۹		* تہلیل : کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا، ایک دینی اصطلاح.
۱ ۷۸۲		* تیرانہ : (تیران)، البانیا کی مملکت کا پایے تخت.
۲ ۷۸۳		* تیرہ : (Tire)، آناتولی میں ولایت آیدین کی منجاق ازمیر کی ایک قضا اور اس کا صدر مقام.
۲ ۷۸۵		* تیرہ بولی : آناتولی میں ولایت طرابزندہ کی ایک قضا اور اس کا صدر مقام.

صفحہ عمود	عنوان
۱ ۸۸۶	* تَیْطُ : مراکش میں بحرالکاهل کے ساحل پر ایک مقام۔
۱ ۸۸۷	* تَیْطَاوین : (تیتوان)، شمالی مراکش میں سبتہ کے جنوب میں واقع ایک شہر۔
۲ ۸۹۰	* التیفاشی : شہاب الدین ابو العباس احمد ابن یوسف، مشہور عرب عالم اور مصنف ازہار الافکار فی جواهر الاحجار، (م ۵۶۵۱/۴۱۲۵۳)۔
۱ ۸۹۱	* تیم بن مرہ : حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت طلحہؓ کا خاندان، مکہ کے قبیلہ قریش کی ایک شاخ۔
۱ ۸۹۲	* تیماء : شمالی عرب کے ایک شاداب نخلستان میں واقع ایک پرانی بستی۔
۱ ۸۹۳	* تیم اللہ بن ثعلبہ : قبائل ربیع بن نزار میں شامل ایک عرب قبیلہ۔
۱ ۸۹۵	* تیمار : فوجی خدمات کے عوض زمین کا عطیہ وغیرہ، ترکیہ کی ایک سرکاری قانونی اصطلاح۔
۲ ۹۱۷	* تیمم : نماز کی نیت سے پہلے ہاتھوں کو ہاتھوں اور منہ پر ملنا، ایک معروف دینی اصطلاح۔
۱ ۹۱۹	* تیمور : امیر تیمور (۱۳۳۶/۵۷۳۶ تا ۱۳۷۰/۵۸۰۷)، مشہور و معروف مغل حکمران اور فاتح ایشیا۔
۱ ۹۳۳	* تیمور، بنو : تیمور کے تمام اخلاف، خصوصاً پندرہویں صدی عیسوی میں وسط ایشیا اور ایران پر حکمرانی کرنے والے تیموری شہزادے۔
۱ ۹۵۰	* تیمور تاش : (تیمور طاش، تمر تاش) ارتقی، الملک العالم العادل حسام الدین بن نجم الدین ایلفازی بن ارتق (۱۱۰۳ ۱۱۹۸ تا ۱۱۵۲/۵۵۳۷)، ارتقیوں کی مار دین والی شاخ کا ایک حکمران (از ۱۱۲۲/۵۵۱۶)۔
۱ ۹۵۱	* تیمور تاش : (یا تمر تاش یا تیمور طاش) پاشا، ایک عثمانی قائد، وزیر اور فاتح قلعہ ہرکہ (م ۱۳۰۵/۵۸۰۸)۔
۱ ۹۵۵	* تیمگری : ایک ترکی لفظ، بمعنی آسمان یا خدا۔
۲ ۹۵۹	* تیول : ایران کے اداری نظام کی ایک اصطلاح، لگان وغیرہ سے تنخواہ یا پنشن وصول کرنے کا سرکاری اجازت نامہ۔
۱ ۹۶۳	* التیہ : جزیرہ نماے سینا کے اندرونی حصے میں شام و مصر کے درمیان حد فاصل کا کام دہنے والا ایک صحرا۔

ط


۱ ۹۶۷	* ٹاہولہ (ٹاہولہ) سماراگدینا : سری اور مغربی کیمیاگری کی تعلیمات کا انگشاف۔
۲ ۹۶۷	* ٹڈورے : رگ بہ تدورے ۔

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۹۶۷	* لِمَبْكُو: مغربی افریقہ کا ایک مشہور شہر.	
۱ ۹۷۱	● ٹولک: ہندوستان کی تقسیم سے پیشتر راجپوتانے اور وسط ہند کی ایک مسلم ریاست.	
۱ ۹۷۳	● ٹھٹھ: (نگر ٹھٹھ، تٹھ)، کوہ مکلی کے دامن میں قدیم شہر کے کھنڈر پر آباد پاکستان کا ایک شہر.	
۱ ۹۷۸	● ٹیپو سلطان: شہید (۱۱۶۳/۱۷۶۰ء تا ۱۳۱۳/۱۷۹۹ء)، حیدر علی خان بانی سلطنت میسور کا فرزند اکبر، مشہور فاتح، سپہ سالار اور ایک جری اور مدبر حکمران (از ۱۱۹۷/۱۷۸۲ء).	
۱ ۹۹۷	● ٹیک چند: بہار، لالہ، فارسی اور اردو کا شاعر، مشہور لغت بہار عجم وغیرہ کا مصنف (حیات ۱۱۸۰/۱۷۶۵ء).	

ث

۱ ۱۰۰۳	* ثاء: عربی حروف تہجی کا چوتھا حرف.	
۱ ۱۰۰۳	* ثار: رگ بہ قصاص.	
۱ ۱۰۰۳	* ثابت: علاء الدین (۱۰۶۰/۱۱۶۵ء تا ۱۱۲۳/۱۲۱۲ء)، عثمانیوں کے عبوری دور کا ایک اہم صاحب دیوان شاعر، مصنف ظفر نامہ وغیرہ.	
۲ ۱۰۰۵	* ثابت بن قرۃ: (نواح ۲۱۹/۸۳۳ء تا ۲۸۸/۹۰۱ء)، ماہر ریاضیات و طب و فلسفہ.	
۲ ۱۰۰۷	* ثروت: رگ بہ طاہر بک.	
۲ ۱۰۰۷	* الثریا: ایک مجمع الکواکب (پروین).	
۲ ۱۰۰۸	* ثریا: محمد، ایک ترک سیرت نویس، مصنف سجل عثمانی وغیرہ (م ۱۳۲۶/۱۹۰۹ء).	
۱ ۱۰۰۹	● الثعالبی: تین (مشہور) عرب مصنفین: (۱) ابو منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل (۳۵۰/۹۶۱ء تا ۳۲۹/۱۰۳۸ء)، فصیح و بلیغ کاتب و شاعر اور مصنف بیتمة الدھر فی محاسن اهل العصر وغیرہ: (۲) ابو منصور الحسین بن محمد المرغنی، ایک عرب مؤرخ اور مصنف غرر السیر (م ۳۱۲/۱۰۲۱ء): (۳) عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الجعفری الجزائری، شمالی افریقہ کے ایک عالم دین اور تفسیر قرآن کے مصنف (م ۸۷۳/۱۴۶۸ء).	
۱ ۱۰۱۹	* ثعلب: ابو العباس احمد بن یحییٰ بن زید بن سیار الشیبانی، ایک عرب نحوی اور مصنف کتاب الفصیح وغیرہ (م ۲۹۱/۹۰۳ء).	
۱ ۱۰۲۱	* ثعلبہ: ایک عام اور قدیم عربی اسم علم بسلسلہ قبائل.	

- * الثعلبی : احمد بن محمد بن ابراهیم ابو اسحاق النیشاپوری ، ایک مشہور امام اور مفسر قرآن ، مصنف الکشف والبیان عن تفسیر القرآن وغیرہ (م ۳۲۷/۵۳۵.۳۵.۳۵)۔
- ۲ ۱۰۲۱
- * الثغور : شام اور عراق کی سرحدوں پر بوزنطی حملوں سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے قلعوں کا سلسلہ۔
- ۱ ۱۰۲۲
- * ثقیف : بن منبہ بن بکر بن ہوازن، قبائل عدنان کی ایک شاخ۔
- ۲ ۱۰۲۳
- * ثلج : جنوبی عرب کا ایک قصبہ۔
- ۱ ۱۰۲۶
- * ثلث : رک بہ عرب۔
- ۱ ۱۰۲۸
- * ثمامہ بن آشرس : ایک متکلم اور عباسی دور اول میں اہل حریت فکر کا امام۔
- ۱ ۱۰۲۸
- * ثمود : عذاب الہی سے معدوم ہو جانے والی عرب کی ایک قدیم قوم۔
- ۱ ۱۰۳۱
- * ثناء اللہ ہانی پتی : قاضی ، حنفی مجددی ، از اولاد جلال الدین چشتی صابری ہانی پتی ، ہندوستان کے مشہور عالم اور مفسر قرآن ، صاحب التفسیر المظہری
- ۲ ۱۰۳۲ (م ۱۲۲۵/۵۱۸۱.۳۵)۔
- * ثنویہ : دو خدا شناسی کا طریقہ۔
- ۱ ۱۰۳۳
- * ثوبان بن ابراهیم : رک بہ ذوالنون۔
- ۲ ۱۰۳۸
- * الثور : مجمع الکواکب، دائرة البروج میں دوسرا برج۔
- ۲ ۱۰۳۸



جلد ۷

عنوان

اشارات

صفحہ عمود

ج

- ج : رگ بہ جیم. *
- جائز : وہ افعال جن کے کرنے کی شرعاً اجازت ہو، ایک دینی و فقہی اصطلاح. *
- جائزہ : رگ بہ صلہ. *
- جالسی : رگ بہ محمد جائسی. *
- جابر بن آفلح : ابو محمد، چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی کا ایک مشہور اندلسی مسلم ہیئت دان اور مصنف کتاب الہیئة یا اصلاح المجسطی. *
- جابر بن حیان : بن عبداللہ کوفی المعروف بہ الصوفی (۵۱۲/۶۳۷ء تا ۵۱۹۸/۵۸۱۳ء)، مشہور و معروف عرب کیمیا دان اور متعدد کتابوں کا مصنف. *
- جابر بن زید : ابوالشعشاء الازدی العمانی (۵۲۱/۶۴۲ء تا نواخ ۵۹۳/۶۱۱ء یا ۵۱۰/۶۲۱ء)، اباضی (خوارج) فرقے کا مشہور محدث، حافظ اور فقیہ. *
- جابر الجعفی : رگ بہ تکملہ، آ آ لائڈن، بار دوم. *
- جاہہ : شمالی ہندوستان کی قدیم پہاڑی ریاست چمبا (آج کل بھارت کے ہماچل پردیش میں شامل) *
- الجایۃ : دمشق سے جنوب میں موجودہ نوا کے قریب واقع قدیم غسانی حکمرانوں کی مرکزی قیام گاہ. *
- جاٹ : (جٹ)، برعظیم پاکستان و ہند کا پنجاب، سندھ، راجستھان اور مغربی اتر پردیش میں آباد ایک قبیلہ. *
- الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر الفقیمی البصری (۵۱۶/۶۷۶ء تا ۵۲۵۵/۶۸۶۸ء)، مشہور عربی نثر نگار، ادب، معتزلی الہیات اور سیاسی رنگ کے مذہبی مباحث پر لکھنے والا فاضل اور مصنف. *
- جادو : (تدہ)، افریقہ میں ایک بڑا نخلستان، نیز ٹیلوں کا سلسلہ. *
- جادو : طرابلس الغرب میں جبل نفوسہ کے مشرقی خطے کا پرانا صدر مقام، آج کل ضلع فساطو میں ایک قصبہ. *
- جار : رگ بہ جوار. *

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۲۸		* جار الله : رگ بہ الزمخشری.
۲ ۲۸		* الجار : (فرضہ) ، بحر القلزم پر ایلہ کے جنوب میں ایک ایرانی عرب بندرگاہ.
۲ ۲۹		* جارجیا : رگ بہ کرج (گرجستان).
۴ ۲۹		* جارسیف : رگ بہ گاریف.
۲ ۲۹		* جارودیہ : (یا سرجویہ) ، ابتدائی دور کی ایک شیعہ جماعت.
۲ ۳۰		* جاریہ : رگ بہ عبد.
		* جاریہ بن قدامہ : بن زہیر (یا ابن مالک بن زہیر) ، التمیمی السعدی ، المسمی بہ المحرق ،
۲ ۳۰		ایک مشہور صحابی رسول اور حضرت علیؑ کے زبردست حامی.
		* جاسک : (جاسک) ، خلیج فارس کا ایک جزیرہ اور آج کل خلیج عمان میں ایرانی حکومت
۲ ۳۲		کے ماتحت ایک قصبہ.
۱ ۳۳		* جاسوس : خفیہ خبر رساں ، ایک عسکری اصطلاح.
		* جاف : (عراق) کردستان نیز مغربی ایران کے صوبہ اردلان کے ضلع سنندج (سنہ) کا ایک
۲ ۳۶		بڑا اور مشہور کرد قبیلہ.
		* جاگیر : ہندوستان میں حکومت کی طرف سے بطور وظیفہ یا انعام دی جانے والی زمین ،
۲ ۳۷		نیز رگ بہ اقطاع.
		* جالوت : (Goliath) ، قرآن مجید میں مذکور بنی اسرائیل کا ایک قدیم دشمن اور
۲ ۳۷		معارب بادشاہ.
۲ ۳۸		* جالور : بھارت کی ریاست راجستھان کا ایک قصبہ.
۱ ۴۰		* جالی : رگ بہ جوالی.
		* جالینوس : (Galen) ، (۱۲۹ء تا ۱۹۹ء) ، یونان قدیم میں طب کا آخری عظیم مصنف ،
۱ ۴۰		تشریح عضویات کا ممتاز عالم ، نامور معالج ، جراح اور دواساز.
		* جالیہ : شمالی اور جنوبی امریکہ کے عربی بولنے والے اور بیشتر جمہوریہ لبنان سے آنے
۱ ۴۳		والے تارکین وطن.
۲ ۴۶		* جام : افغانستان کے علاقہ غور میں ایک گاؤں.
۱ ۴۷		* جامد : رگ بہ علم : (الف) نحو ؛ (ب) طبیعیات.
۱ ۴۷		* الجامع : رگ بہ مسجد.
۱ ۴۷		* جامعہ : اعلیٰ مذہبی تعلیم کے قدیم ادارے ، نیز جدید طرز کی یونیورسٹی .
۲ ۵۷		* جامیہ : قرون وسطیٰ کے اواخر میں بلاد اسلامیہ کی ایک اصطلاح ، بمعنی مشاہرہ .
		* جاسی : مولانا نورالدین عبدالرحمن (۵۸۱ھ/۱۳۱۳ء تا ۵۹۸ھ/۱۳۹۲ء) ، ایک جلیل القدر
		صاحب دیوان فارسی شاعر ، نامور عالم دین اور برگزیدہ صوفی ، مصنف
۲ ۵۸		تفحات الانس وغیرہ.

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۶۲	* جالباز: جان پر کھیلنے والا یا نڈر، نیز بازیگر یا نٹ، فوجی سپاہی، گھوڑوں کا تاجر۔	
۱ ۶۲	* جالبازان: ترکیہ کی سلطنت عثمانیہ کا ایک جیش۔	
۱ ۶۳	* جانبلاط: (جانبولاط)، لبنان میں دروزی المذہب اور کردی النسل امرا کا ایک خاندان۔	
۲ ۶۶	⊙ جان جانان: رگ بہ مظہر جانجانان، مرزا۔	
۲ ۶۶	* جاندار: (جندار)، سلاجقہ کبار اور مابعد خانوادوں کے شاہی محافظ دستے۔	
۱ ۶۷	* جان لدا خاتون: رگ بہ تکملہ آآ، لائڈن، بار دوم۔	
۱ ۶۷	* جالیک: (Canik)، جمہوریہ ترکیہ کی ولایت صامسون میں بحیرہ اسود کے کنارے بافرہ اور فاتسہ کا درمیانی علاقہ۔	
۱ ۶۷	* جالیکلی حاجی علی پاشا: (۱۱۳۳ھ/۱۷۲۰-۱۷۲۱ء تا ۱۱۹۹ھ/۱۷۸۵ء)، عثمانی عہد کا ایک صاحب سیف اور خاندانِ درہ بے کا بانی۔	
۱ ۶۸	* جانیہ: بخارا کا ایک شاہی خاندان (از ۱۰۰۷ھ/۱۵۹۹ء تا ۱۱۹۹ھ/۱۷۸۵ء)۔	
۱ ۶۹	⊙ جاوا: انڈونیشیا [رگ بان] کا مرکزی جزیرہ۔	
۱ ۷۰	* جاوی: بلاد الجاوه (جنوب مشرقی ایشیائی علاقے) کے مسلمان۔	
۲ ۷۷	* جاوید: محمد جاوید (۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء تا ۱۳۳۵ھ/۱۹۲۶ء)، ایک نوجوان ترک ماہر اقتصادیات، سیاست دان اور مصنف۔	
۱ ۷۸	* جاویدان: رگ بہ تکملہ، آآ لائڈن، بار دوم۔	
۲ ۷۹	* جاہدیہ: رگ بہ خلوتیہ۔	
۲ ۷۹	* جاہل و عاقل: رگ بہ دروز۔	
۲ ۷۹	⊙ جاہلیہ: زمانہ قبل اسلام کے عربوں کی حالت، نیز دعوت اسلام سے پہلے خصوصاً قبل از ہجرت نبویؐ کے دور کے لیے ایک اصطلاح۔	
۲ ۸۱	* جبال: مید (Media) کا قدیم علاقہ، عراق عجم۔	
۱ ۸۲	* الجبال: وادی الحسا کے عین جنوب میں واقع صحرائے عرب کا ایک حصہ، جہاں ہلند و بالا پہاڑ ہیں۔	
۲ ۸۳	* جباہ: رگ بہ (۱) عامل؛ (۲) بیت المال وغیرہ۔	
۲ ۸۳	* الجبار: رگ بہ علم نجوم۔	
۲ ۸۳	* الجبالی: ابو علی محمد بن عبدالوہاب (۲۳۵ھ/۸۳۹ء تا ۳۰۳ھ/۹۱۶ء)، ایک ممتاز معتزلہ۔	
۲ ۸۶	* جبلی: وسطی ارض بابل کا ایک شہر۔	
۲ ۸۷	* الجبول: (قدیم جبلہ Gabbula)، حلب کے جنوب مشرق میں اپنی نمک کی کانوں کے لیے مشہور مقام۔	
۲ ۸۷	⊙ جبہ: رگ بہ لباس۔	
۲ ۸۷	* جبر: رگ بہ جبریہ۔	

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۸۷		* جبر بن القاسم : فاطمی خلیفہ العزیز کے عہد میں نائب السلطنت مصر (حیات ۵۳۷۳ / ۶۹۸۳ء)
۲ ۸۷		* العبر والمقابلہ : علم ریاضیات کی ایک شاخ
۲ ۹۲		* الجبرا : رگ بہ الجبر والمقابلہ
۲ ۹۲		* جبران خلیل جبران : (۱۸۸۳ء تا ۱۹۳۱ء)، نامور لبنانی مصنف، مصور اور شاعر
۱ ۹۵		* جبرائیل : رگ بہ جبریل
۱ ۹۵		* جبروت : مسلمانان حبشہ (Ethiopia)، نیز زیلع اور افات کے علاقوں میں سے ایک خطہ
۱ ۹۶		* الجبرلی : عبدالرحمن بن حسن (۵۱۶۷/۱۱۷۳ء تا ۵۱۲۳۲/۱۸۲۵-۱۸۲۶ء) ایک مشہور مصری مؤرخ اور مصنف
۱ ۱۰۰		* جبروت : رگ بہ عالم
۱ ۱۰۰		* جبری، سعد اللہ : رگ بہ سعد اللہ جبری، در آ آ لائن، بار دوم
۱ ۱۰۰		* جبریل : (جبرائیل)، ایک مقرب و مرسل فرشتہ
۲ ۱۰۱		* جبریہ : عقیدہ جبر (Fatalism) پر مبنی مذہب، مذہب قدریہ کی ضد
۱ ۱۰۲		* جبل : پہاڑ
۱ ۱۰۲		* جبل البرکات : رگ بہ یربوت، در آ آ لائن، بار دوم
۱ ۱۰۲		* جبل العارث : رگ بہ (۱) اغری طاغ : (۲) جودی
۱ ۱۰۲		* جبل الطارق : (جبرالٹر Gibraltar)، مشہور مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد کے نام سے موسوم، ہسپانیہ کی انتہائی جنوبی حد پر واقع، چونے کے پتھر کی ایک چٹان کا ابھرا ہوا سرا : آج کل برطانوی مقبوضہ
۲ ۱۰۳		* الجبل : رگ بہ الجبال
۲ ۱۰۳		* جبلة : (Gabala)، لاذقیہ کے جنوب میں اور جزیرہ رواد کے بالمقابل ایک چھوٹی سی بندرگاہ
۱ ۱۰۵		* جبلة : (هَضْبَة)، نجد کا ایک الگ تھلگ پہاڑ
۱ ۱۰۶		* جبلة بن الایہم : خلافت حضرت عمر فاروقؓ میں مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہونے والا آخری عثمانی تاجدار
۲ ۱۰۶		* جبلی : (Djeblii)، مملکت عثمانیہ میں «مددگار سپاہی»
۲ ۱۰۷		* جبوتی : (جباؤتی Djibouti)، خلیج عدن کے افریقی ساحل پر ایک شہر اور بندرگاہ
۲ ۱۰۸		* جبور : وسطی اور شمالی عراق کا ایک بڑا سنی قبیلہ
۲ ۱۰۹		* جبہ جی : رگ بہ تکملہ، آ آ لائن، بار دوم
۲ ۱۰۹		* جبیل : لبنان میں بیروت اور طرابلس کے درمیان قدیم بیبلوس (Byblos) کے مقام پر ایک چھوٹی سی بندرگاہ
۱ ۱۱۱		* الجبیل : خلیج فارس کے کنارے سعودی عرب کی ایک بندرگاہ

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۱۱۱		* الجبیلہ : وادی حنیفہ کے مغربی کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں۔
۲ ۱۱۲		*⊙ ججا : (ججی)، سینکڑوں حکایات، لطائف، اور مضحکات کا مرکزی کردار۔
		*⊙ جعظہ : ابو الحسن احمد بن جعفر بن موسیٰ بن یحییٰ البرمکی النذیم الطنبوری (۵۲۲۳/
		۴۸۳۹ تا ۴۹۳۶ء) ، ایک ماہر لغت ، راوی قصص و اخبار ، موسیقار ،
		موسیقی دان ، شاعر اور ظریف۔
۲ ۱۱۴		* جحیم : رگ بہ نار۔
۱ ۱۱۸		* جدالہ : رگ بہ گدالہ۔
۱ ۱۱۸		*⊙ الجد والہزل : ایک ادبی و فنی اصطلاح۔
۱ ۱۱۸		* جدہ : (جدہ، جدہ)، بحر احمر پر سعودی عرب کی بندرگاہ اور مشہور شہر۔
۱ ۱۱۹		* جدول : علم سحر کی ایک اصطلاح۔
۱ ۱۲۳		* الجدی : رگ بہ علم نجوم۔
۱ ۱۲۵		* جدید : نئے طریقوں کا اتباع کرنے والے روسی مسلمان۔
۲ ۱۲۵		* الجدیدہ : بحر اوقیانوس پر مراکش کا ساحلی شہر ، ازگان کی ہرانی بستی ، سابقہ عربی
		نام البریجہ۔
۱ ۱۲۶		* جدیس : رگ بہ طسم بن لاوذ۔
۱ ۱۲۹		*⊙ جذام (بنو) : عمرو بن عدی بن الحارث بن مرہ ، ایک عرب قبیلہ۔
۱ ۱۲۹		*⊙ جذیمہ : بن عامر بن عبد مناة بن کنانہ ، بنو اسمعیل کا ایک معروف قبیلہ۔
۱ ۱۳۰		*⊙ جذیمۃ الأبرش یا الوضاح : بن مالک بن فہم بن غنم بن دوس الازدی التتوخی ، قبل اسلام عرب
		کی تاریخ کی ایک اہم شخصیت ، تیسری صدی عیسوی میں
		عراق کا صائب الراے اور دانا بادشاہ۔
۲ ۱۳۰		*⊙ جرات : شیخ قلندر بخش دہلوی (۱۱۶۳/۱۷۴۹ء تا ۱۲۲۵/۱۸۱۰ء) ، اردو کا ممتاز شاعر
		اور صاحب طرز غزل گو۔
۲ ۱۳۱		* جراجمہ : (الماردیہ، المرّدة)، انطاکیہ کے شمالی اضلاع میں واقع شہر جرجومہ کے باشندے۔
۱ ۱۳۸		* جراد : تڈی۔
۲ ۱۳۰		* الجرباء : (جربی، البراء یا ارض سوان)، شمالی عرب کا ایک قدیم قلعہ۔
۱ ۱۳۱		* جرباذقان : رگ بہ گل پایگان۔
		* جریہ : (۱) «البحر الابض المتوسط» کا سب سے بڑا جزیرہ ؛ (۲) دسویں صدی ہجری
۲ ۱۳۱		میں عثمانی بحری ترکتاز طورغود رئیس اور اسپانیہ کے درمیان معرکہ آرائی کا مرکز۔
۲ ۱۳۹		* جرجا : بالائی مصر کا ایک شہر اور صوبہ۔
۱ ۱۵۰		* جرجان : (گرگان)، بحیرہ خزر کے جنوب مشرق حصے میں واقع ایک شہر اور صوبہ۔
		* الجرجانی : اسماعیل بن الحسن بن زین الدین ابو الفتحائل العمینی ، مشہور طبیب اور فارسی

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
		کے پہلے طبی دائرۃ المعارف ذخیرۃ خوارزمشاہی وغیرہ کا مصنف (م ۵۳۱/
۲ ۱۵۱		(۴۱۱۳۹)۔
۱ ۱۵۲		* ۱۰ الجرجانی، عبدالقاهر: رگ بہ عبدالقاهر الجرجانی.
		* ۱۱ الجرجانی: ابوالحسن علی بن محمد المعروف السید الشریف (۵۲۴/۱۳۳۹ء تا ۵۸۱۶/
۱ ۱۵۲		۴۱۳۱۳)، ایک مشہور فاضل، فلسفی اور شارح المواقف وغیرہ.
۱ ۱۵۳		* الجرجانی، فخرالدین اسعد: رگ بہ گرگانی.
۲ ۱۵۳		* الجرجانی، نورالدین (علی بن) محمد بن علی: رگ بہ الجرجانی، علی بن محمد، السید الشریف.
۲ ۱۵۳		* جرجانیہ: رگ بہ گرگانج.
		* الجرجالی: بغداد کے جنوب میں دریائے دجلہ پر ایک گاؤں جرجرایا سے منسوب عباسی
		اور فاطمی خلفا کے متعدد وزیر: (۱) محمد بن الفضل: الفضل بن مروان
		کا سابق کاتب یا دبیر اور ابن الزیات کی معزولی کے بعد المتوکل اور بعد ازاں
		المستعین کا وزیر (م ۵۲۵-۸۶۴/۴۸۶۵): (۲) احمد بن الخشیب: مصر
		کے ایک والی کا فرزند، شہزادہ المستنصر کا دبیر و اتالیق اور بعد ازاں وزیر
		(م ۵۲۶۵/۴۸۷۹): (۳) العباس بن حسن: المکتفی کے وزیر القاسم بن عبداللہ
۲ ۱۵۳		(م ۵۲۹۱/۴۹۰۳) کا دبیر اور بعد ازاں المکتفی کا وزیر (م ۵۲۹۶/۴۹۰۸).
		* جرجہ: الجزائر کے تیل اطلس میں ۶ کلومیٹر لمبا ڈھلوانی سلسلہ کوہ، نیز مغرب میں
۱ ۱۵۴		قبائلیہ سلسلہ کوہ کا بڑا حصہ موسوم بہ قبائلیہ کبریٰ.
۱ ۱۵۵		* جرجنت: (کیرینٹ Agrigentum)، صقلیہ کا ایک خوشحال شہر.
۱ ۱۵۶		* جرجی زیدان: رگ بہ زیدان.
۱ ۱۵۶		* ۱۰ جرجیس: سینٹ جارج (St. George)، ایک اساطیری مسیحی بزرگ.
		* ۱۱ الجرح والتعديل: علم حدیث اور علم فقہ کی ایک اصطلاح، راویان حدیث کے ثقہ یا
۲ ۱۵۶		غیر ثقہ ہونے کی تحقیق کرنا.
۲ ۱۵۸		* جرج: رگ بہ نحو.
		* جراح: (Surgeon)، زخموں کی چیر پھاڑ اور ان کی مرہم پٹی کرنے والا معالج، ایک
۲ ۱۵۸		طبی اصطلاح.
		* الجراح بن عبداللہ الحکمی: ابو عقبہ، بطل الاسلام و فارس اہل الشام، ایک لیک دل اور
۲ ۱۶۰		فاضل اموی سپہ سالار (م ۵۱۱۲/۴۷۳).
۱ ۱۶۱		* الجراح (بنو): رگ بہ ابن الجراح.
۱ ۱۶۱		* ۱۰ الجراح (بنو): عرب کے مشہور قبیلے بنو طیہ کی ایک شاخ.
۱ ۱۶۲		* جرز: جرزان، رگ بہ گرستان.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱	۱۶۷	* جَرَش : (قدیم گرسہ Gerasa)، ماورائے اردن کے علاقے میں جبل العجلون کے جنوب مشرق کے ایک کثیر الاشجار پہاڑی قطعے کے اندر ایک مقام۔
۲	۱۶۷	⊙ جَرَش : یمن کا ایک صوبہ اور ایک بڑا شہر۔
۳	۱۶۸	* جَرَم : رگ بہ جسم۔
۳	۱۶۸	*⊙ جَرَم : تعدی اور ذنب؛ گناہ کے معنوں میں ایک معروف قانونی و مذہبی اصطلاح۔
۲	۱۷۰	* جَرَنَدَہ : (جروندہ Gerona)، اندلس کا ایک صوبہ اور اس کا صدر مقام۔
۱	۱۷۲	*⊙ جَرَهَم : بنو العرب العاربه میں شامل ایک قدیم عرب قبیلہ۔
۱	۱۷۳	* جَرِيب : رگ بہ گیل۔
۱	۱۷۳	* جَرِيج : بنو اسرائیل کا ایک صالح اور اابد شخص۔
۲	۱۷۳	* جَرِيد : دسویں سے تیرہویں صدی ہجری تک ترکیہ کے ایک مقبول کھیل «جرید اویونی» میں مستعمل چوبی تیر یا نیزہ۔
۲	۱۷۵	* جَرِيد : بلاد الجرید یا ارض نخیل، جنوب مغربی تونس میں واقع صحرائے اعظم کا ایک علاقہ۔
۲	۱۷۹	* جَرِيدَہ : (لغوی معنی : ورق)، جدید عربی میں اخبار کے لیے مستعمل اصطلاح۔
۲	۲۱۳	*⊙ جَرِيو : ابو حزرہ جریر بن عطیہ بن الخطمی (۵۲۸/۶۳۹ء تا ۵۱۱/۷۲۸-۷۲۹ء)، اموی عہد کا مشہور ہجوگو شاعر۔
۲	۲۱۵	* جَرِيمَة : نیز جرم؛ ایک قانونی و شرعی اصطلاح۔
۲	۲۱۵	* جَزَاء : (۱) علم عروض میں تفعیل، رگ بہ عروض؛ (۲) قرآن مجید کا کوئی ایک پارہ۔
۱	۲۱۶	* جَزَاء : علم کلام و فلسفہ کی ایک اصطلاح، اساسی اور غیر منقسم مادہ۔
۲	۲۱۷	* جَزَاء : بدلہ، صلہ، مکافات؛ ایک دینی اور قانونی اصطلاح۔
۲	۲۲۱	* جَزَائِر بَعْر سَفِيد : سلطنت عثمانیہ کی ایک ایالت (صوبہ)۔
۲	۲۲۲	⊙ الجَزَائِر : رگ بہ الجزائر (در جلد سوم، ص ۸، عمود ۲)۔
۲	۲۲۲	*⊙ الجَزَائِر الخَالِدَة : (الخالدات)، مغربی افریقہ کے ساحل سے ذرا دور واقع بعض جزائر۔
۲	۲۲۳	* جَزَائِر لِي غَازِي حَسَن پَاشَا : عثمانی امیر البحر (م ۵۱۲.۳/۷۱۷ء)۔
۱	۲۲۶	* جَزْجَان : رگ بہ جوزجان۔
۱	۲۲۶	* جَزْجَانِي : منہاج الدین، رگ بہ جوزجانی۔
۱	۲۲۶	* الجَزْر وَالْمَدَّة : رگ بہ مدہ۔
۱	۲۲۶	* الجَزْرِي : رگ بہ ابن الجزری۔
۲	۲۲۶	* جَزَار پَاشَا : رگ بہ تکملہ، آآ، لائن، ہار دوم۔
۱	۲۲۶	* جَزْم : رگ بہ نجر۔
۱	۲۲۶	* جَزُولَة : جنوب مشرق مراکش کے ایک چھوٹے سے قدیم بربر قبیلے کا عربی نام۔
۱	۲۲۶	* الجَزُولِي : ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر السملالی، ایک مشہور عالم دین اور

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۲۷		بانی سلسلہ جزولیہ و مصنف دلائل الخیرات و حزب الجزولی (م نواح ۵۸۶۹/۴۱۳۶۵)۔
۱ ۲۲۹		* الجزولی : ابو موسیٰ عیسیٰ بن عبدالعزیز، برابر قبیلہ جزولی کا ایک فرد اور عربی قواعد پر مختصر مقدمے القانون کا مصنف (م ۵۹۰۷/۴۱۲۱)۔
۱ ۲۳۰		* جزیرہ : جزیرہ اور ثانوی طور پر جزیرہ نما کے معنوں میں ایک جغرافیائی اصطلاح۔
۲ ۲۳۰		* جزیرۃ ابن عمر : رگ بہ ابن عمر، جزیرہ۔
۲ ۲۳۰		* جزیرۃ شریک : تونس کے مشرق ساحل سے حلق الوادی اور الحمامات کی دو کھاڑیوں کے درمیان باہر کو نکلا ہوا ایک جزیرہ نما۔
۱ ۲۳۲		* جزیرہ شقر : (Alcira)، بلنسیہ (ہسپانیہ) سے ۳۷ کلومیٹر دور دریائے شقر کی دو شاخوں کے درمیان ایک جزیرہ۔
۱ ۲۳۳		* جزیرۃ العرب : رگ بہ عرب۔
۱ ۲۳۳		* جزیرۃ قیس : رگ بہ قیس، جزیرہ۔
۱ ۲۳۳		* الجزیرۃ : جزیرہ اقور یا اقلیم اقور، دجلہ و فرات کے درمیانی حصے کا شمالی علاقہ۔
۲ ۲۳۷		* جزیرۃ الخضراء : (Algeciras)، جزیرہ ام حکیم، ہسپانیہ کا ایک شہر۔
۲ ۲۳۹		* جزیرہ : مسلم حکومت میں غیر مسلموں سے لیا جانے والا ٹیکس، ایک مخصوص مالیاتی و قرآنی اصطلاح۔
۱ ۲۳۹		* جستان، بنو : رگ بہ دیلم۔
۱ ۲۳۹		* جسد : رگ بہ جسم۔
۱ ۲۳۹		* جسر : ایک اصطلاح، بمعنی پل، بالخصوص کشتیوں کا پل۔
۲ ۲۳۹		* جسر بنات یعقوب : اردن کی بالائی ندی پر ایک پل۔
۱ ۲۵۱		* جسر الحديد : دریائے عاصی (Orontes) کے زبیریں حصے پر ایک پل۔
۲ ۲۵۱		* جسر الشغور : (جسر الشغور)، شمالی شام میں ایک مقام، دریائے عاصی پر ایک پل کا محل وقوع۔
۱ ۲۵۳		* الجساسہ : (خبریں پہنچانے والی)، ایک افسانوی مادہ جانور۔
۲ ۲۵۳		* جسور : رگ بہ جسور۔
۲ ۲۵۳		* جسيم : (بدن)، لاجسم (اللہ، روح اور نفس) کے بالمقابل ایک اسلامی فلسفیانہ اصطلاح۔
۲ ۲۵۶		* حص : استر، پلستر، ایک تعمیراتی مسالہ۔
۲ ۲۵۸		* الجصاص : احمد بن علی ابوبکر الرازی (۵۳۰/۷۹۱ء تا ۵۸۱/۱۱۸۱ء)، ایک مشہور حنفی فقیہ اور شارح، اصحاب الراے کا خاص نمائندہ۔
۱ ۲۵۹		* جعبر یا قلعه جعبر : فرات اوسط کے بائیں کنارے پر صفین کے بالمقابل ایک تباہ شدہ قلعہ۔
۲ ۲۶۰		* جعد بن درهم : رگ بہ ابن درهم، در آ آ لائن، ہار دوم۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۲۶۰		* جَعْدَة (عامر) : جنوبی عرب کا ایک قبیلہ.
۲ ۲۶۱		* جَعْدَة بن کَعْب : رگ بہ عامر بن صَمَّعَة.
۲ ۲۶۱		⊙ جعفر، میر: میر محمد جعفر خان، مشہور غدار وطن اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں نواب بنگالہ (از ۱۱۷۰ھ/۱۷۵۷ء تا ۱۱۷۳ھ/۱۷۶۰ء اور ۱۱۷۷ھ/۱۷۶۳ء تا ۱۱۷۸ھ/۱۷۶۵ء).
۲ ۲۶۱		* ⊙ جعفر بن ابی طالب : ابو عبد اللہ الملقب بہ الطیار و ذوالجناحین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، مشہور صحابی اور شہید جنگ موتہ (م ۸ھ/۶۲۹ء).
۲ ۲۶۳		* جعفر بن حرب : ابو الفضل جعفر بن حرب الہمدانی، دبستان بغداد کا ایک معتزلی (م ۲۳۶ھ/۸۵۰ء).
۱ ۲۶۶		* جعفر بن علی بن حمدون الاندلسی : ایک یعنی گھرانے کا فرد اور المغرب کے ضلع مسیلہ کا حاکم (م ۳۷۲ھ/۹۸۲-۹۸۳ء).
۲ ۲۶۶		* جعفر بن الفضل : رگ بہ ابن الفرات (م).
۱ ۲۶۷		* جعفر بن مبشر : القصبی والذنی، دبستان بغداد کا ایک معتزلی عالم (م ۲۳۴ھ/۸۳۸-۸۳۹ء).
۱ ۲۶۸		* جعفر بن محمد : رگ بہ ابو معشر.
۱ ۲۶۸		* جعفر بن منصور الیمان : رگ بہ تکملہ لآ، لائڈن، بار دوم.
۱ ۲۶۸		* جعفر بن یحییٰ : رگ بہ البرامکہ.
۲ ۲۶۸		* جعفر بیگ : گیلی پولی کا سنجاق بیگ، یعنی قیودان (م ۹۲۶ھ/۱۵۲۰ء).
۱ ۲۶۹		* جعفر چلبی : (۸۶۳ھ/۱۳۵۹ء تا ۹۲۱ھ/۱۵۱۵ء)، ایک ترک سیاست دان اور ادیب، اناطولی کا قاضی عسکر.
۱ ۲۶۹		⊙ جعفر زٹلی، میر: اردو کے ابتدائی دور کا ایک ہزل گو اور مضحک نگار شاعر (م بعہد فرخ سیر: ۱۱۲۳ھ/۱۷۱۲ء تا ۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹ء).
۲ ۲۶۹		* جعفر شریف: بن علی شریف القریشی الناگوری، ماہر طبیب اور عوام میں مروجہ اسلام کے ایک دکنی اردو تذکرے قانون اسلام کا مصنف.
۱ ۲۷۱		⊙ جعفر الصادق : ابو عبد اللہ (ابو اسمعیل) جعفر صادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین، شیعہ امامیہ کے بارہ اماموں میں سے چھٹے امام اور مشہور عالم دین اور بزرگ.
۱ ۲۷۶		* جعفر الطیار : رگ بہ جعفر بن ابی طالب.
۱ ۲۷۶		* جعفریہ : رگ بہ (۱) فقہ؛ (۲) اثنا عشریہ.
۱ ۲۷۶		* جَعْل : رگ بہ تزییف.
۱ ۲۷۶		* جَعْلِیون : جمہوریہ سودان میں قبائل کا ایک گروہ.
۱ ۲۷۸		* الجغبوب : برقا (Cyrenaica) کے جنوب میں ایک چھوٹا سا نخلستان.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۷۹		* جُغْرَالیہ: مشہور علم.
		* الجَمینینی: (چَمینینی)، محمود بن محمد بن عمر، ایک مشہور عرب عالم فلکیات اور مصنف
۱ ۳۱۰		الملخص فی الهيئة (م ۵۷۴/۱۳۳۴-۱۳۳۵ء).
۲ ۳۱۰		* جَفْر: معنی معانی کی مدد سے آنے والے واقعات جاننے کا ایک عددی علم.
		* الجُفْرَة: صحرائے لیبیا میں ضلع سرتہ اور فزان کے درمیان تین نخلستانوں پر مشتمل
۲ ۳۱۳		ایک نشیبی علاقہ.
۱ ۳۱۶		* جک: رگ بہ شاہ طاغ.
		* جکارتا: (جاکرتا)، جاوا کے شمالی ساحل پر انڈونیشیا کا دارالحکومت اور اس کا سب
۱ ۳۱۶		سے بڑا شہر.
۱ ۳۱۸		* جَلال، جَلالری: رگ بہ (۱) جَلالری: (۲) جَلالری.
		* جَلال آباد: جمہوریہ اشتراکیہ روس کی ریاست قیرغیز میں اسی نام کے خطے کا ایک
۱ ۳۱۸		بہت بڑا شہر اور انتظامی مرکز.
۲ ۳۱۸		* جَلال آباد: رگ بہ افغانستان.
		* جَلال الدولۃ: مختلف سلاطین بالخصوص آل بویہ، نیز محمد غزنوی و نصر مرداسی
۲ ۳۱۸		کا اعزازی لقب.
		* جَلال الدولۃ: ابو طاہر بن بہاء الدولہ (۳۸۳/۹۹۳-۴۹۹ تا ۴۳۵/۱۰۴۳ء)، بغداد
۲ ۳۱۸		میں عباسی خلفا کا ایک امیر الامراء (از ۳۰۳/۹۱۲ء).
		* جَلال الدین آحسن (شریف): پنجاب کے علاقے کیتھل کا رہنے والا اور مدورا کا پہلا
۱ ۳۲۰		سلطان (م ۵۴۰/۱۳۳۹-۱۳۳۰ء).
		* جَلال الدین حسین البخاری: المعروف بہ مخدوم جہالیاں جہاں گشت (۵۰۷/۱۳۰۷-۱۳۰۷ء)
		۱۳۰۷ تا ۱۳۰۸ء، برعظیم پاک و ہند کے ایک
۲ ۳۲۰		نامور صوفی بزرگ.
۱ ۳۲۲		* جلال (الدین) حسین چلبی: ایک قدیم معروف ترکی شاعر (۵۸۸/۱۵۷۱ء).
۲ ۳۲۲		* جلال الدین خلجی: رگ بہ خلجی.
		* جلال الدین خوارزم شاہ: منگبری، سلطان محمد خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا اور اس خاندان کا
۲ ۳۲۲		آخری حکمران (م ۶۲۸/۱۲۳۱ء).
		* جلال الدین (رومی): مولوی و مولانا روم (۶۰۳/۱۲۰۷ تا ۶۷۲/۱۲۷۳ء)،
		قونیہ کے نامور صوفی عالم، شہرہ آفاق شاعر اور مصنف
۱ ۳۲۳		مثنوی معنوی.
		* جلال الدین ہارف: (۱۸۷۵ تا ۱۹۳۰ء)، ایک ترک وکیل اور مدبر، اتاترک کی کابینہ
۱ ۳۲۹		میں وزیر انصاف.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۲۹		* جلال الدین منگبرتی : (منگوبرتی)، رگ بہ جلال الدین خوارزم شاہ.
۲ ۳۲۹		* جلال رجائی زادہ : رگ بہ رجائی زادہ.
۲ ۳۲۹		* جلال زادہ صالح چلبی : ایک عثمانی عالم، مؤرخ، شاعر اور مصنف تاریخ مصر جدید وغیرہ (م ۱۵۶۵/۵۹۷۳ء).
۲ ۳۲۹		* جلال زادہ مصطفیٰ چلبی : مشہور بہ قوچہ نشانچی (نواح ۵۸۹۶/۵۹۷۳ء تا ۱۵۶۷/۵۹۷۳ء)، سلطنت عثمانیہ کا ایک سرکاری عہدے دار، مؤرخ اور مصنف مواہب الخلاق وغیرہ.
۲ ۳۳۰		* جلال شاہ ^{۷۷} : بنگلہ دیش کے ایک قدیم اور مقتدر بزرگ صوفی، مجاہد اور مبلغ (م ۱۳۳۰/۵۷۳۰ء).
۲ ۳۳۶		* جلال نوری : رگ بہ الری، جلال نوری.
۲ ۳۳۶		* جلالی (تاریخ جلالی) : سنوات کے ایک نظام، نیز ایک تقویم (زیج) کا نام.
۲ ۳۳۱		* جلالی : رگ بہ تکملہ، آآ، لائڈن.
۲ ۳۳۱		* جلایر : (جلائر)، جلایریہ (جلائریہ)، وسطی ایشیا کا ایک مغول قبیلہ.
۲ ۳۳۳		* جلد : دور قدیم میں بطور کاغذ استعمال ہونے والا چرمی ورق.
۲ ۳۳۶		* الجلدی : رگ بہ تکملہ، آآ، لائڈن.
۲ ۳۳۶		* جلف : سینیگال میں تیرھویں سے سولہویں صدی عیسوی تک قائم رہنے والی ایک ریاست.
۱ ۳۳۹		* جلقہ : رگ بہ اصفہان.
۱ ۳۳۹		* جلاب : (جلابہ، جلابیہ)، المغرب میں سب سے اوپر پہنا جانے والا لباس.
۱ ۳۵۰		* جلق : زمانہ جاہلیت میں پانی کی فراوانی اور گھنے باغوں کے لیے مشہور ایک مقام.
۱ ۳۵۲		* جلیقیہ : (Galicia)، جزیرہ نما آئیریا کا سابق شمال مغربی خطہ، اب سپین کے چار صوبوں کا مجموعہ، رگ بہ چلمرگ.
۲ ۳۵۳		* چلمرگ : رگ بہ چلمرگ.
۲ ۳۵۳		* الجندی : (الجندی) بن مسعود بن جعفر بن الجندی، عمان میں بنو ازد کے اباضیہ فرقے کا سردار (م ۱۳۳۳/۵۷۵۲ء).
۱ ۳۵۴		* جلوہ : عروس کی رسم نقاب کشائی، نیز نوشہ کی طرف سے دلہن کو پیش کیا جانے والا تحفہ.
۲ ۳۵۴		* جلوتیہ : سقوطی کے شیخ عزیز محمود کا بنا کردہ طریقہ تصوف.
۲ ۳۵۶		* جلوس : رگ بہ (۱) خلافت؛ (۲) سلطان؛ (۳) تقلید سیف؛ (۴) تاریخ.
۲ ۳۵۶		* جلولاء : عراق (ارض بابل) کا ایک شہر اور حلقہ شاذ قباز کے ایک ضلع (تسوج) کا صدر مقام.
۲ ۳۵۷		* جلیلی : موصل کا ایک حکمران خانوادہ (مابین ۱۱۳۹/۵۷۲۶ء و ۱۲۵۰/۵۱۸۳۳ء).
۲ ۳۵۸		* جم : رگ بہ فیروز کوہ.
۲ ۳۵۸		* جم : شہزادہ (۵۸۶۳/۱۳۵۹ء تا ۵۹۰۰/۱۳۹۵ء)، سلطان محمود ثانی کا فرزند اور سلطان باہزید کا بھائی.

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۳۶۳	* جُمادی : (جُمادی الأولى و جمادی الآخرة)، رگ بہ تاریخ.	
۲ ۳۶۳	* جَمَاعَة : گروہ، مجتمع افراد، نیز نماز باجماعت کے معنوں میں ایک معروف لسانی و فقہی اصطلاح.	
۱ ۳۶۸	* جَمال : رگ بہ علم، علم الجمال.	
۱ ۳۶۸	* جمال ہاشا : احمد جمال (۱۸۷۲ تا ۱۹۲۲ء)، ترکی سالار عسکر اور سیاست دان.	
	* جمال الحسینی : امیر جمال الدین عطاء اللہ الحسینی الدشتکی الشیرازی، ایک ایرانی عالم دین، مؤرخ اور سیرۃ النبیؐ اور سوانح اہل بیت پر چند کتابوں کا مصنف	
۲ ۳۷۰	(م ۱۵۲۰/۵۹۲۶ء).	
	* جمال الدین آق سرائی : ایک ترکی فلسفی اور متکلم اور مصنف اخلاق جمالی (م ۱۷۹۱ء)	
۱ ۳۷۱	(۱۳۸۹ء).	
	* جمال الدین الفغالی ^{۷۷} : سید محمد بن صفدر (۱۸۳۸-۱۸۳۹ء تا ۱۳۱۴م/۱۸۹۷ء)، تیرھویں صدی ہجری / انیسویں صدی عیسوی میں حریت و اتحاد عالم اسلامی کے داعی، ممتاز مفکر، عالم اور متعدد سیاسی، علمی و فکری تحریکوں کے بانی.	
۱ ۳۷۲	* جمال الدین افندی : (۱۸۳۸ء/۱۲۶۳ تا ۱۹۱۹ء/۱۳۳۷ء)، عثمانی شیخ الاسلام اور مصنف.	
۲ ۳۸۱	* جمال الدین محمود الاستادار : مصر میں مملوک سلطان کے عہد میں استادار، یعنی شاہی محل اور شاہی مطبخ کا نگہبان اور مشہور مصری عمائد میں سے ایک (م ۱۳۹۷ء/۵۷۹۹ء).	
۱ ۳۸۸	* جمال الدین ہانسوی ^{۷۸} : رگ بہ ہانسوی، جمال الدین.	
	* جمالی : حامد بن فضل اللہ دہلوی، سیاح، فارسی شاعر اور مصنف سیر العارفين وغيرہ	
۱ ۳۸۸	(م ۱۵۳۶ء/۵۹۳۲ء).	
	* جمالی : مولانا علاء الدین علی بن احمد بن محمد الجمالی سلطنت عثمانیہ کا شیخ الاسلام	
۱ ۳۸۹	(۱۵۲۶ء/۵۹۳۲ تا ۱۵۰۲ء/۵۹۰۸ء).	
۲ ۳۹۰	* جمالی الفندی : رگ بہ جمالی، علاء الدین علی بن احمد.	
۲ ۳۹۰	* جبلاط : رگ بہ جانبلاط.	
۲ ۳۹۰	* جبول : رگ بہ اولیا اتا.	
۲ ۳۹۰	* جبول جیو : ایک خانہ بدوش اور ناخواندہ مقبول عام قازخ شاعر (م ۱۹۳۵ء).	
۱ ۳۹۱	* جمت : (ملائی : تعویز)، رگ بہ حمائل.	
۲ ۳۹۱	* الجمعی : رگ بہ محمد بن سلام.	
۲ ۳۹۱	* جمدار : (فارسی : جامہ دار، یعنی محافظ پوشاک)، ہندوستان و مصر میں ایک فوجی عہدے دار.	
۲ ۳۹۱	* الجمرہ : (کنکری)، وادی یثرب میں دوران حج میں رمی کرنے کے تین مقامات.	

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۹۳		* جمشید : عوامی ادبی روایت کا ایرانی بطل.
۱ ۳۹۵		* @ الجمع : ایک مختلف المعانی اصطلاح.
۲ ۳۹۷		* الجمعة : قرآن مجید کی باسٹھویں سورت.
۲ ۳۹۸		* @ الجمعة : اسلامی تقویم میں ہفتے کا ساتواں اور آخری دن.
۲ ۳۰۱		* جمعیت : سترھویں / اٹھارہویں صدی عیسوی سے مختلف اسلامی ممالک میں منظم دینی و سیاسی جماعتوں اور اجتماعات کے لیے مستعمل اصطلاح.
۲ ۳۲۱		* جمعیت علمية عثمانیہ : سنیف پاشا کی بنا کردہ عثمانی سائنٹیفک سوسائٹی.
۱ ۳۲۲		* الجمّل : (وقعة الجمل)، بصرے کے قریب ۶۵۶/۵۳۶ء میں حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے درمیان لڑی جانے والی جنگ.
۲ ۳۲۷		* جما : جما ککا، جما ابا جفار، جنوب مغربی حبشہ میں ایک ریاست.
۲ ۳۲۸		* الجمّاز : ابو عبدالله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء بن یاسر، بصرے کا ایک طنز گو شاعر اور مزاح نگار (م نواح ۵۲۵۵-۸۶۸/۸۶۹-۷۶۹ء).
۲ ۳۲۹		* جمنا : بھارت کا ایک مشہور دریا.
۱ ۳۳۰		* جمهور : رگ بہ جمہوریت.
۱ ۳۳۰		* جمہوریت : عوامی اور انتخابی طرز حکومت، ایک مشہور سیاسی اصطلاح.
۱ ۳۳۸		* جمہوریت خالق فرقہ سی : (جمہوری عوامی پارٹی)، جمہوریہ ترکیہ میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی بنا کردہ سیاسی جماعت اور تنظیم.
۱ ۳۳۲		* جمہوریۃ : رگ بہ جمہوریت.
۱ ۳۳۲		* جمیل بن عبدالله بن معمر العذری : (۵۳۰/۵۶۶ء تا ۵۸۲/۷۰۱ء)، ایک عرب شاعر اور ادبی دبستان العذری کا مشہور ترین نمائندہ.
۲ ۳۳۳		* جمیل بن نخلۃ المدور : ایک عرب صحافی و ادیب اور مصنف نضارة الاسلام فی دارالسلام وغیرہ (م ۵۱۳۲۵/۷۱۹۰ء).
۲ ۳۳۳		* جمیل : طنبری، رگ بہ طنبری جمیل.
۲ ۳۳۳		* جمیلہ : ابتدائی اموی عہد خلافت میں مدینہ منورہ کی ایک مشہور مغنیہ (م نواح ۵۱۲۵/۷۴۳ء).
۱ ۳۳۵		* جناب شہاب الدین : (۱۸۷۰ تا ۱۹۳۳ء)، ایک ترکی شاعر اور مصنف، ادبی دبستان ثروت فنون کا ممتاز نمائندہ.
۱ ۳۳۷		* جنابۃ : حدیث کبیر، ایک معروف فقہی اصطلاح.
۲ ۳۳۷		* جناح : رگ بہ محمد علی جناح، قائد اعظم.
۲ ۳۳۷		* الجناحیہ : (یا الطیاریہ)، حضرت جعفر طیارؓ کے پرپوتے عبدالله بن معاویہ [رگ ہاں] کے حابی.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۳۸		* جَنَازَہ : چارپائی پر ڈالی ہوئی میت یا تابوت وغیرہ کے لیے ایک اصطلاح.
۲ ۳۳۸		* جناس : رگ بہ تجنیس.
۲ ۳۳۸		* الجناؤنی : ابو عبیدہ عبدالحمید، تاهرت کے اباضی اماموں کی طرف سے جبل نفوسہ کا والی.
۱ ۳۳۹		* الجنبہ : عمان کا ایک سربر آوردہ قبیلہ.
۱ ۳۵۰		* جنجی خواجہ : رگ بہ حسین جنجی.
۱ ۳۵۰		* جَنجیرَہ : رگ بہ حبشی.
۱ ۳۵۰		* جناد : مسلح فوجی دستے، ایک عسکری اصطلاح.
۲ ۳۵۱		* جناب بن جنادہ : رگ بہ ابوذر غفاری.
۲ ۳۵۱		* جندی : رگ بہ حلقہ.
۲ ۳۵۱		* الجندی : ابو عبداللہ بہاء الدین محمد بن یعقوب بن یوسف، یمن کا ایک شافعی فقیہ، مؤرخ اور مصنف (م ۳۲۲ھ/۴۳۲ء).
۲ ۳۵۱		* جندرلی : عثمانی ترکوں کے علما اور سیاست دانوں کا ایک خاندان: (۱) خیرالدین خلیل بن علی المعروف بہ کرہ خیل، قاضی عسکر اور وزیر (م ۵۸۹ھ/۴۳۸ء)؛ (۲) علی پاشا [رگ باں] مراد اول اور بایزید اول کا وزیر اعظم (م ۵۸۰ھ/۴۳۰ء)؛ (۳) ابراہیم پاشا، مصر کا قاضی عسکر اور وزیر (م ۵۸۳۲ھ/۴۳۲ء)؛ (۴) خلیل پاشا [رگ باں] ۵۸۳۳ھ/۴۳۳ء تک وزیر اعظم (م ۵۸۵۳ھ/۴۳۳ء)؛ (۵) ابراہیم پاشا، بایزید ثانی کا قاضی عسکر اور وزیر اعظم (م نواح ۵۹۰ھ/۴۳۹ء).
۱ ۳۵۲		* جندیساپور : (جندیساپور)، خوزستان کا ایک مشہور شہر.
۱ ۳۵۳		* جنزہ : رگ بہ گنجہ.
۲ ۳۵۵		* جنس : علم منطق و فلسفہ وغیرہ کی ایک اصطلاح.
۲ ۳۵۵		* جنگلی : ایران میں ایک قومی اور اصلاحی تحریک.
۲ ۳۵۸		* الجن : انسانوں کے بالمقابل ایک مخصوص مخلوق کے لیے قرآنی اصطلاح.
۱ ۳۶۷		* الجن : قرآن مجید کی بہترویں سورت.
۱ ۳۶۸		* جنابۃ : (جنابی، جنابۃ، گنابہ)، ایران کے صوبہ فارس کا ایک قصبہ اور بندرگاہ.
۲ ۳۶۹		* الجنابی : ابو سعید حسن بن بہرام، مشرقی عرب (بحرین) میں قرامطہ کے اقتدار کا بانی (م ۵۳۰ھ/۶۱۳ء).
۱ ۳۶۹		* الجنابی : ابو طاہر سلیمان بن ابی سعید الحسن، بحرین کی چھوٹی سی ریاست کا مشہور حکمران (م ۵۳۳ھ-۹۴۳ھ/۶۱۳-۹۴۳ء).
۲ ۳۶۹		* الجنابی : ابو محمد مصطفیٰ بن حسن بن سنان الحسینی الهاشمی، تاریخ الجنابی کا مصنف (م ۵۹۹ھ/۱۵۹۰ء).
۲ ۳۷۳		

صفحہ دعوود	اشارات	عنوان
۱ ۳۷۳	ایک معروف قرآنی و اسلامی اصطلاح.	* جَنَّة : (باغ)، نیکوکار انسانوں کا دائمی گھر،
۲ ۳۸۰		* جنر : بھارت کی ریاست بمبئی میں ایک شہر.
۱ ۳۸۱		* جنی : رگ بد دنی.
۱ ۳۸۱	(م نواح ۵۸۲۸/۱۳۲۳-۱۳۲۵ء).	* جنید : خاندان آیدین اوغلو [رگ باں] کا آخری امیر
	اور اپنے باپ ابراہیم کا اردبیل میں جانشین بحیثیت صدر جماعت صفویہ (م ۵۸۶۳/۶۰ء).	* جنید : شیخ صفی الدین اسحاق بانی طریقتہ صفویہ کی اولاد میں چوتھا صفوی شیخ یا مرشد
۲ ۳۸۳		* الجنید : (البغدادی)، ابوالقاسم بن محمد بن الجنید الخزار القواریری النہاوندی، سری
۲ ۳۸۳		سقطی کے بھانجے اور مرید، ایک شہرہ آفاق صوفی (م ۵۲۹۸/۶۱۰ء).
۲ ۳۸۵		* الجنید بن عبد[الرحمن] : المری، اموی خلیفہ ہشام کا نامور والی اور سپہ سالار، ہندوستان
	کے مسام مقبوضات کا امیر (م نواح ۵۱۱۶/۶۳۳ء).	* الجواء : (لیوا)، الظفرة کے ربتلے میدانوں میں چھوٹے چھوٹے نخلستانوں پر مشتمل
۲ ۳۸۷		اور سعودی عرب اور ابو ظبی کے درمیان معرض نزاع علاقہ.
۱ ۳۸۹		* جواد ہاشا : احمد، ترکی وزیر اعظم (از ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۵ء) اور چند تاریخی کتب کا
	مصنف (م ۵۱۳۱۸/۶۰۰ء).	* الجواد الاصفہانی : جمال الدین ابو جعفر محمد بن علی، زنگی حکمرانوں کا وزیر
۱ ۳۹۰		(م ۵۵۵۹/۱۱۶۳ء).
۲ ۳۹۰		* جوار : نگہبانی، ہمسائیگی و قرب کے معنوں میں ایک اصطلاح.
۱ ۳۹۱		* جوالی : لغوی معنی تارکین وطن، اصطلاحاً جزیہ.
		* الجوالیقی : یا ابن الجوالیقی، ابو منصور موہوب بن احمد بن محمد بن الخضر (۵۳۶۶/۲۳
۲ ۳۹۱		۶۰ تا ۵۳۹/۱۱۳۳ء)، مدرسہ نظامیہ (بغداد) کا ممتاز مدرس اور متعدد
		کتابوں کا مصنف.
۱ ۳۹۳		* جوان : مرزا کاظم علی، اردو نثر کے مقدمات میں سے ایک ممتاز مصنف (حیات ۱۸۱۵ء).
۱ ۳۹۵		* جوان رود : جوان رو، ایرانی کردستان کا ایک ضلع.
۲ ۳۸۵		* جوان مردی : رگ فتوة.
		* جوجی : (نواح ۵۵۸۰/۱۱۸۳ تا ۵۶۲۳/۱۲۲۷ء)، چنگیز خان [رگ باں] کا سب سے
۲ ۳۹۵		بڑا بیٹا اور التون اردو، قریم، بیومن، بخارا اور خیوہ کے خوانین کا جد امجد.
		* جودت : عبد اللہ (۵۱۲۸۶/۱۸۶۹ تا ۵۱۳۵۱/۱۹۳۲ء)، ایک ترکی شاعر، مترجم،
۱ ۳۹۷		سیاست دان، صحافی اور آزاد خیال مصنف.
۱ ۳۹۹		* جودت ہاشا : رگ بہ احمد جودت ہاشا.
		* جودی : (جودی طاع، کوہ اراراط)، ضلع بہتان میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرق میں

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۴۹۹		ایک سلسلہ کوہ۔
۲ ۵۰۱		* جودی الموروری: بن عثمان العباسی، اندلس کا ایک بلند پایہ نحوی (م ۵۱۹۸/۴۸۱۳)۔
۱ ۵۰۲		* جودھپور: مارواڑ راجپوتانہ ایجنسی کی تمام ریاستوں میں سب سے وسیع ریاست، اب صوبہ راجستھان (بھارت) میں مدغم۔
۲ ۵۰۲		* جودر: استاد، ایک خواجہ سرا اور فاطمی خلفا کے عہد کی اہم شخصیت (م بعہد المعز: ۶۹۷۵/۵۳۶۵ تا ۶۹۷۵/۵۳۶۵)۔
۱ ۵۰۳		* جوز: رگ بہ فیروز آباد۔
۱ ۵۰۳		* الجوزاء: رگ بہ علم نجوم۔
۱ ۵۰۳		* جوزجان: (گوزگان)، افغان ترکستان میں مرغاب اور آمو دریا کے درمیان ایک قدیم ضلع۔
		⊗ جوزجانی: ابو عمرو منہاج الدین عثمان المعروف بہ مولانا منہاج سراج، ہندوستان میں بعہد خاندان غلامان خطیب دربار، محتسب و قاضی القضاة، ایک مشہور عالم، مؤرخ اور مصنف طبقات ناصری وغیرہ (م نواح ۵۶۵۸/۱۲۵۹-۱۲۶۰/۶۱۲۶)۔
۲ ۵۰۸		* الجوزہریا الجوزہر: علم ہیئت اور علم نجوم کی کتابوں میں مستعمل ایک فنی اصطلاح۔
۱ ۵۱۰		* جوف: گڑھے یا نشیبی علاقے کے لیے ایک جغرافیائی اصطلاح۔
۲ ۵۱۱		* الجوف: وسطی سعودی عرب کے شمال میں ایک ضلع اور قصبہ۔
۲ ۵۱۲		* جوف کفرہ: صحرائے لیبیا میں سب سے نمایاں کفرہ، نجلستان۔
۱ ۵۱۳		* جوکان: رگ بہ چوگان۔
۱ ۵۱۳		* جوگ بکارتا: رگ بہ یوگ بکارتا۔
۱ ۵۱۳		* الجولان: جنوبی شام کا ایک مشہور ضلع۔
۱ ۵۱۳		⊗ جولہ مرک: رگ بہ چولہ مرک۔
		* جولاکڑھ: برطانوی عہد میں ہندوستان کی ایک مسلم ریاست اور اس کا صدر مقام؛ آج کل پاکستان سے الحاق کے اعلان کے باوجود بھارت کے ناجائز قبضے میں۔
۲ ۵۱۷		* جولہور: اترپردیش (بھارت) کا ایک شہر اور ضلع؛ اسلامی عہد کی عمارات کے لیے معروف۔
		* الجولہوری: سید محمد کاظمی الحسینی، بن سید خان المعروف بڈھ اویسی (۵۸۳۷/۶۱۳۳ تا ۵۹۱۰/۶۱۵۰)، مہدی ہونے کا مدعی اور مہدویہ فرقے کا بانی۔
۱ ۵۲۱		* الجوانی: ابو علی محمد بن اسعد (۵۵۲۵/۶۱۳۱ تا ۵۵۸۸/۶۱۹۲)، ایک عرب نساب اور مؤرخ۔
۲ ۵۲۳		* جوہر: اصل ہر شے، ایک فلسفیانہ اصطلاح۔
۲ ۵۲۵		⊗ جوہر: رگ بہ محمد علی جوہر، رئیس الاحرار مولانا۔
۲ ۵۲۸		* جوہر آتابچی: مہر، ہمایوں [رگ بان] کا آتابہ بردار اور اس کے عہد کی سرگزشت

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۵۲۸	تذکرۃ الواقعات کا مصنف (م ۵۹۶۳/۱۵۵۶ء).	* جوہر العقلمی : سپہ سالار، منتظم شمالی افریقہ اور مصر میں فاطمی سلطنت کا ایک بانی (م ۵۹۹۲/۱۳۸۱ء).
۱ ۵۲۹	مصنف تاج اللغة و صحاح العربیة (م مابین ۵۳۹۳/۱۱۰۰ء و ۵۴۴۰/۱۱۰۰ء).	* الجوهری : ابو نصر اسمعیل (بن نصر) بن حماد، ایک مشہور ترکی التسل لغت نویس،
۲ ۵۳۲	اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ (م ۵۶۶۶/۱۱۷۶ء، بعمر ستر سال).	* جویریہ : ام المؤمنین، قبیلہ بنو مصطلق کے سردار الحارث بن ابی ضرار الخزاعی کی دختر
۱ ۵۳۳	تیشاپور میں ایک ضلع : (۳) گوین، سجستان میں ایک قلعہ بند مقام.	* جوین : ایران میں متعدد مقامات : (۱) ارد شیر خرہ کا ایک گاؤں : (۲) گویان، علاقہ
۲ ۵۳۵	کا بھائی، ایک ماہر سیاست اور ایلخانی بادشاہوں کا وزیر اعظم (م ۵۶۸۳/۱۲۸۳ء).	* جوینی : شمس الدین محمد بن محمد، صاحب دیوان، مشہور مؤرخ علاء الدین عطا ملک
۲ ۵۳۶	ایک ایرانی حاکم اور مؤرخ، مصنف تاریخ جہاں گشای.	* جوینی : علاء الدین عطا ملک بن محمد (۵۶۲۳/۱۲۲۶ء تا ۵۶۸۱/۱۲۸۲-۱۲۸۳ء)،
۲ ۵۳۷	مشہور شافعی عالم عبداللہ بن یوسف ابو محمد الجوینی کے فرزند، مشہور اصولی، فقیہ، متکلم اور مصنف.	* الجوینی : امام الحرمین ابوالمعالی عبد الملک (۵۴۱۹/۱۱۲۸ء تا ۵۴۷۸/۱۱۸۵ء)،
۲ ۵۳۰	اور مصنف (م ۵۴۳۸/۱۱۳۷ء).	* الجوینی : ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن محمد، ایک شافعی عالم، مفسر، فقیہ، ماہر لغت
۲ ۵۳۲	جہاد : قتال فی سبیل اللہ کے معنوں میں ایک مشہور اسلامی و قرآنی اصطلاح.	* جہاد : قتال فی سبیل اللہ کے معنوں میں ایک مشہور اسلامی و قرآنی اصطلاح.
۲ ۵۳۲	پہلوٹھی بیٹی اور مونس الارواح وغیرہ کی مصنف.	* جہان آرا بیگم : (۵۱۰۲۳/۱۶۱۳ء تا ۵۱۰۹۲/۱۶۸۱ء)، شاہجہاں [رک باں] کی
۲ ۵۳۵	جہاندار شاہ : معزالدین (۵۱۰۷۱/۱۶۶۱ء تا ۵۱۱۲۵/۱۷۱۳ء)، ہندوستان میں مغلیہ دور زوال کا ایک بادشاہ (از ۵۱۱۲۳/۱۷۱۲ء).	* جہاندار شاہ : معزالدین (۵۱۰۷۱/۱۶۶۱ء تا ۵۱۱۲۵/۱۷۱۳ء)، ہندوستان میں مغلیہ دور زوال کا ایک بادشاہ (از ۵۱۱۲۳/۱۷۱۲ء).
۲ ۵۳۶	جہان سوز : علاء الدین حسین بن الحسین، غزنہ کو نذر آتش کرنے والا غوری خاندان کا شاعر فرمانروا (م ۵۵۵۶/۱۱۶۱ء).	* جہان سوز : علاء الدین حسین بن الحسین، غزنہ کو نذر آتش کرنے والا غوری خاندان کا شاعر فرمانروا (م ۵۵۵۶/۱۱۶۱ء).
۲ ۵۳۷	جہان شاہ : رک بہ مغل.	* جہان شاہ : رک بہ مغل.
۲ ۵۳۸	جہانگیر : (۵۹۷۷/۱۵۶۹ء تا ۵۱۰۳۷/۱۶۲۷ء)، ہندوستان کا چوتھا عظیم مغل شہشاہ (از ۵۱۰۱۳/۱۶۰۵ء)، نوزک جہانگیری کا مصنف.	* جہانگیر : (۵۹۷۷/۱۵۶۹ء تا ۵۱۰۳۷/۱۶۲۷ء)، ہندوستان کا چوتھا عظیم مغل شہشاہ (از ۵۱۰۱۳/۱۶۰۵ء)، نوزک جہانگیری کا مصنف.
۲ ۵۳۸	جہیند : محکمہ مالیات کے مختلف عہدیداروں کے لیے ایک ایرانی اصطلاح.	* جہیند : محکمہ مالیات کے مختلف عہدیداروں کے لیے ایک ایرانی اصطلاح.
۱ ۵۵۲	الجہشیاری : ابو عبداللہ محمد بن عبدوس، چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کی سیاسیات میں حصہ لہنے والا ایک فاضل اور مصنف کتاب الوزراء والکتاب	* الجہشیاری : ابو عبداللہ محمد بن عبدوس، چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کی سیاسیات میں حصہ لہنے والا ایک فاضل اور مصنف کتاب الوزراء والکتاب

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۵۵۳		(م ۵۳۲۱/۶۹۳۲)۔
۲ ۵۵۵		* جہلاوان : بلوچستان (پاکستان) کا ایک ضلع۔
۲ ۵۵۵		* جہلم : پنجاب (پاکستان) کی قسمت راولپنڈی کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام، لیز ایک مشہور دریا۔
۲ ۵۵۵		* جہم بن صفوان : ابو محرز، قدیم زمانے کا ایک عالم الہیات اور بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک بغاوت کا ذہنی قائد اور فرقہ جہمیہ کا بانی (م ۵۱۳۸/۵۱۳۸)۔
۲ ۵۵۸		(۶۷۳۶ - ۷۳۵)۔
۱ ۵۵۹		* جہمیہ : جہم بن صفوان کا بنا کردہ ایک فرقہ۔
۲ ۵۶۰		* جہنم : دوزخ کے لیے ایک معروف قرآنی اصطلاح۔
۱ ۵۶۳		* جہوریہ : ہسپانیہ میں خلافت امویہ کے سقوط پر اہل قرطبہ کے وزیر ابو حزم جہور بن محمد بن جہور کی قیادت میں قائم کردہ ایک قسم کی جمہوریہ۔
۱ ۵۶۳		* جہور (بنو) : سلاجقہ اعظم کے دور انتداب میں خلیفہ کی وزارت کی مکمل اجارہ داری رکھنے والا ایک خاندان۔
۲ ۵۶۶		* جیب ہمایوں : سرکائی کے زیر اختیار عثمانی سلاطین کا صرف خاص۔
۱ ۵۶۷		* الجیب المستوی : رگ بہ علم الہیث۔
۱ ۵۶۷		* الجیب المعکوس : رگ بہ علم الہیث۔
۱ ۵۶۷		* جے پور : اسلامی اور برطانوی دور کی ایک سابق راجپوت ریاست، اب راجستھان (بھارت) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام۔
۲ ۵۶۸		* جیل : رگ بہ (۱) سکھ؛ (۲) وزن۔
۲ ۵۶۸		* جیجل : (Gegal)، الجزائر کا ایک ساحلی شہر۔
۱ ۵۷۱		* جیحان : (Pyramus)، سلیشیا میں سے ہو کر بحیرہ روم میں گرنے والی ایک قدیم ندی۔
۲ ۵۷۲		* جیحون : رگ بہ آمو دریا۔
۲ ۵۷۲		* جیرفت : (جیرفت)، کرمان کا ایک زرخیز اور مرتفع ضلع اور اس کا ایک شہر۔
۱ ۵۷۳		* جیزان : بحیرہ قلزم کے ساحل پر جنوب مغربی سعودی عرب میں ایک ندی، ایک بندرگاہ اور ایک صوبے کا نام۔
۲ ۵۷۷		* جیزہ : رگ بہ قاہرہ۔
۲ ۵۷۷		* الجیزی : ابو محمد الربیع بن سلیمان بن داؤد الازدی الاعرج، امام شافعی کے ایک ممتاز پیرو اور شاگرد (م ۵۲۵۶/۶۸۷۰ تا ۵۲۵۷/۶۸۷۱)۔
۱ ۵۷۸		* جیسور : مشرق پاکستان (اب بنگلہ دیش) کے ایک ضلع کا بڑا شہر، چھاؤنی اور ہوائی اڈہ۔
۲ ۵۷۸		* جیش : فوج کے لیے جند اور عسکر کی طرح عربی کی ایک عام اصطلاح۔
		* الجیطالی : ابو طاہر اسمعیل بن موسیٰ، ایک ممتاز اباظی عالم اور مصنف قواعد الاسلام

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۶۰۳	* جیک : رگ بہ شاہ طاغ۔	وغیرہ (م ۵۷۳۰/۵۷۳۰ یا ۵۷۵۰/۵۷۳۵)۔
۱ ۶۰۳	* الجیلی : رگ بہ عبدالقادر الجیلانی۔	
۱ ۶۰۳	* الجیلی عبدالکریم : رگ بہ عبدالکریم الجیلی۔	
۱ ۶۰۳	⊗ جیم : عربی اور فارسی حروف تمہجی میں پانچواں اور اردو میں [کیارہواں] حرف۔	
۱ ۶۰۳	* جین : یا جینی، مہاویر موسوم بہ جین کے پیرو۔	
۲ ۶۰۳	⊗ جینا : رگ بہ محمد علی جناح، قائد اعظم۔	
۱ ۶۰۵	* جیون : ملا احمد بن ابی سعید بن عبیداللہ بن عبدالرزاق بن مخدوم خاصہ خدا الحنفی الصالحی (۵۱۰۳۷/۵۱۰۳۷ تا ۵۱۱۳۰/۵۱۱۳۰-۱۷۱۷-۱۷۱۸ء)، ایک مشہور عالم دین، فقیہ اور مفسر، اورنگ زیب عالمگیر کے استاد اور تفسیر الاحمدی کے مصنف۔	
۱ ۶۰۵	* جیاش بن نجاح : رگ بہ نجاح (بنو)۔	
۲ ۶۰۶	* جیان : (Jaen)، اندلس کا ایک صوبہ اور اس کا دارالحکومت۔	



۱ ۶۰۹	⊗ چ : فارسی کا ساتواں اور اردو کا تیرہواں حرف۔	
۱ ۶۰۹	* چاہار : قیدو [رگ باں] کا سب سے بڑا بیٹا اور مغول اوکتا قان کا پرپوتا، ایک مغول فرمانروا (از ۵۷۰۲/۵۷۰۲ تا ۵۷۰۸/۵۷۰۹)۔	
۲ ۶۱۰	* چاہار اوغلری : رگ بہ چین اوغلری۔	
۲ ۶۱۰	* چانگام : (چانگاؤں)، رگ بہ چٹاگانگ۔	
۲ ۶۱۰	* چانگاؤں : رگ بہ چٹاگانگ۔	
۱ ۶۱۰	* چاڈ : (چاد، تشاد)، رگ بہ شاد۔	
۲ ۶۱۰	* چارجوی : رگ بہ آمل۔	
۱ ۶۱۰	* چاشناگیر : (چاشنی گیر)، عہد سلاجقہ سے مسلمان حکمرانوں کے دربار میں ایک عہدے دار۔	
۲ ۶۱۰	* چاشناگیر ہاشی : عثمانی ترکوں کے دربار کا ایک اعلیٰ عہدیدار۔	
۱ ۶۱۱	* چال دران : ایرانی آذربائیجان کے شمال مغربی حصے میں ایک میدان، سلطان سلیم اور شاہ اسماعیل کے درمیان فیصلہ کن جنگ کا مقام۔	
۱ ۶۱۱	⊗ چاند ہی ہی سلطان : (نواح ۱۵۵۰ تا ۱۶۰۰ء)، احمد نگر کے بادشاہ حسین نظام شاہ کی	

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۶۱۳		دختر، بیجا پور کے سلطان علی عادل شاہ کی بیگم اور ان دونوں ریاستوں میں اہم سیاسی خدمات سرانجام دینے والی ایک عقل مند اور رزم آرا ملکہ۔
۲ ۶۱۶		* جاؤدرس : (جاولدر)، خوارزم میں ایک ترکمان قبیلہ۔
۲ ۶۱۶		* جاؤ : ۱۲۹۳/۵۶۹۳ء میں دو ماہ تک جاری رہنے والا ایران کا ایک کاغذی سکہ۔
۱ ۶۱۷		* جاؤش : (چاوش)، متعدد محکموں میں کام کرنے والے عمال اور نچلے درجے کے فوجی عملے کے لیے ترکی اصطلاح۔
۱ ۶۱۸		* جالے : (چای) ایک معروف مشروب۔
۱ ۶۱۹		* جین اوغللری : رگ بہ درہ بیگی، نیز تکملہ۔
۱ ۶۱۹		* چیتی : ترکیہ کی سیاسی و مذہبی تاریخ میں ایک اہم اغز قبیلہ۔
۱ ۶۲۰		* چتالجه : (قدیم مترہ Metra)، ولایت استانبول کی سب سے زیادہ دیہاتی قضا کا صدر مقام۔
۱ ۶۲۱		* چتر : رگ بہ مظلہ۔
۱ ۶۲۱		* چترال : برطانوی ہند کی ایک سابق ریاست اور اب پاکستان میں مالاکنڈ ڈویژن (صوبہ سرحد) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام۔
۱ ۶۲۱		* چٹاگانگ : مشرقی پاکستان (حال بنگلہ دیش) کی سب سے بڑی بحری بندرگاہ اور اراکان (برما) سے ملحقہ اسی نام کے ضلع کا صدر مقام۔
۱ ۶۲۸		* چراغان : خلیج یاسفورس کی یورپی جانب بشکطاش اور اورتہ کوی کے درمیان واقع ایک محل۔
۲ ۶۲۸		* چراغان (میلا) : باغبانپورہ (لاہور) میں شالامار باغ کے قریب صوفی شاعر شاہ حسین (م ۱۵۰۸ / ۱۵۹۹ء) کے سالانہ عرس کے موقع پر ان کے مزار کے قریب منایا جانے والا میلا۔
۲ ۶۲۹		* چراغ دہلی : شیخ نصیر الدین محمود بن یحییٰ الیزدی ثم الأودی، حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے ایک مشہور اور بزرگ خلیفہ (م ۱۳۵۷/۵۶۱۳ء)۔
۱ ۶۳۰		* چرچل : رگ بہ شرشل۔
۱ ۶۳۲		* چرکس : آئرو قفقازی قوم کی شمال مغربی (ادغہ) شاخ کے قبائل کے لیے عمومی ترکی لقب۔
۱ ۶۳۳		* چرکس : رگ بہ محمود پاشا چرکس۔
۱ ۶۳۳		* چرکس ادھم : اپنے بھائیوں چرکس رشید (م ۱۹۵۱ء) اور چرکس محمد توفیق (م ۱۹۳۸ء) کی معیت میں ترک قوم پرست چھاپہ ماروں کا قائد (م ۱۹۳۹ء)۔
۱ ۶۳۳		* چریس : (چریس، ماری)، جمہوریہ اشتراکیہ مارس میں آباد مشرقی فن لینڈ کے گروہ کے لوگ۔
۲ ۶۳۳		* چرمن : ادرنہ کے قریب تراکیہ (تھریس) کے قدیم باشندوں کا ایک قلعہ۔
۲ ۶۳۵		* چریغو : (چرگو)، رگ بہ چوقہ آطہ سی۔
۱ ۶۳۶		* چشتی : خواجہ معین الدین حسن اجمیریؒ (۵۳۶/۱۱۴۱ء تا ۵۶۳/۱۱۷۰ء) اسلامی تصوف کی تاریخ میں ایک برگزیدہ بزرگ اور ہندوستان میں سلسلہ

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۶۳۵		چشتیہ کے بانی۔
۱ ۶۳۸		* چشتیہ : برعظیم پاک و ہند میں صوفیہ کا مقبول ترین سلسلہ۔
۲ ۶۵۳		* چشمہ : پانی کا منبع، بحیرہ روم کے ساحل اور اسی نام کی خلیج کے دہانے پر واقع ایشیائے کوچک میں ایک تجارتی شہر اور بندرگاہ۔
۱ ۶۵۵		* چشمی زادہ : مصطفیٰ رشید، ایک عثمانی مؤرخ اور شاعر (م ۱۱۸۳ھ/۱۷۷۰ء)۔
۲ ۶۵۵		* چغالہ زادہ : یوسف سنان پاشا المعروف بہ چغال (چغال) اوغلو (۱۵۵۲ھ/۱۵۳۵ء تا ۱۶۰۵ھ/۱۶۰۵ء)، سلطنت عثمانیہ کا ایک اعلیٰ عہدے دار۔
۱ ۶۵۸		* چغان رود : آمو دریا (رگ باں) کی انتہائی شمالی معاون ندی۔
۲ ۶۵۸		* چغالبان : سابقاً چغان رود کا ایک نام؛ نیز ترمذ کے شمال میں واقع ایک ضلع۔
۲ ۶۶۰		* چغتائی ادب : رگ بہ ترک۔
۲ ۶۶۰		* چغتای ترک : رگ بہ ترک۔
۲ ۶۶۰		* چغتائی خان : چنگیز خان کا بیٹا، مشہور تاتاری امیر اور چغتائی سلطنت کا بانی (م نواح ۱۲۳۱ھ/۱۲۳۹ء)۔
۲ ۶۶۰		* چغتای خالیہ (ریاست) : چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان نام سے موسوم وسطی ایشیا کی خائیت اور عظیم تاتاری سلطنت۔
۲ ۶۶۲		* چغری بیگ : داؤد بن میخائیل بن سلجوق (نواح ۱۱۸۵ھ/۱۱۹۵ء تا ۱۲۵۲ھ/۱۲۶۰ء)، طغرل بیگ (رگ باں) کا بھائی اور خاندان سلجوق کی بنیاد رکھنے میں اس کا شریک۔
۲ ۶۶۵		* چغت رسمی : (چغت حقی، قلی آتچسی)، سلطنت عثمانیہ میں رعیت پر ایک لازمی محصول۔
۲ ۶۶۸		* چغتلک : ترکی زبان میں کھیت کے لیے ایک عام لفظ۔
۱ ۶۷۰		* چقمق : الملک الظاهر سیف الدین، سلطان مصر، ایک نامور مملوک فرمانروا (از ۱۱۳۲ھ/۱۳۳۸ء تا ۱۱۵۷ھ/۱۳۵۳ء)۔
۲ ۶۷۲		* چقمور اووہ : رگ بہ قیاقیا۔
۲ ۶۷۳		* چکمک، مصطفیٰ فوزی : (کوخ)، ترکی فوج کا نامور سپہ سالار (م ۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء)۔
۲ ۶۷۳		* چکیر جی باشی : (چاقر جی باشی)، باز آوزوں کا سربراہ، عثمانی دور کا ایک بڑا عہدہ۔
۲ ۶۷۳		* چلبی : ذہین مصنف شاعر، قاری اور دانشمند کے معنوں میں اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے لیے ایک ترکی اصطلاح اور لقب۔
۲ ۶۷۳		* چاہی افندی : رگ بہ (۱) جلال الدین، مولانا روسی؛ (۲) جلال الدین حسین۔
۱ ۶۷۶		* چلبی زادہ : (کوچوک چلبی زادہ)، اسماعیل عاصم افندی، عثمانی مؤرخ، شاعر اور شیخ الاسلام (م ۱۱۷۳ھ/۱۷۶۰ء)۔
۱ ۶۷۶		* چلبی زادہ افندی : رگ بہ سعید افندی۔
۱ ۶۷۸		

صفحہ عمود	اشارت	عنوان
۱ ۶۷۸		* چلہ : چالیس دن کا روزہ، ایک معروف صوفیانہ اصطلاح : نیز رگ بہ خلوت.
۱ ۶۷۸		* چلمرک : رگ بہ چولہ مرک.
۱ ۶۷۸		* چم : (Cham یا Cam)، زمانہ قبل از مسیح میں جزیرہ نمائے ہند چینی کے جنوبی ساحلوں پر آباد پولینیشی نسل کے لوگ.
۱ ۶۷۹		* چمپائیر : (محمود آباد)، مغربی ہند میں گجرات کا ایک تاریخی شہر (اب کھنڈر).
۲ ۶۸۰		* چمکت : جمہوریہ اشتراکیہ قازخستان (قزاقستان) کے جنوبی خطے کا صدر مقام.
۱ ۶۸۱		* چمکنی، میان عمر صاحب : (نواح ۴۱۶۸۹/۵۱۱۰۰ تا ۴۱۷۸۶/۵۱۲۰۰)، پاکستان کے صوبہ سرحد کے ایک علمی اور روحانی بزرگ.
۲ ۶۸۲		* چمئل : رگ بہ اندی.
۲ ۶۸۲		* چمن : رگ بہ باغ.
۲ ۶۸۲		* چناق قلعه بوغازی : در ذانیال کا موجودہ ترکی نام.
۲ ۶۸۵		* چندرہ لی : رگ بہ چندرلی.
۲ ۶۸۵		* چندیری : شمالی وسط ہند کا ایک شہر اور پرانا قلعہ.
۱ ۶۸۷		* چنکیری : (چانگری، جنجرہ)، وسطی آناتولی کا ایک شہر.
۲ ۶۸۹		* چنگالہ : مشرق میں خانہ بدوش قوموں کے متعدد مستعمل ناموں میں سے ایک.
۲ ۶۹۱		* چنگیز خان : (۱) تموجین (۴۱۱۶۷/۵۵۶۳ تا ۴۱۲۲۷/۵۶۲۵)، مغول سلطنت کا بانی، مشہور و معروف فاتح، حکمران اور آمر.
۱ ۶۹۸		* چنگیز خان : (۲) مغول قبائل کے نسب اور دیگر واقعات کے بارے میں تازہ تحقیقات.
۱ ۷۱۸		* چنگیز (خانوادہ) : (چنگیز خانیہ)، چنگیز خان کے چار بیٹے اور ان کی اولاد سے چلنے والا خانیہ یا شامی سلسلہ.
۱ ۷۲۵		* چنیوٹ : پنجاب (پاکستان) کا ایک ضلعی صدر مقام اور تاریخی شہر.
۲ ۷۲۶		* چو : وسطی ایشیا کا ایک تیز رو دریا.
۲ ۷۲۹		* چوبان (خانوادہ) : مغول امیروں کا ایک خاندان، (۱) امیر چوبان، ایلخانی فرمانرواؤں ارغون، گیخاتو، غازان اور الجایتو کا قابل اور آزمودہ کار سپہ سالار (م ۴۱۳۲۷/۵۷۲۸)؛ (۲) دمشق خواجہ، امیر چوبان کا تیسرا بیٹا اور عملاً ایلخانی سلطنت کا حکمران (م ۴۱۳۲۷/۵۷۲۷)؛ (۳) تیمور تاش، امیر چوبان کا دوسرا بیٹا، الجایتو کا وزیر اور ولایت کا حاکم اور بعد ازاں اس کے خلاف بغاوت کرنے والا (م ۴۱۳۲۸/۵۷۲۸)؛ (۴) حسن بن تیمور تاش (حسن کوچک، ایک اہم فوجی قائد (م ۴۱۳۳۳/۵۷۳۳).
۱ ۷۳۱		* چوہان : چرواہا اور گد بان کے لیے ایک ایرانی الاصل ترک لفظ.

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۷۳۳	* چوپان آتا : سمرقند کی شہر پناہ سے متصل پہاڑوں کا ایک نصف میل لمبا سلسلہ.	
۲ ۷۳۳	* چوڈرس : رگ بہ چاودرس.	
۲ ۷۳۳	* چورہاجی : (۱) ینی چریوں میں اورتا اور آغا بولوک لری کمانداروں کا لقب ؛ (۲) گاؤں کے سربر آوردہ لوگوں اور بعد ازاں سوداگروں اور مالدار عیسائیوں کا لقب .	
۱ ۷۳۵	* چورخ : (۱) آناطولی کے انتہائی شمال مشرق میں ایک دریا ؛ (۲) ترکیہ کے انتہائی شمال مشرقی سرحد پر بحیرہ اسود کے کنارے پر واقع ایک ولایت.	
۲ ۷۳۵	* چورلو : رگ بہ چورلی.	
۲ ۷۳۵	* چورلی : (چورلو)، مشرقی تراکیا کا ایک شہر.	
۱ ۷۳۶	* چورلیلی : (چورلو)، رگ بہ علی پاشا چورلیلی .	
۱ ۷۳۶	* چورم : وسطی آناطولی کے شمالی حصے میں ایک شہر.	
۱ ۷۳۷	* چوروک : رگ بہ چورخ.	
۱ ۷۳۷	* چوروہ : (چوروک)، رگ بہ چورخ.	
۱ ۷۳۷	* چوش : (یا چوواش)، وسطی والگا کی ترکی زبان بولنے والی ایک قوم اور اس پر مشتمل ایک سوویت اشتراکی جمہوریہ.	
۱ ۷۳۹	* چوقہ : (چوکہ)، رگ بہ قماش.	
۱ ۷۳۹	* چوقہ آطہ سی : یونان کے ایک جزیرہ کیترا یا چریغو کا ترکی نام.	
۲ ۷۳۹	* چوگان : (پہاوی : چوبکان)، پولو کے کھیل میں مستعمل سرکج چھڑی اور وسیع معنوں میں خود پولو کا کھیل.	
۲ ۷۳۲	* چوال امرک : رگ بہ چولہ مرک.	
۲ ۷۳۲	* چولم : سوویت یونین میں وسطی سائبیریا کے چھوٹے چھوٹے ترکی بولنے والے متعدد گروہ.	
۲ ۷۳۳	* چولہ مرک : (جولہ مرک، چلمرک، جلمرک)، مشرقی آناطولی کا ایک قصبہ.	
۱ ۷۳۳	* چہار ایماق : مغربی افغانستان میں چار نیم بدوی قبائل.	
۲ ۷۳۳	* چہار مقالہ : رگ بہ نظامی عروضی سمرقندی.	
۲ ۷۳۳	* چیچن : (چاچان)، روسی زبان میں وسطی قفقاز میں دریائے سنجہ اور دریائے تیرک کے جنوبی معاون دریاؤں کی وادیوں میں رہنے والے مسلمان.	
۱ ۷۳۷	* چیرک : چہاریک کی تحریف، ترکی زبان میں ایک گھٹے کے چوتھائی حصے کے لیے مستعمل اصطلاح.	
۱ ۷۳۷	* چیم : رگ بہ چ.	
۱ ۷۳۷	* چین : رگ بہ الصين.	
۱ ۷۳۷	* چیبوی زادہ : ایک عثمانی ترک خالوادہ علما : (۱) محی الدین شیخ محمد معروف بہ قوجہ	

- چیوی زادہ (۱۳۹۰/۵۸۹۶-۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵/۵۹۵۳)، قاہرہ کا قاضی،
 آناتولی کا قاضی عسکر اور شیخ الاسلام؛ (۲) محمد (۱۵۳۱/۵۹۳۷) تا
 (۱۵۸۷/۵۹۹۵)، سابق الذکر کا بیٹا، کئی علاقوں کا قاضی، شیخ الاسلام وغیرہ؛
 (۳) محمد افندی، شماره ۲ کا بیٹا، قاضی عسکر (م ۱۰۶۱/۵۱۶۵۱)؛
 (۴) عطاء اللہ افندی، شماره ۳ کا بیٹا، قاضی عسکر (م ۱۱۳۸/۵۱۷۲۵)۔
- ۱ ۷۳۷ * جہت : (جہت)، دریائے گھاگرا (گھاگر) کے کنارے انبالہ (بھارت) کے نزدیک ایک
 قدیم شہر۔
- ۲ ۷۳۸ * جَہْتَر : (جَہْتَر)، رگ بہ مَظْلَہ۔
- ۲ ۷۳۹

ح

- ۱ ۷۵۱ * ح : (حاء)، عربی زبان کے حروف تہجی کا چھٹا، فارسی کا آٹھواں اور اردو کا پندرہواں حرف۔
- ۲ ۷۵۲ * حَابِطِيَّة : احمد بن حابط (رگ باں) کے پیروکار۔
- * حاتم بن هرثمة : خلفائے بنو عباس کے دور کا ایک اعلیٰ عہدے دار، مصر اور آرمینیا کا
 والی (حیات ۸۲۰۰/۵۸۱۶)۔
- ۲ ۷۵۲ * حاتم الطائي : بن عبد اللہ بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني، زمانہ جاہلیت کا ایک
 شہسوار، شاعر اور فیاضی میں ضرب المثل۔
- ۱ ۷۵۳ * الحاج : پھلی کی قسم کی ایک سخت اور شاخ دار جھاڑی۔
- ۲ ۷۵۳ * حاجب : حکمرانوں تک رسائی والے دروازے کی حفاظت کا ذمہ دار، مسلم حکمرانوں کے
 دربار کا ایک اعلیٰ عہدے دار۔
- ۲ ۷۵۵ * حاجب بن زرارہ : دور جاہلیت میں قبیلہ بنو دارم تیمی کا ایک ممتاز سردار۔
- ۲ ۷۶۳ * الحاج : (حاجی)، رگ بہ الحج۔
- ۱ ۷۶۶ * الحاج حمودہ : بن عبدالعزیز، تونس کا ایک عرب مؤرخ، تونس کے بای علی بن الحسین
 کا دیر اور مصنف کتاب الباشا (م ۱۲۰۱/۵۱۷۸۷)۔
- ۱ ۷۶۶ * الحاج عمر : (۱۷۹۷ تا ۱۸۶۳)، سودان کا ایک جوشیلا مذہبی رہنما، فاتح اور
 مملکت تکرور کا بانی۔
- ۲ ۷۶۶ * حاجی بیرام ولی : (۱۳۵۲/۵۷۵۳ تا ۱۳۹۹/۵۸۳۳)، انقرہ کے ایک مشہور

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۷۶۸	ولی اور سلسلہ پیرامیہ کے بانی۔	
۱ ۷۷۰		* حاجی بیگ : رگ بہ رضوان بیگوچ ۔
۱ ۷۷۰		* حاجی پاشا : آیدینلی ، خضر بن علی بن خطاب ، ایک عثمانی فقیہ ، طیب اور مصنف (م ۸۲۰/۱۳۱۷ء) ۔
۱ ۷۷۱		* حاجی خلیفہ : مصطفیٰ بن عبداللہ معروف بہ کاتب چلبی (۱۰۱۷/۱۶۰۸ء تا ۱۰۶۷/۱۶۵۷ء)
۱ ۷۷۱		* حاجی خلیفہ : مصطفیٰ بن عبداللہ معروف بہ کاتب چلبی (۱۰۱۷/۱۶۰۸ء تا ۱۰۶۷/۱۶۵۷ء) ، ایک مشہور ترکی عالم اور مصنف کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون وغیرہ۔
۱ ۷۷۳		* حاجی گرای : السلطان حاجی کری بن غیاث الدین خان ، خوانین قریم (کریمیا) کے خاندان گرای کا بانی حکمران (م ۱۳۶۶/۱۸۷۱ء) ۔
۱ ۷۷۴		* حاجی نسیم اوغلو : رگ بہ آق حصار۔
۱ ۷۷۴		* حاحا : بربر قبائل (احاحن) کا مراکشی وفاق۔
۲ ۷۷۸		* العادریہ : (الحویدرہ) ، قطبہ بن اوس ، زمانہ جاہلیت میں قبیلہ ثعلبہ (غطفان) کا ایک شاعر۔
۱ ۷۷۹		* العارث بن جبلیہ : (۵۲۹ تا ۵۶۹ء) ، چھٹی صدی عیسوی میں بوزنطیہ اور عقیدہ فطرت واحدہ مسیح کی تاریخ میں مشہور ترین غسانی بادشاہ۔
۱ ۷۸۰		* العارث بن حلزہ الشکری : زمانہ جاہلیت میں ساتویں معلقے کا مصنف عرب شاعر (حیات بعہد عمرو بن ہند : ۵۵۳ تا ۵۷۰ء) ۔
۱ ۷۸۱		* العارث بن سرج : (شریح) بن یزید بن سواد (یا سوار) ، ابو حاتم ، خراسان میں اموی حکومت کے خلاف بغاوت کا قائد (م ۱۲۸/۷۳۶ء) ۔
۲ ۷۸۳		* العارث بن کعب (بنو) : (بلحارث) ، یمن کا مشہور عرب قبیلہ۔
۲ ۷۸۵		* حارثہ : بن بدر بن تمیم ، زیاد بن ابیہ کا سپہ سالار اور دوست (حیات ۵۶۶/۶۸۵ء) ۔
۱ ۷۸۶		* حارم : شمالی شام میں ایک قصبہ۔
۱ ۷۸۷		* حازم : بن محمد بن حسن بن خلف بن حازم الانصاری القرطاجنی (۶۰۸/۱۲۱۱ء تا ۶۸۳/۷۶۸ء)
۱ ۷۸۷		* حازم : بن محمد بن حسن بن خلف بن حازم الانصاری القرطاجنی (۶۰۸/۱۲۱۱ء تا ۶۸۳/۷۶۸ء) ، اندلس کا ایک عرب شاعر ، نحوی ، ماهر بلاغت اور مصنف المقصورة وغیرہ۔
۱ ۷۸۹		* حایک : (ہایک) ، مرباط کے مشرق میں علاقہ مہرہ کے اندر کوہ نوس (لوس) کے دامن میں ایک قصبہ۔
۱ ۷۹۰		* حاشد و ہکیل : جنوبی عرب کے قبائل کا ایک وفاق۔
۱ ۷۹۳		* حاشیہ : صفحے کا حاشیہ اور اس پر لکھی ہوئی تعلق ، یا متن کی شرح کے لیے اصطلاح۔
۲ ۷۹۳		* العاضیہ : الواحدی (جنوبی عرب) کے شمال میں ایک چھوٹا سا آزاد علاقہ۔
۲ ۷۹۳		* حافظ : رگ بہ (۱) قاری : (۲) قرآن۔
۲ ۷۹۳		* حافظ : شمس الدین محمد (نواح : ۷۷۰/۱۳۳۰ء تا ۷۷۰/۱۳۸۹ء) ، ممتاز ترین فارسی

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۷۹۳		غزل گو اور صاحب دیوان شاعر۔
۲ ۷۹۹		* الحافظ : نگران، نگہبان، یکی از اسماء حسنی۔
۱ ۸۰۰		* الحافظ : ابو العیون عبدالمجید (نواح ۵۳۶۷/۵۳۷۳ تا ۵۳۳۳/۵۳۳۹) ، گیارہواں فاطمی خلیفہ (از ۵۲۳۳/۵۲۳۰)۔
۱ ۸۰۱		* حافظ آباد : پنجاب (پاکستان) کے ضلع گوجرانوالہ کی ایک تحصیل اور اس کا صدر مقام۔
۱ ۸۰۱		* حافظ ابراہیم : محمد حافظ بن ابراہیم ، ایک نامور مصری صاحب دیوان شاعر اور مصنف، عربی شاعری کے جدید مصری مکتب فکر کا نمائندہ (م ۱۳۵۱/۱۹۳۲)۔
۱ ۸۰۱		* حافظ ابرو : شہاب الدین عبداللہ بن عبدالرشید الخوافی ، ایک ایرانی جغرافیہ نویس ، مؤرخ اور مصنف (م ۸۳۳/۱۴۳۰)۔
۱ ۸۰۳		* حافظ احمد پاشا : سلطنت عثمانیہ کا صدر اعظم، نیز ترکی کا شاعر (م ۱۰۳۱/۱۶۳۲)۔
۱ ۸۰۵		* حافظ برخوردار : گیارہویں/بارہویں صدی ہجری میں پنجابی زبان کے ممتاز شاعر اور متعدد منظوم لوک داستانوں اور مذہبی رسائل کے مصنف۔
۲ ۸۰۷		* حافظ الدین : متعدد علماء ، مثلاً التسنفی، کا ایک اعزازی لقب۔
۱ ۸۰۹		* حافظ رحمت خان : بن شاہ عالم خان بن محمود خان (۱۱۲۰/۱۷۰۸ تا ۱۱۸۸/۱۷۷۳) ، سلطنت مغلیہ کے دور زوال میں ایک اہم سیاسی شخصیت اور روہیلکھنڈ کا حکمران (م ۱۱۸۸/۱۷۷۳)۔
۱ ۸۱۶		* الحاقۃ : قرآن مجید کی انتہویں سورت۔
۱ ۸۱۷		* حاکم : رگ بہ حکم۔
۱ ۸۱۷		* الحاکم ہامر اللہ : ابو علی منصور بن عبدالعزیز باللہ نزار، مصر کے خلفائے بنی عبید میں سے تیسرا اور فاطمی خلفائے میں سے چھٹا خلیفہ (از ۳۸۳/۹۹۳ تا ۴۱۱/۱۰۲۱)۔
۱ ۸۱۷		* الحاکم النیسابوری : (نیشاپوری) ، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف بہ ابن البیع (۳۲۱/۹۳۳ تا ۴۰۵/۱۰۱۳) ، ممتاز محدث اور مصنف المستدرک علی الصحیحین۔
۱ ۸۲۷		* حال : علم کلام و تصوف کی ایک اصطلاح۔
۱ ۸۲۸		* حالت افندی : محمد سعید (۱۱۷۵/۱۷۶۱ تا ۱۲۳۸/۱۸۲۲) ، عثمانی سلطان محمود ثانی کے عہد کا ایک ترک مدبر۔
۲ ۸۳۱		* حالتی : عزمی زادہ مصطفیٰ افندی (۹۷۷/۱۵۷۰ تا ۱۰۳۰/۱۶۳۱) ، دولت عثمانیہ کا مشہور عالم اور شاعر۔
۲ ۸۳۳		* خالدہ ادیب : رگ بہ خالدہ ادیب۔
۲ ۸۳۵		

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۲ ۸۳۵	حالی : خواجہ الطاف حسین، پانی پتی، انصاری (۱۱۳۵ھ/۱۸۳۷ء تا ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۳ء)، ہندوستان کے ایک مشہور مصلح شاعر، عالم، سوانح نگار، ادیب اور مصنف۔	⊗
۱ ۸۳۰	حام : (Cham)، حضرت نوحؑ کا بیٹا اور حامی نسل کا جد امجد۔	* ⊗
۲ ۸۳۱	حامد بن العباس : ابو محمد (۲۲۳ھ/۸۳۷ء تا ۳۱۱ھ/۹۲۳ء)، خلیفہ الموفق سے خلیفہ المقتدر کے ادوار تک کا قابل ترین ماہر مالیات۔	*
۱ ۸۳۲	حامد بن محمد المرجبی : رگ بہ المرجبی، در تکلمہ۔	*
۱ ۸۳۲	حامدی : (نواح ۸۳۰ھ/۱۴۲۷ء تا ۸۹۰ھ/۱۴۸۵ء)، سلطان محمد فاتح کا ایک درباری شاعر اور مصنف و مترجم۔	*
۲ ۸۳۲	الحامدی : چند اہم علما : (۱) ابراہیم بن الحسین بن ابی السعود الہمدانی، یمن میں طیبی اسماعیلیوں کا دوسرا داعی مطلق (م ۵۵۷ھ/۱۱۶۲ء)؛ (۲) حاتم بن ابراہیم، سابق الذکر کا بیٹا، تیسرا داعی مطلق اور مصنف الشموس الزاہرہ (م ۵۹۶ھ/۱۱۹۹ء)؛ (۳) علی بن حاتم الثانی، چوتھا داعی مطلق (م ۶۰۵ھ/۱۲۰۹ء)۔	*
۱ ۸۳۳	حامی : حضرت موت کا ایک ساحلی شہر۔	*
۲ ۸۳۳	حامی آمدی : احمد حامی (نواح ۱۰۹۰ھ/۱۶۷۹ء تا ۱۱۶۰ھ/۱۷۴۷ء)، عہد عثمانیہ میں آناتولی کا ایک صاحب دیوان شاعر۔	*
۱ ۸۳۵	حامی الحرمین : رگ بہ خادم الحرمین، در تکلمہ۔	*
۱ ۸۳۵	حام : (حامیم)، قرآن مجید کی سات سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات۔	⊗
۲ ۸۳۶	حامیم : بن من الله بن حربز (یا حافظ) بن عمرو المعروف بہ المفتری، چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کا ایک جھوٹا مدعی نبوت (م ۳۱۵ھ/۹۲۷ء یا ۳۲۹ھ/۹۴۰ء)۔	*
۲ ۸۳۷	حام السجدة : قرآن مجید کی اکتالیسویں سورت۔	⊗
۲ ۸۳۸	حاوی : (سیرا)، مصر کے خانہ بدوش نیم حکیم، پیشہ ور سیاسی، جوگی یا مداری۔	*
۱ ۸۳۹	حائر : (حایر)، قدیم بادشاہوں کی تفریح گاہوں کے لیے ایک اصطلاح۔	* ⊗
۱ ۸۵۱	حائظ العجوز : مصر کی اساطیری ملکہ دلوکہ (=العجوز) کی بنا کردہ دیوار۔	*
۲ ۸۵۱	حائک : مشرقی افریقہ میں بطور لباس استعمال ہونے والا کپڑے کا ایک دس گز لمبا تین گز چوڑا ٹکڑا۔	*
۲ ۸۵۲	الحائک : محمد الاندلسی التتوانی، بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی تک مراکش میں محفوظ عرب موسیقی سے ماخوذ اندلسی نغمات کناش الحائک (غیر مطبوعہ) کا مؤلف۔	*
۱ ۸۵۳	حایل : (حائل)، مغربی نجد میں جبل شمر کے علاقے کا دارالحکومت۔	*
۱ ۸۵۶	حیان : (آبان)، جنوبی عرب کا ایک شہر، بالائی سلطنت واحدی [رگ بان] کا صدر مقام۔	* ⊗
۱ ۸۵۷	حیة : (دانہ یا بیج)، سونے چاندی کے عربی نظام اوزان میں ایک چھوٹا سا غیر معین وزن۔	*

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۵۷		* حبرون : (Hebron)، رگ بہ الخلیل۔
		* جبری : عبدالرحمن بن حسن (۱۰۱۲ھ/۱۶۰۳-۱۶۰۴ تا ۸۷۷ھ/۱۴۷۶ء)، ادرندہ کی تاریخ کا مصنف۔
۲ ۸۵۷		* حبس : (حبس)، وقف کے مترادف عربی اصطلاح؛ رگ بہ وقف۔
۱ ۸۵۹		* حبش : مصر کے جنوب میں خلیج عدن تک بحر احمر کے افریقی ساحلوں پر مشتمل ایک صوبے کا عثمانی (ترکی) نام۔
۱ ۸۵۹		* حبس الحاسب المروزی : احمد بن عبداللہ، ابتدائی اسلامی فلکیات میں ایک اہم شخصیت، مصنف کتاب الزیج الدمشقی وغیرہ (م حدود ۵۲۵ھ/۶۸۶ء تا ۵۲۶ھ/۶۸۷ء)۔
۲ ۸۶۰		* حبشت : افسوسی حبشہ کے لیے سیانی مخطوطات میں مستعمل ایک جغرافیائی اصطلاح۔
۲ ۸۶۲		* حبشہ : براءظم افریقہ کی مشرقی خاکنائے پر واقع ایک معروف ملک اور اس کے باشندے۔
۲ ۸۶۶		* حبشی : برعظیم پاک و ہند میں افریقی قوموں سے بطور غلام آنے والوں کی اولاد کے لیے مستعمل اصطلاح۔
۲ ۸۷۸		* الحبط : جنوبی عرب میں کسی بزرگ یا ولی کے زیر حفاظت و حمایت مقدس علاقے کے لیے ایک اصطلاح۔
۲ ۸۸۳		* حبیب بن اوس : رگ بہ ابو تمام۔
۲ ۸۸۳		* حبیب بن عبدالملک : القرشی مروانی، دمشق کے اموی خلیفہ الولید الاول کا پرپوتا، عبدالرحمن الداخل کا سپہ سالار اور علما کے خاندان بنو حبیب کا بانی (حیات ۱۶۲ھ/۷۷۸ء)۔
۲ ۸۸۳		* حبیب بن مسلمہ : بن مالک القرشی الفہری، صحابی اور سالار عسکر (م ۳۲ھ/۶۶۲ء)۔
۱ ۸۸۶		* حبیب اللہ خان : (۱۸۷۲ تا ۱۹۱۹ء)، افغانستان کے مشہور حکمران امیر عبدالرحمن [رگ باں] کا بیٹا اور جانشین (از ۱۹۰۱ء)۔
۲ ۸۸۶		* حبیب اللہ قندھاری : المعروف بہ حبو اخوند زادہ، افغانستان کے ایک جید عالم، پیشوائے طریقت اور چند کتب کے مصنف (م ۱۲۶۵ھ/۱۸۴۹ء)۔
۲ ۸۸۸		* حبیب النجار : انطاکیہ کا ایک قدیم ولی اللہ۔
۱ ۸۹۱		* حجاب : (پردہ)، ایک معروف قرآنی، فقہی اور متصوفانہ اصطلاح۔
۲ ۸۹۱		* الحجاز : جزیرۃ العرب کا شمال مغربی حصہ اور موجودہ سعودی عرب کا ایک بڑا اور اہم صوبہ (جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شامل ہیں)۔
۱ ۹۰۰		* حجاز ریلوے : عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی کے عہد حکومت میں ریلوے کا ایک بڑا منصوبہ۔
۲ ۹-۵		* حج : (حج)، اسلام کے ارکان خمسہ کا پانچواں بنیادی رکن۔
۲ ۹۰۸		* الحج : قرآن مجید کی پانیسویں سورت۔
۲ ۹۲۵		

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۹۲۶	* حجاج : فرمانرواے کرمان؛ رگ بہ قتلخ خان.	
۲ ۹۲۶	* الحجاج بن یوسف : ابن الحکم بن ابی عقیل الثقفی ، ابو محمد (۵۳۱ / ۶۶۱ تا ۵۹۵ / ۷۱۳ء) ، بنو امیہ کا سب سے مشہور اور لائق گورنر.	
۲ ۹۲۶	* الحجاج بن یوسف : بن مطر الحاسب ، دوسری - تیسری صدی ہجری / آٹھویں - نویں صدی عیسوی میں متعدد یونانی کتابوں ، مثلاً مبادیات اقلیدس ، کتاب المجسطی وغیرہ کا عربی مترجم.	
۲ ۹۳۵	* حجة : (ثبوت و برہان) ، ایک معروف قرآنی ، فلسفیانہ اور متکلمانہ اصطلاح.	
۲ ۹۳۹	* حجر : مزاحمت کے معنوں میں ایک اہم فقہی اصطلاح.	
۱ ۹۳۱	* حجر : (پتھر ، چٹان وغیرہ) ، ایک ارضیاتی اصطلاح.	
۲ ۹۳۳	* الحجر الأسود : رگ بہ الکعبہ.	
۲ ۹۳۳	* حجر النسر : (عقاب کی چٹان) ، قبیلہ غمارہ کے علاقے میں ریف کا ایک قلعہ.	
۱ ۹۳۴	* الحجر : قرآن مجید کی پندرہویں سورت.	
۲ ۹۳۵	* الحجر : عرب میں بیشہ اور بنو خثعم کے علاقے کے قریب واقع ایک ضلع.	
۲ ۹۳۵	* الحجر : جنوبی عرب کا ایک شہر.	
۱ ۹۳۷	* حجر بن عدی : الکندی ، حضرت علیؑ کے حامی اور بعض روایات کی رو سے صحابی رسولؐ .	
۱ ۹۳۸	* الحجرات : قرآن مجید کی ایک سو انچاسویں سورت.	
۱ ۹۳۸	* حجرۃ : کمرہ ، دالان ، فن تعمیر کی ایک اصطلاح.	
۲ ۹۳۹	* حجریۃ : رگ بہ حجرۃ.	
۲ ۹۳۹	* الحجریۃ : جنوبی عرب میں یمن کا ایک مجموعۃ قبائل ، نیز ایک انتظامی قضا کا نام.	
۲ ۹۵۰	* حبیلة : جنوبی عرب میں تہامہ کا ایک سرحدی گاؤں.	
۲ ۹۵۰	* حداء : (حداء) ، رگ بہ غنا.	
۲ ۹۵۰	* حداد : رگ بہ (۱) عدت ؛ (۲) لباس.	
۲ ۹۵۰	* حدث : از روئے نمرع ناپاکی کے لیے ایک فقہی اصطلاح.	
۲ ۹۵۱	* الحدث : (الحدث الحمراء) ، دریائے آق صوپر ایک سرحدی قلعہ.	
۱ ۹۵۲	* حد : قانون اسلامی کی ایک تعزیراتی اصطلاح.	
۲ ۹۵۷	* حدود العالم : آغاز عالم ، ایک فلسفیانہ اصطلاح.	
۲ ۹۵۸	* حدی : (حداء) ، رگ بہ غنا.	
۱ ۹۵۸	* حدیبیہ : (حدیبیہ) ، حرم مکہ کی مغربی حد پر واقع ایک بستی اور عہد نبویؐ کی ایک اہم صلح اور اس کا مقام.	
۲ ۹۶۲	* حدیث : (۱) اقوال و افعال نبویؐ کے لیے مشہور اصطلاح ؛ (۲) اصول حدیث.	
	* حدیث قدسی : حدیث الہی یا حدیث ربانی ، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں؛	

- ۱ ۹۸۰ ایک مخصوص مجددانہ اصطلاح.
- * حَدِيثَه : (نیا شہر)، متعدد شہروں کا نام : (۱) حَدِيثَةُ الْمَوْصِلِ ؛ دریاے دجلہ کے مشرقی کنارے پر بالائی زاب کے دہانے کے قریب ایک شہر؛ (۲) حَدِيثَةُ الْفُرَاتِ ؛ فرات کے کنارے عانہ کے جنوب میں ایک شہر؛ (۳) جِرَش یا جِرْس، غُوطَةُ دِمَشْقِ کا ایک گاؤں.
- ۲ ۹۸۱
- ۱ ۹۸۳ * الْحَدِيدُ : قرآن مجید کی ستاونویں سورت.
- ۲ ۹۸۳ * الْحَدِيدُ : (لوہا)، ایک قرآنی و معدنیاتی اصطلاح.
- ۱ ۹۸۵ * الْحَدِيدَةُ : عرب کی ایک بندرگاہ اور اسی نام کے صوبے (لواء) کا صدر مقام.
- ۱ ۹۸۶ * حَدِيدِي : دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی میں ایک عثمانی شاعر.
- ۱ ۹۸۷ * حَذْفُ : قطع و برید کا عمل، ایک مخصوص نحوی اور عروضی اصطلاح.
- * حِرَاءُ : (حرا)، مکہ معظمہ کے شمال مشرق میں ایک پہاڑ اور اس میں قیام و عبادت نبوی ﷺ سے مشرف ایک غار.
- ۲ ۹۸۷
- * حِرَازُ : (حراس)، جنوبی عرب میں صنعاء کے مغرب میں وادی سہام اور وادی سردد کے مابین واقع ایک سلسلہ کوہ.
- ۱ ۹۸۸
- * حِرَازِمُ : (ابن حِرَزِيمِ)، ابوالحسن علی بن اسمعیل بن محمد، امام غزالیؒ کے مکتب فکر کا ایک فقیہ (م ۵۵۹/۶۳-۶۱۰ء).
- ۱ ۹۹۰
- * الْحَرَّاسِيْسُ : (حرسوسی)، ایک خانہ بدوش عربی قبیلہ.
- ۱ ۹۹۱
- * حَرَامٌ : حلال کی ضد؛ رگ بہ حلال و حرام.
- ۱ ۹۹۳
- * حَرْبٌ : قتال، دو یا دو سے زیادہ فریقوں میں حالتِ جنگ.
- ۲ ۹۹۳



جلد ۱۸

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۱		* حَرَب : عالم اسلام میں فن حرب کے مختلف اطوار.
۱ ۵۵		* حَرَب (بنو) : حجاز کا ایک طاقتور یمنی الاصل عربی قبیلہ .
۲ ۵۵		* حَرَب بن أمیہ بن عبد شمس : ابو سفیان کا باپ اور ابو لہب کا خسر ، مکہ کی ایک اہم شخصیت .
۱ ۵۶		* حَرَباء : (حربی ، جسرحریا) ، ضلع دُجیل (عراق) کا ایک اجڑا ہوا شہر .
۱ ۵۷		* حَرَابَة : نیزہ .
۲ ۵۷		* حَرَبی : رگ بہ (۱) امان ؛ (۲) دارالحرب ؛ (۳) مستامن .
۲ ۵۷		* حَرَبیہ : عسکری تربیت کے لئے ترکوں کا تعلیمی ادارہ .
۲ ۵۹		* الحُر بن عبدالرحمن الثقفی : اندلس کا ایک والی (از ۵۹۸/۷۱۷ء تا ۶۱۰/۷۱۹ء) .
۱ ۶۰		* الحُر بن یزید : بن ناجیہ الریاحی ، عبیداللہ بن زیاد کا ایک سالار لشکر اور بعد ازاں حضرت امام حسینؑ کا بہادر رفیق اور کربلا کا شہید (م ۵۶۱/۵۶۸ء) .
۱ ۶۱		* الحُرّ العاملی : محمد بن الحسن العاملی المشغری ، ایک اثنا عشری شیخ و مصنف (م ۱۱۰۳/۱۶۹۲ء) .
۲ ۶۲		* حُران : دریائے جلاب کے کنارے شام و عراق کو جانے والے اہم کاروانی راستے پر واقع ایک عراقی شہر .
۱ ۷۰		* حُرانی : رگ بہ صابنہ .
۱ ۷۰		* حرہ : پتھریلا بنجر علاقہ ؛ ایک مخصوص ارضیاتی اصطلاح .
۲ ۷۰		* الحَرَّة : (حرہ واقم) ، مدینہ سنورہ کے شمال مشرقی جانب پھیلا ہوا علاقہ اور ۵۶۳ء
۲ ۷۳		* حَریة : آزادی ، شرافت ، حاکمیت میں آزادی ؛ ایک معروف اصطلاح .
۱ ۹۰		* حریت و ائتلاف فرقی : انجمن آزادی و اتحاد ، ایک عثمانی سپاسی جماعت (تشکیل : ۲۱ نومبر ۱۹۰۰ء) .
۱ ۹۲		* حِرز یا حُرز : رگ بہ حمائل .
۱ ۹۲		* الحرسوسی : رگ بہ الحراسیس .
۱ ۹۲		* حَرطانی : شمال مغربی افریقہ کے صحرائی نخلستانوں میں آباد بعض عناصر .
۱ ۹۳		* حَرَف : ایک لسانی ، نحوی و صرفی اصطلاح .
۱ ۹۹		* حَرَفُوش : بعلبک کے امرا کا ایک خاندان .

- * حَرْفُوش : (نیز خرفوش) ، بعض آوارہ ، بد معاشر ، خصوصاً مملوک عہد میں ادنیٰ طبقے کے افراد ؛ قدیم وقائع ناموں کی ایک اصطلاح .
- ۱ ۹۹
- * حَرْقُوص بن زُهَير السَّعدی : سوق الہواز کا فاتح اور بعد ازاں ایک خارجی قائد (م ۵۳۸/۵۶۵) .
- ۱ ۱۰۱
- * حَرکت اُردوسی : ۱۷ اپریل ۱۹۰۹ء کو محمد پاشا شوکت (رک بان) کی قیادت میں ایک بغاوت کو فرو کرنے والی فوج .
- ۲ ۱۰۲
- * حَرکة و سکون : فلسفہ اور الہیات ، نیز علم النحو وغیرہ میں مستعمل اصطلاح .
- ۱ ۱۰۳
- * حَرَم : ذاتِ حَرَم (قابلِ عزت) ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ارد گرد چند میل تک کا علاقہ .
- ۱ ۱۱۱
- * الحَرَمین : دو مقامات متدیسہ ، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ .
- ۲ ۱۱۱
- * حَرُوب صلیبیہ : رک بہ صلیبی جنگیں .
- ۲ ۱۱۳
- * حَروراء : کوفے کے قریب ایک گاؤں یا ضلع .
- ۲ ۱۱۳
- * حُرُوف (علم) : رک بہ علم الحروف .
- ۱ ۱۱۸
- * حُرُوف البہجاء : (حروف الفباء) ، حروف تہجی کے لیے ایک لسانی اصطلاح .
- ۱ ۱۱۸
- * الحُرُوف المَقطَّعات : قرآنی سورتوں کے آغاز میں علحدہ علحدہ واقع حروف .
- ۲ ۱۲۳
- * حُرُوفیہ : فضل اللہ استراباذی (۱۳۳۰ھ/۱۹۱۱ء تا ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۴ء) کا بنا کردہ باطنی اور قبائلی رجحانات کا حامل ایک بدعتی فرقہ .
- ۱ ۱۲۷
- * حَرِیب : جنوبی عرب کا ایک ضلع .
- ۲ ۱۳۱
- * حَریر : ریشم ، ایک مخصوص پارچہ ، اس کے استعمال کے بارے میں احکام اور اسلامی ممالک میں اس کی صنعت .
- ۱ ۱۳۳
- * الحَریری : (ابن الحریری) ، ابو محمد القاسم بن علی البصری (۵۳۶ھ/۱۱۴۱ء تا ۵۱۶ھ/۱۱۲۲ء) ، عربی کا مشہور شاعر ، ماهر لسانیات اور مقامات الحریری کا مصنف .
- ۲ ۱۶۲
- * حَریریہ : دمشق میں رفاعیہ درویشوں کا ایک فرقہ ؛ ہانی ؛ علی بن الحسن الحریری (م ۶۳۵ھ/۱۲۳۷ء) .
- ۲ ۱۶۵
- * الحَرِیق : یمامہ کے جنوب میں نجد کا ایک صوبہ .
- ۱ ۱۶۶
- * حَریم : ایک مختلف المعانی لفظ ، خصوصاً خانہ کعبہ کے گرد ایک خصوصی قطعہ .
- ۲ ۱۶۶
- * حَریملا : رک بہ حَریملہ .
- ۲ ۱۶۷
- * حَریملہ : (حریملا) ، نجد کے ضلع ، حجل کا ایک قصبہ .
- ۲ ۱۶۷
- * حَزب : ایک مختلف المعانی اصطلاح : (۱) جماعت ؛ (۲) نصیب و حظ ؛ (۳) فوجی دستہ ؛ (۴) ہم خیال و ہم رائے لوگ ؛ (۵) ورد .
- ۱ ۱۶۸
- * حَزَقیل : ان بوری ، قرآن مجید میں بغیر نام کے مذکور ، عہد سابق کے ایک نبی .
- ۱ ۱۷۰

صفحہ نمبر	عمود	اشارات	عنوان
۲	۱۴۰		*◎ حَیْران : شامی سال کا نواں مہینا .
۲	۱۴۰		* حَیْران : شیخ محمد علی بن ابی طالب الاصفہانی (۵۱۱.۳/۶۹۲ء تا ۵۱۱.۸/۶۹۲ء) ، ایک فارسی گو شاعر ، سیاح اور مصنف .
۲	۱۴۰		* الحِصَا : (الاحسا) ، مشرق سعودی عرب میں ایک نخلستان یا نخلستانوں کا ایک مجموعہ .
۲	۱۴۱		*◎ حِساب : گنتی ، شمار ، حساب کتاب ؛ نیز ایک قرآنی اصطلاح .
۲	۱۴۳		* حِساب : رِکْ بہ (۱) علم الحساب ، (۲) محاسبہ .
۱	۱۴۵		*◎ حِساب الجمل : الفاظ کی عددی قیمتوں کے ذریعے تاریخ محفوظ کرنے کا طریقہ .
۱	۱۴۵		* حِساب العُقَد : انگلیوں پر شمار کرنے کا فن .
۲	۱۴۴		* حِساب الغبار : گرد و غبار کا حساب کرنا ، ایران سے مستعار گنتی کا ایک طریقہ .
۲	۱۸۱		* حِسام بن ضرار الکلبی ، ابو الخطار : رِکْ بہ ابو الخطار .
۱	۱۸۳		* حِسام الدولة : رِکْ بہ فارس بن محمد .
۱	۱۸۳		* حِسام الدین : رِکْ بہ تیمور تاش
۱	۱۸۳		* حِسام الدین (ابو الشوک) : رِکْ بہ عناز (بنو) .
۱	۱۸۳		* حِسام الدین چابی : حسن بن محمد بن الحسن بن اخی ترک ، مولانا جلال الدین رومی کے منظور نظر شاگرد اور خلیفہ ثانی (م ۵۶۸۳/۶۸۳ء) .
۱	۱۸۳		*◎ حِساب و نسب : (مزاوجہ) ، قرابت داری کی بنا پر کسی فرد یا قبیلے کا مقام اعزاز و اکرام متعین کرنے کے لئے ایک اصطلاح .
۱	۱۸۵		* حِسابہ : امر بالمعروف و نہی عن المنکر ، نیر عوام کے اخلاق کی نگرانی کرنے کے لیے اسلامی حکومتوں کا ایک اہم ادارہ .
۱	۱۸۴		* حِسدای بن شپروط : (نواح ۵۲۹۳/۵۰۵ء تا ۵۳۶۵/۶۰۵ء) ، دربار قرطبہ میں عربی ، عبرانی اور لاطینی زبانوں اور ملکی عشقیہ کہانیوں پر عبور رکھنے والا ایک معزز یہودی عہدیدار .
۱	۲۰۳		* حَسْرَت موہالی : مولانا فضل الحسن (۵۱۲۹۵/۱۸۴۸ء تا ۵۱۳۴۱/۱۹۵۱ء) ، بر عظیم پاک و ہند کے مشہور سیاسی رہنما اور اردو زبان کے نامور شاعر ، محقق اور نقاد .
۲	۲+۳		* حَسَّ : ادراک حسی ، ایک طبیعیاتی اور الہیاتی اصطلاح .
۱	۲۰۵		*◎ حَسَّان بن ثابت : النجاری ، نامور صحابی ، مداح رسول ، صاحب دیوان مخضرمی شاعر اور اسلامی مذہبی شاعری کے بانی (م نواح ۵۶۰) .
۱	۲۰۴		* حَسَّان بن مالک : الکلبی ، یزید اول کا ماسوں زاد بھائی اور امیرؒ معاویہ و یزید کے عہد میں فلسطین اور اردن کا والی (م ۵۶۵/۶۸۵ء) .
۲	۲۰۸		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
		* ⊗ جَسَّان بن النُّعْمَان الغَسَّالِي : شاہان غسان کی اولاد میں سے ایک نامور مسلمان مدبر اور سپہ سالار ، فاتح قرطاجنہ ، بعہد امیر معاویہ والی افریقیہ اور بعہد عبدالملک عامل مصر (م ۵۸۶/۵۷۰ یا ۵۸۰/۵۶۹)۔
۱ ۲۱۰		* حَسَّان ، ہا (ہنو) : کندہ کے جنوب میں عربی قبیلے کی ایک شاخ (بطن)۔
۱ ۲۱۱		* حَسَن : خوب صورت ، اچھا ، ایک کثیر الاستعمال لفظ ، نیز علم حدیث کی اصطلاح۔
۱ ۲۱۲		* حَسَن : الملک الناصر ، ناصر الدین ابوالمعالی بن محمد بن قلاوون ، مصری دولتہ الترمک خاندان کا انیسواں مملوک سلطان (از ۵۵۵/۵۳۵ تا ۵۶۳/۵۴۳)۔
۲ ۲۱۳		* الحَسَن بن اُسْتَاذِ هُرْمُز : ابو علی ، المغا طب عمید الجیوش ، والی خوزستان (م ۵۳۰/۵۱۰)۔
۲ ۲۱۳		* حَسَن بن محمد العَطَّار : رگ بہ العطار۔
۱ ۲۱۳		* حَسَن آغا : الجزائر میں امیر البحر خیر الدین کا نامور نائب اور بعد ازاں وہاں کا والی (م ۵۹۵۶/۵۱۵۳۹)۔
۱ ۲۱۵		* ⊗ حَسَن اَبْدَال : ضلع اٹک (پاکستان) میں ایک تاریخی قصبہ۔
۲ ۲۱۵		* حَسَن الأَطْرُوش : رگ بہ الاطروش۔
۲ ۲۱۵		* حَسَن بابا : (بابا حسن) ، الجزائر کا حکمران اور والی (از ۱۶۸۲ تا ۱۶۸۳)۔
۱ ۲۱۵		* حَسَن بزرگ : تاج الدنیا والدین بن حسین گورگان ، المعروف بہ شیخ حسن ، ابو سعید ایلخانی کی وفات کے بعد بغداد میں جلائری خاندان کا بانی (از ۵۳۶/۵۱۳۳۶ تا ۵۵۷/۵۱۳۵۶)۔
۱ ۲۱۸		* حَسَن بے زارہ : بن حسن بے کوچک ، ایک ترک مؤرخ اور سلیمان پاشا کے عہد وزارت میں رئیس الکتاب ، مصنف تاریخ آل عثمان (م ۵۱۰۳۶/۱۶۳۶-۱۶۳۶)۔
۱ ۲۱۹		* حَسَن پاشا : عثمانی دور میں ولایت بغداد کا گورنر (از ۵۱۱۱۶/۵۱۲۰۳ تا ۵۱۱۳۶/۵۱۲۲۳) اور عراق کے مملوک حکمرانوں کے سلسلے کا بانی۔
۲ ۲۲۰		* حَسَن پاشا : رگ بہ (۱) صوقوللی ؛ (۲) جزائری حسن پاشا۔
۲ ۲۲۰		* حَسَن پاشا : الجزائر کا بیگلر بیگ ، خیرالدین کا بیٹا اور الجزائر کا پاشا (م ۵۹۷۸/۵۷۵۱)۔
۲ ۲۲۰		* حَسَن پاشا : چتَلجلی ، عثمانی قہودان پاشا (امیر البحر) اور بودن کا بیلر بے (حیات) (م ۵۱۰۳۱/۵۱۶۳۱)۔
۲ ۲۲۲		* حَسَن پاشا داماد : ایک عثمانی وزیر اعظم ، (۵۱۰۱۵/۵۱۰۳ تا ۵۱۱۱۶/۵۱۷۰۳)۔

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۱ ۲۲۳	بعد ازاں گورنر مصر ، گورنر طرابلس اور بیکر بیکی آناطولی (م ۱۲۵/۵۱۳۱۳) .	
۲ ۲۲۳	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن پاشا (السید) : عثمانی وزیر اعظم (از ۱۱۵۶/۵۱۳۳۳ تا ۱۱۵۹ تا ۱۲۳۶/۵۱۳۳۶)
۱ ۲۲۵	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن پاشا شریف : عثمانی قبوچی پاشا اور بعد ازاں صدر اعظم و سپہ سالار اعلیٰ (م ۱۲۰۵/۵۱۳۹۱) .
۱ ۲۲۶	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن پاشا : معروف بہ یمشچی ، ایک عثمانی صدر اعظم (از ۱۱۰۰/۵۱۶۰۱ تا ۱۱۰۲/۵۱۶۰۳) .
۲ ۲۲۶	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن پاشا بن حسین : المعروف بہ یمنی ، البانیا کا باشندہ ، اور تقریباً چوتھائی صدی تک (۱۵۸۸/۵۹۸۸ تا ۱۱۰۲/۵۱۶۰۳) یمن کا والی (م ۱۱۰۶/۵۱۶۰۷) .
۲ ۲۲۶	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن چابی قنالی زادہ : (۱۵۳۶-۱۵۳۷/۵۹۵۲ تا ۱۱۰۲/۵۱۶۰۳) ، ایک مشہور ترکی عالم اور مصنف تذکرۃ الشعراء .
۱ ۲۲۸	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن چوبالی : رگ بہ چوبان (خانوادہ) .
۱ ۲۲۸	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن دہلوی : امیر نجم الدین حسن دہلوی (سجڑی) الملقب بہ سعدی ہندوستان ، (۱۲۵۷/۵۶۵۵ تا ۱۳۲۷/۵۴۳۸ یا ۱۳۳۷/۵۴۳۸) ، خواجہ نظام الدین اولیا کے مرید مشہور عالم اور شاعر ، مصنف فوائد الفوائد وغیرہ .
۱ ۲۲۹	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن دہلوی میر : رگ بہ میر حسن دہلوی .
۱ ۲۲۹	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن روملو : قزلباش امیر اعلیٰ سلطان روملو کا پوتا ، قزوین اور ساوج بلاغ کا گورنر اور مصنف احسن التواریخ وغیرہ (حیات ۱۵۷۷/۵۹۸۵) .
۱ ۲۳۰	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن صباح : رگ بہ الحسن بن الصباح .
۱ ۲۳۰	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن الصغالی : (الصاغانی) ، ابو الفضائل رضی الدین حسن (۵۷۷/۵۱۱۸۱ تا ۵۶۵/۵۱۲۵۲) ، مشہور عالم اور مصنف مشارق الانوار .
۱ ۲۳۳	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن العسکری " (امام) : اثنا عشری شیعہ کے گیارہویں امام (م ۱۲۶۰/۵۸۷۳) .
۱ ۲۳۶	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن فہمی : ترک صحافی ، مدیر اخبار سر بستی (م ۱۳۲۷/۵۱۹۰۹) .
۲ ۲۳۶	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن فہمی : عربی ، فارسی اور فرانسیسی زبانیں جاننے والا ایک عثمانی سیاستدان ، مدیر ، وزیر ، صدر مجلس ، ماہر قانون اور مختلف علاقوں کا والی (م ۱۳۲۸/۵۱۹۱۰) .
۱ ۲۳۸	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن فہمی الندی : المعروف بہ آتھرلی (۱۲۱۰/۵۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹/۵۱۳۸۱) ، عثمانی شیخ الاسلام .
۱ ۲۴۰	بعد ازاں ایچ ایل اور دیار بکر کا والی (م ۱۱۶۱/۵۱۳۳۸) .	* حسن کالی : رگ بہ آق حصاری .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۳۰		* حسن کبیر الدین : ابو قلندر ، پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک نیم افسانوی بزرگ (م ۸۵۳/۱۹۳۹ء)۔
۲ ۲۳۰		* حسن کوچک : حسن بزرگ [رگ باں] کا ہم عصر اور حریف (م ۸۴۳/۱۳۳۳ء)۔
۲ ۲۳۱		* الحسن (مولای) : ابو علی ، بیجلماہ کے حسنی اشراف کا چودھواں فرمائروا اور مراکش کا سلطان (از ۱۲ ستمبر ۱۸۷۳ء تا ۹ جون ۱۸۹۳ء)۔
۲ ۲۳۲		* الحسن بن الخصیب ابو بکر : رگ بہ الخصیبی۔
۲ ۲۳۲		* الحسن بن زید بن حسن : حضرت علیؑ کے نہایت متقی اور متدین پڑھوتے اور مدینہ منورہ کے والی (از ۱۵۰ھ/۷۶۷ء تا ۱۵۵ھ/۷۷۲ء؛ م ۱۶۷ھ/۷۸۳ء)۔
۱ ۲۳۳		* الحسن بن زید بن محمد : الحسن بن زید بن الحسن کے پڑھوتے اور طبرستان میں ایک علوی حکمران خاندان کے بانی (از ۲۵۷ھ/۸۷۱ء تا ۲۷۰ھ/۸۸۳-۸۸۳ء)۔
۱ ۲۳۳		* الحسن بن سہل بن عبداللہ السرخسی : خلیفہ المأمون کا خسر اور عرب و عراق کا والی (م ۲۳۵-۲۳۶ھ/۸۵۰ء)۔
۱ ۲۳۵		* الحسن بن صالح بن حیّ الکوفی : ابو عبداللہ (۱۰۰ھ/۷۱۸-۷۱۹ء تا ۷۸۳ھ/۱۶۸-۷۸۳ء) ، محدث اور زیدی متکلم۔
۱ ۲۳۶		* الحسن بن الصباح : (حسن صباح) ، فرقہ حشیشین کا بانی ، قلعہ الموت کا حکمران اور نزاری اسماعیلیوں کا سب سے پہلا داعی (م ۵۱۸ھ/۱۱۲۳ء)۔
۱ ۲۳۹		* الحسن بن عبداللہ : رگ بہ ناصر الدولہ۔
۱ ۲۳۹		* الحسن بن علی : رگ بہ (۱) ابن ماکولا ؛ (۲) الاطروش ؛ (۳) نظام الملک۔
۱ ۲۳۹		* الحسن بن علی : المہدیہ کے زیری خاندان کا آخری حکمران (از ۵۱۵ھ/۱۱۲۱-۱۱۲۲ء تا ۵۳۳ھ/۱۱۳۸-۱۱۳۹ء)۔
۱ ۲۵۰		* الحسن بن علی : بن ابی الحسن الکلبی ، فاطمی خلیفہ المنصور کی طرف سے صقلیہ میں ایک عرب سپہ سالار اور والی (م ۳۵۳ھ/۹۶۵ء)۔
۱ ۲۵۶		* الحسن بن علیؑ : بن ابی طالب (۳ھ/۶۲۵ء تا ۵۰ھ/۶۷۰ء) ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ، حضرت فاطمہؑ اور حضرت علیؑ کے پہلے صاحبزادے اور اثنا عشری شیعہ کے دوسرے امام۔
۲ ۲۵۹		* الحسن بن محمد : رگ بہ المہلبی۔
۲ ۲۵۹		* الحسن بن محمد الوزان : (Leo Africanus) ، المعروف بہ یوحنا الاسد الغرناطی (۱ھ/۱۴۹۰-۱۴۹۵ء تا ۱۵۵۰ء) ، مشہور عالم اور مصنف۔
۲ ۲۶۰		* الحسن بن مخلد : رگ بہ ابن مخلد (۱)۔

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۲ ۲۶۰		* الحسن بن ہالی : رگ بہ ابو نواس .
۲ ۲۶۰		* الحسن بن یوسف : رگ بہ الحلی .
۲ ۲۶۰		* الحسن الأعصم : بحرین کا مشہور قرمطی رہنما ، سپہ سالار اور جزوی حکمران (م ۳۶۶/۶۷۷) .
۲ ۲۶۰		* حسن البصری : ابو سعید بن ابی الحسن یسار البصری (۳۲۱/۶۴۲ تا ۱۱۰/۷۲۸) ، اموی عہد میں بصرے کے مشہور واعظ ، صوفی اور سرخیل تابعین .
۱ ۲۶۲		* حسنک : ابو علی حسن بن محمد عباس ، سلطان محمود غزنوی کا آخری وزیر (م ۳۲۳/۴۱۰) .
۱ ۲۶۵		* حسنویہ : ایک کرد سردار اور چوتھی-پانچویں صدی ہجری / دسویں-گیارہویں صدی عیسوی میں مغربی ایران اور بالائی الجزیرہ میں ایک کم و بیش خود مختار حکمران خاندان کا بانی (م ۳۶۹/۶۷۹) .
۱ ۲۶۶		* حسنی : (جمع : حسنیوں) ، حضرت حسن بن علیؑ کی اولاد میں سے مغربی مراکش کے علوی شریفوں کے دو حکمران خاندانوں (علوی یا سجلماسی اور سعدی یا زیدانی) کا نام .
۲ ۲۶۸		* حسنی : مراکش میں مولای الحسن کے حکم سے ۱۲۹۹/۱۸۸۱ء میں ڈھالے گئے سکے .
۱ ۲۷۱		* حسین (بنو) : تونس میں ۱۷۰۵ء سے ۱۹۵۷ء تک حکومت کرنے والا شاہی خاندان ؛ بانی : حسین بن علی (رگ باں) .
۲ ۲۷۱		* حسین بن دلدار علی : سید ، عرف میرن صاحب (۱۲۱۱/۱۷۹۶ تا ۱۲۷۳/۱۸۵۶) مرزا غالب کے معاصر ، لکھنؤ کے نامور شیعہ مجتہد اور مصنف .
۱ ۲۷۶		* حسین بن سعید : اہوازی ، ایک ممتاز شیعہ عالم (م بعد از ۲۵۶/۶۸۷ء یا ۳۰۰/۹۱۲) .
۲ ۲۷۶		* حسین بن سلیمان : المعروف بہ سلطان حسین مرزا (۱۰۷۹/۱۶۶۸ء تا ۱۱۳۹/۱۷۲۶) ، ایران کے صفوی حکمران سلیمان اول کا بڑا بیٹا اور جانشین (از ۱۱۰۵/۱۶۹۳ء تا ۱۱۳۵/۱۷۲۲ء) .
۲ ۲۷۷		* حسین بن الصدیق : رگ بہ الہدیل .
۲ ۲۸۰		* حسین بن محمد تقی : المعروف بہ علامہ نوری (۱۲۵۳/۱۸۳۹ء تا ۱۳۲۰/۱۹۰۲) ، نامور شیعہ عالم ، محدث اور صاحب جامع کبیر وغیرہ .
۲ ۲۸۰		* حسین آباد : (حسین آباد بزرگ) ، بھارتی صوبہ بنگال کے ضلع بالدا میں ایک شہر .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۲۸۱		* حسین ہندی : المعروف بہ جنجی خوجہ ، عثمانی سلطان ابراہیم دہ اتالیق اور منظور نظر (م ۱۰۵۸ / ۱۶۳۸) .
۱ ۲۸۳		* حسین پاشا : (۱۱۹۰ / ۱۷۷۶ تا ۱۲۶۵ / ۱۸۳۹) ، المعروف بہ آغا حسین پاشا یا آغا پاشا ، عثمانی وزیر اور سر عسکر .
۲ ۲۸۳		* حسین پاشا : حاجی ، المعروف بہ مزہ مورتہ ، الجزائر کا بحری سپہ سالار اور عثمانی امیر البحر (م ۱۱۱۳ / ۱۷۰۱) .
۲ ۲۸۶		* حسین پاشا دلی : (یا دلاور) ، عثمانی ، قیودان پاشا اور مختلف ولایات کا والی (م نواح ۱۰۶۹ / ۱۶۵۹) .
۳ ۲۸۷		* حسین پاشا عموجہ زادہ : عثمانی قیودان ، پاشا اور وزیر اعظم (م ۱۱۱۳ / ۱۷۰۳) .
۱ ۲۸۹		* حسین پاشا : الملقب بہ کوچک ، عثمانی قیودان پاشا اور وزیر (م ۱۲۱۸ / ۱۸۰۳) .
۱ ۲۹۰		* حسین جاہد : یلیجین (۱۲۹۱ / ۱۸۷۳ تا ۱۳۷۷ / ۱۹۵۷) ، ترک مصنف ، صحافی اور سیاست دان .
۱ ۲۹۳		* حسین جہا دین الگراہ : رگ بہ آ ، بار دوم ، تکملہ .
۱ ۲۹۳		* حسین جہان سوز : علاء الدین غوری ؛ رگ بہ جہان سوز .
۱ ۲۹۳		* حسین حلی پاشا : (۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ / ۱۸۵۵ تا ۱۳۳۰ / ۱۹۲۲) ، ۱۹۰۹ء میں دوبار عثمانی وزیر اعظم .
۲ ۲۹۳		* حسین رحمی : گورپنار (۱۲۸۱ / ۱۸۶۳ تا ۱۳۶۳ / ۱۹۴۳) ، ترکی ناول نگار اور مختصر افسانہ نویس .
۱ ۲۹۹		* حسین شاہ : سید السادات علاء الدین ابو الظفر شاہ حسین سلطان ، ہنگالہ کے حسین شاہی حکمران خاندان کا بانی (م ۱۱۲۶ / ۱۵۱۹) .
۱ ۳۰۰		* حسین شاہ شرقی : جونپور کی آزاد شرقی ریاست کا آخری بادشاہ (۱۳۵۸ / ۱۸۶۳ تا ۱۳۸۶ / ۱۸۹۲) ، ماہر موسیقی دان اور «خیال» کا موجد (م ۱۳۰۵ / ۱۵۰۰) .
۱ ۳۰۲		* حسین شاہ ارغون : المعروف بہ مرزا شاہ حسن (۱۳۹۰ / ۱۸۹۶ تا ۱۵۵۵ / ۱۹۶۲) ، سندھ کے ارغون خاندان کا بانی (از ۱۵۲۱ / ۱۹۲۸) .
۱ ۳۰۳		* حسین شاہ چک : رگ بہ کشمیر .
۱ ۳۰۳		* حسین شاہ لنگاہ اول : رائے سہرا الملقب بہ قطب الدین ، ملتان کے لنگاہ خاندان کے بانی کا بیٹا اور جانشین (از ۱۳۶۹ / ۱۸۷۳ تا ۱۵۰۲ / ۱۵۰۲) .
۲ ۳۰۵		* حسن شاہ لنگاہ دوم : ابن محمود لنگاہ ، ملتان کا فرمانروا (از ۱۵۲۳ - ۱۵۲۵ تا ۱۵۲۶ / ۱۹۳۲) .
		* حسین عولی پاشا : (۱۲۳۶ / ۱۸۲۰ تا ۱۲۹۳ / ۱۸۷۶) ، ترکیہ کا چار بار وزیر جنگ

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۰۶	اور سلطان عبدالعزیز کے عہد میں صدر اعظم .	* حسین کابل : (۱۸۵۳/۱۲۷۰ تا ۱۹۱۷/۱۳۳۵) ، خدیو اسماعیل کا بیٹا اور برطانیہ کے زیر سیادت سلطان مصر (از دسمبر ۱۹۱۳ء تا اکتوبر ۱۹۱۷ء) .
۱ ۳۰۷		* حسین مرزا بن منصور بن بایقرا : ابو الغازی (ولادت ۱۳۳۸/۸۴۲ء) ، خراسان کا مشہور علم دوست بادشاہ (از ۱۳۶۹/۸۷۳ء تا ۱۳۹۱/۹۱۱ء) .
۲ ۳۰۹		* حسین نظام شاہ : احمد نگر کا تیسرا نظام شاہی فرمانروا (از ۱۵۵۳/۹۶۱ء تا ۱۵۶۵/۹۷۲ء) .
۱ ۳۱۱		* حسین واعظ کاشفی : رگ بہ کاشفی .
۱ ۳۱۲		* حسین ہزار فن : نقشبندی ، ترک مصنف ، صاحب تنقیح تواریخ الملوک وغیرہ (م ۱۱۰۳/۱۱۰۳ء) .
۱ ۳۱۲		* حسین ہمدانی : ایک بابی فاضل ، تاریخ جدید اور نقطۃ الکاف کا مصنف (م ۱۲۹۹/۱۲۹۹ء) .
۲ ۳۱۳		* الحسین بن احمد : رگ بہ (۱) عبداللہ (المحتسب) الشیعی ؛ (۲) ابن خالویہ .
۱ ۳۱۳		* الحسین بن الحسین : (نواح ۱۱۷۹/۱۷۶۵ء تا ۱۸۳۸/۱۲۵۴ء) ، الجزائر کا آخری دای .
۱ ۳۱۳		* الحسین بن حمدان : التغلبی ، حمدانی خاندان کا پہلا نامور فرد اور عہد عباسیہ کا ایک اہم عسکری و سیاسی کردار (م ۹۱۸/۳۰۶ء) .
۱ ۳۱۶		* الحسین بن الضحاک الباہلی : ابو علی المعروف بہ الاشقر یا الخلیع ، دوسری-تیسری ہجری/آٹھویں-نویں صدی عیسوی میں بصرے کا ایک شاعر اور خائفے عباسیہ کا ندیم (م ۸۶۴/۲۵۰ء) .
۲ ۳۱۹		* الحسین بن عبداللہ : رگ بہ ابن سینا .
۱ ۳۲۳		⊗ الحسین بن علی : بن ابی طالب (۶۲۶/۵۴ تا ۶۸۰/۶۸۱ء) ، سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے دوسرے صاحبزادے ، سیدالشہداء ، اثنا عشریہ کے تیسرے امام .
۱ ۳۲۳		* الحسین بن علی : رگ بہ (۱) ابن ماکولا ؛ (۲) الطغرائی ؛ (۳) المغربی .
۲ ۳۳۴		* الحسین بن علی : تونس کا بای اور وہاں کے حکمران خاندان حسینی کا بانی (از ۱۱۱۷/۱۱۱۷ء تا ۱۷۳۵/۱۱۳۸ء) .
۲ ۳۳۴		* الحسین بن علی : (الطالیبی) ، خلیفہ الہادی کے عہد میں ایک علوی بغاوت کے قائد (م ۷۸۶/۱۶۹ء) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۳۹		* الحُسین بن محمد : رَکْ به الراغِب الاصفهانی .
۲ ۳۳۹		* الحسین بن منصور : رَکْ به الحَلَّاج .
۲ ۳۳۹		* الحسین الخایع : رَکْ به الحسین بن الضحاک .
۲ ۳۳۹		* حُسینی : (ج : حسینیون) ، حضرت حسینؑ بن علیؑ کے ساتھ اپنا شجرہ نسب ملانے والے مراکش کے سادات (صقلیوں و عراقیوں) .
۱ ۳۴۰		* حُسینی دالان : ڈھاکہ کا ایک قدیم شیعہ امام باڑہ (تعمیر ۱۰۵۲ھ/۱۶۴۲ء) .
۱ ۳۴۱		* حُسینی سادات ، امیر : شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے ممتاز صوفی شاگرد اور مصنف نَزْهَة الأرواح وغیر . (م ۱۳۲۸ھ/۱۹۰۹ء) .
۲ ۳۴۲		* حَشْر : رَکْ به قیامت .
۲ ۳۴۲		* حَشْر : آغا حشر کاشمیری ، محمد شاہ (۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء تا ۱۳۵۴ھ/۱۹۳۵ء) ، اردو کے ممتاز ترین ڈراما نگار اور شاعر .
۲ ۳۴۶		* الحَشْر : قرآن مجید کی انسٹھویں سورت .
۲ ۳۴۷		* الحَشَّاشُون : (الحَشَّاشِين) ، رَکْ به الحَشِيشِيه .
۲ ۳۴۷		* حَشْمَت : ترکی کا ممتاز شاعر ، قادر انداز اور شمشیر زن (م ۱۱۸۲ھ/۱۷۶۸ء - ۱۷۶۹ء) .
۲ ۳۴۸		* حَشْو : بمعنی زائد ؛ علم صرف و نحو اور عروض کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۴۹		* حَشْوِيه : ظواہر پر انحصار کر کے تجسیم باری کے قائل لوگوں کے لیے علم الکلام کی اصطلاح .
۲ ۳۴۹		* حَشِيش : (بھنگ) ، ایک نشہ آور بوٹی .
۲ ۳۵۴		* الحَشِيشِيه : (الحَشِيشِيُون ، الحَشَّاشُون ، الحَشَّاشِين) ، از منہ وسطی میں اسماعیلی فرقے کی نزاری شاخ .
۱ ۳۵۷		* الحَشِيشِيُون : رَکْ به الحَشِيشِيه .
۱ ۳۵۷		* حِصَار : قصر ، قلعہ ، کوٹ ، گڑھی ؛ ایشیائے کوچک کے متعدد مقامات کے ناموں میں شامل ایک تعمیراتی اصطلاح .
۲ ۳۵۷		* حِصَار : (محاصرہ) ، فن حرب کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۸۸		* حِصَار : (Gissar) ، بخارا کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۲ ۳۸۹		* حِصَار فِیروزہ : (موجودہ حصار) ، صوبہ ہریانہ (بھارت) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۲ ۳۹۱		* حِصَار لِق : [= حصار جق] ، ایک بلند مقام ، قدیم شہر تروآ (Troja) کا محل وقوع .
۲ ۳۹۱		* حِصَه : رَکْ به (۱) تیمار ؛ (۲) وقف .
۲ ۳۹۱		* حِصْن : رَکْ به (۱) قلعہ ؛ (۲) قصر .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۹۲		* حصن الاکراد : (حصن السفح) ، سطح مرتفع البقیعة پر واقع ایک قلعہ .
۱ ۳۹۳		* حصن زیادہ : رگ بہ خرپوت .
۱ ۳۹۳		* حصن الغراب : جنوبی عرب میں بندرگاہ بشر علی مجدحة کے قریب ایک پہاڑی پر بنا ہوا قلعہ .
۱ ۳۹۵		* حصن کیفا : الجزیرہ میں دجلہ کے دائیں کنارے پر ایک شہر .
۲ ۳۹۸		* حصن منصور : مَلَطِيَه کی سنجاق میں ایک قضا اور اس کا صدر مقام .
۲ ۳۹۸		* الحصین بن نمیر : الگندی السکونی ، جنگ صفین میں ایک اموی سپہ سالار اور بعد ازاں حاکم حمص (م ۵۶۷/۶۸۶ء) .
۲ ۳۹۹		* حضانة : بچے کی سرپرستی کا حق ؛ ایک فقہی و قانونی اصطلاح .
۲ ۴۰۶		* الحضرة : (قدیم ہترا) ، موصل کے جنوب مغرب میں ایک قدیم شہر (اب کھنڈر) .
۲ ۴۰۷		* حضرة : صوفیہ کی ایک اصطلاح ، بمعنی جناب باری تعالیٰ میں قلباً حاضر ہونا .
۱ ۴۰۸		* حضر موت : یمن کے مشرق میں ایک قدیم مملکت اور آجکل جمہوریہ جنوبی یمن کا ایک اہم شہر .
۱ ۴۱۳		* حضنه : (ہدنہ) ، الجزائر کے بالائی میدانوں میں ایک نشیبی علاقہ .
۲ ۴۱۳		* حضور : (حضور نبی شعیب) ، جنوبی عرب کا ایک پہاڑ (بلندی ۹۳۰۰ فٹ) .
۱ ۴۱۶		* حضيض : سورج ، چاند یا سیارے کا زمین سے قرب ؛ ہیئت کی ایک اصطلاح .
۱ ۴۱۶		* الحضین : بن المنذر ، ابو سامان ، سربرآوردہ تابعی اور بصرے کے مقتدر شاعر (م نواح ۵۱۰۰/۷۱۸-۷۱۹ء) .
۱ ۴۱۷		* حطین : (کفر حطیہ) ، طبریہ کے مغرب میں ایک گاؤں .
۲ ۴۱۷		* الحطیثہ : (بونا) ، جروں بن اوس ، ایک مخضرمی صاحب دیوان عرب شاعر (م ۵۳۰/۶۵۰ء) .
۱ ۴۱۹		* حطیم : رگ بہ کعبہ .
۱ ۴۱۹		* حفاء : رگ بہ قرطاس .
۱ ۴۱۹		* حفاش : جنوبی عرب میں ایک بلند پہاڑ .
۲ ۴۱۹		* حفرالبطن : رگ بہ باطن .
۲ ۴۱۹		* حفرک : فارس کا ایک ضلع .
۱ ۴۲۰		* حفص (بنو) : مغرب اقصیٰ کے مشرقی علاقے کا ایک حکمران خاندان (از ۵۶۲ء تا ۶۲۹ء تا ۵۹۸۲/۶۱۵ء) .
۱ ۴۲۹		* حفص بن سلیمان : رگ بہ ابو سلمہ .
		* حفص بن سلیمان بن المغیرہ : ابو عمر بن ابی داؤد الاسدی الکوفی الفاخری البزاز (ولادت نواح ۵۹۰/۷۰۰ء) ، قرآن مجید کے قرائے سبعمہ

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
		میں سے مشہور قاری عاصم کے شاگرد اور ان کی قراءت کے
۱ ۳۲۹		راوی .
۲ ۳۲۹		* حَفْصُ الْفَرْدِ : ابو عمرو (و ابو یحییٰ) ، امام شافعیؒ کے عہد کا ایک عرب فقیہ .
۱ ۳۳۰		* حَفْصَةُ : ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرؓ بن الخطاب (م ۵۶۶۱/۵۳۱ یا ۵۶۶۵/۵۳۵) .
۲ ۳۳۲		* حفصہ بنت الحاج : الرکونیہ (۵۳۰/۵۱۳۵ تا ۵۵۸۹/۱۱۹۰-۱۱۹۱ء) ، غرناطہ کی ایک رومانیت پسند شاعرہ .
۱ ۳۳۳		* حَفِیْظُ : المعروف بہ مولای حفیظ (۵۱۲۹۷/۵۱۸۸۰ تا ۵۱۳۵۶/۵۱۹۳۷) ، مراکش کا آخری علوی سلطان (از ۵۱۳۲۵/۵۱۹۰۷ تا ۵۱۳۳۰/۵۱۹۱۲) .
۱ ۳۳۵		* حَقَائِقُ : اصطلاحاً اسمعیلیہ اور متعلقہ فرقوں کا نظام باطنی .
۲ ۳۳۵		* حَقِّقُ : ایک معروف اسلامی ، فلسفیانہ ، متصوفانہ اصطلاح .
۱ ۳۳۹		* حَقِّیُّ : رک بہ (۱) ابراہیم حقی ؛ (۲) اسماعیل حقی ؛ (۳) عبدالحق بن سیف الدین (الترک الدہلوی) .
۱ ۳۳۹		* حُقُوقُ : ایک مصروف قانونی اصطلاح .
۲ ۳۳۹		* حَقِیْقَةُ : (ع) ، کسی شے کی اصلیت ، کثہ ، ماہیت ، داخلی مطلب ، جوہر وغیرہ ؛ ایک فلسفیانہ اصطلاح .
۲ ۳۳۳		* حَکَايَةُ : ایک معروف ادبی اصطلاح .
۱ ۳۵۲		* الْحَكَارِيُّ : رَک بہ عدی بن مسافر .
۱ ۳۵۲		* حَکَمٌ : منصف ، ثالث ؛ ایک معروف قانونی اصطلاح .
۱ ۳۵۳		* حُكْمُ بَنِ سَعْدِ الْعَشِيرَةِ : جنوبی عرب میں بنو مذحج کا ایک قبیلہ .
۲ ۳۵۳		* الْحَكَمُ الْأَوَّلُ : بن هشام بن عبدالرحمن ، ابو العاصی ، قرطبہ کا تیسرا اموی امیر (از ۵۱۸۰/۵۹۶ تا ۵۲۰۶/۵۸۲۲) .
۹ ۳۵۶		* الْحَكَمُ الثَّانِي : المستنصر بالله ، عبدالرحمن ثالث کا بیٹا اور اندلس کا اموی خلیفہ (از ۵۳۵/۵۹۶ تا ۵۳۶۶/۵۹۷۶) .
۱ ۳۵۸		* الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : بن جبلہ الاسدی ، ایک ہجو گو عرب شاعر (حیات ۵۷۳/۵۶۹۳) .
۱ ۳۵۹		* الْحَكَمُ بْنُ عَكَّاشَةَ : ایک اندلسی مہم جو اور قرطبہ اور بلنسیہ کا چند مہینوں کے لیے حکمران (م ۵۳۶۷/۵۱۰۷) .
۲ ۳۵۹		* الْحَكَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : بن قنبر المازنی (ولادت نواح ۵۱۱۰/۵۷۲۸) ، بصرے کا ایک شاعر اور دو قصوں کا مصنف .
۱ ۳۶۰		* حُكْمٌ : ایک اسلامی ، فقہی ، نحوی اور فلسفیانہ اصطلاح .
۲ ۳۶۷		* حِكْمَةٌ : ایک برآنی اور فلسفیانہ اصطلاح .
		* حِكْمَةُ الْإِشْرَاقِ : شہاب الدین یحییٰ بن حبش بن امیرک السہروردی (م ۵۵۸۷/۵۱۱۹۱) .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۳۷۲	کا بنا کردہ ایک فلسفیانہ مکتب ذکر.	
۲ ۳۷۵	* حُكُومَة : حکومت چلانے کے مفہوم میں ایک اہم اصطلاح اور اسکا اسلامی تصور.	
۲ ۳۷۹	* حَكِيم : طیب ، دانشمند ، ماہر وغیرہ ؛ ایک اسلامی و فلسفیانہ اصطلاح.	
۱ ۳۸۰	* حَكِيم آتَا : خوارزم کے ایک ترک ولی اللہ (م ۱۱۶۶/۵۵۶۲-۱۱۶۷-۱۱۶۷) .	
۲ ۳۸۰	* حَكِيم ہاشمی : سلطنت عثمانیہ میں محل کے رئیس الاطباء کا لقب .	
۲ ۲۸۲	* حَلَال و حَرَام : حِلّت و حرمت ، مشروع و ممنوع کے مفہوم میں ایک شرعی اصطلاح .	
۱ ۳۸۶	* حَلَب : سابقاً شمالی شام کی ترک ولایت اور فی الوقت شام کا دوسرا بڑا شہر .	
۲ ۵۱۰	* الحَلَبی : برہان الدین ابراہیم بن محمد بن ابراہیم ، ایک مشہور حنفی فقیہ اور متعدد کتب کا مصنف (م ۱۵۳۹/۵۹۵۶) .	
۱ ۵۱۲	* الحَلَبی : نور الدین بن برہان الدین علی بن ابراہیم القاہری الشافعی (۱۵۶۷/۵۹۷۵ تا ۱۶۳۳/۵۱۰۳) ، ایک عرب مصنف اور سیرت نگار .	
۲ ۵۱۲	* حِلْف الفُضُول : عہد ما قبل اسلام میں ہونے والے دو معاہدات (جن میں سے ایک معاہدے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے) .	
۱ ۵۱۵	* الحَلَفَاء : کاغذ سازی کی صنعت میں استعمال ہونے والی ایک مخصوص گھاس .	
۲ ۵۱۷	* حَلْق الوَادی : تونس میں ایک ساحلی قصبہ .	
۱ ۵۱۹	* حَلَقَہ : رکّ بہ تصوف .	
۱ ۵۱۹	* حَلَقَہ : مزاب [رکّ باں] کے اباضی ، وہبی فرقہ کے بارہ عزابہ پر مشتمل ایک مذہبی مجلس .	
۲ ۵۲۷	* حَلَقَہ : ایوبی اور مملوک عہد میں ایک معاشرتی و فوجی وحدت کے لیے مستعمل اصطلاح .	
۲ ۵۲۹	* الحَلَاج : (منصور الحلاج) ، ابو المغیث الحسین بن منصور بن محمّی البیضاوی (۵۲۳/۸۵۷ تا ۶۲۲/۱۱۷۵) ، ایک متنازع فیہ معروف صوفی اور عالم .	
۱ ۵۳۰	* الحَلَل الموشیة : کسی نا معلوم مصنف (غالباً ابو عبد اللہ محمد بن ابی المعانی بن سماک) کی عربی زبان میں مرابطون اور موحدون کی ایک تاریخ (تصنیف ۱۳۸۱/۵۷۸۳) .	
۱ ۵۳۱	* الحَلّة : ولایت بغداد کا ایک شہر اور اسی نام کی سنجاق کا صدر مقام .	
۲ ۵۳۱	* الحَلّی : (۱) علامہ جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف (۶۳۸/۱۲۵۰ تا ۷۲۶/۱۳۲۵) ، نامور امامیہ شیعہ عالم اور مصنف ؛ (۲) نجم الدین جعفر بن حسین بن یحییٰ (۶۳۸/۱۲۳۰ تا ۷۲۶/۱۳۲۶) الملقب بہ المحقق ، مصنف شرائع الاسلام (شیعی فقہ) ؛ (۳) احمد بن فہد ، الملقب بہ شیخ المتأخرین (م ۱۳۰۳/۵۸۰۶) .	

صفحہ عمود	عنوان
۱ ۵۳۳	* الحلی : صفی الدین عبدالعزیز الطائی (۵۶۷۷/۱۲۷۸ تا ۵۷۵۰/۱۳۳۹ یا ۵۷۵۲/۱۳۵۱ء) ، ایک نامور عرب شاعر .
۲ ۵۳۳	* حِلْم : (برد باری) ، اسلامی اخلاقیات کی رو سے ایک صفت حسنہ .
۲ ۵۳۸	* حِلْم : رگ بہ رؤیا .
۲ ۵۳۸	* حِلْمَالِیہ : صوفیوں کا ایک سلسلہ ؛ بانی : ابو حُلَمان الفارسی الحلبی ، مرید ابن سالم البصری (م ۵۲۹۷/۹۰۹ء) .
۱ ۵۳۹	* حِلْمِی : (احمد) ، المعروف بہ شاہ بندر زادہ ، ایک ترک صحافی .
۱ ۵۳۹	* حِلْمِی : (احمد افندی) ، انیسویں صدی عیسوی کا ایک ترک مترجم ؛ مصنف تاریخ عمومی (م ۱۲۹۵/۱۸۷۸ء) .
۱ ۵۵۰	* حِلْمِی : (توتلی) ، ایک ترک مصنف اور سیاست دان (م ۱۳۳۷/۱۹۲۸ء) .
۲ ۵۵۰	* حِلْوَان : زاگروس کے دروں کے مدخل پر واقع ایک بہت قدیم اور آج کل ویران شہر .
۱ ۵۵۱	* حِلْوَان : قاہرہ سے پچیس کلو میٹر جنوب میں پر ایک شہر .
۱ ۵۵۲	* حِلْوَل : ایک علمی و فلسفیانہ اصطلاح .
۱ ۵۵۳	* حَلِی : سرحد حجاز و یمن پر پینتیس دیہات کا مجموعہ .
۲ ۵۵۳	* الحَیْم : خدا کا ایک نام ؛ رگ بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی .
۲ ۵۵۳	* حَلِیْمہ : غسان کے بادشاہ حارث جبلہ کی بیٹی
۱ ۵۵۵	* حَلِیْمہ : قبیلہ بنو سعد بن بکر کی ایک خاتون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ .
۲ ۵۵۵	* حَمَاة : وسط شام کا ایک تاریخی شہر .
۱ ۵۶۰	* حِمَار : گدھا .
۲ ۵۶۰	* حَمَاسَہ : شجاعت ، بہادری یا اس سے متعلق کوئی ادب پارہ ؛ متعدد شعری مجموعوں کا نام ، مثلاً ابو تمام ؛ بعد ازاں عربی ، فارسی اور ترکی اردو وغیرہ میں رزمیہ منظومات .
۲ ۵۸۲	* حِمَالِہ : رگ بہ حَمَائِل .
۲ ۵۸۲	* حَمَالِیہ : ایک افریقی اسلامی تحریک ؛ بانی : شیخ سیدی محمد بن عبداللہ المعروف بہ شریف الاخضر (م ۱۹۰۹ء) .
۲ ۵۸۶	* حَمَام : فگننے اور چہچہانے والے پرندے .
۲ ۵۸۶	* حَمَاوَنَد : کُردوں کا ایک قبیلہ .
۱ ۵۸۷	* حَمَائِل : تعویذ ، طلسم کے معنی میں ایک اصطلاح .
۱ ۵۹۰	* حَمْد : تعریف ، ستائش ؛ رگ بہ حمد لہ .
۱ ۵۹۰	* حَمْد اللہ ، شیخ : ایک ترکی کاتب ؛ رگ بہ حَمْد .

- * حمد الله المستوفى القزوينى : بن ابى بكر بن احمد بن نصر (نواح ۵۶۸/۱۲۸۱ء تا ۵۷۳/۱۳۳۹-۱۳۴۰ء) ، ایک ایرانی جغرافیہ نگار اور مؤرخ ، مصنف نزهة القلوب .
- ۱ ۵۹۰
- * حمدان (بنو) : بنو تغلب سے متعلق ایک عرب خانوادہ اور چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں موصل اور حلب میں برسر اقتدار آنے والے اس کے دو چھوٹے خازدان .
- ۲ ۵۹۱
- * حمدان قرمط : بن الاشعث ، ایک اسماعیلی داعی اور قرمطی (باطنی) فرقے کا بانی (حیات ۵۲۷/۸۹۰ء) .
- ۱ ۶۰۳
- * الحمد لله : یعنی الحمد لله کہنا ؛ ایک معروف اسلامی و لسانی اصطلاح .
- ۲ ۶۰۳
- * حمدون القصار : ابو صالح ، مشہور صوفی اور عالم بزرگ ، حضرت سفیان الثوری کے سرید اور فرقہ ملامتیہ کے شیخ (م ۵۲۱/۸۸۳ء) .
- ۲ ۶۰۶
- * حمدی : حمد الله چاہی (۵۸۵۳/۱۳۳۹ء تا ۵۹۰۹/۱۵۰۳ء) ، ایک مشہور صاحب دیوان ترکی شاعر ، مجالس التفاسیر اور متعدد مثنویات کا مصنف .
- ۲ ۶۰۶
- * الحمراء : اندلس کے شہر غرناطہ کا مشہور قلعہ .
- ۲ ۶۰۸
- * الحمراء : مراکش میں متعدد مقامات کا نام .
- ۱ ۶۰۹
- * الحمراء : سطح مرتفع پر واقع غرناطہ کا مشہور آفاق قبر .
- ۲ ۶۰۹
- * حمزین : (قدیم بارما) ، ایران کی سرحد پر واقع پہاڑی کا مغربی سلسلہ .
- ۲ ۶۱۶
- * حمزة بن بیض : الحنفی الکوفی ، عرب کا ایک ظریف شاعر (م ۵۱۶/۷۳۳ء) .
- ۲ ۶۱۷
- * حمزة بن حبیب : ابو عمارہ التیمی الکوفی الزیات (۵۸۰/۶۹۹ء تا ۵۱۵۶/۷۷۲ء) ، قرآن مجید کے مشہور سات قراء میں سے ایک .
- ۲ ۶۱۸
- * حمزة بن عبدالمطلب : رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چچا اور صحابی ، سید الشهداء (م ۵۳/۶۲۵ء) ؛ بعد ازاں ایک تخیلی داستان کے مرکزی کردار
- ۲ ۶۱۹
- * حمزة بن علی بن احمد : دروزی عقائد کا بانی اور دروز کے کئی مقدس رسائل کا مصنف (حیات ۵۳۱۱/۱۰۲۱ء) .
- ۱ ۶۲۳
- * حمزة بن عمارہ : رگ بہ کریہہ .
- ۱ ۶۲۳
- * حمزة الاصفهانی : ابو عبدالله حمزه بن حسن ، مشہور نحوی اور مؤرخ (م ماہین ۵۳۵/۹۶۱ء و ۵۳۶/۹۷۱ء) .
- ۱ ۶۲۳
- * حمزة العرانی : کئی پشتوں تک دمشق میں نقیب الاشراف کے عہدے پر فائز رہنے والے خاندان بنو حمزه کا جد امجد .
- ۱ ۶۲۵
- * حمزه پیگ : خانوادہ آق قویونلو (رک باں) کا شہزادہ .
- ۲ ۶۲۶

- عنوان
- اصطلاح
- صفحہ عمود
- * حمزہ بیگ : (امام) ، داغستان کا دوسرا امام اور قفقاز کی ایک مقبول عام سیاسی و مذہبی تحریک کا قائد (م ۱۲۵۰ھ/۱۸۳۳ء)۔
- ۲ ۶۲۶
- * حمزہ حامد پاشا : (۱۱۱۰ھ/۱۶۹۸ء تا ۱۱۸۳ھ/۱۷۷۰ء) ، سلطنت عثمانیہ کا وزیر اعظم۔
- ۲ ۶۲۷
- * حمزہ سلاح دار : (۱۱۳۰ھ/۱۷۲۸ء تا ۱۱۸۲ھ/۱۷۶۸ء) ، سلطنت عثمانیہ کا وزیر اعظم۔
- ۱ ۶۲۸
- * حمزة الفَنصُوری : دسویں ہجری صدی/سولہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں ایک انڈونیشی صوفی اور ملائی رسالوں اور نظموں کا مصنف۔
- ۱ ۶۲۹
- * حمزہ میرزا : (۱۵۶۵-۱۵۶۶ء تا ۱۵۹۳ھ/۱۵۸۶ء) ، صفوی شہزادہ ، محمد خدا بندہ کا دوسرا بیٹا۔
- ۱ ۶۲۹
- * الحمس : بعثت نبوی کے وقت حرم مکہ کے رہنے والوں کا لقب۔
- ۱ ۶۳۰
- * حمص : دریائے العاصی کے کنارے پر شام کا ایک مشہور تاریخی شہر۔
- ۱ ۶۳۲
- * الحَمَل : بروج فلکی میں سے پہلا برج ؛ علم ہیئت کی ایک اصطلاح۔
- ۱ ۶۳۷
- * (بنو) حماد : بلاد البربر کے بنو زیری کا ہم جد اور وسطی مغرب کا ایک حکمران خانوادہ (۵۳۰ھ/۱۱۵۲ء تا ۱۰۱۵ء)۔
- ۱ ۶۳۷
- * حماد بن بُلَکین الزیری : بنو حماد کا بانی ایک بربر حکمران (از ۱۰۱۵ء تا ۱۰۲۸ھ/۱۱۱۹ء)۔
- ۲ ۶۳۱
- * حماد بن الزُّبرقان : رگ بہ حماد عَجْرَد۔
- ۲ ۶۳۲
- * حماد الراویہ : (۶۹۵ء تا نواح ۱۵۶ھ/۷۷۳ء) ، قدیم عربی شاعری کا ایک بڑا راوی۔
- ۲ ۶۳۲
- * حماد عَجْرَد : ایک عرب ہجو گو شاعر (م نواح ۱۶۱ھ/۷۷۸ء)۔
- ۲ ۶۳۳
- * حمادہ : رگ بہ صحراء۔
- ۲ ۶۳۵
- * حمّال : نامہ بر ، بار بردار ؛ ایک لسانی اصطلاح۔
- ۲ ۶۳۵
- * حمّام : بہا پ کا غسل خانہ۔
- ۲ ۶۳۶
- * حمام الصرّخ : بلقا سے سولہ میل مشرق میں ایک ویران شدہ غسل خانے کی عمارت۔
- ۱ ۶۵۶
- * حمودیون : (بنو حمود) ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص حمود بن میمون کی نسل سے اندلس میں قرطبہ کا ایک حکمران خاندان۔
- ۱ ۶۵۸
- * الحمّہ : (الہسہ) ، گرم پانی کے چشمے ؛ اندلس کے دو دریا۔
- ۱ ۶۵۹
- * حمولہ : مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے بعض حصوں میں یک جدی لوگوں کا ایک گروہ۔
- ۲ ۶۵۹
- * حموی : سعد الدین محمد بن المویّد بن حمویہ ، خراسان میں ایک مشہور عرب صوفی ،

صفحہ نمبر	عنوان
۱ ۶۶۱	(م ۵۶۵/۴۱۲۵۲) .
۱ ۶۶۱	* حمی : وسیع سرسبز میدانی علاقے یا چراگاہ کے لیے ایک لسانی اصطلاح .
	* حمید : (اوغلی)، حمید اوغلو ، ساتویں صدی ہجری کے خاتمے کے قریب قونیہ کی سلجوقی سلطنت کی بوزنطی سرحد پر ایک آزاد و خود مختار حکمران خاندان کا بانی .
۲ ۶۶۲	* حمید آباد : رک بہ اسپرتہ .
۲ ۶۶۳	* حمید بن ثور الہلالی : پہلی صدی ہجری/ساتویں صدی عیسوی کا ایک عربی شاعر .
۲ ۶۶۳	* حمید بن عبدالحمید الطوسی : ایک عباسی سپہ سالار (م ۵۲۱/۴۸۲۵) .
۲ ۶۶۳	* حمید الأرقط : اموی عہد کے وسط کا ایک عرب شاعر (حیات مابین ۵۸۱/۴۷۰ و ۵۸۵/۴۷۰) .
۱ ۶۶۵	* حمیدی : حمید الدین ابوبکر عمر بن محمود البلخی ، الحریری کی طرز پر مقامات کا ایک ایرانی مؤلف (م ۵۵۹/۴۱۱۶۳) .
۲ ۶۶۵	* حمیدی زادہ : رک بہ مصطفی آفندی .
۲ ۶۶۵	* الحمیدی : ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر الازدی (نواح ۵۴۲/۱۰۲۹ تا ۵۴۸/۱۰۹۵) ، ایک محدث ، مؤرخ اور ادیب ، مصنف جذوة المقتبس وغیرہ .
۲ ۶۶۶	* حمیر : جنوبی عرب کی ایک قدیم حکمران .
	* الحمیری ، ابن عبدالمنعم : عربی کی ایک اہم جغرافیائی لغت الروض المعطار فی خبر الاقطار (تالیف ۵۸۶۶/۴۱۳۶۱) کا مصنف .
۱ ۶۷۱	* الحمیمہ : شرق اردن کا ایک مقام اور عباسی مدعیان خلافت کا مسکن .
۲ ۶۷۳	* حنابلہ : نامور فقیہ امام احمد بن حنبل کے فقہی مسلک کے پیرو .
۲ ۶۷۳	* حناتہ : مردے پر خوشبو لگانا ؛ ایک معروف اصطلاح .
۲ ۶۷۸	* حنبلی : رک بہ حنابلہ .
۲ ۶۸۰	* حندوس : (پیتل یا کم قیمت چاندی) ، المغرب میں ہانچویں سے آٹھویں صدی ہجری تک رائج چھوٹے سکے .
۲ ۶۸۰	* حنظلة بن ابی عامر : رک بہ غسیل الملائکہ .
۱ ۶۸۱	* حنظلة بن صفوان : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں اصحاب الرس کی طرف مبعوث ایک نبی .
۱ ۶۸۱	* حنظلة بن صفوان : بنو امیہ کا ایک سپہ سالار اور مصر کا والی (حیات ۵۱۲۷/۴۷۳۵) .
۱ ۶۸۲	* حنظلة بن مالک : بنو معد کا ایک عرب قبیلہ .
۱ ۶۸۳	* حنفيہ : پانی کا ایک ہلکا سفری برتن .
۱ ۶۸۳	

- * 60 العقیقہ : فقہ اسلامی میں اہل السنۃ والجماعت کے چار سالک میں سے مشہور ترین سالک منسوب بہ امام ابو حنیفہؒ
- * 683 حنّاء : (سندی) ، ایک معروف یودا ۔
- * 684 حنیف : ظہور اسلام کے بعد یعنی مسلم استعمال کلمہ ۔
- * 685 حنیفہ (وادی) : رگ بہ وادی حنیفہ ۔
- * 686 حنیفہ بن لہیم : ایک قدیم عرب قبیلہ ، بکر بن وائل کی ایک شاخ ۔
- * 687 حنی : سکا سکرمہ اور طائف کے درمیان ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی اور عہد نبوی کی ایک مشہور لڑائی کا مقام ۔
- * 688 حنین بن اسحاق : ابو زید ، العبادی (۵۹۱ھ/۸۰۰ء تا ۶۸۳ھ/۵۲۶ء) ، عباسی دور کا مشہور عیسائی مترجم ۔
- * 689 حواری : حضرت عیسیٰؑ کے تعارف و اصحاب ۔
- * 690 حوالہ : (توضیح) ، ایک مالیاتی اصطلاح ۔
- * 691 العیون : (جھلی) ، علم ہیئت کی ایک اصطلاح ۔
- * 692 حور : جنت کے پیکران جمال کے لیے ایک قرآنی اصطلاح ۔
- * 693 حوران : دریائے اردن کے پار ایک ضلع ۔
- * 694 حوزہ : مغربین کے شمال مشرق میں ایک پہاڑ اور اس پر واقع حضرت سون کا ایک شہر ۔
- * 695 حوزہ : رگ بہ القناب ۔
- * 696 حوزہ : شمالی اتریفہ (بالخصوص مراکش) میں استعمال کلمہ ، یعنی ایک بڑے حصے کا علاقہ ، نواحی بنی وغیرہ ۔
- * 697 حوزی : جنوبی عرب میں خلاص جمیری نسل کا ایک قبیلہ ۔
- * 698 الحوزہ : (Housa) ، نائیجیریا کے شمالی علاقے میں آباد ایک سلطان قوم اور ان کا ادب ۔
- * 699 حوض : ایک تعمیراتی اصطلاح ، یعنی مصنوعی تالاب وغیرہ ۔
- * 700 حوض : (حوض) ، جنوب مشرقی موریتانیا میں واقع ایک قدرتی نشیب ۔
- * 701 الحوض : حوض کوثر کے لیے اسلامی اصطلاح ۔
- * 702 حوطہ : گہرا ہوا علاقہ ، جنوبی عرب میں کسی ولی کے زیر حفاظت مقدس علاقہ ۔
- * 703 الحوطہ : عرب کے بہت سے شہروں کا نلم ۔
- * 704 حوفی : الجزائر میں مقدس گیتوں کی ایک قسم ۔
- * 705 حواء : حضرت آدمؑ کی زوجہ ۔
- * 706 حواء : رگ بہ حاوی ۔
- * 707 الحوا : رگ بہ علم (تجوم) ۔

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۷۲۹	* حَوَارِین : شام میں واقع ایک مقام .	
۱ ۷۳۰	* حَوْلہ : نجد (سعودی عرب) کے صوبہ صدیر میں ایک شہر .	
۱ ۷۳۰	* الحَوْلہ : صوبہ دمشق کا ایک ضلع .	
۲ ۷۳۰	● الحَویدرة : رگ بہ الحادرة .	
۲ ۷۳۰	* حَوِيزہ : واسط اور بصرے کے درمیان دلدلی علاقے میں واقع ایک قصبہ .	
۱ ۷۳۱	* الحَوِیطات : شمالی حجاز اور جزیرہ نماے سینا میں آباد ایک عربی قبیلہ .	
۲ ۷۳۱	* حَیوة : زندگی کے مفہوم میں ایک عربی عوامی ، قرآنی و فلسفیانہ اصطلاح .	
۱ ۷۳۵	* حَیاتی زادہ : اطبا اور علما کا ایک عثمانی خاندان .	
۲ ۷۳۵	* حَیدر : (شیر بیر) ، حضرت علیؑ (رک بآن) کا ایک نام .	
۱ ۷۳۶	⊙ حَیدر : شیخ ، ہانچواں صفوی شیخ (م ۵۸۹۳/۱۳۸۸ء) .	
۲ ۷۳۷	* حیدر بن علی : حسینی رازی (ولادت ۵۹۹۳/۱۵۸۵ء) ، ایک ایرانی مؤرخ اور زبده التواریخ کا مصنف .	
۱ ۷۳۸	⊙ * حیدر آباد : برعظیم پاک و ہند کی ایک قدیم مسلم ریاست ، اور اس کا دارالحکومت آجکل بھارت کے صوبہ آندھرا پردیش کا صدر مقام .	
۲ ۷۵۲	⊙ * حیدر آباد (سندھ) : پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .	
۲ ۷۵۳	* حیدر اوغلو : (قرہ حیدر اوغلو) ، ایک قزاق اور عوامی داستانوں کا بطل .	
۲ ۷۵۶	* حیدر علی : (۱۷۲۱-۱۷۲۲ء تا ۱۱۹۶/۱۷۸۲ء) ، سلطنت خدا داد میسور (جنوبی ہند) کا بانی حکمران (از ۱۷۶۰ء) .	
۲ ۷۵۹	* حیدر مرزا : (دوغلالت) ، ۹۰۵/۱۵۰۰ء تا ۹۵۸/۱۵۵۱ء) ، ایک فارسی مؤرخ ، تاریخ رشیدی کا مصنف .	
۱ ۷۶۱	* حیدران : جنرب مشرقی تونس میں قابس کے نواح میں ایک جگہ کا قدیم نام .	
۲ ۷۶۱	* حیر : رگ بہ حائر .	
۲ ۷۶۱	* الحیرہ : کوفے کے قریب ایک قدیم (آجکل ناپید) شہر اور لخمی بادشاہوں کا دارالسلطنت .	
۱ ۷۶۳	* حیس : جنوبی عرب کا ایک قصبہ .	
۱ ۷۶۳	* حیص یص : ایک عرب شاعر شہاب الدین ابو الفوارس سعد بن محمد الصیفی التمیمی (م ۵۷۳/۱۱۷۹ء) کا لقب .	
۱ ۷۶۳	* حیض : جوان عورت کے رحم سے مخصوص ایام میں خارج ہونے والا خون .	
۲ ۷۶۳	* حیفا : فلسطین کی ایک بندر گاہ .	
۱ ۷۶۸	* حیل : (واحد : حیلہ) ، تدبیر ، ترکیب ، چارہ کار ، چال بچنے کا طریقہ ؛ ایک علمی اصطلاح .	
۲ ۷۷۰	* الحیمة : صنعاء کے جنوب مغربی جانب یمن کے پہاڑوں میں ایک ضلع .	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۷۷۰		* حیوان : جانور اور جانوروں کی دنیا ؛ ایک عوامی و قرآنی اصطلاح .
۱ ۷۸۳		* حسی : زندہ ؛ نیز قبیلہ عرب کے معنوں میں ایک معروف اصطلاح .
۱ ۷۸۵		* حی بن یقظان : دو فلسفیانہ تمثیلی قصوں کا مرکزی کردار .
۱ ۷۹۱		* حیان بن خلف : رک بہ ابن حیان .
۲ ۷۹۱		* الحیة : سانپ .

خ

۱ ۷۹۳		* خ : عربی حروف تہجی کا ساتواں ، فارسی کا نواں اور اردو کا سولہواں حرف .
		* خابور : دو دریا : (۱) خابور الاکبر ، دریائے فرات کا ایک معاون ؛ (۲) خابور الاصغر
۱ ۷۹۴		دریائے دجلہ کی ایک ندی .
۲ ۷۹۵		* خاتم : (نیز ختم) ، مسہر ، نگینے کی انگوٹھی ، نشان ، چھاپ .
۱ ۸۰۲		* خاتون : مغل شہنشاہوں کی بیویوں ، بیٹیوں اور اعلیٰ طبقے کی بیگمات کا لقب .
۲ ۸۰۳		* خادم : خدمت گزار ، نوکر .
۱ ۸۰۵		* خادم الحرمین : رک بہ الحرمین .
۱ ۸۰۵		* خارجه : صحرائے لیبیا کے جنوب میں نخلستانوں کا ایک مجموعہ .
۲ ۸۰۵		* خارجی : (جمع : خوارج) ، اسلام کے قدیم ترین انتہا پسند فرقے کے پیرو .
		* الخارذ : (غیل الخارذ) ، الجوف (جنوبی عرب) میں سال بھر رواں رہنے والا ایک دریا .
۱ ۸۱۲		
۱ ۸۱۳		* خار صینی : (خار چینی) ، ایک دھات .
۲ ۸۱۳		* خارک : خلیج فارس میں ایک جزیرہ .
		* الخازن : ابو جعفر الخازن الخراسانی ، مشہور ہیئت دان ، مصنف کتاب الآلات العجیبة
۱ ۸۱۴		الرصدیة وغیرہ (م ۵۳۳۹/۷۹۶۰) .
		* الخازنی : ابو الفتح عبدالرحمن المنصور الخازنی (الخازن) ، سلطان سنجر کا مصاحب اور
۱ ۸۱۶		زیچ سنجر و میزان الحکمة کا مصنف (حیات ۵۱۵/۱۱۲۲-۱۱۱۶ء) .
۱ ۸۱۷		* خاصکی : سلطان ترکی کی زمین خالصہ یا شاہی ملازمت یا محل سے متعلقہ اشیا .
۱ ۸۱۸		* خاف : (خواف) ، خراسان کا ایک شہر .
		* خافی خان : (خوافی خان) ، محمد ہاشم نظام الملکی (نواح ۵۰۷۵/۱۶۶۳ء تا ۱۱۳۵/۱۷۳۲ء) ، مغلیہ ہند کا ایک نامور ، عالم ، مؤرخ اور مصنف منتخب
۲ ۸۱۸		اللباب وغرہ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۸۲۰		* خاقان : (قاغان) ، ترکی شاہی لقب .
۲ ۸۲۰		* خاقان : رگ بہ فتح علی شاہ .
۲ ۸۲۰		⊗ خاقانی : حسان العجم افضل الدین بدیل (ابراہیم) خاقانی شروانی (۵۵۲/۱۱۲۶ء تا ۵۹۵/۱۱۹۸ء) ، ایران کا جلیل القدر قصیدہ گو شاعر .
۱ ۸۲۳		* خاقانی : ایک ترکی شاعر (م ۱۶۰۶-۱۶۰۷ء) .
۲ ۸۲۳		* خالد بن عبداللہ القسری : عہد اموی میں عراق کا ایک عامل (م ۵۱۲۶/۷۷۳ء) .
۱ ۸۲۶		⊗ خالد بن الولید : بن المغیرۃ ، سیف اللہ ، مشہور صحابی ، فاتح اور سپہ سالار (م ۵۲۱/۶۱۴ء) .
۲ ۸۳۲		* خالد ضیاء : عشاقی زادہ ، جدید ترکی ادب کا ممتاز نثر نگار اور افسانہ نویس (حیات ۱۹۱۸/۱۳۳۴ء) .
۱ ۸۳۵		* الخالدات : رگ بہ الجزائر الخالدة .
۱ ۸۳۵		* خالدہ ادیب خانم : (۱۸۸۳ تا ۱۹۶۳ء) ، جدید ترکیہ کی ایک ممتاز ادبی و سیاسی شخصیت .
۳ ۸۳۸		* خان : قاغان کا مخفف ، ایک ترکی اعزازی لقب .
۱ ۸۳۹		* خان بالیق : (خان کا شہر) ، مغول سلطنت کا دارالسلطنت ، شہر پیکن .
۱ ۸۴۰		* خان جہان لودی : شاہنشاہ جہانگیر کا ایک منظور نظر افغان (م/نواح ۱۰۴۲/۱۵۶۳ء) .
۲ ۸۴۰		* خان جہان مقبول خان : فیروز شاہ تغلق کا ایک نومسلم وزیر (م ۱۳۶۸/۱۷۷۰ء) .
۲ ۸۴۱		* خان خانان : دہلی کے مغل شاہنشاہوں کی جانب سے دیا جانے والا اعلیٰ ترین خطاب .
۱ ۸۴۱		* خاندیش : جنوبی ہند کا ایک علاقہ .
۲ ۸۴۱		* خاندادہ بیگم : (۱) تیمور کی بہو ، زوجہ میران شاہ : (۲) بابر کی حقیقی بڑی بہن (م ۱۵۳۵/۱۹۵۲ء) .
۱ ۸۴۲		* خائفو : تیسری - چوتھی صدی ہجری / نویں - دسویں صدی عیسوی میں چین کی سب سے اہم بندرگاہ کینٹن کا عربی نام .
۱ ۸۴۳		* خالقین : عراق عجم کا ایک شہر .
		* خانوادہ ترکہ : متعدد ارباب علم پر مشتمل اصفہان کا ایک خاندان : (۱) ابو حامد صدر الدین محمد ترکہ ، ایک ممتاز عالم (م اوائل آٹھویں صدی ہجری) ؛ (۲) شیخ الامام خواجہ افضل الدین محمد بن صدر الدین محمد ترکہ ؛ (۳) صائبن الدین علی بن افضل الدین ، گورگانیوں کے عہد میں فقہ ، حکمت ، تصوف اور علوم عربیہ کا ماہر اور مصنف شرح قصیدہ تائیہ ابن فارض وغیرہ (م ۵۸۳۵/۱۱۳۳۱ء) ؛ (۴) خواجہ

افضل الدين محمد صدر تركه، سلطان محمد بن بايسنغر کا ندیم، کتاب الملل و النحل کا فارسی مترجم (م ۵۸۵۰/۱۳۳۶ء)؛ (۵) افضل الدين محمد تركه، علوم عقليه و نقلیه کا جامع (حیات ۵۹۹۱/۱۵۸۳ء)؛ (۶) جلال الدين محمد تركه، شیخ بهاء الدين العاملي کا ہم عصر عالم۔

۱ ۸۳۳

۱ ۸۳۷

* خانہ : مکان ، گھر۔

* خبر : بیان اور اطلاع : سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تک پہنچنے والی

۱ ۸۳۷

حدیث کے مفہوم میں علم الحدیث کی ایک اصطلاح۔

۱ ۸۳۸

* خبر واحد : رک بہ اصول حدیث۔

۱ ۸۳۸

⊗ خبن : چھوٹا کرنا ؛ علم عروض کی ایک اصطلاح۔

۲ ۸۳۸

*⊗ خبيب بن عدی الانصاری : ایک نامور صحابی (شہادت ۶۲۶/۵۴۶ء)۔

۱ ۸۵۰

* ختان : (ختنہ)، ایک معروف اصطلاح۔

۱ ۸۵۱

* ختای : رک بہ قرہ ختای۔

۱ ۸۵۱

* ختل : آمو دریا کے بالائی حصے پر ایک ضلع۔

۱ ۸۵۱

* ختم : (ختمہ)، شروع سے آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کا اصطلاحی نام۔

۲ ۸۵۱

⊗ الختمہ : رک بہ دفتر۔

۲ ۸۵۱

⊗ الختمۃ الجامعہ : رک بہ دفتر۔

۲ ۸۵۱

* ختن : چینی ترکستان کا ایک شہر۔

* خٹک : صوبہ سرحد (پاکستان) اور اس کے نواح میں آباد کرلانی افغانوں کا

۲ ۸۵۳

ایک قبیلہ۔

۱ ۸۵۳

* خثعم : ایک معروف اور قدیم عرب قبیلہ۔

* الخجندی : ابو محمود حامد بن خضر الخجندی ، عہد بنی بویہ کا ممتاز فلسفی اور

۱ ۸۵۳

سائنسدان (م ۵۳۹۱/۱۰۰۰ء)۔

۱ ۸۵۸

* خدا بندہ : رک بہ الجایتو خدا بندہ۔

* خدا ولد گار : خدا وند (آقا ، حاکم) سے مشتق : (۱) سلطان مراد اول (۱۳۶۰ء تا

۱ ۸۵۸

۱۳۸۹ء) کا لقب ؛ (۲) دارالحکومت بروسہ کے سنجاق کے والی کا لقب۔

⊗ خدیجۃؓ : ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریؓ ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۲ ۸۵۹

کی پہلی زوجہ محترمہ اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون

(م ۱۰ نبوت/۶۱۹ء)۔

* خدیو : بمعنی خدا وند ، بادشاہ و وزیر؛ وقتاً فوقتاً مسلمان حکمرانوں ، بالخصوص عہد

۱ ۸۶۹

خدیویہ میں مصری گورنر کا لقب۔

* خذلان : اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت سے محروم ہو جانے والوں کے لیے قرآنی

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۹۰۳		اور بعد ازاں متکلمین کی ایک اصطلاح .
۱ ۹۰۵		* خراج : زمین پر لگان سے متعلق ایک قرآنی اسلامی اصطلاح .
۲ ۹۰۶		* خراسان : ایران کے مشرق میں ایک وسیع صوبہ .
		* خراسان (ہنو) : پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی میں تونس کا ایک حکمران خاندان .
۱ ۹۰۹		* خربوت : ترکی ارمینیہ کا ایک شہر .
۱ ۹۱۰		* خربتبرط : رگ بہ خربوت .
۲ ۹۱۰		* خردار : ایرانی شمسی سال کا تیسرا مہینہ .
۲ ۹۱۰		* خراز : ابو سعید بن عباسی ، ایک آزاد منس صوفی بزرگ (م ۵۲۸۶/۴۸۹۹) .
۱ ۹۱۱		* خرم : متعدد افراد کا نام : (۱) سلطان سلیمان القانونی کی کنیز روکسلانہ اور اس کے تین بیٹوں کی ماں ؛ (۲) سلطان ابو سعید کے پوتے میرزا سلیمان کی بیوی (م ۱۵۸۹/۵۹۹۷) ؛ (۳) جرجان کا ایک بادشاہ ؛ (۴) مغل شہنشاہ شاہجہان (رگ بآن) کا اصلی نام ؛ (۵) شاہان مظفریہ کا ایک سپہ سالار (پہلوان خرم خراسانی) .
۱ ۹۱۱		* خرم آباد : صوبہ لورستان کا دارالحکومت .
۲ ۹۱۱		* خرمیہ : ہر خوشگوار شے کو مباح سمجھنے والا ایک لفظ ، منسوب بہ بابک خرمی .
۱ ۹۱۲		* خروہ : (قیراط کا مترادف) ، پہلی اور دوسری صدی ہجری کے مصری باٹ .
۱ ۹۱۳		* خرس آباد : موصل کے قریب اشوری آثار قدیمہ کے لیے مشہور ایک مقام .
۲ ۹۱۳		* خرطوم : سودان کا دارالحکومت .
۱ ۹۱۵		* خرفوش : رگ بہ خرفوش .
۱ ۹۱۶		* خرقہ : کپڑے کا پھٹا ہوا ٹکڑا یا موٹا جھوٹا اونی لبادہ ؛ ایک صوفیانہ اصطلاح .
۱ ۹۱۷		* خرقہ شریف : قسطنطنیہ میں محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرھن مبارک .
۱ ۹۱۷		* الخرقی : بہاء الدین ابو بکر محمد بن ابی بشر ، ایک عالم ہیئت ، منتهی الادراک فی تقسیم الافلاک اور التبصرۃ فی علم الہیئۃ کا مصنف (م ۱۱۳۸/۵۳۳۳-۱۱۳۹/۴۱۱۳۹) .
۱ ۹۱۸		* خرگوشی : ابو سعد (ابوسعید) عبدالملک بن محمد ایک مشہور واعظ اور زاہد ، مصنف تہذیب الاسرار (م ۵۳۳۹/۴۱۰۳۷) .
۱ ۹۱۹		* خرلخ : رگ بہ قارنق .
۲ ۹۱۹		* خزاعہ بن عمرو : جنوبی عرب میں ازد کا ایک قبیلہ .
۲ ۹۱۹		* الخزامی : خوشبودار پھولوں والا پودا .
۱ ۹۲۲		* خزالہ : رگ بہ بیت المال .
۲ ۹۲۲		* خزالہ عامرہ : رگ بہ بیت المال .
۲ ۹۲۲		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۹۲۲		* خَزَر: بلغار سے تعلق رکھنے والی ایک حکمران قوم۔
۱ ۹۲۸		* الخَزْرَج: مدینہ منورہ کے دو بڑے انصاری قبیلوں میں سے ایک۔
		* الخَزْرَجی: ضیاء الدین ابو الحسن علی بن محمد الخَزْرَجی الساعدی (۵۹۰/۱۱۹۳ء تا ۶۲۶/۱۲۲۸-۱۲۲۹ء یا ۶۵۰/۱۲۵۲-۱۲۵۳ء)، ماہر علم عروض اور مصنف الرامزة الشافیہ فی علم العروض والقافیہ۔
۲ ۹۳۰		* خُسْرُو: (خُسْرُو، خُسْرُو)، رگ بہ (۱) انوشروان؛ (۲) کسری۔
۱ ۹۳۱		* (امیر) خُسْرُو دہلوی: (۶۵۱/۱۲۵۳ء تا ۷۲۵/۱۳۲۵ء)، پاک و ہند کے عظیم المرتبت عالم، صوفی، شاعر، موسیقی دان اور متعدد کتابوں کے مصنف۔
۲ ۹۳۱		* خسروویگ: الملقب بہ غازی خسرو، بوسنہ کا ایک والی (م ۹۳۸/۱۵۳۲ء)۔
۲ ۹۳۳		* خسرو پاشا: ترکیہ کے دو صدر اعظم: (۱) خسرو پاشا بوسنوی (م ۱۰۳۱/۱۶۳۲ء)، بعہد سلطان مراد چہارم؛ (۲) محمد خسرو پاشا، بعہد سلطان محمود دوم و سلطان عبدالمجید اول۔
۲ ۹۳۵		* خسرو سلطان: (۹۹۶/۱۵۸۷ء تا ۱۰۳۲/۱۶۲۲ء)، شہنشاہ جہانگیر کا بڑا بیٹا۔
۲ ۹۳۰		* خسرو شاہ: رگ بہ غزنویہ۔
۲ ۹۳۰		* خسرو فیروز: الملک الرحیم ابو نصر بن ابی کالیجار بویہی، امیر عراق (م ۱۰۳۵/۱۰۵۸-۱۰۵۹ء)۔
۲ ۹۳۰		* خسرو ملک: رگ بہ غزنویہ۔
۲ ۹۳۱		* خسرو (ملا): دولت عثمانیہ کا مشہور فقیہ، مصنف درر الحکام (م ۸۸۵/۱۳۸۰ء)۔
۲ ۹۳۱		* خسوف: رگ بہ کسوف۔
۲ ۹۳۲		* الخَشَبَات: عبادان کے قریب خلیج فارس میں روشنی کا مینار۔
۱ ۹۳۳		* خَشَبِيَه: کوفہ میں المختار کے لائھیوں سے مسلح موالی کا اہانت آمیز نام۔
۲ ۹۳۳		* الخَصِيْبِي: ابو بکر الحسن بن الخصیب (الفارسی الکوفی)، ایک مشہور ایرانی الاصل عرب منجم اور مصنف کتاب المغنی فی الموالید۔
۱ ۹۳۵		* الخَصِيْبِي: ابو العباس احمد بن عبیداللہ بن احمد بن الخصیب، ایک عباسی وزیر (از ۹۲۵/۵۳۱۳ء تا ۹۲۷/۵۳۱۳ء؛ م ۹۳۰/۵۳۲۸ء)۔
۲ ۹۳۵		* خِضْر: رگ بہ الخضر۔
۱ ۹۳۶		* خِضْرِيْگ: (۸۱۰/۱۳۰۷ء تا ۸۶۳/۱۳۵۸-۱۳۵۹ء)، ایک عثمانی عالم، شاعر اور قسطنطنیہ کا قاضی القضاة۔
۱ ۹۳۶		* خِضْر خان: سید، فرمانرواے دہلی اور خاندان سادات (از ۱۳۱۳ء تا ۱۳۵۱ء) کا بانی (م ۸۲۵/۱۳۲۱ء)۔
۱ ۹۳۷		* الخِضْر: (خضر)، صوفیہ کے ہاں ایک مشہور بزرگ شخصیت کا لقب۔
۱ ۹۳۸		

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۹۵۱	* خَطَا : غلطی ؛ ایک اسلامی و فقہی اصطلاح .	
۲ ۹۵۲	* خَطَائِي : شاہ اسماعیل صفوی کا تخلص .	
۱ ۹۵۳	*⊗ الخُطْبَةُ : وعظ و نصیحت کی تقریر ؛ ایک معروف اصطلاح .	
۲ ۹۶۰	*⊗ خَطَّ : تحریر و کتابت ؛ فن خطاطی کی ایک اصطلاح .	
۱ ۹۶۷	* خَطَّ شَرِيف : رگ بہ خط ہمایوں .	
	* خَطَّ ہمایوں : (فرمان شہنشاہی) ، دولت عثمانیہ کی تنظیمی اصلاحات سے متعلق ایک خاص ضابطہ .	
۱ ۹۶۷	* الخَطَّ : خلیج فارس پر واقع ایک ساحلی علاقہ .	
۱ ۹۶۸	* الخَطَّايِيہ : انتہا پسند (غلاة) شیعویوں کا ایک فرقہ .	
۱ ۹۶۹	* خَطِيئَةُ : خطا کرنے کے مفہوم میں ایک قرآنی و اسلامی اصطلاح .	
۱ ۹۷۰	* خَطِيب : خطبہ دینے والا ، فصیح البیان مقرر .	
۱ ۹۷۱	* الخَطِيب البَغْدَادِي : ابو بکر احمد بن علی بن ثابت (۵۳۹۲/۱۰۰۲ء تا ۵۳۶۳/۱۰۷۱ء) ، مشہور فقیہ ، واعظ ، مؤرخ اور مصنف تاریخ بغداد (۱۴ جلدیں) .	
۱ ۹۷۶	* خَفَاجَه (بنو) : قبیلہ ہوازن کے بنو عقیل کی ایک شاخ .	
۲ ۹۷۸	* الخَفَاجِي : شہاب الدین احمد بن محمد المصري الحنفی (۵۹۷۹/۱۵۷۱ء تا ۶۱۰۶۹/۱۱۰۶ء) ، مشہور فقیہ اور مفسر ، مصنف عناية القاضي شرح تفسیر البيضاوی .	
۱ ۹۸۱	*⊗ خَفِيف : ایک بحر کا نام ؛ علم عروض کی ایک اصطلاح .	
۱ ۹۸۳	*⊗ خَكَرندوی غوری : پشتو کا ایک قدیم قصیدہ گو شاعر (حیات ۵۵۸/۱۱۸۳ء تا ۶۰۰/۱۲۰۳ء) .	
۱ ۹۸۶	* خِلَافَت : (جانشینی) ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ؛ ایک معروف اسلامی اصطلاح .	
۱ ۹۸۷	* خِلَال : رگ بہ سواک .	
۲ ۱۰۱۱	* خَلِج : (قلج) ، چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کے قریب سیستان اور ہندوستان کے درمیان آباد ایک قدیم ترکی قبیلہ .	
۲ ۱۰۱۱	* خَلِجِي : ترکستان سے آکر مغربی افغانستان میں آباد ہونے والا ایک ترکی قبیلہ .	
۲ ۱۰۱۲	* خَلِجِي یا خَلِجِي : دہلی کا ایک شاہی خاندان (از ۵۶۸۹/۱۲۲۹ء تا ۵۷۲۰/۱۳۲۰ء) .	
۱ ۱۰۱۳	* خَلِجِي : (خَلِجِي) ، مالوے کا ایک حکمران خاندان (از ۵۸۳۰/۱۳۳۶ء تا ۵۹۳۸/۱۵۳۱ء) .	
۲ ۱۰۱۳	* خَاخَال : (پازیب) ؛ آذربائیجان میں ایک مقام .	
۱ ۱۰۱۶	* خَلِجَه : منگولیا کی ایک جھیل اور اس سے نکلنے والا ایک دریا .	
۲ ۱۰۱۶	* خُلَاط : رگ بہ خلوط .	
۱ ۱۰۱۷		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۰۱۷		* خَلْعَة : بادشاہ کی طرف سے کسی کو عطا کیے جانے والا اعزازی لباس .
۱ ۱۰۱۸		* خَلْف بن عبدالملک : رگ بہ ابن بشکوال .
۱ ۱۰۱۸		* خَلْق : مخلوق کے مفہوم میں ایک قرآنی اور فلسفیانہ اصطلاح .
۱ ۱۰۲۳		* خُلُق : رگ بہ اخلاق .
۱ ۱۰۲۳		* خُلْم : بلخ سے بدخشاں کو جانے والی سڑک پر واقع ایک مقام .
۲ ۱۰۲۳		* خَلْوَة : خلوتی ، خلوتیہ وغیرہ ؛ رگ بہ تصوف .
۲ ۱۰۲۳		* خَلُوط : شمال مغربی مراکش کا ایک عرب قبیلہ .
۱ ۱۰۲۵		* خَلِيفَة : رگ بہ (۱) خلافت ؛ (۲) ریاست .
۱ ۱۰۲۵		* خَلِيفَة شاه محمد : مجموعہ خطوط فارسی جامع القوانین یا انشائے خایفہ کا مصنف (تصنیف ۱۰۸۵ / ۱۶۷۳-۱۶۷۵ء) .
۱ ۱۰۲۵		* خَلِيل : الملک الاشرف صلاح الدین ، سلطان قلاوون کا دوسرا بیٹا اور اس کا جانشین (از ۶۸۹ / ۱۲۹۰ء تا ۶۹۳ / ۱۲۹۳ء) .
۱ ۱۰۲۶		* خلیل بن اسحاق : بن موسیٰ بن شعیب المعروف بہ ابن الجندی ، مصر کے مالکی فقیہ اور مصنف التوضیح وغیرہ (م ۵۷۷ / ۱۱۷۷ء) .
۱ ۱۰۲۷		* خلیل آفندی زادہ : محمد سعید آفندی ، سلطان محمد اول کے زمانے کا نامور عالم اور ادیب (م ۱۱۶۸ / ۱۷۵۳ء-۱۷۵۵ء) .
۲ ۱۰۲۷		* خَالِیل اللہ : رگ بہ ابراہیم .
۲ ۱۰۲۷		* خَلِيل پاشا : ترکی کے تین وزراء اعظم : (۱) جندری خلیل ، بعہد مراد ثانی ؛ (۲) قیصریلی خلیل ، بعہد احمد اول و مراد رابع (م ۱۰۳۹ / ۱۶۲۹ء) ؛ (۳) ارناؤد (ارناؤود) خلیل ، بعہد احمد سوم (م ۱۱۳۶ / ۱۷۲۳-۱۷۲۴ء) .
۱ ۱۰۳۱		* خَلِيل سلطان : (۵۸۷۶ / ۱۳۸۳ء تا ۵۸۱۳ / ۱۴۱۱ء) ، تیموری خاندان کا ایک حکمران (از ۵۸۰۷ / ۱۴۰۳ء تا ۵۸۱۲ / ۱۴۰۹ء) .
۲ ۱۰۳۲		* الخَلِيل : جنوبی فلسطین کا ایک شہر .
۱ ۱۰۳۳		* الخَلِيل بن احمد : ابو عبدالرحمن الخلیل (۵۱۰۰ / ۱۱۰۸ء تا ۵۱۷۰ / ۱۱۷۶ء) ، مشہور عرب نحوی اور لغوی ، مصنف کتاب العین وغیرہ) .
۲ ۱۰۳۵		* خَلِيلِي : ایک عثمانی شاعر اور صوفی (م ۵۸۹۰ / ۱۴۸۵ء) .
۱ ۱۰۳۶		* خَمَارِيَه : بن احمد بن طولون ، مصر کا ایک حکمران (م ۵۲۸۲ / ۱۱۹۶ء) .
۲ ۱۰۳۸		* خُمْبِرَة جی : (توپچی ، گولہ انداز) ، باقاعدہ ترکی فوج کا ایک دستہ .
۱ ۱۰۳۹		* خَمْر : شراب ، ایک نشہ آور ممنوع مشروب .
۵ ۱۰۴۲		* خُمْر : رگ بہ خمیر .
۱ ۱۰۴۲		* خَمْس : پانچواں حصہ ؛ ایک اسلامی مالیاتی اصطلاح .

جلد ۹

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱	۱	* خَمْسَة : پانچ مثنویوں کے مجموعے کے لئے فارسی اصطلاح .
۲	۱	* خَمْسَة : (ولایات خَمْسَة ، یعنی پانچ شہروں پر مشتمل)، ایران کا ایک صوبہ (صدر مقام : زنجان) .
۱	۲	* خُمیر : بحیرہ روم کے جنوب اور الجزائر کے مشرق میں واقع شمالی تونس کے علاقہ خمیریہ کے باشندے .
۱	۳	* الخَمِيَّة : (عربی لفظ العَجْمِيَّة کی ہسپانوی صورت)، جزیرہ نما آئیبریہ کے شمالی ہمسایوں کی مختلف لاطینی نژاد بولیوں کے لئے اندلسی مسلمانوں کی اصطلاح .
۲	۶	⊙ خَنْدَق : (۱) زمین کا وہ حصہ جو کسی شہر یا پڑاؤ کے ارد گرد حفاظت کی غرض سے کھودا جائے ؛ (۲) ایک مشہور غزوہ (۵۵) .
۱	۱۱	⊙ الخَنْدَق : اندلس میں متعدد مقامات .
۲	۱۱	* خَنْسَا : (یا خَنْسَا) ، چین کا ایک شہر ، سنگ خاندان کا دارالحکومت .
۱	۱۲	* الخَنْسَاءُ : تماضیر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید ، عرب کی مشہور ترین مرثیہ گو شاعرہ اور صحابیہ (م ۵۲۴/۶۴۵ء) ،
۱	۱۳	⊙ خواجہ کرمانی : کمال الدین ابوالعطا محمود (۵۶۷/۶۲۸ء تا ۵۷۲/۶۳۱ء یا ۵۷۳/۶۳۵ء) ، ایران کا ایک نامور شاعر .
۱	۲۰	* ⊙ خواجہ : ایک کثیر الاستعمال اعزازی لقب .
۱	۲۱	* خواجہ اجمیری : رگ بہ چستی .
۱	۲۱	* ⊙ خواجہ خِضَر : (یا خِضَر) ، ایک روایتی بزرگ شخصیت .
۲	۲۲	* ⊙ خوارزم : یا خیوہ ؛ آمو دریا کی زبیریں گزرگاہ پر واقع ایک قدیم ملک اور اس کا دارالسلطنت (اب اشتراکی جمہوریہ ترکستان کا حصہ) .
۱	۳۱	* خوارزم شاہ : خوارزم کے فرمانروا کا لقب .
۲	۳۳	* خوارزمی : ابو عبداللہ محمد بن احمد بن یوسف ، مسلمانوں کے قدیم ترین دائرۃ المعارف مفاتیح العلوم کا مصنف (م ۳۸۷/۹۹۷ء) .
۱	۳۵	* الخوارزمی : ابو عبداللہ (ابو جعفر) محمد بن موسیٰ ، ماہر فلکیات و ریاضیات اور مؤرخ ، مصنف حساب الجبر والمقابلہ وغیرہ (م ۵۲۳/۸۳۴ء یا بعد از ۵۲۳/۸۳۶ء) .
		* خواند امیر : غیاث الدین بن خواجہ ہمام الدین ، ایک ایرانی مؤرخ اور خلاصۃ الاخبار ،

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۸		حَبِيب السَّيْرِ وغيره کا مصنف (م نواح ۸۹۴۲/۴۱۵۳۵)۔
۱ ۴۰		* خوتین : (Chocim) ، بسریا کے ایک ضلع کا صدر مقام۔
۱ ۴۰		* خوجہ : برعظیم پاک و ہند میں اسماعیلیوں کی نزاری شاخ سے متعلق اور آغا خانی مسلمانوں کا ایک فرقہ۔
۲ ۴۲		* خوجہ الندی : سعد الدین بن حسن جان بن حافظ جمال الدین الاصفہانی ، شیخ الاسلام (۸۹۴۳/۱۵۳۶-۱۵۳۷ تا ۸۱۰۰۹/۴۱۵۹۹) ، اور مشہور ترکی مؤرخ، مصنف تاج التواریخ وغیرہ۔
۲ ۴۳		* خوجہ ایلی : رگ بہ قوجہ ایلی۔
۲ ۴۳		* خورشید دوم : طبرستان کا اسپہبد اور خاندان جیلان شاہ کا آخری امیر (از ۸۱۲۲/۴۲۴ تا ۴۲۷/۸۱۵۰)۔
۲ ۴۵		* الخورلق : نجف سے ایک میل مشرق میں عراق عرب کا ایک مقام۔
۱ ۴۶		* خورباں موریان : عرب کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی خلیج میں جزیروں کا ایک مجموعہ۔
۲ ۴۷		* خوزستان : ایران کا ایک صوبہ ؛ عربوں کی اکثریت کے باعث عربستان کے نام سے موسوم۔
۱ ۴۹		* خوست : تین مقامات ، دو افغانستان میں اور تیسرا بلوچستان (پاکستان) میں۔
۲ ۴۹		* خوسم : رگ بہ خوتین۔
۲ ۴۹		* خوشحال خاں خٹک : بن شہباز خاں بن یحییٰ خاں بن ملک اکوڑی ، پٹھالوں کے قبیلہ خٹک کا سردار (۸۱۰۲۲/۴۱۶۱۳ تا ۸۱۱۰۰/۴۱۶۸۹) ، پشتو کا عظیم شاعر اور بطل۔
۱ ۵۳		* خوش قدم : (خُشقدم) ، الملک الظاہر ابو سعید سیف الدین الناصری ، مصر اور شام کا سلطان (از ۸۸۶۵/۴۱۳۶۱ تا ۸۸۷۲/۴۱۳۶۷)۔
۱ ۵۵		* خولند : قرغانہ کا ایک قدیم شہر ، ازبک سلطنت کا صدر مقام ، آجکل روس میں شامل۔
۲ ۵۹		* خولان : (۱) جنوبی عرب کا ایک قدیم قبیلہ ؛ (۲) دمشق کے قریب ایک گاؤں۔
۲ ۶۱		* الخونجی : افضل الدین محمد بن ناماور بن عبدالملک الشافعی (۸۵۹۰/۱۱۹۳-۱۱۹۴ تا ۸۶۴۶/۴۱۲۴۹) ، مشہور مسلمان حکیم و طبیب اور طب و منطق پر متعدد کتابوں کا مصنف۔
۱ ۶۲		* خوی : ایران کے صوبہ آذربائیجان کا ایک شہر۔
۲ ۶۲		* خیار : کسی اقرار یا اعلان یا سودے کے واپس لے لینے کا اختیار ؛ ایک معروف فقہی اصطلاح۔
۲ ۶۲		* خیال : سید محمد تقی جعفری حسینی ، ایک ضخیم فارسی داستان بوستان خیال (تصنیف

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۶۳	* خیال ظَل : نیز ظَل خیال ، یعنی پرچھائیوں کا نائک .	۱۱۶۹/۵۱۷۵ (۱۷۵۵ء) کا مصنف .
۲ ۶۳	* خیالی : محمد بے بکارمسی ، سلیمان اعظم کے عہد کا ایک اہم شاعر (م ۵۹۶۴/۱۵۵۷-۱۵۵۷ء) .	
۲ ۶۵	⊗ خیبر : مدینہ منورہ کے شمال میں ایک نخلستان اور ایک مشہور غزوے کا محل وقوع .	
۲ ۶۶	⊗* خیبر ، درہ : پاکستان اور افغانستان کے درمیان شمالی راستہ .	
۲ ۷۲	⊗* خیبر آباد : اتر پردیش (بھارت) کے ضلع سیتا پور کا ایک قصبہ .	
۱ ۷۵	* خیراللہ افندی : ایک اہم ترکی مؤرخ ، فقیہ ، معزز سرکاری عہدیدار اور مصنف	
۱ ۷۶	دولۃ عالیہ عثمانیہ تاریخی (م ۱۲۸۳/۵۱۸۶۶) .	
۲ ۷۷	* خیر پور : صوبہ سندھ (پاکستان) کی ایک قسمت اور ضلع اور اس کا صدر مقام .	
۲ ۷۷	* خیر الدین (بربروسہ) : (۵۸۸۸/۱۴۸۳ء تا ۵۹۵۳/۱۵۴۶ء) ، مشہور ترکی امیر البحر اور الجیریا کا بیگلر بیگی .	
۲ ۷۸	* خیر الدین : سلطان با بزید ثانی کے عہد (۵۸۸۶/۱۴۸۱ء تا ۵۹۱۸/۱۵۱۲ء) کا ایک اہم ترکی ماہر فن تعمیر .	
۱ ۸۳	* خیر الدین پاشا : سلطان عبدالحمید ثانی کے زمانے کا ایک چرکسی مدبر اور وزیر اعظم	
۱ ۸۳	(م ۱۳۰۷/۵۱۸۸۹) .	
۲ ۸۳	* خیر الدین پاشا : رگ بہ (۱) چندرہ لی : (۲) چندرہ لی .	
۲ ۸۳	* خیوہ : رگ بہ خوارزم .	
۲ ۸۳	* الخیاط : یحییٰ بن غالب ، ابو علی (Albohali) ، ایک عرب منجم اور ہیئت دان اور مصنف سِرّ العمل وغیرہ (م مابین ۵۲۱۰/۸۲۵ء و ۵۲۳۰/۸۲۴ء) .	

د

۱ ۸۷	* د : (دال) ، عربی حروف تہجی کا آٹھواں ، فارسی کا دسواں ، اردو کا سترہواں اور ہندی کا اٹھارہواں حرف .
۱ ۸۸	* دَابَّة : زمین پر آہستہ آہستہ چلنے والا ہر جانور ، بالخصوص قُرْبِ قیامت کے وقت زمین سے نکلنے والے ایک جانور کے ایک قرآنی اصطلاح .
۱ ۹۰	* دابق : شمالی شام کے علاقہ عزاز میں ایک مقام .

صفحہ نمبر	عنوان
۲ ۹۰	* دابوہ : (دابوی)، گیلان (رگ باں) کے خاندان دابوہ کا بانی (از ۵۴۰/۶۶۰ تا ۵۵۶/۶۷۶)۔
۲ ۹۱	* داتا گنج بخش : ابو الحسن علی ہجویری بن عثمان بن علی یا بو علی (نواح ۵۴۰/۶۰ تا ۵۱۰/۶۰) ، ہندوستان کے مشہور بزرگ ولی اور مصنف کشف المحجوب وغیرہ۔
۱ ۹۷	* الدآخل : رگ بہ عبدالرحمن الاول القرطبی۔
۱ ۹۷	* دار : گھر ؛ فن تعمیر کی ایک معروف اصطلاح۔
۲ ۱۰۲	* دار الاسلام : اسلامی ریاست ، ایک معروف فقہی و اسلامی اصطلاح۔
۲ ۱۰۳	* الدار البیضاء : (کاسا بلانکا Casablanca) ، مراکش کا ایک بڑا شہر۔
۱ ۱۰۷	* دار الترجمہ : جامعہ عثمانیہ ، حیدر آباد دکن کے تحت ایک شعبہ۔
۲ ۱۰۸	* دارالجهاد : رگ بہ (۱) جہاد ؛ (۲) دار الحرب۔
۲ ۱۰۸	* دار الحدیث : حدیث پڑھانے کے لیے مخصوص ادارے۔
۱ ۱۱۰	* دار الحرب : لڑائی کی جگہ یا سرزمین جنگ ، اصطلاحاً دشمنان اسلام کا وہ ملک یا علاقہ جس کے باشندے دعوت اسلام کو مسترد کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سرکشی کریں۔
۲ ۱۱۲	* دار الحکمة : علمی اداروں کے لیے ایک عام اصطلاح ،
۲ ۱۱۲	* دارالسلام : بمعنی امن کی جگہ ؛ بہشت ، نیرباد کا ایک نام
۱ ۱۱۳	* دارالسلام : (سواحلی صحت افزا اور خوشگوار شہر) ، تنزانیہ کی بڑی بندر گاہ۔
۱ ۱۱۳	* دارالشفاء : رگ بہ بیمارستان۔
۱ ۱۱۳	* دارالصلح : فقہائے اسلام کے نزدیک مسلمانوں کے امام یا حکمران کے ساتھ معاہدہ صلح کرنے والے علاقے اور ممالک۔
۱ ۱۱۶	* دار الصناعة : (نیز دارالصنعة) ، صنعت و حرفت کی جگہ یا کارخانہ ، بالخصوص اساعہ کی صنعت اور اسلامی ممالک میں اس کا ارتقا۔
۱ ۱۲۰	* دار الصنعة : رگ بہ دارالصناعة۔
۱ ۱۲۰	* دار الضرب : ٹکسال اور اسلامی عہد میں ٹکسالی نظام۔
۲ ۱۲۹	* دار الطراز : رگ بہ طراز۔
۲ ۱۲۹	* دار العلم : مشرقی بلاد اسلامیہ میں قائم ہونے والے متعدد کتاب خانے یا علمی ادارے۔
۱ ۱۳۱	* دارالعلوم : مدرسہ و مکتب ، بالخصوص اعلیٰ تعلیم کے لیے برعظیم پاک و ہند کی متعدد دینی درسگاہیں۔
۱ ۱۳۳	* دارالعہد : امام وقت یا اس کے نائب کے ساتھ بعض شرائط پر امن و صلح کا معاہدہ کرنے والے علاقے یا ملک کے لیے فقہی اصطلاح۔
۱ ۱۳۳	* دارالفنون : رگ بہ جامعہ۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۱۳۴		* دارالمحفوظات العمومية : حکومت مصر کا سرکاری محافظ خانہ .
۱ ۱۳۵		⊗ دارالمصنفین : اعظم گڑھ (بھارت) میں مسلمانوں کا ایک علمی و تحقیقی ادارہ (قیام ۱۹۱۵ء).
۲ ۱۳۸		* دارالندوة : آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے پیشتر اور آپ کے عہد میں مکہ معظمہ میں ایک قسم کی شہری جلسہ گاہ .
۱ ۱۳۹		* دارفور : ایک سابق اسلامی ریاست اور آج کل جمہوریہ سودان کا ایک صوبہ .
۲ ۱۴۷		* الدارقطنی : ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی الشافعی (۶۰۶/۵۳۰ تا ۸۵/۵۳۸) ایک نامور محدث ، امیر المؤمنین فی الحدیث ، مصنف السنن ، کتاب علل الحدیث وغیرہ .
۲ ۱۴۹		* دارا : (داراب ، داریوش) ، ایران کا مشہور ہخامنشی بادشاہ .
۱ ۱۵۲		* دارابجرد : (داراب) ، ایران میں صوبہ فارس کے ضلع فسا کا ایک شہر .
۲ ۱۵۲		* دارابخت : رگ بہ بہادر شاہ ثانی .
۲ ۱۵۲		* دراشکوه : (۲۴/۵۱ تا ۶۹/۵۱ تا ۶۵۹/۵۱) ، مغل شہنشاہ شاہجہاں کا سب سے بڑا بیٹا اور مصنف سفینۃ الاولیاء وغیرہ .
۱ ۱۵۵		* دارم : رگ بہ تمیم .
۱ ۱۵۵		* الدارمی : ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن التیمی السمرقندی (۸۱/۵۱ تا ۸۷/۵۲) مشہور محدث اور مفسر ، مؤلف المسند الجامع (سنن دارمی) .
۲ ۱۵۵		* داروغہ : مغل سلاطین کے جاگیرداری نظام میں ایک سردار ، نیز عامل شہر ، صدر محرر ، تہانیدار وغیرہ .
۱ ۱۵۸		* الداروم : فلسطین میں ساحل بحر کے قریب ایک مسطح میدان ، نیز صلیبی محاربات میں ایک قلعہ .
۲ ۱۵۸		* داعی : سواد اعظم سے الگ دعوت دینے والے فرقوں کے بڑے بڑے مبلغین .
۱ ۱۶۰		* داعی : احمد بن ابراہیم ، آٹھویں - نویں صدی ہجری کا ایک ترکی شاعر (حیات ۸۲۳/۵۱ تا ۳۲۱/۵۱) .
۱ ۱۶۲		⊗ داغ : نواب میرزا خان (۳۶/۵۱ تا ۳۲۲/۵۱ تا ۹۰۵/۵۱) ، اردو کے ممتاز صاحب طرز شاعر .
۲ ۱۶۵		* داغستان : (پہاڑوں کی سرزمین) ، ایک سوویت سوشلسٹ جمہوریہ .
۲ ۱۷۳		* دام : رگ بہ سکہ .
۲ ۱۷۳		* داماد : ایک معروف عوامی اصطلاح ، ترکیہ کے عثمانی سلاطین کی بیٹیوں کے شوہروں کا لقب .
		* الداماد : میر محمد باقر بن شمس الدین الحسینی امیر آبادی ، المعلم الثالث ، علوم عقلیہ و نقلیہ کا ماہر ، فلسفی ، شاعر اور مصنف الافق المبین وغیرہ (م ۳۰/۵۱) .

صفحہ عمود	عنوان
۲ ۱۷۵	داماد فرید پاشا : محمد فرید بن حسن عزت (۱۲۶۹/۱۸۵۳ء تا ۱۳۴۲/۱۹۲۳ء)، سلطنت عثمانیہ کا آخری وزیر اعظم .
۲ ۱۷۹	دامغان : تہران اور مشہد کے درمیان ایران کا ایک قدیم تاریخی شہر .
۱ ۱۸۱	دانشگاہ : رگ بہ جامعہ .
۱ ۱۸۱	دانشمندیہ : پانچویں - چھٹی صدی ہجری/گیارہویں - بارہویں صدی عیسوی میں شمالی قیادوکیہ (Cappadocia) کا حکمران ترکمان خانوادہ؛ بانی: امیر دانشمند (م ۳۹۷/۱۱۰۴ء).
۲ ۱۸۳	دالوق : (داناق)، رگ بہ سیکہ .
۲ ۱۸۳	الدالی : ابو عمرو عثمان بن سعید بن عمر الاموی (۳۷۱/۹۸۱ء تا ۴۴۴/۱۰۰۳ء) کا مؤلف .
۲ ۱۸۳	دالیہ : مالکی فقیہ اور فن قراءت کی اہم کتاب التیسیر فی القراءات السبع .
۲ ۱۸۳	دانیال : ایک قدم اسرائیلی صاحب کشف و تعمیر پیغمبر .
۲ ۱۸۳	دانیال : (۱۵۷۱/۱۵۷۹ء تا ۱۶۰۵/۱۶۰۳ء) مغل شہنشاہ اکبر کا سب سے چھوٹا اور چھپتا بیٹا .
۲ ۱۸۵	دانیہ : (Denia)، ہسپانیہ کے صوبہ القنت (Alicante) کے ایک شمال مشرقی ضلع کا صدر مقام .
۲ ۱۸۵	داؤد علیہ السلام : بنی اسرائیل کے اولوالعزم پیغمبر، ان کے حکمران اور صاحب کتاب (زبور) نبی .
۱ ۱۸۸	داؤد بن عبداللہ : بن ادريس الفطانی ، ملایا میں سلسلہ شطاریہ کا ایک مصنف (حیات کتاب (زبور) نبی .
۱ ۱۹۰	داؤد بن علی بن خلف : الاصفہانی ، ابو سلیمان نواح (۲۰۲/۸۱۸ء تا ۲۷۰/۸۸۳ء)، فرقہ ظاہریہ یا داؤدیہ کا امام فقہ .
۱ ۱۹۰	داؤد الطائی : رگ بہ الانطائی .
۱ ۱۹۲	داؤد پاشا : (۱۱۸۱/۱۷۶۷ء تا ۱۲۶۷/۱۸۵۱ء)، ترکی عراق کا آخری مملوک حکمران .
۲ ۱۹۲	داؤد پاشا : (۱۲۳۱/۱۸۱۶ء تا ۱۲۹۲/۱۸۷۵ء)، ایک ارمنی کیتھولک اور کوہ لبنان کا پہلا عثمانی متصرف یا گورنر (از ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۸ء) .
۲ ۱۹۳	داؤد پاشا : قوجہ ، درویش ، ایک عثمانی صدر اعظم (م ۳۹۸/۱۳۹۸ء) .
۲ ۱۹۳	داؤد پاشا ، قرا : ایک عثمانی صدر اعظم (م ۳۲۳/۱۶۲۳ء) .
۲ ۱۹۵	داؤد پوترے : سندھ کے کلہوڑا حکمرانوں کا ہم جد اور حریف قبیلہ، جس سے بہاول پور کے عباسی حکمران متعلق تھے .

- * داؤد خان گورانی : شیر شاہ کے ماتحت والی بنگال سلیمان کررانی کا چھوٹا بیٹا اور کچھ عرصے کے لیے بنگال کا خود مختار حکمران (م ۱۵۷۶/۵۹۸۳ء)۔
- ۲ ۲۰۰
- * داور : رگ بہ زمین داور ، در اور ، لائن ، بار دوم ۔
- ۱ ۲۰۲
- * داہومی : (Dahomey) ، ٹوگو لینڈ اور نائیجیریا کے مابین خلیج گنی پر واقع ایک قدیم معروف ملک۔
- ۱ ۲۰۱
- * دای : (ترکی : ماموں) ، ایک اعزازی لقب ، الجزائر اور تونس کے سلطان کے نائبوں کے لیے سرکاری اصطلاح ۔
- ۱ ۲۰۳
- * الدب : رگ بہ علم (نجوم)۔
- ۱ ۲۰۵
- * الدبہ : شمال مشرقی عرب میں ایک وسیع کنکریلا میدان۔
- ۱ ۲۰۵
- * دبدو : (Debdau) ، مشرقی سرائی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ۔
- ۱ ۲۰۶
- * دبرولق : رگ بہ رغوسہ ۔
- ۲ ۲۰۷
- * دبستان مذاہب : ۱۶۵۳/۵۱۰۶۳ اور ۱۶۵۷/۵۱۰۶۷ کے مابین لکھی گئی مذاہب عالم کے عنوان پر ایک فارسی کتاب۔
- ۲ ۲۰۷
- * دبیر : مرزا سلامت علی - لکھنوی (۱۸۰۳/۵۱۲۱۸ تا ۱۸۷۵/۵۱۲۹۲ء) ، ایک نامور اردو مرثیہ گو۔
- ۲ ۲۰۸
- * دبیس : رگ بہ مزیدی (خاندان)۔
- ۲ ۲۱۰
- * دبیق : (دبقہ ، دبقو) ، دمیاط کے نواح میں ایک مقام اور منبت کاری اور پارچہ بافی کا مرکز ۔
- ۲ ۲۱۰
- * دبیل : رگ بہ دوین ۔
- ۱ ۲۱۱
- * دبی : (دبئی) ، خلیج فارس پر ایک بندرگاہ اور ریاست۔
- ۱ ۲۱۱
- * دپلوماسیا : رگ بہ (۱) ایچی ؛ (۲) سفیر ؛ (۳) معاہدہ ۔
- ۱ ۲۱۳
- * دقینہ : جنوبی عرب کا ایک قدیم ضلع۔
- ۱ ۲۱۳
- * دجاجہ : گھریلو مرغی۔
- ۲ ۲۱۳
- ⊙ الدجال : (عربی : حقیقت کو چھپانے والا ، سب سے بڑا دھوکے باز اور چالباز) ، آخری دور میں رونما ہونے والا ایک جھوٹا جعل ساز ، مسیح الدجال۔
- ۱ ۲۱۵
- * دجلہ : عراق کے دو دریاؤں میں سے مشرقی دریا کا نام۔
- ۱ ۲۱۷
- * دجیل : رگ بہ کارون۔
- ۲ ۲۲۱
- * دہشور : صوبہ جیزہ (مصر) میں اہرام کی وجہ سے مشہور ایک گاؤں۔
- ۲ ۲۲۱
- * دحلان : سید احمد بن زینی ، شافعی جماعت کے مفتی ، شیخ العلماء اور متعدد کتب کے مصنف (م ۱۸۸۶/۵۱۳۰۳ - ۱۸۸۷ء)۔
- ۱ ۲۲۲
- ⊙ دحیہ : بن خلیفہ الکلبی ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامور صحابی ، مالدار

- تاجر اور مختلف بادشاہوں کی طرف آپ کے خصوصی پیام رساں۔
- ۱ ۲۲۳
- * دُخان : رک بہ تنن۔
- ۲ ۲۲۳
- ⊙ الدخان : قرآن مجید کی چوالیسویں سورہ۔
- ۲ ۲۲۳
- * دخیل : ایک لسانی اصطلاح : (۱) مہمان ؛ (۲) اجنبی ، راہی ، مسافر۔
- ۱ ۲۲۵
- * دَدَل اوغلو : (۱۷۹۰ تا ۱۸۷۰ء) ، انیسویں صدی عیسوی میں ترکی لوک شاعری اور داستان گوئی کا نمائندہ۔
- ۲ ۲۲۵
- * دِدو : (دیدو) ، پانچ چھوٹی چھوٹی آبییری - قفقازی مسلمان قوموں پر مشتمل ایک قوم۔
- ۲ ۲۲۶
- * ددہ : درویش فرقوں کے سربراہ کے لیے ”اتا“ اور ”بابا“ کے معنوں میں ایک تعظیمی اصطلاح۔
- ۲ ۲۲۷
- * ددہ آغاچ : (Alexanderopolis) ، بحر ایجہ کے ساحل پر تراکیہ (Thaace) کا ایک شہر۔
- ۱ ۲۲۸
- * ددہ سلطان : بورکلوچہ مصطفیٰ ، سلطان محمد اول کے عہد میں ایک مذہبی متشدد شخص ؛ رک بہ بدر الدین بن قاضی سمانہ۔
- ۲ ۲۲۸
- * ددہ لور قوت : بارہ ترکی کہانیوں کا مجموعہ اور غز رزمیہ داستانوں کا قدیم ترین نمونہ۔
- ۲ ۲۲۸
- * دَر : دروازہ یا پھاٹک ؛ ایک تعمیراتی اصطلاح۔
- ۱ ۲۳۰
- * دَر آہنین : لوہے کا دروازہ ؛ ایک تعمیراتی اصطلاح۔
- ۱ ۲۳۰
- * دَرَا : رک بہ دَرَعَد۔
- ۱ ۲۳۱
- * دراج : (Drac) ، البانیا کی سب سے بڑی ہندرگاہ۔
- ۱ ۲۳۱
- * دَرَب : رک بہ (۱) المدینہ ؛ (۲) باب۔
- ۲ ۲۳۲
- * دَرَبُ الْأَرَبِیْنَ : بلاد السودان کو شمال سے ملانے والا ایک بڑا راستہ۔
- ۲ ۲۳۲
- * دَرَبُکَہ : گلدان کی شکل کا ڈھول۔
- ۱ ۲۳۳
- * در بند : داغستان [رک بان] کا ایک شہر ؛ نیز رک بہ باب الابواب۔
- ۱ ۲۳۴
- * الدر جینی : ابو العباس احمد بن سعید ، اباضی فقیہ ، شاعر ، مؤرخ اور اباضیوں سے متعلق طبقات المشائخ کا مؤلف (حیات ۱۱۳۳/۵۶۳۳ - ۱۲۳۵ء)۔
- ۲ ۲۳۵
- * درد : سید خواجہ میر بن خواجہ محمد ناصر عندلیب (۱۱۳۲ - ۱۲۳۳/۵۱۱۳۳ - ۱۷۱۹ء)۔
- ۳ ۲۳۷
- * در دانیال : رک بہ چناق قلعه بوغازی۔
- ۱ ۲۳۹
- * دردستان : کوہ ہندو کش اور کاغان کے درمیان ایک علاقہ۔
- ۱ ۲۳۹
- * در دلی : ابراہیم (۱۱۸۶/۵۱۷۷۲ تا ۱۲۶۱/۵۱۸۳۵ء) ، ایک ترکی عوامی شاعر۔
- ۲ ۲۴۰
- * در دَوہ : مشرقی حبشہ میں بری اور فضائی مواصلات کا مرکز اور تجارتی شہر۔
- ۱ ۲۴۱
- ⊙ دردی اور کافری زبالیں : افغانستان ، پاکستان اور کشمیر میں ہند - آریائی لسانیاتی علاقے کے شمال مغربی کوہستانی گوشے میں بولی جانے والی

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۲۳۱		متعدد قدیم زبانیں اور بولیاں.
۱ ۲۳۶		* درّ دیرِیہ : سلسلہ خلوتیہ کی مصری شاخ ؛ نیز رگ بہ طریقہ.
۱ ۲۳۶		* الدرّ : سمندروں وغیرہ سے برآمد ہونے والا موتی.
۱ ۲۳۷		* درانی : سابقاً ابدالی ؛ ایک معروف افغان قبیلہ.
۲ ۲۳۸		* درّہ خیبر : رگ بہ خیبر ، درہ.
۲ ۲۳۸		* درّی زادہ : اٹھارہویں-انیسویں صدی عیسوی میں عثمانی علما اور شیوخ الاسلام کا ایک خاندان.
۲ ۲۵۱		* درّی زادہ : عبداللہ بے یا الفندی (۱۸۶۹ تا ۱۹۱۳ء) ، سلطنت عثمانیہ کا شیخ الاسلام.
۲ ۲۵۲		* درّزو : رگ بہ دراج.
۲ ۲۵۲		* الدرّزی : (الدرّزی) ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ، فرقہ دروز کا ایک بانی (م قبل از ۱۰۱۹/۵۳۱ - ۱۰۲۰ء).
۲ ۲۵۳		* درسم : مشرقی آناطولی کا ایک علاقہ.
۲ ۲۵۳		* درشن : (سنسکرت) ، ہندوستان میں بادشاہ کے رسمی طور پر رعیت کے سامنے آنے کا رواج .
۱ ۲۵۵		* درّعہ : رگ بہ آذرعات.
۱ ۲۵۵		* درّعہ : جنوبی مراکش کا ایک دریا.
۲ ۲۵۶		* الدرّعیہ : (الدرّعیہ) ، ریاض (سعودی عرب) کے شمال مغرب میں ایک نخلستان اور آل سعود کا سابق صدر مقام.
۱ ۲۵۸		* درّغن : داغستان میں ایک مسلم آئبیری قفقازی قوم.
۱ ۲۶۰		* درّقاوہ : اٹھارہویں صدی عیسوی میں شمالی مراکش کی ایک دینی برادری (بانی : ادریسی شریف مولای العربی الدرّقاوی).
۲ ۲۶۱		* درّکانی : گرچانی قبیلے کا ایک بلوچی خانوادہ.
۲ ۲۶۱		* درّگاہ : ایران میں شاہی دربار یا محل اور برعظیم پاک و ہند میں کسی پیر یا بزرگ کا مقبرہ.
۲ ۲۶۱		* درن : رگ بہ اطلس.
۲ ۲۶۱		* درّنہ : برقہ (Cyrenaica) کے شمالی ساحل پر ایک شہر.
۲ ۲۶۳		* الدرّوز : (واحد : الدرّزی) ، باطنی مذہب کے شامی النسل پیروکار ، شیعوں کے فرقہ اسماعیلیہ کی ایک شاخ.
۱ ۲۷۹		* الدرّوع : خانہ بدوش اباضی قبائل پر مشتمل ایک بڑا غافری قبیلہ.
۱ ۲۸۱		* درویش : باخدا اور بے نیاز شخص ؛ ایک صوفیانہ اصطلاح.
۲ ۲۸۱		* درویش ہاشا : سلطان سلیم ثانی اور مراد ثالث کے عہد کا ایک سرکاری عہدیدار اور پختہ کار شاعر (م ۱۰۱۲/۵۱۰ - ۱۶۰۳ء).

- * درویش پاشا : ترکیہ کا ایک صاحب عزم اور ماهر سیاست وزیر اعظم (۱۵۴۰/۵۱۰۱۵۴۰/۵۱۰۱۵۴۰)
- ۲ ۲۸۲ (۴۱۶۰۶)
- * درویش محمد پاشا : (نواح ۱۵۸۵/۵۹۹۳ تا ۱۵۶۵/۵۱۰۶۵ تا ۱۶۵۵/۵۱۰۶۵) ، ایک چرکسی نسل کا ترکی وزیر اعظم (از ۱۶۵۳/۵۱۰۶۳ تا ۱۶۵۴/۵۱۰۶۳)۔
- ۱ ۲۸۳
- * درویش محمد پاشا : (۱۱۴۲/۵۱۱۴۲ تا ۱۲۲۲/۵۱۱۹۱) ، ایک ترکی وزیر اعظم (از ۱۱۸۹/۵۱۱۸۹ تا ۱۲۲۲/۵۱۱۹۰)۔
- ۲ ۲۸۴
- * درویش محمد پاشا : (۱۱۲۸/۵۱۱۲۸ تا ۱۲۵۳/۵۱۱۲۸) ، ترکی وزیر اعظم (از ۱۲۳۳/۵۱۲۳۳ تا ۱۲۵۳/۵۱۲۵۳)۔
- ۱ ۲۸۵
- * درہ بیگی : (= درہ بے) ، بارہویں صدی ہجری/اٹھارہویں صدی عیسوی میں ایشیائے کوچک کے تقریباً خود مختار حکمران۔
- ۱ ۲۸۶
- * درہم : وزن کے ایک پیمانے اور ایک سکہ کا نام۔
- ۲ ۲۸۹
- * دری : ساسانی دربار کی سرکاری زبان۔
- ۲ ۲۹۲
- * دربار بیگی : (دریا بای یا افسر بحریہ) ، عثمانی بحریہ کے بعض کمانداروں کا خطاب۔
- ۲ ۲۹۳
- * دریالی شاہی : رگ بہ آرمیا۔
- ۲ ۲۹۴
- * درید بن الصمۃ : ایک قدیم عربی شاعر اور بنو جشم بن معاویہ کا سردار (ولادت نواح ۴۵۳)۔
- ۱ ۲۹۴
- * دزا : رگ بہ تبو (= تو بو)۔
- ۲ ۲۹۵
- * دز فول : ایران کے صوبہ خوزستان میں اسی نام کے ایک ضلع کا صدر مقام۔
- ۲ ۲۹۵
- * دسامی : Baron Silvestre de Sacy (۱۷۵۸ تا ۱۸۳۸) ، فرانس کا ایک مشہور اور ممتاز مستشرق۔
- ۱ ۲۹۸
- * دستان : رگ بہ حمایہ۔
- ۱ ۲۹۹
- * دستاویزات : سرکاری تحریرات ، وثائق ، وغیرہ۔
- ۱ ۲۹۹
- * دستجرد : ساسانی مملکت کی کئی بستیوں کا نام ؛ رگ بہ دسکرہ۔
- ۱ ۳۳۵
- * دستور : رگ بہ قانون اساسی۔
- ۱ ۳۳۵
- * الدستور : رگ بہ دفتر۔
- ۱ ۳۳۵
- * دستگرہ : عراق میں چار مقامات۔
- ۱ ۳۳۵
- * الدسوقی : برہان الدین ابراہیم بن ابی المجد عبدالعزیز ، معروف بہ ابو العینین (۵۶۳۳/۵۶۳۳ تا ۱۲۳۵ تا ۱۲۲۲/۵۶۲۶) ، سلسلہ دسوقیہ کا بانی اور مصنف الجواہر وغیرہ۔
- ۱ ۳۳۶
- * الدسوقی : ابراہیم بن محمد بن عبدالرحمن (۸۳۳/۵۸۳۳ تا ۱۵۱۳/۵۹۱۹) ، ایک مشہور صوفی اور دعاؤں کے مجموعوں کے مصنف۔
- ۱ ۳۳۸
- * الدسوقی : السید ابراہیم بن ابراہیم (۱۲۲۶/۵۱۲۲۶ تا ۱۸۸۳/۵۱۳۰۰) ، مشہور

صفحہ نمبر	اصول	اشارات	عنوان
۲	۳۳۸	صوفی ابراہیم الدسوقی کے بھائی موسیٰ کی اولاد میں ایک فاضل۔	* دُشمنز یار : رگ بہ کا کویہ (بنو)۔
۱	۳۳۹		⊗ دُعا : اللہ تعالیٰ سے استمداد و استغاثہ ؛ ایک مذہبی و متکلمانہ اصطلاح۔
۱	۳۳۹		* دُعان : رگ بہ دوعن۔
۲	۳۳۳		* دُعبَل : ابو علی (یا ابو جعفر) محمد بن علی الخزاعی (۵۱۳۸/۷۱۳ تا ۵۲۳۶/۷۲۳ - ۵۸۶۰/۷۸۶) عہد عباسی کا ایک شاعر۔
۲	۳۳۳		* دُعوَۃ : (پکارنا ، بلانا) ، ایک قرآنی اصطلاح ، نیز تبلیغ و دعوت کے مفہوم میں باطنی فرقے کی ایک اصطلاح۔
۲	۳۳۳		* دُعوٰی : قانونی چارہ جوئی ، ایک مشہور قانونی و فقہی اصطلاح۔
۱	۳۵۱		* دُفار : رگ بہ ظفار۔
۲	۳۵۶		* دُفتر : سلا ہوا یا مجلد کتابچہ ، یا رجسٹر ایک قدیم دستاویزاتی اصطلاح۔
۲	۳۵۶		* دُفتر امینی : سلطنت عثمانیہ میں دفتر خاقانی (رگ بان) کے ناظم کا لقب۔
۱	۳۶۷		* دُفتر خاقانی : عثمانی دور میں پیمائش کے دفاتر کا مجموعہ۔
۱	۳۶۷		* دُفتر دار : ترکیہ میں محکمہ مال کے اعلیٰ افسر (مستوفی) کے لیے ایک اصطلاح۔
۲	۳۶۹		* دُفریگی : رگ بہ دُوریگی۔
۱	۳۷۱		* دُف : (یا دُف) ، طبنورے یا ڈھولک کی قسم کے سازوں کا عام نام۔
۱	۳۷۱		* دُفین الذنوبہ : رگ بہ ذنوب۔
۱	۳۷۵		* الدُفاق : ابو عبداللہ ، چھٹی صدی ہجری کا ایک معروف مراکشی صوفی۔
۲	۳۷۵		* دُقوقاء : (دُقوق) سلطنت عیاسیہ کے صوبہ جزیرہ میں ایک چھوٹا سا قصبہ ۔
۲	۳۷۵		* دُقلہیہ : مصر کا ایک صوبہ۔
۱	۳۷۷		* دُقیقی : ابو منصور مجد ، پہلی قومی رزمیہ لکھنے والا ایک قدیم فارسی شاعر (م قبل از ۵۳۷۰/۷۳۷ - ۵۹۸۰/۷۹۸)۔
۲	۳۷۶		* دُکزیلی : رگ بہ دنزلی
۲	۳۷۷		* دُکالہ : فرانس کے زیر حمایت مراکشی قبائل کا ایک وفاق ۔
۳	۳۷۷		* دُکہ یا دُکہ المبلّغ : نماز جمعہ یا نماز عیدین میں امام کے ساتھ تکبیر کہنے والا بلند آواز نمازی۔
۲	۳۷۸		* دُکن : کوہ بندھیا چل کے جنوب میں واقع ہندوستان کا حصہ۔
۱	۳۷۹		* دُکنی : (دکھنی) ، رگ بہ اردو۔
۱	۳۸۱		* دُکین الراجز : دو شاعر : (۱) دکین بن رجاء الفقیعی ، عہد اموی کا ایک شاعر (م ۱۰۵/۷۲۳ - ۵۲۳ - ۵۲۳) ، (۲) دکین بن سعید الدارمی ، حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کے عہد کا ایک عرب شاعر (م ۱۰۹/۷۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۸)۔
۱	۳۸۱		

صفحہ عدد	اشارات	عنوان
۲ ۳۸۱		* دکھن : رگ بہ دکن.
۲ ۳۸۱		* د گلال : مغربی اترتیا اور مشرقی سودان کے ضلع اگوردات کے قبائلی گروہ بنی عامر کے موروثی حکمران کا لقب.
۲ ۳۸۱		* د لاور پاشا : ایک عثمانی وزیر اعظم (م ۱۶۲۲/۵۱.۳۱)
۲ ۳۸۱		* د لاور خاں : حسن یا حسین یا عمید شاہ داؤد، سلطنت مالوہ [رگ بان] کا بانی (م ۱۴۰۵/۵۸.۸).
۱ ۳۸۳		* دلتاوه : مرکزی عراق میں خالص کی قضا کا صدر مقام.
۲ ۳۸۳		* د دلدل : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکستری رنگ کا خچر.
۱ ۳۸۵		* د دلسز : (ترکی : بے زبان) ، عثمانی محلات میں کام کرنے والے بھرے ، گونگے ملازم.
۲ ۳۸۵		* الدلفی : تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی کا ایک اہم قبیلہ.
۲ ۳۸۶		* الدلفین : رگ بہ نجوم.
۲ ۳۸۶		* د لال : ایک معروف کاروباری قانونی اصطلاح.
۲ ۳۸۸		* د لپی : رگ بہ دہلی.
۲ ۳۸۷		* الدلو : رگ بہ علم (نجوم).
۲ ۳۸۸		* د لوک : آنا طولی اور شام کی سرحد پر ایک مقام.
۲ ۳۸۹		* دلونہ : البانیہ میں ایک سنجاق کا سابق صدر مقام.
۱ ۳۹۰		* د لہمہ : رگ بہ ذوالہمہ.
۱ ۳۹۰		* دلی : (ترکی : سر پہرا ، من چلا) ، سلطنت عثمانیہ میں گھڑ سواروں کا ایک گروہ.
۱ ۳۹۲		* دلی اورمان : شمال مشرقی بلغاریا اور رومانیہ میں واقع ایک ضلع کا تاریخی نام.
۱ ۳۹۳		* دلیل : رگ بہ قیاس.
۱ ۳۹۳		* دلیم : عراق کا ایک بڑا سنی قبیلہ.
۲ ۳۹۳		* دماوند : شمالی ایران کے سرحدی پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹی.
۲ ۳۹۶		* دمتوقہ : رگ بہ دیمتوقہ.
۲ ۳۹۶		* الدمرداشی : (الدمور طاشی) ، احمد ، بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی کا ایک مصری مؤرخ اور مصنف الدرۃ المصانۃ فی اخبار الکناۃ.
۱ ۳۹۷		* دمشق : شام کا سب سے بڑا شہر اور الجمهوریۃ العربیۃ السوریۃ کا صدر مقام.
۱ ۳۹۷		* الدمشقی : شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی طالب الانصاری الصوفی المعروف بہ ابن شیخ حنین ، مصنف نخبة الدر فی عجائب البرو البحر وغیرہ (م ۱۳۲۷/۵۷۲۷).
۱ ۳۲۷		* الدمام : خلیج فارس کی ایک بندرگاہ اور سعودی عرب کے صوبہ مشرقیہ کا صدر مقام.
۱ ۳۲۸		* دمنات : مراکش میں بربروں کا ایک چھوٹا سا شہر.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۳۰		* دمنت : رگ بہ دمنات.
۱ ۳۳۰		* دمنہور : دریائے نیل کے طاس میں واقع مصر کے متعدد شہر.
۲ ۳۳۱		* دمیاط : مصر زیریں کا ایک شہر.
۲ ۳۳۲		* الدمیاطی البناء : احمد بن محمد ، مصر زیریں میں سلسلہ نقشبندیہ کے مقامی درویشوں کا رکن رکن اور مصنف اتحاف فضلاء البشر (م ۱۱۱۷ھ/۵۱۷۰ء).
۱ ۳۳۳		* الدمیاطی : عبدالمؤمن بن خلف شرف الدین التونی الشافعی (۶۱۳ھ/۱۲۱۷ء تا ۷۰۵ھ/۱۳۰۶ء) ، ایک محدث اور مصنف معجم شیوخ وغیرہ.
۲ ۳۳۳		* الدمیاطی : نور الدین یا اصیل الدین ، ساتویں صدی ہجری/تیرھویں صدی عیسوی میں اسمائے باری تعالیٰ کی تشریح میں ایک قصیدہ لامیہ کا مصنف.
۱ ۳۳۳		* دمیر باش : قابل انتقال اٹائے کے لیے ایک ترکی اصطلاح.
۲ ۳۳۳		* دمیر قپو : (دمیر قبی) ، رگ بہ در آہینن.
۲ ۳۳۳		* الدمیری : کمال الدین محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ (۷۴۲ھ/۱۳۴۱ء تا ۸۰۸ھ/۱۴۰۵ء) ، صاحب حیوة الجیوان.
۲ ۳۳۳		* د ناقل ، دناقلہ : رگ بہ دنقلی.
۲ ۳۳۶		* دنب : رگ بہ علم (نجوم).
۲ ۳۳۶		* دباوند : رگ بہ دماوند.
۲ ۳۳۶		* دلبلی : رگ بہ کرد.
۲ ۳۳۶		* دلدان : ابو جعفر احمد بن حسن ، تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی کا ایک شیعہ محدث اور مصنف کتاب الاحتجاج وغیرہ.
۱ ۳۳۸		* دنزلی : (دنیزی) ، جنوب مغربی آناطولی میں اسی نام کی ولایت کا سب سے بڑا شہر.
۱ ۳۳۸		* دنزلم : رگ بہ دنزلی.
۱ ۳۳۸		* دنقلہ : (Dongola) ، نوبہ (نوبیا) میں دو شہر.
۲ ۳۳۱		* دنقلی : بحیرہ احمر کے مغربی ساحل پر آباد ایک قبیلہ.
۱ ۳۳۲		* دلگن : (دونکن ، تنگن) ، چینی مسلمانوں کا نام ؛ رگ بہ (۱) چین ؛ (۲) ترک ؛ (۳) ترکستان.
۱ ۳۳۲		* دلپی : (دلنہ) ، جمہوریہ سودان کا ایک شہر.
۱ ۳۳۳		* الدلیا : آخرت کے بالمقابل اس دنیا اور اس کی زندگی کے لیے ایک معروف اصطلاح.
۲ ۳۳۶		* دنیسر : بالائی عراق عرب میں قرون وسطیٰ کا ایک تباہ شدہ شہر.
۲ ۳۳۷		* دلیویت : (Secularism) ، رگ بہ الدنیا.
۲ ۳۳۷		* دلیہ : رگ بہ دانیہ.
۲ ۳۳۷		* دوا : رگ بہ ادویہ.

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۳۷		* دوآب : (فارسی : دو دریا) ، برعظیم پاک و ہند میں دو دریاؤں کے درمیان واقع علاقے۔
		⊙ دوات دار : (دوادار ، دویدار ، امیر دوات) ، سرکاری روشنائی کے ذخیرے کا
۱ ۳۳۸		منصب دار و محافظ۔
۲ ۳۳۸		* دوار : بدوی عربوں کا پڑاؤ۔
۲ ۳۳۹		* دوار کا : صوبہ گجرات (بھارت) کا ایک تاریخی شہر۔
۲ ۳۵۰		* دوا رو : جنوبی حبشہ کی ایک مسلم تجارتی ریاست۔
۲ ۳۵۱		* دوازدہ امام : رک بہ اثنا عشریہ۔
۲ ۳۵۱		* الدواسر : وسطی عرب کا ایک بڑا قبیلہ۔
۲ ۳۵۲		* دوائر : الجزائر میں مقامی سردار کے خدمت گزار خاندان۔
۱ ۳۵۳		* دو پروجہ : مشرقی یورپ میں واقع ایک سطح مرتفع۔
۱ ۳۵۴		* دویتی : رک بہ رباعی۔
۱ ۳۵۴		* الدوحة : خلیج فارس کی ریاست قطر کا دارالحکومت۔
۲ ۳۵۴		* دود القز : رک بہ حریر۔
۲ ۳۵۴		* دور باش : گرز یا تبر ، فوجی اعزاز کا ایک نشان۔
۲ ۳۵۵		* دورق : جنوب مغربی خوزستان کا ایک شہر۔
		* دوریگی : (دفریگی ؛ موجودہ دورگی) ، اورنگ اور قبادوسیہ کی سرحد پر واقع جدید ترکیہ
۲ ۳۵۶		کا ایک قصبہ۔
۱ ۳۵۷		* دوزخ : رک بہ جہنم۔
۱ ۳۵۷		* دوزمہ مصطفیٰ : رک بہ مصطفیٰ دوزمہ۔
۱ ۳۵۷		* دوس : رک بہ ازد۔
		* دوست محمد : امیر افغانستان (از ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ھ / ۱۸۲۶ء تا ۱۲۵۵ھ / ۱۸۳۹ء و از
۱ ۳۵۷		۱۲۵۹ھ / ۱۸۳۳ء تا ۱۲۷۹ھ / ۱۸۶۳ء) ، بارک زئی حکومت کا بانی۔
۱ ۳۵۹		* دوسہ : قاہرہ میں صوفیوں کے طریقہ سعیدیہ کے شیوخ کی ایک رسم۔
۱ ۳۶۰		* دوعن : یا دوعن ، حضر موت کے جنوبی معاونوں میں سب سے بڑی معاون ندی۔
۱ ۳۶۱		* دوغانجی : رک بہ طوغانجی۔
۱ ۳۶۱		* دوغر : ایک اوغوز قبیلہ۔
۲ ۳۶۱		* دوغلات : (دوقلات) ، ایک منگول قبیلہ۔
۲ ۳۶۳		* دولاب : رک بہ ناعورہ۔
۲ ۳۶۳		* دولت : رک بہ (۱) الدولة ؛ (۲) مالیات ؛ (۳) بیت المال۔
		* الدولة : ایک مختلف المعانی اصطلاح ؛ (۱) حکمران خاندان یا اس کا عرصہ حکومت ؛
۲ ۳۶۳		(۲) بطور لقب یا خطاب ؛ (۳) اقتصادی مفہوم میں۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۶۸		* دولت آباد : دکن (بھارت) کا ایک مشہور پہاڑی قلعہ اور قدیم ہندو راجاؤں کا صدر مقام دیوگری۔
۲ ۳۷۰		* الدولت آبادی : شہاب الدین احمد بن شمس الدین بن عمر زاوی الہندی ، نویں صدی ہجری/پندرہویں صدی عیسوی کے ایک ممتاز ہندوستانی عالم ، اصولی ، فقیہ ، مفسر اور کثیر التصانیف بزرگ (م ۵۸۳۸/۵۱۳۳۵)۔
۲ ۳۷۱		* دولت شاہ : (۱) ابن علاء الدولہ بختی شاہ ، امیر ، ایرانی سوانح نگار اور مصنف تذکرۃ الشعراء (م ۵۸۹۲/۵۱۳۸۷) ؛ (۲) ابن فتح علی شاہ (۳/۵۱۲۰۳) / ۵۱۷۸۹ تا ۵۱۲۳۶/۵۱۸۲۰) ، کرمان شاہان کا حاکم اور شاعر۔
۱ ۳۷۲		* دولت گرای : (خان) ، الملقب بہ تخت آغان (۵۹۱۸/۵۱۵۱۲ تا ۵۹۸۵/۱۵۷۷) ، قریم (کریمیا) کا خان یا حکمران (از ۵۹۵۸/۵۱۵۵۱)۔
۱ ۳۷۳		* دولمہ باغچہ : رگ بہ استانبول۔
۱ ۳۷۳		* دومة الجندل : (= جوف) ، آج کل سعودی عرب کے علاقہ نجد میں وادی سرحان کے سرے پر ایک واحہ (نخلستان) اور ایک قدیم ریاست۔
۱ ۳۷۴		* دوئبولی : رگ بہ کرد۔
۱ ۳۷۴		* دوئم : (دولم) ، رگ بہ مصباحہ۔
۱ ۳۷۴		* دولمہ : (Donme) ، گیارہویں صدی ہجری/ستہویں صدی عیسوی میں ترکیہ میں نو مسلم یہودیوں کا ایک فرقہ۔
۱ ۳۷۹		* الدوانی : محمد بن اسعد جلال الدین (۵۸۳۰/۵۱۳۲۷ تا ۵۹۰۸/۱۵۰۲ - ۵۱۵۰۳) ، ایک مشہور شارح اور مصنف اخلاق جلالی وغیرہ۔
۱ ۳۸۱		* دوہ بویولی : بعض پہاڑی دروں اور پہاڑ کی چوٹیوں کے لیے ترکی میں ایک جغرافیائی اصطلاح۔
۲ ۳۸۱		* دوہ جی : (ترکی : شتربان) ، عثمانی فوج میں بعض ینی جری دستوں کا نام۔
۱ ۳۸۲		* دوہ لی قرہ حصار : رگ بہ قرہ حصار۔
۱ ۳۸۲		* دوی : (ذوی) ، رگ بہ ذو۔
۱ ۳۸۲		* دَوین : (دَفن) ، ارمینیہ کا ایک اہم شہر اور عربوں کے دور میں دارالحکومت۔
۲ ۳۸۲		* دہاس : کوہ بابا (ضلع بامیان) کے پہاڑوں سے نکلنے والا شمالی افغانستان کا ایک دریا۔
۲ ۳۸۲		* دَہر : (زمانہ) ، ایک معروف لسانی و مذہبی اصطلاح۔
۲ ۳۸۳		* الدھر : قرآن مجید کی چھترویں سورہ (دیکھیے زیادات ، جلد ۹)۔
۲ ۳۸۳		* دَہران : رگ بہ ظہران۔
۲ ۳۸۳		* دَہریہ : دہر کو قدیم اور باعث حوادث ماننے والا گروہ۔
۱ ۳۸۹		* دہستان : شمال مشرقی ایران میں دو اضلاع اور ان سے متعلق شہروں کا نام۔

صفحہ نمبر	عنوان
۲ ۴۹۰	* دہشور : رگ بہ دُحشور۔
۲ ۴۹۰	* دہقان : گاؤں کا چودھری اور ایران کے ساسانی عہد میں کمتر درجے کا جاگیردار۔
۱ ۴۹۲	* دہاک : (جزائر) ، بحیرہ احمر کے مغربی ساحل پر جزیروں کا مجموعہ۔
۱ ۴۹۲	* الدہلوی ، نور الحق : رگ بہ نور الحق الدہلوی۔
	* دہلی : دریائے جمنا کے مغربی کنارے پر واقع برعظیم پاک و ہند کا مشہور تاریخی شہر اور علمی و ثقافتی مرکز : اسلامی عہد ، برطانوی دور اور آج کل بھارت کا دارالحکومت۔
۱ ۴۹۲	
۲ ۵۰۸	* دہلی سلطنت : رگ بہ ہند۔
	* دہلی کالج : ۱۸۲۵ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت مدرسہ غازی الدین خان میں قائم کیا جانے والا ایک کالج۔
۲ ۵۰۸	
۱ ۵۱۰	* الدہناء : سعودی عرب میں صحرائے لہوذ کا ایک طویل و تنگ محراب نما قطعہ۔
۲ ۵۱۱	* دہنج : (فارسی : دہنہ ، دہانہ ، سبز رنگ مر مر) ، تانبے کی معروف سبز رنگ کی خام دہات۔
۲ ۵۱۲	* دہ ہالی : خوجہ ، ساتویں صدی ہجری/تیرہویں صدی عیسوی میں آناطولی کا ایک شاعر۔
۲ ۵۱۲	* دی : رگ بہ دای۔
۲ ۵۱۲	* دیار بکر : جزیرہ (العراق) کا شمالی صوبہ۔
	* الدیار بکری : حسین بن محمد بن الحسن ، دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ الخمیس فی احوال نفس نفیس کا مصنف (م ۵۹۶۶/۱۵۵۹ء)۔
۲ ۵۱۵	
۱ ۵۱۶	* دیار ربیعہ : الجزیرہ کا سب سے مشرقی اور وسیع ترین صوبہ۔
	* دیار مضر : دریائے فرات اور اس کے معاون بلیخ سے سیراب ہونے والا الجزیرہ کا ایک صوبہ۔
۱ ۵۱۸	
۱ ۵۲۰	* دیاسفوریدس : رگ بہ دیسکو ریڈس۔
۱ ۵۲۲	* دیالی : وسطی عراق کے مشرق میں ایک اہم دریا۔
۱ ۵۲۲	* دیپاج : رگ بہ قماش۔
۱ ۵۲۲	* دیپیل : (دیپیل یا دیول) ، سندھ کی قدیم بندرگاہ۔
	* دیہ : (دیہت ، خون بہا) ، کسی کو قتل کرنے یا ظالمانہ طور پر جسمانی ضرب پہنچانے پر واجب الادا زر نقد یا مال کی معین مقدار۔
۱ ۵۲۳	
۱ ۵۲۸	* دی تریسی : Friedrich Dieterici ، انیسویں صدی کا ایک ممتاز جرمن مستشرق۔
	* دیدبان : (فارسی : دیدبان) ، بعض پہرے داروں ، چوکیداروں اور ناظروں وغیرہ کے لیے ایک اصطلاح۔
۲ ۵۲۹	
۱ ۵۳۰	* دیدو : رگ بہ دوو۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۵۳۰		* دیر: مشرق اوسط میں عربوں کی فتح کے بعد کام کرنے والی عیسائی خانقاہیں۔
		* دیر: پاکستان سے ۱۹۴۷ء میں الحاق کرنے والی شمال مغربی سرحدی صوبے کی ایک نوابی ریاست۔
۱ ۵۳۳		* دیر الاعدود: عراق میں ایک تاریخی مقام۔
۱ ۵۳۵		* دیر الجاثلیق: عراق میں دو خانقاہوں کا نام۔
۲ ۵۳۵		* دیر الجمجم: کوفے (عراق) کے نزدیک الحجاج اور ابن الاشعث کے مابین لڑائی کا مقام۔
۲ ۵۳۶		* دیر الزور: شام کا ایک چھوٹا سا شہر۔
۲ ۵۳۷		* دیر سمعان: شام میں کئی مقامات کا نام۔
۱ ۵۳۸		* دیر العاقول: بغداد کے جنوب مشرق میں عراق کا ایک قصبہ۔
۲ ۵۳۸		* دیر عبدالرحمن: نواح کوفہ میں ایک مقام۔
۱ ۵۴۰		* دیر قرۃ: کوفے کے قریب ایک معروف مقام۔
۱ ۵۴۰		* دیر قنا: بغداد کے جنوب میں عراق کا ایک مقام۔
۲ ۵۴۰		* دیر کعب: (ایادی دیر)، مدائن سے کوفے جانے والی شاہراہ پر عراق کا ایک مقام۔
۱ ۵۴۱		* دیر مران: شام میں دو خانقاہوں کا نام۔
۲ ۵۴۱		* دیر موسیٰ: کوفے کے نزدیک ایک مقام۔
۲ ۵۴۲		* دیسقوریڈیس: Dioscorides (= دیا سقوریڈیس) پہلی صدی قبل از مسیح ایک قدیم یونانی فلسفی۔
۲ ۵۴۲		* دیسلان: Baron MacGuckin de Slane (۱۸۰۱ تا ۱۸۷۸ء)، ایک ممتاز فرانسیسی مستشرق۔
۲ ۵۴۳		* دیصانیہ: شہر الزہا کے مشہور حامی تطبیق عقائد اور ملحد بردیصان یا ابن دیصان کا پیرو فرقہ۔
۲ ۵۴۵		* دیک: مرغ۔
۲ ۵۴۷		* دیک الجن الحصمی: عبدالسلام بن رغبان (۸۱۶/۷۷۷ - ۷۷۸/۸۳۹ء تا ۸۳۹/۵۲۳ء یا ۸۳۶/۵۲۳ء - ۸۵۰/۸۵۱ء)، ایک شامی عرب شاعر۔
۱ ۵۴۹		* دیلم: عراق کا ایک قبیلہ۔
۱ ۵۵۰		* دیلم: گیلان کی سطح مرتفع کا جغرافیائی نام۔
۱ ۵۵۰		* دیمتوقہ: (دمتوقہ، دمتیکہ)، سلطنت عثمانیہ کے صوبہ روم ایلی کا ایک شہر۔
۲ ۵۶۱		* دیموکرت پارٹی: ترکوں کی ایک سیاسی جماعت (قیام: ۷ جنوری ۱۹۴۶ء)۔
۲ ۵۶۱		* دین: (قرض، ادھار)، ایک شرعی و فقہی اصطلاح۔
۱ ۵۶۲		* دین: رگ بہ اسلام۔
۱ ۵۶۳		* دین الہی: (یا دین الہی اکبر شاہی)، ہندوستان کے مغل شہنشاہ اکبر کا ۱۵۹۸ء

صفحہ نمبر	اسرار	ہنوان
۱ ۵۶۳		۱۵۸۱ سے جاری کردہ ایک دین۔
۲ ۵۶۹		* دیناج پور : مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) کا ایک ضلع۔
۲ ۵۶۹		* دینار : ایک طلائی سکہ۔
		* دینار ملک : سلاجقہ کے زوال کے بعد خراسان پر قبضہ جانے والا ایک اوغوز سردار
۲ ۵۷۳		(م ۵۵۹۱/۱۱۹۵ء)۔
۱ ۵۷۳		* دینور : ازمینہ وسطی میں الجبال کا ایک اہم اور آج کل اجڑا ہوا شہر۔
		* الدینوری : ابو حنیفہ احمد بن داؤد ، شہرہ آفاق مؤرخ ، عالم دین ، ماہر نباتیات
۱ ۵۷۶		اور مصنف الاخبار الطوال وغیرہ (م ۵۲۸۲/۸۹۵ء)۔
		* الدینوری : ابو سعید سعد نصر بن یعقوب ، مصنف القادری فی التعبير (تعمینف ۵۳۹۷/
۱ ۵۸۰		۶۰۰۶ء)۔
۲ ۵۸۰		* دیو : دشمن دیوتا ، ہدی اور تاریکی کی ارواح۔
۲ ۵۸۱		* دیو : بھارت میں سوراشر کے جنوبی کونے کے سامنے ایک جزیرہ اور بندرگاہ۔
۱ ۵۸۳		* دیوان : اشعار یا نثر کا مجموعہ ، کتاب اندراجات ، دفتر۔
		* دیوان ہمایوں : عثمانی شاہی مجالس ، گیارہویں صدی ہجری/سترہویں صدی عیسوی کے
۲ ۶۱۵		وسط تک سلطنت عثمانیہ کی انتظامیہ کا مرکزی ادارہ۔
۱ ۶۲۰		* دیوانی : رگ بہ خط۔
۲ ۶۲۰		* دیوانیہ : وسطی عراق کا ایک قصبہ۔
		* دیو بند : ضلع سہارن پور (بھارت) میں ایک پرانا شہر اور دینی دارالعلوم کے
۲ ۶۲۰		لیے معروف۔
		* دیو بندی : دارالعلوم دیو بند سے نسبت رکھنے والا احناف کا ایک معتدل اور
۲ ۶۲۱		متوسط خیال گروہ۔
		* دیو شرمہ : بینی چری دستوں ، نیز محل اور انتظامیہ کی اسامیاں پر کرنے کی غرض سے
۱ ۶۲۵		عیسائی بچوں کی میعاد بھرتی کے لئے ایک عثمانی اصطلاح۔
۲ ۶۲۶		* دیون عمومیہ : عثمانی حکومت کے قرضے ، بالخصوص نظام قرض قائم شدہ ۱۸۸۱ء۔
۱ ۶۲۸		* دھار : مدھیا پردیش (بھارت) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام۔
۲ ۶۲۹		* دھار وار : بھارتی ریاست میسور کی قسمت بلگام کا ایک ضلع۔
۲ ۶۳۰		* دھتورا : ایک چھوٹے سے خار دار پودے کا خار دار پھل۔

ط

- ⊗ ڈ: ہندی حروف تہجی کا تیرھواں اور اردو کا انیسواں حرف .
- ⊗ ڈاؤٹی: Charles Montague Doughty (۱۸۳۳ تا ۱۹۲۶ء)، ایک انگریز مصنف اور دیار عرب کا معروف سیاح اور جغرافیا نگار .
- ⊗ ڈھومی: رگ بہ داھومی .
- ⊗ ڈخویہ: Michael Jan de Goeje (۱۸۳۶ تا ۱۹۰۹ء)، نامور ولندیزی مستشرق اور بہت سی اسلامی، تاریخی و جغرافی تصانیف کا طابع .
- ⊗ ڈراما: رگ بہ (۱) حکایت؛ (۲) روایت؛ (۳) مسرحیہ .
- ⊗ ڈوزی: Reinhart Dozy (۱۸۲۰ تا ۱۸۸۳ء)، نامور ولندیزی مستشرق .
- * ڈوگر: رگ بہ دوغر .
- ⊗ ڈی ٹریسی: رگ بہ دی تریسی .
- * ڈیرہ جات: دریائے سندھ اور کوہ سلیمان کے درمیان واقع پاکستان کا ایک علاقہ .
- * ڈھا کہ: بنگلہ دیش (سابق مشرقی پاکستان) کا صدر مقام .

ذ

- * ذ: عربی حروف ہجا کا نواں، فارسی کا گیارھواں اور اردو کا اکیسواں حرف .
- * ذات: شیء، معنی، وجود، اور خود وغیرہ کے معنوں میں فلسفہ اسلامی کی ایک اصطلاح .
- * ذات السواری: رگ بہ تکملہ، لائڈن، بار دوم .
- * ذات الہمہ: رگ بہ ذوالہمہ .
- * ذاتی: اصل نام عوض، بخشی یا بخشی (۱۸۷۵ء تا ۱۹۵۳ء/۱۵۳۶ء)، کلاسیکی دور سے قبل کے زمانے کا اہم ترین عثمانی شاعر اور مثنوی شاعر و پروانہ کا مصنف .

- * ذاتی (سلیمان): گیلی ہولی کا ایک صاحب دیوان صوفی عثمانی شاعر اور شیخ اسماعیل حقی کا خلیفہ (م ۱۱۵۱ھ/۱۷۳۸ء)۔
- ۱ ۱۳
- ⊗ الذریت: قرآن مجید کی ۵۱ ویں سورت۔
- ۱ ۱۳
- * ذاکر: قاسم بی (۱۲۰۱ھ/۱۷۸۶ء تا ۱۲۴۳ھ/۱۸۵۷ء)، ایک بلند پایہ آذربائیجانی شاعر اور ہجوگو۔
- ۲ ۱۵
- * ذہاب: مکھی، بھڑ، تتلی، پروانہ وغیرہ۔
- ۲ ۱۶
- * ذبیان: رگ بہ غطفان۔
- ۲ ۱۷
- ⊗ ذبیحہ: ذبح کیا ہوا جانور؛ فقہ کی ایک اصطلاح۔
- ۲ ۱۷
- * ذراع: فقہ میں ماپ تول کا ایک پیمانہ۔
- ۲ ۱۹
- * ذرہ: چھوٹی سے چھوٹی مقدار؛ قرآن و حدیث، نیز فلسفے کی ایک اصطلاح۔
- ۱ ۲۱
- ⊗ ذکاۃ: رگ بہ ذبیحہ۔
- ۱ ۲۲
- * ذکر: ثنائی الہی میں مخصوص کلمات کو مخصوص طریق سے دہرانا؛ ایک دینی اصطلاح۔
- ۱ ۲۲
- * ذمار: (ڈمار)، جنوبی عرب میں صنعاء سے عدن جانے والی سڑک پر واقع ایک شہر اور معروف ضلع۔
- ۱ ۲۳
- ⊗ ذمہ: عہد و پیمانہ، امان، کفالت؛ ایک معروف فتنی اور سیاسی اصطلاح۔
- ۱ ۲۵
- * ذمی: رگ بہ ذمہ۔
- ۲ ۳۸
- * ذلب: رگ بہ نجوم۔
- ۲ ۳۸
- * الذنوب دان: گناہوں کا زیر خاک دہانا؛ عرب بدویوں کی ایک رسم۔
- ۲ ۳۸
- * ذو، ذی، ذا: ایک نحوی اصطلاح، اصل مادہ "ذ" پر مبنی توصیفی (جزو کی) اشکال۔
- ۱ ۳۹
- ⊗ ذوالحجہ: عربی اسلامی قمری تقویم کا بارہواں مہینہ۔
- ۱ ۴۰
- * ذوالخلیصہ: دور جاہلیت کا ایک بت۔
- ۱ ۴۰
- * ذوالریمہ: ابوالحارث غیلان بن عقبہ، ایک مشہور عربی شاعر (م ۱۱۷ھ/۷۳۵-۷۳۶ء)۔
- ۱ ۴۱
- * ذوالشری، قبیلہ ازد کے بنو الحارث یا قبیلہ دوس کا ایک صنم۔
- ۲ ۴۳
- * ذوالفقار: غزوہ بدر میں بطور مال غنیمت ملنے والی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور تلوار۔
- ۱ ۴۶
- * ذوالفقاریہ: سترہویں اور اٹھارہویں صدی عیسوی میں مصر کا ایک مملوک خاندان اور سیاسی گروہ۔
- ۱ ۴۷
- ⊗ ذوق: جمالیات، ادب، تصوف اور فلسفہ کی ایک اصطلاح۔
- ۲ ۴۸
- * ذوق: شیخ محمد ابراہیم (۱۲۰۳ھ/۱۷۹۰ء تا ۱۲۷۱ھ/۱۸۵۳ء)، اردو کا صاحب دیوان مشہور شاعر، خاقانی ہند۔
- ۱ ۵۰

- * ذوقار: کوفے کے قریب واسط کی جانب ایک چشمہ اور عربوں کی ایک قدیم جنگ کی رزم گاہ .
- ۲ ۵۳
- * ذوالقدر: البستان سے مرعش و ملطیہ تک کے علاقے پر دو صدیوں تک حکمرانی کرنے والا ایک ترکمان خاندان (۵۷۳۸/۶۱۳۳ء تا ۵۹۲۸/۶۱۵۲۲ء).
- ۱ ۵۶
- * ذوالقرنین: (= دو سینگوں والا)، ایک طاقتور، صاحب فتوحات بادشاہ کا قرآنی عرف .
- ۱ ۶۱
- ⊗ ذوالقعدہ: اسلامی ہجری تقویم کا گیارہواں مہینا
- ۲ ۶۲
- ⊗ ذوالکفل: قرآن مجید میں مذکور ایک قدیم پیغمبر .
- ۲ ۶۲
- * ذوالنون: ابو الفیض ثوبان بن ابراہیم المصری (۵۱۸۰/۶۷۹ء تا ۵۲۳۶/۶۸۶۱ء)، ابتدائی دور کے ایک صوفی بزرگ، المعروف بہ رئیس الصوفیہ .
- ۲ ۶۳
- * ذوالنون (ارغون): (ذوالنون بیگ ارغون)، سندھ کے ارغون خاندان کا بانی (م ۵۹۱۳/۶۱۵۰ء).
- ۱ ۶۵
- * ذوالنون (بنو): پانچویں صدی ہجری میں قبیلہ ہوارہ کے برہروں پر مشتمل اندلس کا ایک سربرآوردہ خاندان .
- ۱ ۶۵
- ⊗ ذونواس: یوسف اشعر، زمانہ قبل از اسلام میں یمن کا ایک بادشاہ .
- ۲ ۶۷
- * ذواق: رگ بہ چاشناگیر .
- ۱ ۶۹
- * ذوالہمہ: (ذات الہمہ)، عربوں کی ایک داستان شجاعت کی ہیروئن .
- ۱ ۶۹
- * ذوی: رگ بہ ذو .
- ۱ ۸۲
- * ذویزن: رگ بہ سیف .
- ۱ ۸۲
- * ذہب: سونا، تاریخ عالم میں ایک اہم اور قیمتی دھات .
- ۱ ۸۲
- * الذہبی: رگ بہ احمد المنصور .
- ۱ ۸۳
- * الذہبی: شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الترمذی الفاروقی الدمشقی (۵۶۷۳/۶۱۲۷ء تا ۵۷۳۸/۶۱۳۳ء یا ۵۷۵۳/۶۱۵۲ء - ۶۱۳۵۳)، مشہور عرب مؤرخ، عالم دین، محدث اور مصنف تذکرۃ الحفاظ وغیرہ .
- ۱ ۸۳
- * ذہبیہ: کبراویہ (رگ باں) کے سلسلہ صوفیہ کا ایرانی نام؛ نیز رگ بہ طریقہ .
- ۲ ۸۸
- * ذہران: رگ بہ ظہران .
- ۲ ۸۸
- * ذہنی: بیرتلو، ترکی کا ایک صاحب دیوان شاعر (م ۵۱۲۷۵/۶۱۸۵۹ء).
- ۲ ۸۸
- * الذئاب: (بھیڑیے)، جنوبی عرب کا ایک وحشی اور جنگجو قبیلہ .
- ۱ ۸۹
- * ذلب: بھیڑیا، ایک معروف درندہ .
- ۲ ۸۹
- * ذی: رگ بہ ذو .
- ۲ ۹۱



- * ر : (الراء) عربی حروف تہجی کا دسواں ، فارسی کا بارہواں ، اردو کا بائیسواں اور ہندی کا ستائیسواں حرف .
- ۱ ۹۲
- * رابطہ : رگ بہ رباط .
- ۱ ۹۲
- * رَابِعَةُ الْعَدْوِيَّة : (۵۹۵ / ۷۱۳ - ۷۱۴ یا ۵۹۹ / ۷۱۷ - ۷۱۸ تا ۵۸۰ / ۷۱۸۵) ، بصرے کی ایک مشہور عارفہ اور ولیہ .
- ۲ ۹۲
- * راتب : کوئی مقررہ چیز؛ نیز نفل نمازوں اور اوراد و وظائف کے لیے ایک فقہی اصطلاح (نیز رگ بہ نافلہ) .
- ۱ ۹۶
- * راجپوت : کشتریوں اور غیر ملکی حملہ آوروں کی اولاد پر مشتمل برعظیم پاک و ہند کی ایک معروف قوم .
- ۱ ۹۶
- * راحیل : حضرت یعقوبؑ کی زوجہ محترمہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ .
- * رَادَهْن پور : برطانوی عہد میں برعظیم پاک و ہند ایک مسلمان ریاست (اب بھارت کے صوبہ گجرات میں مدغم) .
- ۱ ۱۰۳
- * راڈوال : J.M. Rodwell، انیسویں صدی کا ایک برطانوی مستشرق اور قرآن مجید کا انگریزی مترجم (مطبوعہ ۱۸۶۱ء) .
- ۱ ۱۰۵
- * رازی : امین احمد ، ایک ایرانی تذکرہ نویس اور مؤلف تذکرہ ہفت اقلیم (تصنیف ۱۵۹۳/۷۰۰۲) .
- ۱ ۱۰۶
- * الرّازی : اندلس کے تین مؤرخ : (۱) محمد بن موسیٰ بن بشیر بن جناد بن لقیط الکنانی الرّازی (م ۵۲۶۳/۷۸۸۶) ، مصنف کتاب الرّایات ؛ (۲) احمد بن محمد (م ۵۳۳۳/۷۹۵۵) ، مقدم الذکر کا بیٹا ، مصنف تاریخ ملوک اندلس ؛ (۳) عیسیٰ بن احمد بن محمد ، سابق الذکر کا بیٹا ، مصنف کتاب الحجاب للخلفاء بالاندلس .
- ۱ ۱۰۷
- * الرّازی : ابوبکر محمد بن زکریا (۵۲۵۰/۷۸۶۳ تا [۵۲۹۰ یا] ۵۳۱۳/۷۹۲۵) ، مشہور طبیب ، کیمیا دان ، فلسفی اور طب قدیم کے موضوع پر بہت سی کتابوں کا مصنف .
- ۲ ۱۰۹
- * الرّازی : فخر الدین ، امام ؛ رگ بہ فخر الدین الرّازی .
- ۱ ۱۱۵
- * راس : Sir Edward Denison Ross (۱۸۷۱ تا ۱۹۴۰) ، بیسویں صدی کا مشہور انگریز مستشرق .
- ۱ ۱۱۵
- * رَأْس الْعَيْن : (عین وردہ) ، الجزیرہ میں دریائے خابور کے کنارے ایک شہر .
- ۱ ۱۱۶
- * راسم احمد : (ولادت ۱۲۸۳/۱۸۶۶-۱۸۶۷ء) ، ایک ممتاز ترکی مصنف اور افسانہ نگار .
- ۲ ۱۲۰

- * راشد محمد : سلطنت عثمانیہ کا ایک شاہی تاریخ نویس اور مصنف تاریخ راشد
(م ۱۹۳۸/۵۱۷۳۵ء) .
- ۲ ۱۲۲
- * الرَّاشِدُ بِاللَّهِ : ابو جعفر المنصور بن المسترشد بالله، ایک عباسی خلیفہ (از ۵۲۹ھ/۱۱۳۵ء تا
۵۳۰ھ/۱۱۳۶ء) .
- ۲ ۱۲۳
- * راشد الدین سنان : المعروف بہ شیخ الجبل ، بارہویں صدی عیسوی کے نصف دوم میں
شام کے اسماعیلیوں کا مشہور پیشوا (م ۵۸۹ھ/۱۱۹۳ء) .
- ۲ ۱۲۴
- * الرَّاضِي بِاللَّهِ : ابو العباس احمد ، عباسی خلیفہ (از ۳۲۲ھ/۶۳۴ء تا ۳۲۹ھ/۶۴۰ء) .
- ۲ ۱۲۵
- * الرَّاعِبُ الْأَصْفَهَانِي : ابوالقاسم الحسين بن محمد ، علوم دینیہ کا ایک نامور عربی عالم
اور مصنف المفردات وغیرہ (م ۵۰۲ھ/۱۱۰۸ء) .
- ۲ ۱۲۷
- * راعب پاشا : راعب محمد پاشا بن کاتب محمد شوقی (۱۱۱۱ھ/۱۶۹۹ء تا ۱۱۷۶ھ/۱۷۶۳ء)
آخری ممتاز عثمانی وزیر اعظم .
- ۲ ۱۲۹
- * الرَّافِضَةُ : (الروافض) ، شیعویوں کے لیے ایک طعن آمیز نام .
- ۲ ۱۳۰
- * رام پور : برطانوی ہند کی ایک مسلمان ریاست ، اب اتر پردیش (بھارت) کا ایک حصہ .
- ۲ ۱۳۱
- * رام ہرمز : (رامیز ، رامز) ، اہواز سے جنوب مشرق میں واقع خوزستان کا ایک ضلع
اور شہر .
- ۲ ۱۳۴
- * الرَّامِي : حسن بن محمد شرف الدین ، ایک صاحب طرز ایرانی ادیب اور مصنف
انیس العشاق (۵۸۲۹ھ/۱۴۲۳ء) .
- ۱ ۱۳۶
- * راسی محمد پاشا : (۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ھ/۱۶۵۴ء تا ۱۱۱۹ھ/۱۷۰۸ء) ، عثمانی سلطنت کا
ایک وزیر اعظم اور شاعر .
- ۲ ۱۳۷
- * راولپنڈی : پنجاب (پاکستان) کے اسی نام کے ضلع اور قسمت کا صدر مقام اور چھاؤنی .
- ۱ ۱۳۹
- * الرَّاوِنْدِي : رک بہ ابن الراوندي .
- ۲ ۱۴۰
- * راہب : تارک الدنیا ، اہل کتاب (عیسائیوں کے) عابد و تارک دنیا افراد .
- ۲ ۱۴۰
- * رائٹ : William Wright ، انیسویں صدی عیسوی کا ایک ممتاز عربی دان انگریز
مستشرق .
- ۱ ۱۴۱
- * رَأْيٌ : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی نظر، علم ، اعتقاد، ظن ، قیاس ، اجتہاد وغیرہ .
- ۱ ۱۴۲
- * رَبَا : رگ بہ ربو .
- ۲ ۱۴۳
- * رَبَابٌ : موسیقی کا ایک آلہ .
- ۲ ۱۴۴
- * رباح : زبیر پاشا ، ایک اہم مصری سیاست دان ، بحر الغزال کا والی (م ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء) .
- ۲ ۱۵۰
- * رباط : قلعہ بند اسلامی خانقاہ .
- ۲ ۱۵۱
- * رباط الفتح : مراکش کا ایک اہم شہر اور انتظامی مرکز .
- ۱ ۱۵۷
- * رَبَاعِي : علم عروض کی ایک اصطلاح ، چار مصرعی نظم .
- ۲ ۱۶۱

- عنوان
- ۱۶۸ ۲ * رَبِّ : ذات باری کے لیے ایک قرآنی اصطلاح .
- ۱۷۰ ۱ * رَيْضُ : کسی شہر کا دیہاتی حلقہ ، اندلس میں شہر کے بعض محلوں کے ناموں کا جز .
- ۱۷۰ ۲ * رَبْوٍ : ایک اسلامی فقہی و معاشی اصطلاح .
- ۱۸۳ ۱ * رَبْوِيَّت : رگ بہ رب .
- ۱۸۳ ۱ * رَبِيبُ الدَّوْلَةِ : ابو منصور بن ابی شجاع محمد بن الحسين، خليفه المستظهر (رگ بآں) اور محمود بن محمد سلجوقی کا ایک وزیر (م ۵۱۲/۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ء) .
- ۱۸۳ ۲ * رِيرَا ، پولین : رگ بہ مستشرقین .
- ۱۸۳ ۲ * رَبِيع : اسلامی تقویم کے تیسرے (ربيع الاول) اور چوتھے (ربيع الآخر) مہینے کے نام .
- * رَبِيع بن يونس : بن عبدالله بن ابی فروہ (۵۱۲/۱۱۲۰ - ۵۸۶/۱۱۸۶ء) ، پہلے چار خلفائے بنو عباس کا خادم خاص اور حاجب .
- ۱۸۳ ۱ * ربيعہ و مضر : قدیم شمالی عرب کے دو سب سے بڑے اور طاقتور قبیلے .
- ۱۹۰ ۲ * رَهْک : (عربی میں رفع) ، جاوا میں عائلی قوانین کی ایک اصطلاح .
- ۱۹۱ ۱ * رَتْن (بابا) حاجی ابوالرضا : ہندوستان کی ایک معروف متنازع فیہ شخصیت .
- * رِٹَر : Hellmut Ritter ، مشہور جرمن مستشرق (۱۳۱۰/۱۸۹۲ء تا ۱۳۹۱/۱۹۷۱ء) .
- ۱۹۳ ۱ * رَجَب : اسلامی تقویم کا ساتواں مہینا .
- ۱۹۳ ۲ * * رَجَز : علم عروض میں ایک بحر .
- ۲۰۳ ۱ * رَجْعَةٌ : رگ بہ دفتر .
- ۲۰۳ ۱ * رَجْعَةٌ : رگ بہ رجوع .
- ۲۰۳ ۱ * الرَّجْعَةُ الْجَامِعَةُ : رگ بہ دفتر .
- ۲۰۳ ۱ * رَجْم : (سنگسار کرنا) ، فقہ اسلامی کی ایک اصطلاح .
- ۲۱۲ ۲ * رَجْوَع : افلاطونی فلسفہ کی ایک اصطلاح .
- * الرَّجْمِيع : جزیرہ عرب میں اس نام کے دو مقامات : (۱) خیبر کے قرب و جوار میں ؛ (۲) مکہ اور طائف کے درمیان سات مبلغ صحابہؓ کی شہادت گاہ .
- ۲۱۵ ۱ * رَحْبَةٌ : المیادین ، فرات کے دائیں کنارے پر ایک شہر .
- ۲۲۳ ۱ * رَحْمَن : رگ بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی ؛ (۳) الرحمة .
- ۲۲۳ ۱ * الرَّحْمَن : قرآن مجید کی پچھنویں سورۃ .
- * رَحْمَن بابا : پشتو کا مشہور و مقبول بزرگ شاعر (م مابین ۱۱۱۹/۱۷۰۰ء تا ۱۱۲۳/۱۷۱۱ء) .
- ۲۲۳ ۱ * الرَّحْمَالِيَّة : الجزائر کے صوفیوں کا ایک سلسلہ منسوب بہ محمد بن عبدالرحمن
- ۲۲۶ ۲ * الْكُشْتَلِي الْجَرَجَرِي الْاَزْهَرِي (م ۱۲۰۸/۱۷۹۳ - ۱۷۹۴ء) .
- * الرَّحْمَةُ : (نیز الرحمة) ، رقت و نرمی ، تعطف ، شفقت اور مغفرت ، باری تعالیٰ کی ایک

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲	۲۲۸	اہم صفت .
۱	۲۳۲	* الرَّحِيم : رگ بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی .
۱	۲۳۲	* (الملك) الرحيم : رگ بہ خسرو فیروز .
۱	۲۳۲	* الرَّدَّة : (پہیرنا، لوٹانا) ارتداد ، اسلام سے انحراف .
۱	۲۳۵	* رَدِيف : علم عروض کی ایک اصطلاح .
۱	۲۳۹	* رَزْمِيَّة : رگ بہ حماسہ .
		* رزیک بن طلّاح : الملك العاول ، بدر الدین ابو شجاع مجدد الاسلام ، خلافت فاطمیہ کا
۱	۲۳۹	ایک ارمنی النسل وزیر (م ۵۵۸/۶۱۶۲ء)
۲	۲۳۹	* رزین، بنو : رگ بہ لآ لا لآذن ، بار دوم .
۲	۲۳۹	* رسالت : رگ بہ رسول .
۲	۲۳۹	* رسالۃ : رسالت، تفویض، مراسلہ ، مختصر کتاب وغیرہ ؛ ایک کثیر المعانی لفظ .
		* رستم پاشا : (۱۵۰۰ء تا ۱۵۶۸ء/۱۵۶۱ء)، ایک عثمانی وزیر اعظم اور مؤرخ ،
۲	۲۴۰	مصنف تواریخ آل عثمان .
		* الرُّسَمِيَّة : (بنو رستم) ، تھرت کے اباضی خوارج کا ایک شاہی خاندان (۱۶۰ء/
۲	۲۴۱	۶۷۷ء تا ۷۹۶ء/۷۹۰ء) .
۱	۲۴۴	* رُسُجُك : (روسچق) ، بلغاریا کی ایک بندر گاہ اور ضلعی صدر مقام .
۱	۲۴۶	* رس ، بنو : [بنورسی] Rassids ، یمن کا ایک زیدی حکمران خاندان .
۲	۲۴۹	* رسم : رگ بہ تصویر .
		* رسوا، مرزا : مرزا محمد ہادی (۱۲۷۴ء/۱۸۵۷ء تا ۱۳۵۰ء/۱۹۳۱ء) ، اردو کا ایک
		نامور ادیب ، شاعر ، ہیئت دان ، ماہر موسیقی ، مترجم اور مصنف
۲	۲۴۹	امرا و جان ادا، زیج میرزائی، وغیرہ .
۲	۲۵۱	* رَسُوْل : (جمع رسل) ، انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک قرآنی اصطلاح .
۱	۲۵۳	* الرسولیہ : [بنو رسول] ، یمن کا ایک ترکمانی النسل حکمران خاندان .
۱	۲۵۸	* رشت : ایران کا ایک ضلع اور صوبہ گیلان کا دارالحکومت .
		* رشید : الرشید، (Reosetta) ، دریائے نیل کی شاخ رشید کے مغربی ساحل پر مصر صعیب کا
۲	۲۶۳	ایک قصبہ .
۱	۲۶۵	* الرَّشِيْد : رگ بہ (۱) عبدالواحد ؛ (۲) ہارون الرشید .
		* الرشید، مولای : بن الشریف بن علی بن محمد بن علی عاوی (۱۰۳۰ء/۱۶۳۰-۱۶۳۱ء تا
		۱۰۸۲ء/۱۶۷۲ء) ، سلطان مراکش اور شریفی مملکت پر حکومت
۱	۲۶۵	کرنے والے خاندانے کا حقیقی بانی .
		* رشید احمد گنگوہی : (۱۲۳۷ء/۱۸۲۹ء تا ۱۳۲۳ء/۱۹۰۵ء) ، ہندوستان کے مشہور

محدث ، صوفی ، عالم ، متعدد کتابوں متلاً الکوکب الدری

۲ ۲۶۷

(عربی) وغیرہ کے مصنف اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست .

⊗ رشید الدین طیب : فضل اللہ رشید الدین بن عماد الدولہ ، ابو الخیر (۱۲۴۷ء تا

۱ ۲۶۹

۱۳۱۸ء) ایران کا ایک ممتاز مؤرخ اور مصنف تاریخ غازی .

۱ ۲۷۲

*⊗ رشید الدین و طواط : رک بہ و طواط .

۱ ۲۷۲

⊗ رشید یاسمی : غلام رضا ، محمد ولی خان (۱۳۱۴ھ تا ۱۳۷۰ھ) ، ایران کا ایک شاعر ،

* الرصافہ : (رصافۃ الشام ، رصافۃ شام) ، دریائے فرات سے ۲۵ میل جنوب میں تدمر الشامیہ

۱ ۲۷۳

کا ایک صحرائی شہر .

* رضا : محمد رضا بن محمد المعروف بہ زہر مار زادہ ، عثمانی شاعر اور تذکرہ نویس

۲ ۲۷۸

(۱۰۸۲م/۱۶۷۱ء) .

⊗ رضا خان : مولوی احمد رضا خان بریلوی (۱۲۷۲ھ/۱۸۵۶ء تا ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) ،

المعروف بہ اعلیٰ حضرت و فاضل بریلوی ، ہندوستان کے مشہور عالم ، شاعر ،

واعظ ، فقیہ ، مفتی اور مسلک بریلویت کے بانی مبنی ، متعدد کتابوں اور

۲ ۲۷۸

فتاویٰ کے مصنف .

۱ ۲۸۳

⊗ رضا شاہ پہلوی : رضا خان (۱۸۷۸ تا ۱۹۵۰ء) ، شاہنشاہ ایران (۱۹۲۶ء تا ۱۹۴۱ء) .

۱ ۳۰۱

⊗ رضاع : (ماں کا دودھ پینا) ، ایک معروف فقہی اصطلاح .

* رضا قلی خان ہدایت : بن محمد ہادی بن اسماعیل کمال (۱۲۱۵ھ/۱۸۰۰ء تا ۱۲۸۸ھ/

۱۸۷۱ء) ، ایک ایرانی فاضل و ادیب اور مصنف مفتاح الكنوز

۲ ۳۰۳

وغیرہ .

* رضالی آقا : سولہویں صدی کے اواخر اور سترہویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایران کا

۱ ۳۰۶

نامور میناتوروی مصور .

* رضوان (رضوان) بن تئش : (فخر الملک یا فخر الملوک) ، حاب کا ایک سلجوقی فرمانروا

۱ ۳۰۷

(از ۴۸۸ھ/۱۰۹۵ء تا ۵۰۷ھ/۱۱۱۳ء) .

۱ ۳۱۰

* رضوی : جنوب مغربی عرب میں ایک سلسلہ کوہ .

* رضیہ سلطانہ : ہندوستان میں خاندان غلاماں کی نامور خاتون فرمانروا (۶۳۴ھ/۱۲۳۶ء تا

۱ ۳۱۰

۶۳۷ھ/۱۲۴۰ء) .

۲ ۳۱۱

* رطل : زمانہ قبل از اسلام سے رائج ایک وزن کا پیمانہ .

۱ ۳۱۲

⊗ الرعد : قرآن مجید کی تیرہویں سورۃ .

۱ ۳۱۳

* رغوسہ : (رغوزہ ؛ Rausium) ، دلماسیا میں ایک جزیرہ نما کے جنوبی جانب واقع شہر .

۱ ۳۱۳

* رفاعہ بک الطہطاوی : انیسویں صدی کا ایک مشہور مصری مصنف (م ۱۲۹۰ھ/

۱۸۷۳ء) .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۳۱۶	⊙ الرِّفَاعِي : احمد بن علي، ابو العباس (۵۵۰/۶ تا ۶۱۱/۸ تا ۵۵۷۸/۱۸۲) ، طريقة رفاعيه کے بانی .	
۲ ۳۱۸	⊙ رَفَع : رک بہ رپک .	
۲ ۳۱۸	⊙ رَفَع اليَدَيْن : (رَفَع يَدَيْن)؛ رک بہ صلوة .	
۲ ۳۱۸	* رَفِيع الدِّين : مولانا شاہ محمد رفيع الدين (۵۱۱۶۳/۵۰ تا ۶۱۷۵/۵۱۲۳۳ تا ۶۱۸۱۸/۵۱۸۱۸) ، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ، مترجم قرآن اور مشہور عالم دين .	
۱ ۳۲۰	⊙ رَفِيعِي : حروفی مشرب کا عثمانی ترک شاعر اور مصنف بشارت نامہ (تصنيف ۵۸۱۱/۵۸۱۱) ، غیرہ .	
۲ ۳۲۱	* الرِّقَاشِي : رک بہ ابان بن عبدالحميد .	
۲ ۳۲۱	* رَقَعَه : رک بہ العرب .	
۲ ۳۲۱	* رَقَادَه : قیروان سے چھے میل جنوب میں امرامے بنو اغلب کا سکونتی شہر .	
۲ ۳۲۲	* الرِّقَّة : دریاے فرات کے بائیں ساحل پر الجزیرہ میں دیار مضر کا صدر مقام .	
۱ ۳۲۳	⊙ رَقِيم : رک بہ اصحاب الکہف .	
۱ ۳۲۳	⊙ رَقِيه : (۵۱۹ق تا ۵۲۳/۶۲۳) ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی اور امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کی زوجہ محترمہ .	
۲ ۳۲۱	* رِکَاب : ایک ترکی اور فارسی درباری اصطلاح، بمعنی فرمانروا یا اس کی موجودگی یا پائے تخت .	
۱ ۳۳۴	* رِکَاب دار : ایک درباری اصطلاح ، بادشاہ کی سواری کے وقت رکاب تھامنے والا شخص .	
۱ ۳۳۸	* الرُّكْبَة : (Alruceaba) ، رک بہ رُكْبَة (در لائڈن ، بار دوم) .	
۱ ۳۳۸	⊙ رُكْعَة : رک بہ صلوة .	
۱ ۳۳۸	* رُكْن آباد : شیراز سے چھے میل دور ایک پہاڑ سے نکلنے والی نہر .	
۱ ۳۴۰	* رُكْن الدوله : ابو علی الحسن بن بويه ، خاندان بويه کی بنیاد رکھنے والے تین بھائیوں میں باعتبار سن دوسرا حکمران (م ۵۳۶۶/۶ تا ۶۹۷۶) .	
۱ ۳۴۲	* رُكْن الدِّين : رک بہ (۱) بیبرس اول ؛ (۲) برکیاروق ؛ (۳) طغرل بیگ ؛ (۴) قلیچ ارسلان .	
۱ ۳۴۲	* رُكْن الدِّين : سليمان ثانی بن قلیچ ارسلان ثانی ، روم کا ایک سلجوقی فرمانروا (از ۵۸۸/۱۹۲ تا ۶۰۰ یا ۶۰۱/۵۶۰ تا ۱۲۰۳ - ۶۱۲۰۵) .	
۱ ۳۴۳	⊙ رُكُوع : (سرجھکانا) ، نماز کا ایک رکن .	
۲ ۳۴۳	* الرَّمَادِي : ابو عمر يوسف بن هارون الكندي القرطبي الرماوي ، اندلس کا مشہور عربی شاعر (م ۵۳۰/۳ تا ۶۱۰/۱۳ یا ۵۳۱/۳ تا ۶۱۰/۲۳) .	
۲ ۳۴۷	⊙ رَمَّضَان : روزہ اور نزول قرآن مجید کے باعث اسلامی تقویم کا نواں با برکت مہینا .	

* رَمَضَانَ اوغللری : آناتولی کا ایک چھوٹا سا شاہی خانوادہ : بانی : میر احمد بن رمضان
(از ۵۷۸۰/۱۳۷۹ء تا ۵۸۱۹/۱۴۱۶ء) .

۲ ۳۳۹

* رَمَضَانَ زَادَه : محمد پاشا ، المعروف بہ کوچک نشانجی ، ایک عثمانی مورخ ، مصنف
تاریخ رمضان زادہ وغیرہ (م ۵۹۷۹/۱۵۷۱ء) .

۲ ۳۳۹

* الرَّمَل : عربی عروض کی ایک بحر .

۲ ۳۵۰

* الرَّمْلَه : بیت المقدس کے شمال مشرق میں واقع فلسطین کا قدیم صدر مقام .

۱ ۳۵۵

* رَنْدَه : Ronda ، جنوبی اندلس کا ایک مقام .

۱ ۳۵۹

⊗ رَنْ كَهْج : رگ بہ پاکستان .

۱ ۳۶۰

⊗ رَنْگ : پورا طغری یا ڈھال پر بنی ہوئی کوئی علامت یا نشان .

۱ ۳۶۰

⊗* رَنْگُون : برما کا دارالحکومت .

۱ ۳۶۷

⊗ رَنْگین : سعادت یار خان رنگین (۱۷۵۶/۱۱۷۰ - ۱۷۵۷/۱۲۵۱ء تا ۱۸۲۵/۱۲۵۱ء) ،

۲ ۳۶۹

اردو کا ایک صاحب دیوان ممتاز شاعر .

* رَوَان دِز (روئیس دز) : (روان دژ ، روئین دژ) ، ولایت موصل کی ایک قضا اور اس کا

۲ ۳۷۱

صدر مقام .

* رَوَالی : الیاس یا شجاع ، ایک عثمانی شاعر اور مصنف عشرت نامہ (م ۱۵۲۳/۵۹۳ء) .

۱ ۳۷۳

* رُوْبَة بن العجاج : التیمی ، ابو الجحاف (۶۸۵/۵۶۸ء تا ۷۶۲/۱۳۵ء) ، ایک عرب

۱ ۳۷۵

رجز گو شاعر .

⊗ رُوْبِيَه : پاکستان اور بھارت کا معیاری سکہ .

۲ ۳۷۷

* رُوْح : رگ بہ نفس .

۱ ۳۷۸

* رُوْح بن حاتم بن قبيصه : عہد ہارون الرشید میں والی افریقہ اور مشہور سپہ سالار

۱ ۳۷۸

(م ۷۹۱/۱۷۴ء) .

* رُوْحی : ایک عثمانی مؤرخ ، مصنف تواریخ آل عثمان (م ۱۵۲۸/۵۹۲ء)

۱ ۳۷۹

* رُوْدَس : (Rhodes) ، بحرایجہ میں ایشیائے کوچک کا ایک اہم جزیرہ .

۲ ۳۷۹

* رُوْد سَبْعَق : (Rodosto) ، ولایت تکفور طاغ کا صدر مقام اور بحر مارمورا کی بندرگاہ .

۱ ۳۸۱

* رُوْدکی : ابو عبد اللہ جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم ، ایران کا استاد شاعران

۲ ۳۸۱

اور مقدم شعرائے عجم (م ۹۳۰/۵۳۲۹ - ۹۳۱/۵۳۳۰) .

* رُوْد رَاوِر : الجبال (میڈیا Media) کا ایک سرسبز و شاداب ضلع .

۲ ۳۸۵

* الرُوْد رَاوِرِي : ظہیر الدین ابو شجاع محمد بن الحسین (۱۰۳۵/۵۳۳۷ - ۱۰۳۶/۵۳۳۸ء تا

۱ ۳۸۶

۱۰۹۵/۵۳۸۸ء) ، ایک عباسی وزیر .

⊗ الروز نامج : رگ بہ دفتر .

۲ ۳۸۶

⊗ روزه : رگ بہ (۱) صوم : (۲) رمضان .

۲ ۳۸۶

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۸۶		⊗ روس : رگ بہ سوویٹ روس .
۲ ۳۸۶		⊗ روسچق : رگ بہ رسچک .
۲ ۳۸۶		⊗ روشن : (= روشن) ، پیر : رگ بہ (۱) با یزید انصاری ؛ (۲) روشانی .
۲ ۳۸۶		⊗ روشانی : (روشنیہ) ، بابر کے عہد میں افغانوں کی ایک نیم سیاسی و نیم مذہبی تحریک ؛ بانی : بایزید انصاری المعروف یہ پیر روشن (پیر روشن) .
۲ ۳۸۶		* روشنیہ : رگ بہ روشانی .
۱ ۳۹۲		* روضہ : رگ بہ باغ .
۱ ۳۹۲		* الروضہ : دریائے نیل کے طاس میں واقع ایک بڑا جزیرہ .
۱ ۳۹۲		⊗ روکرٹ : Ruckert ، رگ بہ مستشرقین .
۲ ۳۹۳		* رولۃ : (رولا ؛ صحیح : الروالۃ) ، جزیرۃ العرب کے شمال میں آباد ایک مشہور بدوی قبیلہ .
۱ ۳۹۳		* روم : فارسی اور ترکی زبانوں میں بوزنطی سلطنت کا نام .
۱ ۳۹۵		⊗ الروم : قرآن مجید کی تیسویں سورت .
۱ ۳۹۵		* روم ایلی : (رومیلیہ Rumelia) ، محدود معنی میں تراکیا اور مقدونیا پر مشتمل ایک صوبہ .
۲ ۳۹۶		* روم قلعہ : شمالی شام میں ایک مستحکم قلعہ .
۲ ۳۹۹		⊗ رومی جلال الدین : رگ بہ جلال الدین رومی .
۲ ۴۰۰		⊗ الرویا : نیند میں دکھائی دینے والے خواب ؛ مسلمانوں کا ایک مخصوص عام .
۲ ۴۰۰		* رویان : نصف مغربی ما زندران (رگ بان) پر مشتمل ایک ضلع .
۱ ۴۰۶		* البرہا : (Edessa) ، دیار مضر کا ایک اہم شہر .
۱ ۴۰۶		* رهبانیۃ : ترک دنیا ، تجرد اور خانقاہی زندگی کے لیے اصطلاح .
۱ ۴۰۷		* رهن : ایک معروف قانونی اور فقہی اصطلاح .
۱ ۴۰۸		* رئیس الکتاب یا رئیس آقندی : عثمانی سلطنت میں براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ایک اعلیٰ عہدیدار .
۱ ۴۰۹		* رے : (الرتی ، الرے ، قدیم راغا Raghā) ، تہران کے قریب بلاد الجبال (Media) کا ایک مشہور اور آج کل ویران شہر .
۱ ۴۱۳		* ریاح : بنو افریقہ میں بنو ہلال کی اولاد میں سے سب سے طاقتور عرب قبیلہ .
۱ ۴۱۵		⊗ ریاست : مملکت ، حکومت اور سلطنت وغیرہ کے معنوں میں معروف مذہبی اور فلسفیانہ اصطلاح .
۲ ۴۱۵		⊗ ریاض : رگ بہ باغ .
۱ ۴۲۹		* الریاض : المملكة العربیة السعودیة کا دارالحکومت .
۱ ۴۲۹		

- * ریاضی : ملا محمد ، المعروف بہ ریاضی (۱۵۷۲/۸۹۸۰ تا ۱۶۳۳/۵۱۰۵۴) ، حلب
۱ ۳۳۰
کا قاضی اور ریاض الشعراء کا مؤلف .
- * ریال : بعض اسلامی ممالک (مثلاً سعودی عرب) کا معیاری سکہ .
۲ ۳۳۰
- * ریالہ : ہمایوں قبودانی (شاہی جہاز کا کپتان) ، سلطنت عثمانیہ میں بحریہ کا ایک
۲ ۳۳۰
اعلیٰ افسر .
- * ریحا : دو قصبے : (۱) بیت المقدس سے بارہ میل مشرق میں ایک قصبہ ؛ (۲) ضلع
۱ ۳۳۱
حلب میں ایک چھوٹا سا قصبہ .
- ⊗ ریختہ : رگ بہ اردو .
۱ ۳۳۳
- ⊗ ریختی : عورتوں کی مخصوص زبان میں نسوانی جذبات و احساسات کی ترجمانی کرنے
۱ ۳۳۳
والی اردو شاعری کی ایک صنف .
- * ریدۃ : جنوبی عرب میں متعدد مقامات .
۱ ۳۳۳
- ⊗ ریڈ ہاؤس : Redhouse ، رگ بہ مستشرقین .
۲ ۳۳۳
- ⊗ الریف : مراکش کا ایک پہاڑی ضلع .
۲ ۳۳۳
- ⊗ رینان : Ernest Renan (۱۸۲۲ تا ۱۸۹۲ء) ، مشہور اور ممتاز فرانسیسی مستشرق ،
۱ ۳۳۶
ادیب اور مؤرخ .
- ⊗ رینو : رگ بہ مستشرقین .
۲ ۳۳۶
- ⊗ ریو : Charles Rieu (۱۸۲۰ تا ۱۹۰۲ء) ، ایک معروف مستشرق اور فہرست نگار .
۲ ۳۳۶
- * رہہ : (Regio) ، اندلس کے جنوبی حصے پر مشتمل ایک ضلع .
۲ ۳۳۷

ز

- * ز : (الزء) ، عربی حروف تہجی کا گیارہواں ، فارسی کا تیرہواں اور اردو کا چھبیسواں
۱ ۳۳۹
حرف .
- * زاب : ہسکرہ کے ارد گرد واقع الجزائر کا ایک علاقہ .
۲ ۳۳۹
- * الزاب : دریائے دجلہ کے دو معاون دریا : (۱) زاب الاعلیٰ یا زاب الاکبر ؛ (۲)
۲ ۳۳۰
زاب الاسفل یا زاب الاصغر .
- * زاہج : (زایگ) ، سمائرا کا ایک جزیرہ .
۲ ۳۳۰
- * زاہق : علی فہمی (۱۹۵۳ تا ۱۸۱۸ء) ، ایک ترکی عالم دین ، موستار (ہرسک

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
		(Herzegovina) کا مفتی ؛ جامعہ امتنابول میں زبان و ادب کا استاد اور متعدد کتب کا مصنف .
۲ ۳۳۱		* زار : جنوں سے متعلق امہری زبان کا مستعار لفظ .
۳ ۳۳۲		* زاکانی ، عبید : رک بہ عبید زاکانی .
۱ ۳۳۳		* زاوہ : ایران کے صوبہ خراسان کا ایک شہر .
۱ ۳۳۳		* زاویہ : عیسائی راہب کا حجرہ ، چھوٹی مسجد یا معبد : خاتقاہ اور مدرسے سے مشابہ عمارات یا مجموعہ عمارت .
۱ ۳۳۳		* زاہد : رک بہ زہد .
۱ ۳۳۵		* (X) زاہد : رک بہ میر زاہد الہزوی .
۱ ۳۳۵		* زائے : رک بہ ز (الزاء) .
۱ ۳۳۵		* زائرجہ : مراکش میں مروج نجوم اور سحر کی جدول .
۱ ۳۳۵		* زبور : داؤد علیہ السلام پر نازل شدہ مقدس آسمانی کتاب .
۲ ۳۳۵		* (X) زبید : تہامہ یمن کا ایک شہر .
۱ ۳۳۸		* زبیدۃ : بنت جعفر بن ابی جعفر المنصور ، ام جعفر (۵۱۳۵ / ۶۷۲ تا ۵۲۱۶ / ۸۳۱ء) ، خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ اور اس کے جانشین الامین کی والدہ .
۲ ۳۳۸		* (X) الزبیر بن العوام : جلیل القدر صحابی اور حضرت خدیجہؓ کے بھتیجے (عمر مابین ۶۰ و ۶۷ سال) .
۱ ۳۳۹		* زحل : ایک معروف سیارہ .
۲ ۳۵۰		* (X) زخاؤ : Edward Sachau (۱۸۳۵ تا ۱۹۳۰ء) ، نامور اور ممتاز جرمن مستشرق .
۲ ۳۵۲		* (X) الزخرف : قرآن مجید کی تینتالیسویں سورت .
۲ ۳۵۳		* (X) الزخرفۃ الاسلامی : رک بہ فن .
۲ ۳۵۳		* زر محبوب : ترکیہ کا ایک طلائی سکہ .
۱ ۳۵۵		* زرنج : ایران کا ایک شہر ، سجستان کا سابقہ صدر مقام .
		* الزرنوجی : برہان الدین ، ایک عرب عالم اور ماہر تعلیم ، مصنف تعلیم المتعلم (م نواح ۵۶۲ / ۱۲۲۳ء) .
۲ ۳۵۵		* زریاب : ابو الحسن علی بن نافع (ولادت ۵۸۰ء) ، اندلس کا سب سے بڑا مغنی .
۲ ۳۵۶		* زط : (فارسی : جات ؛ ہندی : جاٹ) ، عربوں کے حملہ سندھ کے وقت سندھ میں موجود ایک قدیم و معروف قوم .
۲ ۳۵۹		* زعامت : ترکیہ کی ایک قانونی و سرکاری اصطلاح .
۱ ۳۶۱		* الزبیان : (ابو المرقال) عطاء بن اسید ، قبیلہ سعد بن زید بنات کا ایک رجزگو شاعر (حیات ۵۷۳ / ۶۹۲ء) .
۲ ۳۶۳		

صفحہ عمود	عنوان
۲ ۳۶۳	* زَقَازِيق : مصری ڈیلٹے کا ایک تجارتی شہر .
۲ ۳۶۳	* زَقُوم : رگ بہ جہنم .
۲ ۳۶۳	⊗ زَكْوَة : معروف دینی اصطلاح اور اسلام کا ایک بنیادی رکن .
۲ ۳۶۹	* زَكْرَوِيه بن مِهْرَوِيه : فرقہ قرامطہ کے بانی حمدان قرمط کا جانشین اور مشہور قرمطی داعی (م ۵۲۹۳/۷۹۰۷) .
۱ ۳۷۱	⊗ زَكْرِيَّا : قرآن مجید میں مذکور بنی اسرائیل کے ایک نبی .
۲ ۳۷۳	* زَكْرِيَّا رَازِي : رگ بہ الرازی .
۲ ۳۷۳	* زَلَالِي : شاہ عباس صفوی اول کا درباری شاعر اور متعدد فارسی مثنویوں کا مصنف (م ۱۶۱۵/۵۱۰۳۲) .
۱ ۳۷۳	⊗ الزَّلْزَال : قرآن مجید کی ننانویں سورہ .
۲ ۳۷۷	* زَلْزَل : منصور بن جعفر الضارب، ابتدائی عباسی دور کا ایک مشہور درباری عود نواز .
۲ ۳۷۷	* الزَّلَاقَه : (زلقہ) ، اندلس میں بطلیوس (رگ بآن) کے قریب سلطان یوسف بن تاشفین اور الفانسو ششم کے مابین ایک مشہور معرکے کا محل وقوع .
۱ ۳۷۷	* زَمَالَه : رگ بہ سمالہ .
۱ ۳۷۷	* زَمَان : بمعنی وقت ، زمانہ ، دہر ، حین : فلسفہ کلام اور فلکیات کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۸۱	* زَمَان : وقت و زمانہ ؛ عربوں اور مسلمانوں کا نظام الاوقات .
۱ ۳۸۷	* الزَّمَخْشَرِي : ابوالقاسم محمود بن عمر (۴۱۲/۷۵۳ تا ۴۱۳/۷۵۳) ، مشہور معتزلی عالم ، فقیہ ، متکلم اور نحوی ، مصنف تفسیر الکشاف .
۱ ۳۹۲	⊗ الزَّمَر : قرآن مجید کی انتالیسویں سورہ .
۲ ۳۹۳	⊗ زَمَزَم : مکہ معظمہ کا متبرک و قدیم کنواں .
۱ ۳۹۵	* زَمِيْنَدَار : ہاک و ہند میں ایک قانونی و دستاویزاتی اصطلاح ، بمعنی زمین رکھنے والا .
۲ ۳۹۵	* زَمِيْن داور : دیکھیے لا لائڈن ، بار دوم .
۲ ۳۹۵	⊗ زِنَا : جنسی بد کاری کے مفہوم میں ایک شرعی و فقہی اصطلاح .
۱ ۵۰۱	* زِنَاتَه : بربر آبادی کا ایک گروہ .
۲ ۵۰۱	* زِنْتَا : (Szenta) ، یوگوسلاویا کا ایک مشہور شہر .
۲ ۵۰۱	* الزِنَج : افریقہ کے مشرقی ساحل پر بسنے والے حبشی قبائل .
۲ ۵۰۳	* زَلْجَان : ایران میں ایک اہم شہر .
۱ ۵۰۳	* الزَنْجَالِي : عزالدین عبدالوہاب بن ابراہیم ، ساتویں صدی ہجری/تیرھویں صدی عیسوی کا ایک عرب نحوی اور مصنف المعرب عما فی الصحاح والمغرب وغیرہ .
۱ ۵۰۵	* الزَنْجَبَار : افریقہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کے ایک جزیرے (اب تنزانیہ کے ایک صوبے) کا دارالحکومت .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۰۵		* زنجیرلی : شمالی شام میں اصلاحیہ کے قریب ایک گاؤں .
۲ ۵۰۶		* زندہ رود : وسطی ایران کا ایک بڑا دریا .
۱ ۵۰۷		* زندقہ : رک بہ زندیق .
۱ ۵۰۷		* زندیق : (فاسد العقیدہ) ، ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۵۰۷		* زنگی : عماد الدین بن قاسم الدولہ آق سنقر ، موصل کا اتابک اور سلجوقی دور کا ایک ممتاز والی (۵۲۱/۱۱۲۷ء تا ۵۳۱/۱۱۳۶ء) .
۱ ۵۱۰		* زنار : راہبوں کا کمر بند ، ذمیوں کی ڈوری ، برہمنوں کا متبرک دھاگا وغیرہ .
۲ ۵۱۲		* الزواوی : رک بہ ابن معطی .
۲ ۵۱۳		* زور خانہ : ایرانی ورزش گاہ .
۲ ۵۱۳		* زون : زمین داور میں نصب ایک ہندی دیوتا کا بت .
۲ ۵۱۵		* زویلہ : شمالی افریقہ میں دو شہر : (۱) زویلۃ المہدیہ ؛ (۲) زویلۃ السودان .
۱ ۵۱۶		* الزھاوی : جمیل صدیقی (۵۱۲۹/۱۸۶۳ء تا ۵۱۳۵۳/۱۹۳۶ء) ، عراق کے دور جدید کا سب سے بڑا عربی شاعر .
۲ ۵۱۶		* زہد : تصوف کی ایک معروف اصطلاح .
۲ ۵۲۰		* زہرہ : (Venus) ، ایک معروف سیارہ .
۱ ۵۲۲		* الزہری : ابوبکر محمد ، المعروف بہ ابن شہاب (۵۵۰/۶۶۷ء یا ۵۵۱/۶۷۱ء تا ۵۱۲۳/۶۷۱ء) ، ایک مشہور فقیہ اور راوی حدیث .
۱ ۵۲۳		* زہیر بن ابی سلمی : قبل از اسلام کا ایک ممتاز اور عظیم ترین عرب شاعر .
۱ ۵۲۶		* زیاد بن ایبہ : المعروف بن ابن سمیہ یا ابن عبید الثقفی ، حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں مشہور والی عراق .
۱ ۵۲۹		* زیادۃ اللہ بن ابراہیم : رک بہ اغالبہ (بنو اغلب) .
۱ ۵۳۱		* زیادی : بنو زیاد ، یمن کا ایک حکمران خاندان (از ۵۲۰۳/۸۱۹ء تا ۵۳۷۱/۸۹۸ء) .
۱ ۵۳۱		* زیار (آل) : عراق عجم ، طبرستان اور بعد ازاں جرجان پر سامانیوں کا باجگزار حکمران خاندان (از ۵۳۱۶/۹۲۸ء تا ۵۳۷۰/۱۰۷۷ء) .
۲ ۵۳۲		* زیارۃ : ملاقات اور رؤیت ؛ اصطلاحاً کسی مقدس و متبرک مقام خصوصاً روضہ نبوی پر حاضری دینا .
۱ ۵۳۳		* زیان (بنو) : سلاطین تلمسان کا ایک بربر خانوادہ (از ۵۶۳۳/۱۲۳۶ء تا ۵۷۳۷/۱۱۳۷ء) .
۱ ۵۳۳		* زیانیہ : شاذلی فرقے کی ایک شاخ ؛ بانی: محمد بن عبدالرحمن بن ابی زیان (م ۵۱۱۳۵/۱۷۳۳ء) .
۱ ۵۳۵		

- * زیب النساء : (۵۱۰۴۷/۶۱۶۳۷ تا ۵۱۱۱۴/۶۱۷۰۲) ، شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی سب سے بڑی اولاد اور نامور مغل شہزادی .
- ۱ ۵۳۶
- * زیبک : ازبک کے علاقے کا ایک ترک قبیلہ .
- ۲ ۵۳۱
- * زیتون : ایشیائے کوچک کے جنوب مشرق میں ولایت مرعش کا سب سے بڑا شہر .
- ۲ ۵۳۲
- * زید بن ثابت : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامور صحابی اور کاتب وحی (م ۵۴۵/۶۶۵ - ۶۶۶/۶۶۶) .
- ۲ ۵۳۳
- * (X) زید بن حارثہ : بن شراحیل (شرحبیل) الکلبی ، ابو الاسامہ ، مشہور صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص (م ۵۸/۶۳۰) .
- ۱ ۵۳۵
- * (X) زید بن علی بن حسین : فاطمی و علوی خاندان کے جید عالم ، مجاہد اور فرقہ زدہ کے امام (م ۵۱۲۲/۶۷۳) .
- ۱ ۵۳۶
- * زید بن عمرو : بن نفیل المکی القرشی ، یکے از حنفاء، یعنی عہد جاہلیت کے ایک موحد اور مشہور صحابی حضرت سعید بن زید کے والد .
- ۲ ۵۳۸
- * زیدان : جرجی بن حبیب زیدان (۱۸۶۱ تا ۱۹۱۴ء) ، مصر کا ایک عیسائی عرب فاضل ، صحافی ، ادیب مؤرخ اور متعدد کتابوں کا مصنف .
- ۱ ۵۳۹
- * (X) الزیدہ : زید بن علی (رک باں) کو امام ماننے والے شیعوں کی ایک شاخ .
- ۱ ۵۵۲
- * زیری ، بنو : عہد اسلامی کے المغرب میں قرون وسطیٰ کے دو خاندان : (۱) چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کے آخر سے چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی کے وسط تک مشرقی بربر کے ایک حصے پر حکمران خاندان ؛ (۲) زیریہ اندلس ، افریقہ کے بربر خاندان بنو زیری کی ایک شاخ ، قرطبہ میں اموی خلافت کے ختم ہونے کے بعد ایک خود مختار حکومت کی بانی .
- ۱ ۵۶۰
- * زیلج : خلیج عدن کے افریقی ساحل پر ایک بندرگاہ اور شہر .
- ۱ ۵۶۳
- * زینب : رک بہ المرابطون .
- ۱ ۵۶۵
- * (X) زینب بنت جحش : ام المؤمنین ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ، جناب عبدالمطلب کی نواسی (م ۶۳۹/۵۲۰ - ۶۴۰/۵۲۰) .
- ۱ ۵۶۵
- * زینب بنت حزیمہ : بن الحارث بن عبداللہ الہلالیہ ، ام المؤمنین ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ (م ۶۲۵/۵۴۰) .
- ۱ ۵۶۸
- * (X) زینب بنت علی : حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور تاریخ اسلام کی ایک بغایت محترم شخصیت (م ۶۸۱/۵۶۲) .
- ۲ ۵۶۸
- * (X) زینب بنت محمد : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی (م ۵۸/۶۳۰) .
- ۲ ۵۷۰

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۵۴۱		* الزینبی : ابو القاسم علی بن طراد بن محمد ، خلفائے عباسیہ کا ایک وزیر (م ۵۳۸ھ / ۶۱۳۳ء) .
۱ ۵۴۲		* زین الدین : ابو بکر محمد بن محمد الخوافی (۵۷۷ھ / ۱۱۵۶ء تا ۵۸۳ھ / ۱۱۳۳ء) ، تصوف کے سلسلہ زینیہ کے بانی .
۲ ۵۴۲		* الزیانی : ابو القاسم بن احمد بن علی بن ابراہیم (۵۱۳ھ / ۱۱۲۳ء تا ۵۲۹ھ / ۱۱۳۳ء) ، مراکشی سیاست دان ، مؤرخ اور مصنف .

س

۱ ۵۴۵	⊗	س : عربی حروف ابجد کا بارہواں ، فارسی کا پندرہواں اور اردو کا اٹھائیسواں حرف .
۱ ۵۴۵	*	سابور : رگ بہ شاپور .
۱ ۵۴۵	*	سابور بن اردشیر (ابو نصر) : بہاء الدولہ بویہی کا وزیر اور ایک بہت بڑے کتاب خانے کا بانی (م ۵۱۶ھ / ۱۰۲۵ء - ۱۰۲۶ء) .
۱ ۵۴۶	*	ساج : سا گوانی جنس کا درخت (ٹیک) .
۲ ۵۴۶	*	ساجیہ : رگ بہ (۱) ابو الساج (آل) ؛ (۲) ابو الساج دیودار .
۲ ۵۴۶	*	ساحر جلال : (ولادت ۱۸۸۳ء) ، ایک مشہور جدید ترکی شاعر اور مصنف .
۱ ۵۴۸	*	ساحل : سمندر یا دریا کا کنارہ ؛ ایک معروف جغرافیائی اصطلاح .
۱ ۵۴۸	*	سارا سینز : رگ بہ سیراسینی .
۱ ۵۴۸	*	سارت : ایک ترکی اصطلاح، بمعنی تاجر پیشہ قوم .
۲ ۵۸۰	*	سارہ : رگ بہ ابراہیم .
۲ ۵۸۰	⊗	سارٹن : George Sarton (۱۸۸۳ تا ۱۹۵۶ء) ، تاریخ العلوم کا مشہور محقق ، مصنف <i>History of Science</i> وغیرہ .
۱ ۵۸۱	*	ساریق : چور ؛ ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۵۸۳	*	ساری : (ساروٹی ، ساریہ) ، ایران کا ایک شہر ، طبرستان کا سابق دارالحکومت .
۱ ۵۸۵	*	ساسان : خانہ بدوش بازیگروں اور بھکاریوں کا ولی نعمت اور پیر و مرشد .
۲ ۵۸۵	*	ساسانیان : (ساسانیہ، آل ساسان) ، مشہور ایرانی شاہی خاندان (۲۲۶ تا ۶۵۱ء) .
۱ ۶۰۷	*	ساعة : وقت کی ایک خاص مدت ، گھنٹا ؛ ایک تقویمی اصطلاح .

صفحہ نمبر	عنوان
۲ ۶۰۸	* الساق : (ٹانگ ، پنڈلی) ؛ علم ہندسہ کی ایک اصطلاح .
۱ ۶۰۹	* ساقز : جزیرہ خیوس Chios کا ترکی نام .
۲ ۶۱۰	* سال : ایک تقویمی اصطلاح .
۲ ۶۱۰	* سالار : سردار، کماندار ؛ ایک عسکری اصطلاح .
۱ ۶۱۱	* سالار جنگ : سید میر تراب علی (۱۸۲۹ء تا ۱۸۸۳ء)، ریاست حیدر آباد (دکن) کا ایرانی نژاد نامور وزیر اور سیاست دان .
۲ ۶۱۲	* سالم : ایک دینی و علمی اصطلاح .
۲ ۶۱۳	* سالم : محمد امین الملقب بہ میرزا زادہ ، ایک ترک فقیہ اور تذکرہ شعرا کا مصنف (۱۱۵۲ھ/۱۷۳۹ء) .
۱ ۶۱۳	* سالم بن سوادہ التمیمی : والی مصر (از محرم تا ذوالحجہ ۱۶۳ھ/۷۸۰-۷۸۱ء) .
۱ ۶۱۳	* سالم بن محمد : بن محمد بن عزالدین ، ایک نامور مالکی فقیہ اور محدث (۱۰۱۵ھ/۱۶۰۶ء) .
۲ ۶۱۳	* سالمیہ : متکلمین کا ایک فرقہ ؛ بانی : ابو محمد سهل بن عبداللہ التستری (رگ ہاں ؛ م ۲۸۳ھ/۸۹۶ء) .
۱ ۶۱۶	* سالنامہ : سالانہ روداد ؛ ایک ترکی سرکاری اصطلاح .
۲ ۶۱۶	* سألور : ایک اوغوز قبیلہ .
۲ ۶۱۸	* سام : حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا بیٹا .
۱ ۶۱۹	* سام میرزا : بن شاہ اسماعیل اول (۹۲۳ھ/۱۵۱۷ء تا ۹۸۳ھ/۱۵۷۶-۱۵۷۷ء) ؛ مشہور ایرانی شاعر اور مصنف تحفہ سامی .
۲ ۶۱۹	* سامانی : (بنو سامان) ، ایرانی بادشاہوں کا ایک خاندان (از ۲۷۹ھ/۸۹۲ء تا ۳۸۹ھ/۹۹۹ء) .
۱ ۶۲۵	* سامرا : دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ایک پرانا شہر اور سات عباسی خلفا کا مستقر .
۱ ۶۲۹	* سامری : بابل و فارس کی سلطنتوں میں بکھری ہوئی شمالی قبائل کی نمائندہ قوم .
۱ ۶۳۳	* سامری ادب : سامری قوم کا ادب .
۲ ۶۵۳	* السامری : قرآن مجید میں مذکور بنی اسرائیل کو سنہری بچھڑے کی پرستش پر آمادہ کرنے والا شخص .
۲ ۶۵۳	* سامس : (سیسام آطہ سی) بحیرہ ایجہ میں ایک جزیرہ .
۲ ۶۵۶	* سامی : شمس الدین سامی بے فراشری (۱۸۵۰ تا ۱۹۰۳ء)، ترکی ماہر لغت اور مصنف قاموس الاعلام وغیرہ .
۲ ۶۵۶	* سان سٹیفانو : San Stephano ، بحیرہ مرمرہ پر قسطنطنیہ سے بارہ میل کے فاصلے پر

- ۲ ۶۵۸ ایک چھوٹا سا قصبہ .
- * ساوج بلاق : دو علاقوں کا نام : (۱) تہران سے قزوین کی شاہراہ کے دونوں طرف پھیلا ہوا سرسبز علاقہ ؛ (۲) صوبہ آذربائیجان کا جنوبی حصہ .
- ۲ ۶۵۹ * ساوجی : تین عثمانی شاہزادے : (۱) ساوجی بیگ ، سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان کا چھوٹا بھائی اور ارفغرل کا بیٹا (م ۱۶۸۳/۱۴۸۵ - ۱۶۲۸۶ء) ؛ (۲) عثمان کا ایک بیٹا ؛ (۳) مراد اول کا سب سے بڑا بیٹا (م ۱۶۸۷ء/۱۳۸۵ - ۱۶۳۸۶ء) .
- ۱ ۶۶۸ * ساوہ : وسطی ایران کا ایک شہر اور ایک ضلع .
- ۱ ۶۶۹ * سائکس : Sir Percy Sykes (۱۸۶۷ تا ۱۹۴۵ء) ، ایک اعلیٰ انگریز فوجی افسر اور *History of Persia* وغیرہ متعدد کتب تاریخ و جغرافیہ کا مصنف .
- ۲ ۶۷۲ * سبا : قرآن مجید کی چوبیسویں سورہ .
- ۱ ۶۷۳ * سبا : عرب کے جنوب مغربی حصے کی ایک قوم اور قدیم سلطنت .
- ۱ ۶۷۴ * سبب : علت ؛ فلسفہ کی ایک اصطلاح .
- ۱ ۶۹۲ * سبت : (ہفتے کا دن) ، یہودیوں کا یوم تعطیل .
- ۲ ۶۹۵ * سبتہ : (Seuta) ، مراکش کا مشہور شہر .
- ۱ ۶۹۶ * السبئی : ابو العباس احمد بن جعفر الخزرجی السبئی (۵۳۰/۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ء تا ۱۲۰۵/۵۶۰ء) ، ایک نیک اور صاحب کرامت بزرگ .
- ۲ ۶۹۶ * سبع : (الاعلیٰ) ، قرآن مجید کی ستاسویں سورہ .
- ۲ ۶۹۷ * سبحان اللہ : قرآن مجید میں بکثرت مستعمل ترکیب یا جملہ .
- ۱ ۶۹۸ * سبحہ : (نیز سبحہ) ، بمعنی تسبیح .
- ۲ ۶۹۹ * سبحہ : شمالی افریقہ اور صحرائے اعظم میں کھاری پانی کی چھوٹی جھیلیں .
- ۲ ۷۰۱ * سیرواہر : مغول کے عہد میں سائبیریا کا نام .
- ۱ ۷۰۲ * سبزوار : دد مقامات کا نام : (۱) ہرات کے نواح میں شہر اسفزار ؛ (۲) خراسان کا ایک شہر .
- ۱ ۷۰۲ * سبسطیہ : (۱) قدیم سامریہ یا سماریہ Samaria ، فلسطین کا ایک قدیم شہر ؛ (۲) ثغور الشامیہ میں ایک مقام ؛ (۳) ایشیائے کوچک کا ایک شہر .
- ۲ ۷۰۳ * سبط : رگ بہ (۱) ابن الجوزی ؛ (۲) الماردینی ؛ (۳) ابن التعاویذی .
- ۱ ۷۰۵ * سبع : سبعہ (سات) ؛ سامی و غیر سامی اقوام میں خاص اہمیت کا حامل عدد .
- ۱ ۷۰۵ * السبع : (یا صوره السبع) ، فلکیات کی اصطلاح ، بمعنی مجمع کواکب الذئب .
- ۲ ۷۰۶ * سبعیہ : ظاہری ائمہ کو سات تک محدود رکھنے والے مختلف شیعہ گروہ .
- ۱ ۷۰۷ * سبک : طرز ، انداز بیان ؛ فارسی زبان و ادب کی ایک اصطلاح .
- ۲ ۷۱۳

صفحہ عمود	عنوان
۱ ۷۱۳	● السبکی : شیخ محمد بن احمد خطّاب السبکی (۵۱۲۷۳/۱۸۵۸ء تا ۵۱۳۵۲/۱۹۳۳ء) ، ایک دینی مصلح اور طریقۃ السبکیہ کے بانی .
۱ ۷۲۵	* السبکی : علاقہ منوفیہ کے ایک مقام سبک کی نسبت سے مشہور علما کا ایک خاندان .
۱ ۷۲۸	⊗ سبیل : ایک معروف قرآنی اصطلاح ، بمعنی ایسا راستہ جس پر چلنا آسان ہو .
۱ ۷۲۸	⊗ سبیل اللہ : ایک قرآنی اصطلاح ، بمعنی اللہ کی راہ .
۲ ۷۲۸	⊗ سپاہ : رگ بہ سپاہی .
۲ ۷۲۸	⊗ سپاہی : ایک عسکری اصطلاح ، بمعنی فوجی ، لشکری .
۱ ۷۳۰	⊗ سپہر : مرزا محمد تقی کاشانی ، ایک ایرانی مؤرخ اور ادیب ، مصنف براہین العجم وغیرہ (۵۱۲۹۶م/۱۸۷۸ء) .
۱ ۷۳۱	⊗ سِتُّ الْمُلْکِ یا سَيِّدَةُ الْمُلْکِ : خاتون مملکت سلسلہ دودمان سلطانی ، ایک فاطمی حکمران خاتون ، الحکم بامر اللہ کی ہمشرہ .
۲ ۷۳۱	⊗ سَتْر : (سَتر ، سَتر) ، ایک معروف قرآنی اصطلاح ، بمعنی حجاب ، پردہ (نیز رگ بہ حجاب) .
۱ ۷۳۷	* سْتْرَه : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی غلاف ، حفاظت ، پناہ گاہ .
۱ ۷۳۸	⊗ سٹوری : C. A. Storey (ولادت ۱۸۸۸ء) ، مشہور انگریز مستشرق اور مصنف <i>Persian Literature</i> ، وغیرہ .
۲ ۷۳۸	⊗ سٹینلے لین ہول : رگ بہ لین ہول ، سٹینلے
۲ ۷۳۸	⊗ سَجَّاح : ام صادر بنت اوس ، بنو تمیم کی ایک مدعیۃ نبوت .
۱ ۷۴۰	⊗ السَّجَّاءُ وَنَدَى : ابو الفضل (یا ابو عبداللہ) محمد بن طیفور الغزنوی ، قرآن مجید کے نامور قاری اور کتب علم القراءت کے مؤلف (م ۱۱۶۳/۵۶۰ - ۱۱۶۵ء) .
۲ ۷۴۰	⊗ السَّجَّاءُ وَنَدَى : سراج الدین ابو طاہر محمد بن محمد بن عبدالرشید ، حنفی مذہب کے ایک فقیہ اور مصنف الفرائض السراجیہ وغیرہ (حیات ۵۹۷/۱۲۰۰ء) .
۲ ۷۴۰	⊗ سَجَّادہ : تصوف کی ایک اصطلاح ، بمعنی مصلی ، جاے نماز .
۲ ۷۴۶	⊗ سَجَّیل : سورہ فیل میں مذکور ایک لفظ ، بمعنی سخت پتھر اور ضرب شدید .
۲ ۷۴۷	⊗ سَجِّین : ایک قرآنی اصطلاح ، بمعنی وہ مقام جہاں اشرار کے اعمال نامے محفوظ رکھے جاتے ہیں .
۲ ۷۴۸	⊗ سَجْدَہ : ماتھا یا ناک زمین پر رکھنا ؛ نماز کا ایک رکن .
۱ ۷۴۹	⊗ السَّجْدَہ : قرآن مجید کی بتیسویں سورۃ .
۱ ۷۵۰	⊗ سَجِسْتَان : رگ بہ سیستان .
۱ ۷۵۰	⊗ سَجَّع : ہلم بلاغت کی ایک اصطلاح ، بمعنی ہم قافیہ کلام ، مقفی عپارت وغیرہ .
۲ ۷۵۲	⊗ سَجَّیل : قرآن مجید میں مذکور ایک کلمہ ، بمعنی دستاویز ، طومار وغیرہ .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱	۷۵۳	* سِجِلْمَاسَہ : (نیز سَجَل و مَاسَہ)، تافیلالت (رگ بآن) کا قدیم دارالحکومت اور آج کل مراکش کا ایک ویران قصبہ .
۱	۷۵۳	⊗ سِجِل سَرْمَسْت : عبد الوہاب (۱۱۵۲ھ/۱۷۳۹ء تا ۱۲۳۲ھ/۱۸۲۶ء) ، سندھی ، پنجابی ، اردو اور فارسی کے نامور سندھی صوفی شاعر .
۱	۷۵۶	⊗ سِحْر : رگ بہ علم (سحر و نیرنجات) .
۱	۷۵۶	* سَحْنُون : عبدالسلام بن سعید حبیب التنوخی (۱۶۰ھ/۷۷۷ء تا ۲۳۰ھ/۸۵۳ء) ، ایک مشہور محدث ، مالکی فقیہ مصنف المدونہ وغیرہ .
۲	۷۵۹	* سِحْوَل : جنوبی عرب (یمن) میں ایک قصبہ ، نیز ایک قبیلہ .
۲	۷۵۹	⊗ السِّخَاوِی : شمس الدین ابو الخیر محمد بن عبدالرحمن (۸۳۱ھ/۱۴۲۸ء تا ۹۰۲ھ/۱۴۹۷ء) ، ایک مشہور عالم دین ، فقیہ اور مصنف الضوء اللامع وغیرہ .
۲	۷۶۲	⊗ سَخِی سَرَوْر سُلْطَان : سید احمد (نواح ۵۲۳ھ/۱۱۳۰ء تا ۵۷۷ھ/۱۱۸۱ء) ، بر عظیم پاک و ہند کے ایک ناسور صوفی .
۲	۷۶۷	* سِد : Cid ، رگ بہ السید .
۲	۷۶۷	* سَر : کسی چیز کی انتہائی حد : فارسی ، ترکی اور اردو کی بہت سی ترکیبوں میں مستعمل لفظ ، مثلاً سر عسکر ، سرغنہ وغیرہ .
۱	۷۶۸	* سِر : رگ بہ سر .
۱	۷۶۸	* سَرَاج الدَوْلہ : نواب منصور الملک سراج الدولہ (۱۱۳۵ھ/۱۷۲۲ء یا ۱۱۳۵ھ/۱۷۲۲ء تا ۱۱۷۱ھ/۱۷۵۷ء) ، نواب علی وردی خان ، ناظم بنگال ، بہار و اڑیسہ ، کا نواسہ اور جانشین (از ۱۱۷۰ھ/۱۷۵۶ء) .
۲	۷۷۲	* سَرَاج القَطْرِب : بادنجانی قسم کا ایک پودا .
۲	۷۷۳	* سَرَاة : عرب کی سطح مرتفع کے مغربی پہلو کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا پہاڑوں کا ایک معروف سلسلہ .
۲	۷۷۳	⊗ سَرَالِیْکِی : رگ بہ پنجابی .
۲	۷۷۳	* سَرَای : ترکی لشکر آلتون اردو (Golde Horde) کا صدر مقام .
۲	۷۷۶	* سَرَای : (ترکی : سراجیو) ، جنوبی سلافی ریاستوں میں سے ریاست بوسنہ کا صدر مقام .
۱	۷۷۹	* سَرَای : عمارت، مسکن؛ فارسی اور ترکی کی مختلف تراکیب میں مستعمل لفظ .
۲	۷۷۹	* سَرَبْدَار : آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی میں خراسان پر حکومت کرنے والا ڈاکو سرداروں کا ایک قبیلہ .
۱	۷۸۵	⊗ سَرِبِیَا : مشرقی یورپ کی ایک سابقہ سلطنت .
۲	۸۰۷	* سَرِہِل : (عربی : راس القنطرہ) ، افغانستانی ترکستان کا ایک شہر .
۱	۸۰۸	* سَرِہِل زہاب : بغداد سے کرمان شاہ جانے والی شاہزادہ پر ایک مقام .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۸۰۹	* سرت : رگ بہ سعرد .	
۱ ۸۰۹	* سرت : (صرت) ، خلیج سدرہ پر ایک بڑا شہر .	
۱ ۸۱۰	* سرخان : حوران کی جنوبی حد سے شروع ہونے والی ، شمالی عرب کی ایک وادی .	
۱ ۸۱۱	* سرخس : مشہد اور مرو کے مابین ایک قدیم شہر .	
	⊗ السرخسی : شمس الائمہ ابوبکر محمد بن ابی سہل احمد (۱۰۰۹/۳۰۰ - ۱۰۱۰ء تا ۵۳۸۳/۹۰۰ء) ، ایک مشہور حنفی فقیہ اور متعدد کتابوں ، مثلاً	
۲ ۸۱۱	شرح سیر الکبیر وغیرہ کے مؤلف .	
۱ ۸۱۵	* سرداب : گرمیوں کے موسم کے لیے زیر زمین عمارت .	
	⊗ السردابیہ : رے سے خروج مہدی پر یقین رکھنے والا غالی (رگ بہ غلاۃ) شیعیوں کا ایک گروہ .	
۲ ۹۱۵		
۲ ۸۱۵	* سردار : ایک معروف سیاسی و عسکری اصطلاح .	
۲ ۸۱۶	* سردانیہ : (Sardania) ، کارسیکا کے جنوب میں بحیرہ روم کا ایک جزیرہ .	
	* سرد سیر : موسم گرما گزارنے کے لیے کوئی سرد مقام ؛ صوبہ فارس کے جنوبی اور شمالی حصے .	
۱ ۸۱۸	* سراج ، بنو : (Abencerrages) ، غرناطہ کے آخری ایام میں عرب اشراف کا خاندان .	
۲ ۸۱۸	* سیروز : سرس ، سلانیک کی ولایت میں سنجاق کا صدر مقام .	
۲ ۸۲۰	* السرطان : کیکڑا ، ایک معروف جانور ؛ نیز کینسر کی بیماری .	
۱ ۸۲۱	* السرطان : علم ہیئت کی ایک اصطلاح ، منطقۃ البروج کی انتہائی شمالی صورت .	
۲ ۸۲۳	* سرعسکر قہوسی : رگ بہ باب سر عسکری .	
۲ ۸۲۳	⊗ سرقہ : ایک معروف قرآنی و فقہی اصطلاح .	
	* سرقسطہ : Saragossa ، ہسپانیہ کا ایک شہر اور اسی نام کے موجودہ صوبے کا صدر مقام .	
۲ ۸۲۴		
۲ ۸۲۸	* سرکیشیا : رگ بہ چرکس .	
	⊗ سرمد : محمد سعید المعروف بہ سرمد ، سلطان عالمگیر کے عہد کا ایک متنازع فیہ شخص (م ۱۰۷۰/۱۶۶۰ء) .	
۲ ۸۲۸		
۱ ۸۳۱	* سرنڈیب : رگ بہ سیلون .	
۱ ۸۳۱	* سروال : شلوار ، ایشیا کے بعض علاقوں کے لباس کا ایک اہم حصہ .	
۲ ۸۳۳	* سروت : رگ بہ طاہر بے .	
	⊗ سروج : پیرہ جک سے الہا کو جانے والی جنوبی سڑک پر واقع دیار مضر کا ایک شہر .	
۲ ۸۳۳		
	⊗ سرور : مرزا رجب علی بیگ (۱۲۰۱ یا ۱۲۰۲ تا ۱۲۸۳/۱۸۶۷ء) ، اردو کے ایک	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۳۵	نامور ادیب اور مصنف فسانہ عجائب وغیرہ .	* سروری : متعدد عثمانی ترک شعرا : (۱) مصلح الدین مصطفیٰ افندی ، ماهر لسانیات اور مصنف عجائب المخلوقات وغیرہ (م ۱۵۶۲/۸۹۶۹) ؛ (۲) سید عثمان ، عظیم ترین ترکی تاریخ نویس ، سروری مجموعہ سی وغیرہ کا مؤلف (م ۱۸۱۳/۵۱۲۲۹) .
۱ ۸۳۹		⊗ سر ہند شریف : صوبہ پنجاب (بھارت) کا قدیم شہر اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کا مولد و مدفن .
۲ ۸۳۹		



صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۱		* السَّرِيُّ بن الحَكَم : بن يُوْسُف البَلْخِي ، مصر کا والی اور مہتمم مالیات (از ۵۲۰۰ھ تا ۵۲۰۵ھ/۴۸۲۰ء) .
۲ ۱		* السَّرِيُّ بن مَنصُور : المعروف بہ ابوالسرایا ، عہد عباسی کا ایک طالع آزما (م ۵۲۰۰ھ/۴۸۱۵ء) .
۲ ۲		* سَرِيُّ السَّقَطِي " : ابوالحسن سری بن مَغَاس ، ایک نامور صوفی بزرگ ، حضرت جنید بغدادیؒ کے ماموں اور مرشد (م ۵۲۵۳ھ/۴۸۶۷ء یا ۵۲۵۷ھ/۴۸۷۰ء) .
۱ ۳		* سَرِيحِيَّة : "دورِ حکمی" کا تفسیح تعلیق (حلفی معاہدہ) سے متعلق شوافع کا ایک بنیادی فقہی مسئلہ .
۲ ۳		* سَرِيحِيَّة : رک بہ زابج .
۲ ۳		* سَرِيح : علم عروض کی ایک بحر .
۱ ۳		* سَرِيحَتِ اِسْلَام : انڈونیشی مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت .
۲ ۱۷		* سَزَا : رک بہ (۱) حد ؛ (۲) عقوبت ؛ (۳) تعزیر ؛ (۴) جرم ؛ (۵) حساب ؛ (۶) یوم الحساب وغیرہ .
۲ ۱۷		* سزایی : شیخ حسن (دہ) افندی ، ایک ممتاز صاحب دیوان ترکی شاعر (م ۱۱۵۱ھ/۶۱۷۳ء) .
۱ ۱۸		* سَسَك : رک بہ لومبک .
۱ ۸۱		* سَسَلِي : رک بہ صقلیہ .
۱ ۱۸		* سَطِيح بن رِيَّعَة : عرب کے دور جاہلیت کا ایک کاهن ؛ ایک افسانوی شخصیت .
۱ ۲۱		* سَعَادَة : نیک بختی ؛ ایک معروف دینی اصطلاح .
۱ ۲۲		* سَعَادَتِ خان : رک بہ برہان الملک .
۱ ۲۲		* سَعَادَتِ علی خان : ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں اودھ کا نواب (از ۱۷۹۸ء تا ۱۸۱۳ء) .
۱ ۲۳		* سَعَد : علم الہیئت کی ایک اصطلاح ، بمعنی خوش بختی کا مجمع الکواکب .
۱ ۲۳		* سَعَد (بنو) : مراکش کے علوی اشراف کا ایک حکمران خاندان (از ۱۵۰۹ء تا ۱۶۵۳ء) .
۱ ۲۸		* سَعْد بن ابی وقاص " : جلیل القدر صحابی اور جنگ قادسیہ کے فاتح سپہ سالار (م ۵۵۰ھ/۶۷۰-۵۶۷۱ء) .
۱ ۳۰		* سَعْد بن زَلْجِي : ابو شجاع مظفر الدین ، فارس کا سفیری اتابک (از ۵۹۹ھ - ۵۶۰۰ھ/۴۱۲۰۳ء تا ۴۱۲۲۶ء) .

- * سَعْدُ بنِ عُبَادَةَ: بن دُلَيْمِ بنِ حَارِثَةَ ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ، اور قبیلہ خزرج کے سخی و جواد سردار (م ۶۳۶/۱۵ - ۶۳۷ء) .
- ۱ ۳۱
- * سَعْدُ بنِ عَلِيِّ السَّوْنِيِّ : دیکھیے لاء لائڈن ، بار دوم ، بذیل مادہ .
- ۲ ۳۲
- * سَعْدُ بنِ مُحَمَّدٍ : رگ بہ حیص بیص .
- ۲ ۳۲
- * سَعْدُ بنِ مَعَاذٍ : بن النعمان الانصاری الاوسی ، جلیل القدر صحابی اور قبیلہ بنو اوس کے سردار .
- ۲ ۳۲
- * السَّعْدَانُ : علم الہیئت کی ایک اصطلاح ، بمعنی دو مبارک ستارے (مشتری اور زہرہ) .
- ۲ ۳۳
- * سَعْدُ اللّٰہِ جَبْرِی : دیکھیے لاء لائڈن ، بار دوم .
- ۱ ۳۳
- * سَعْدُ الدَّوْلَةِ : رگ بہ حَمْدَانَ (بنو) .
- ۱ ۳۳
- * سَعْدُ الدِّینِ : رگ بہ سَعْدِيَّة .
- ۱ ۳۳
- * سَعْدُ الدِّینِ بنِ حَسَنِ جَان : رگ بہ خوجہ افندی .
- ۱ ۳۳
- * سَعْدُ الدِّینِ الحَمَوِيُّ : محمد بن المؤید بن ابی الحسن بن محمد حمویہ (۵۸۷/۱۱۹۱ء تا ۵۹۵/۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ء تا ۶۵۸/۱۲۶۰ء) ، نجم الدین کبریٰ کے مرید اور خلیفہ ، ایک مشہور صوفی .
- ۱ ۳۳
- * سَعْدُ الدِّینِ کُوپِک : (یا گوپک) ، سلاجقہ ایشیائے کوچک کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت (م نواح ۶۳۵/۱۲۳۸ء) .
- ۱ ۳۵
- * سَعْدُ زَغَلُولِ پَاشَا : (۱۲۷۳/۱۸۵۷ء یا ۱۲۷۷/۱۸۶۰ء تا ۱۳۳۶/۱۹۲۷ء) ، مصر کے مشہور وزیر اعظم اور سیاسی قائد .
- ۲ ۳۶
- * سَعْدُ الفَزْرِ : قبیلہ تمیم کی ایک بڑی شاخ .
- ۱ ۳۰
- * سعدی : شیخ مشرف الدین بن مصلح الدین سعدی شیرازی (۵۸۰/۱۱۸۳ء تا ۶۹۱/۱۲۹۲ء) ، شہرہ آفاق فارسی ادیب ، شاعر ، صوفی ، سیاح اور مصنف گلستان و بوستان وغیرہ .
- ۲ ۳۱
- * السَّعْدِيُّ : عبدالرحمن بن عبداللہ بن عمران بن عامر (۱۰۰۳/۱۵۹۶ء تا ۱۰۶۶/۱۶۵۶ء) ، ٹمبکٹو کے ایک قدیم علمی خاندان کا فرد اور تاریخ السودان وغیرہ کا مؤلف .
- ۲ ۳۷
- * سَعْدِيَّة : (یا جباویہ) ، درویشوں کا ایک فرقہ ؛ بانی : سعد الدین الجباوی (م ۷۰۰ھ یا ۷۳۶ھ) .
- ۱ ۳۹
- * سَعْدُ : ارمینیہ اور ترکی کردستان کے درمیان سرحدی علاقے کا ایک چھوٹا سا قصبہ .
- ۱ ۵۱
- * سَعُوْدِي : (ہا ابو السعود) ابن یحییٰ بن محیی الدین المتنبی العباسی الشافعی الدمشقی ، ایک صاحب دیوان عربی شاعر اور ماہر علوم اسلامیہ (م ۱۱۲۷/۱۷۱۵ء) .
- ۲ ۵۲
- * السَّعُوْدِيُّ : ابو الفضل المالکی ، عالم دین اور عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف کتاب

صفحہ عمود	عنوان
۱ ۵۳	مناظرہ (تکمیل ۵۹۴۲/۵۱۵۳۶) کا مصنف .
۲ ۵۳	* السعودی : سيف الدين عبداللطيف (م ۵۴۳۶/۵۱۳۳۵) ، ایک متکلم .
۱ ۵۴	* سَعِي : مناسک حج کی ایک اصطلاح ، صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے مابین تیز تیز چلنا .
۲ ۵۵	* سعید الفندی چلبی زادہ : دیکھیے ۱۱ ، لائڈن ، بار دوم .
۲ ۵۵	* سعید بن اوس : رگ بہ ابو زید الانصاری .
۲ ۵۵	* سعید بن الطریق : یوتھیوس Eutychius (۸۲۶۳/۸۷۶ تا ۵۳۲۸/۵۹۳۹) ، اسکندریہ کا بطریق ، طب اور تاریخ کی کتابوں کا مصنف .
۲ ۵۵	* سعید بن زید : حضرت عمر فاروق کے بہنوئی اور مشہور صحابی (م ۵۰ - ۶۷۰/۵۱ - ۶۷۰) .
۱ ۵۶	۶۷۱ .
۱ ۵۶	* سعید بن العاص : الاموی القرشی ، مشہور صحابی ، والی اور فاتح (م نواح ۵۵۹/۵۶۰) .
۲ ۵۹	۶۷۹ .
۱ ۶۱	* سعید بن مسعدہ : رگ بہ الاخفش .
۱ ۶۱	* سعید پاشا : محمد علی پاشا کا سب سے چھوٹا بیٹا اور خدیو مصر (از ۱۸۵۴ تا ۱۸۶۳) .
۱ ۶۱	۱۸۶۳ .
۱ ۶۲	* سعید پاشا : المعروف بہ کوچک یا الاصغر (۱۸۲۵۴/۵۱۸۳۸ تا ۱۹۱۴/۵۱۳۳۲) ، ترکیہ کے عظیم مدیر احمد مہدی پاشا کا ساتھی، وزیر اعظم اور مصنف .
۲ ۶۵	* سعیر : رگ بہ النار .
۲ ۶۵	* سغد : (السغد ، الصغد) ، وسط ایشیا میں جیحوں اور سیحوں کے مابین علاقہ اور وہاں کے باشندے .
۱ ۶۷	* سغدق : کربمیا میں ایک چھوٹا سا شہر ، سابقاً ایک بڑی بندرگاہ .
۱ ۶۹	* سقاس : (Sfax) ، خلیج قابس کے شمال میں قدیم تپارورہ کی جگہ پر واقع تونس کا ایک مشہور شہر .
۱ ۷۰	* سفالہ : مشرقی افریقہ میں پرتگالی نو آبادی ، موزنابق کے جنوبی حصے میں ایک ضلع اور قصبہ .
۱ ۷۷	* السفاح : رگ بہ ابو العباس السفاح .
۱ ۷۷	* سفی : (آسفی) ، مراکش کا ایک صوبہ اور بندرگاہ .
۲ ۷۸	* سفیان الثوری : ابو عبدالله سفیان بن سعید (مابین ۵۹۵/۵۷۱۳ و ۶۷۰/۵۷۱۶ تا ۷۶۱/۵۷۷۸) ، مشہور عالم ، محدث اور صوفی بزرگ .
۲ ۸۲	* السفیالی : رگ بہ المہدی .
۲ ۸۲	* سفید رود : رگ بہ قزل اوزن [صحیح قزیل اوزن] .
۲ ۸۲	* سفید کوہ : شمالی افغانستان کا مشہور پہاڑی سلسلہ .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۳		⊗ سفینہ : سمندری جہاز یا کشتی .
۲ ۸۹		* سقاریا : (ضقاریہ) ، ایشیائے کوچک کا ایک دریا .
۱ ۹۱		* سقسین : دریائے دنیپر (Dnieper) کے کنارے مغول دور کا ایک شہر .
۱ ۹۲		* سقطری : (Socotra) ، خلیج عدن کے مشرق میں چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ایک علاقہ
۱ ۹۳		* سقارہ : قاہرہ کے جنوب مغرب میں بیس سے زیادہ عجیب و غریب اہرام کے لیے معروف ایک گاؤں .
۱ ۹۶		* سقز : ایرانی کردستان کا ایک شہر اور ضلع .
۱ ۹۶		* سقمان : (سکمان) بن ارتق ، معین الدولہ ، حصن کیفا کا فرمانروا (م ۵۴۹۸/۱۱۰۰ء) .
۲ ۹۷		* سقوطری : رگ بہ اسکو دار .
۲ ۹۷		⊗ سگردو : (اسگردو) ، پاکستان میں شامل بلتستان (رگ باں) کا صدر مقام .
۲ ۹۷		* السکاکی : آٹھویں صدی ہجری کے آخری ربع میں مشرقی ترکی زبان کا ممتاز شاعر .
۱ ۹۸		* السکاکی : سراج الدین ابو یعقوب یوسف بن ابی بکر بن محمد بن علی الخوارزمی (۵۵۵/۱۱۶۰ء تا ۶۲۶/۱۲۲۹ء) ، ماهر نقش کار ، متبحر عالم دین اور مصنف مفتاح العلوم وغیرہ .
۱ ۹۹		* السکر : شکر ، چینی .
۱ ۱۰۱		* السکری : ابو سعید الحسن بن الحسن بن عبداللہ (۵۲۱۲/۸۲۷ء تا ۵۲۷۵/۸۸۸ء) ، عربی کا ایک ماهر لسان ، مرتب اشعار الہذلیین .
۲ ۱۰۱		* سگہ : عام معنوں میں روپیہ پیسہ وغیرہ .
۲ ۱۰۲		* سکیٹ : رگ بہ ابن السکیت .
۱ ۱۰۳		* سکندر : رگ بہ الا سکندر .
۱ ۱۰۳		* سکندر بیگ : George Kastriota (۱۴۰۴ء تا ۱۴۵۱/۱۴۶۷ء) ، البانیا کا ایک قومی بطل .
۱ ۱۰۳		* (سکوٹو یا) سوکوٹو : بلاد الحوصہ کے مغربی حصے میں دریائے نیجر کے ایک معاون کنارے پر ایک قصبہ .
۱ ۱۰۵		⊗ سکینہ : ایک اسلامی و قرآنی اصطلاح ، بمعنی اطمینان ، سکون ، وقار .
۲ ۱۰۵		⊗ سکینہ بنت الحسین : حضرت حسین کی صاحبزادی (۱۱۷۳م/۷۳۵ء) .
۲ ۱۰۶		* سیکھ : پنجاب کا ایک مذہبی گروہ اور بھارت کا مشہور فرقہ ؛ بانی : گرو بابا نانک (۱۴۶۹ تا ۱۵۳۹ء) .
۲ ۱۰۷		* سگبان : (شکاری کتوں کا نگہبان) ، بانی چری قوج کا تیسرا جیش .
۱ ۱۱۹		

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۱۱۹	* سگود : ایشیائے کوچک میں ولایت خداوندگار کی ایک قضا اور اس کا صدر مقام .	
۲ ۱۲۰	* سلا : مراکش کا ایک قصبہ .	
۱ ۱۲۲	* سلاح دار : مملوکوں کے دربار کا ایک عہدہ .	
۲ ۱۲۲	* سلام : ایک معروف دہنی اصطلاح ، بمعنی امن و سلامتی ، نیز وقت ملاقات کا کلمہ (السلام علیکم) .	
۱ ۱۲۶	* سلامۃ بن جندل : قبیلہ الحارث کا ایک فرد اور زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر .	
۱ ۱۲۷	* سلامیق : (۱) ترک اشراف کا ملاقاتی کمرہ ؛ (۲) قسطنطنیہ میں نماز جمعہ کے لیے سلطان کے شاہانہ ورود کے موقع پر ایک تقریب .	
۱ ۱۲۹	* سلاویک : (سالونیکا Salonika) ، مقدونیہ کا مشہور شہر .	
۲ ۱۳۳	* سلاویکی : مصطفیٰ ، ایک ترکی مؤرخ ، مصنف تاریخ سلاویکی مصطفیٰ افندی (م نواح ۱۵۹۹/۵۱۰۰۸ - ۱۶۰۰ء) .	
۲ ۱۳۳	* السلاوی : شہاب الدین ابو العباس احمد بن خالد بن حماد الناصری (۱۲۵۰ھ/ ۱۸۳۵ء تا ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء) ، ایک مراکشی مؤرخ اور شریفی حکومت کا عہدے دار .	
۱ ۱۳۷	* سلاویسی : انڈونیشیا کے چار بڑے جزیروں میں سے ایک .	
۱ ۱۵۰	* سلجوق (آل) : گیارہویں سے تیرہویں صدی عیسوی تک ایشیا کے وسیع خطوں پر حکومت کرنے والا ترکوں کا ایک شاہی خاندان ، مشتمل بر (۱) سلجوقیان اعظم ؛ (۲) سلجوقیان عراق ؛ (۳) سلجوقیان کرمان ؛ (۴) سلجوقیان شام ؛ (۵) سلجوقیان ایشیائے کوچک .	
۱ ۱۵۰	* سلحفاہ : کچھوا ، ایک معروف حیوان .	
۱ ۱۵۰	* سلجین : مملکت سبا کے صدر مقام دارب میں شاہی قیام گاہ .	
۲ ۱۵۲	* سلدوز : (سلدوس) ، (۱) چنگیز خان کے ایک فدائی سورغان شیرہ کی اولاد پر مشتمل منگولیا کا ایک قبیلہ ؛ (۲) آذربائیجان کا ایک ضلع .	
۲ ۱۵۶	* سنسبیل : بہشت کا ایک چشمہ .	
۱ ۱۵۷	* سلطان : ایک معروف اصطلاح ، بمعنی حکمران ، بادشاہ .	
۲ ۱۶۲	* سلطان آباد : (۱) ایران کے صوبہ عراق کا پائے تخت ؛ (۲) کوہ بیستون کے دامن میں الجایتو کا آباد کردہ شہر ؛ (۳) ایران میں متعدد دیہات کا نام .	
۲ ۱۶۳	* سلطان اسحاق : فرقہ اہل حق (علی الہی) کے معتقدات میں ایک اہم شخصیت ، خدا کا چوتھا مظہر ، روحانیت و عرفان کا بلند ترین مقام یعنی حقیقت .	
۲ ۱۶۵	* سلطان اولی : اسکی شہر کے شمال مغرب میں فریجیا کا ایک قدیم حصہ .	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲	۱۶۶	* سلطان باہو: (۱۰۳۰ھ/۱۶۳۰ء تا ۱۱۰۲ھ/۱۶۹۱ء) ، پنجاب کے مشہور صوفی بزرگ ، نامور پنجابی شاعر اور متعدد عربی و فارسی کتابوں کے مصنف۔
۲	۱۶۷	* سلطان الدولہ: ابو شجاع بن بہاء الدولہ البویہی ، امیر فارس و عراق (از ۳۰۳ھ/۱۰۱۲ء تا ۳۱۵ھ/۱۰۲۳ء - ۱۰۲۵ء)۔
۱	۱۶۹	* سلطان ولد: (۱۰۲۳ھ/۱۲۲۶ء تا ۱۰۱۲ھ/۱۳۱۲ء) ، مولانا جلال الدین رومیؒ کے سب سے بڑے صاحبزادے اور سلسلہ مولویہ میں ان کے دوسرے جانشین۔
۲	۱۷۰	* سلطانیہ: ایرانی عراق کا ایک شہر اور سلطان الجایتو کا پائے تخت۔
۱	۱۷۳	* سلطنت: مملکت کے لیے ایک معروف اصطلاح۔
۲	۱۸۱	* سلطنت دہلی: رگ بہ ہند۔
۲	۱۸۱	* سلغر (آل): سلطنت سلجوق کی تباہی کے بعد اتابکوں کا برسراقتدار آنے والا ایک خاندان۔
۲	۱۸۲	* سلف: (سلم) ، خرید و فروخت سے متعلق ایک فقہی اصطلاح۔
۱	۱۸۳	* سلفکہ: (قدیم سلوقیا تراچیا یا قیلیقیا) ، صوبہ آٹنہ کی سنجاق ایچ ایل کا صدر مقام۔
۲	۱۸۳	* سلماس: ایران کے صوبہ آذربائیجان کا ایک ضلع۔
۱	۱۸۶	* سلمان [ساوجی]: خواجہ جمال الدین بن خواجہ علاء الدین محمد، ایک صاحب دیوان فارسی شاعر (م ۵۷۷ھ/۱۳۷۶ء)۔
۱	۱۸۸	* سلمان فارسیؒ: ابو عبداللہ، معروف بہ سلمان الخیر، نامور ایرانی النسل صحابی (م ۳۵ھ تا ۳۶ھ/۶۵۵ - ۶۵۶ء)۔
۱	۱۹۰	* سلمانیہ: ابو حاتم الرازی (م ۳۲۲ھ/۹۳۳ء) کی کتاب میں مستعمل غلامہ شیعہ فرقے کے لیے ایک اصطلاح۔
۱	۱۹۱	* سلمۃ بن رجاء: والی مصر (از ۱۶۱ھ/۷۷۸ء تا ۱۶۲ھ/۷۷۸ء)۔
۱	۱۹۱	* سلمنکا: (Salamanca) ، رگ بہ سلمنکہ۔
۱	۱۹۱	* سلمی: رگ بہ اجا و سلمی۔
۱	۱۹۱	* السلمی: ابو عبدالرحمن محمد بن الحسن بن موسیٰ الازدی النیشابوری (۳۳۰ھ/۹۴۱ء تا ۳۱۲ھ/۱۰۲۱ء) ، مشہور صوفی بزرگ اور متعدد کتب تصوف مثلاً طبقات الصوفیہ کے مصنف۔
۱	۱۹۲	* سلمیہ: شام کا ایک تاریخی قصبہ۔
۱	۱۹۳	* سلوان: رگ بہ میافارقین۔
۱	۱۹۳	* سلوق: یمن کے ضلع خدیر میں زرہ سازی کے لیے مشہور ایک قدیم شہر۔
۲	۱۹۳	* سلوک: راہ طریقت پر گامزن ہونے کے معنوں میں تصوف کی ایک اہم اصطلاح۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۹۳	(۱) قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ؛ (۲) ہوازن کا ایک قبیلہ .	* سَؤل : دو عربی قبیلے : (۱) قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ؛ (۲) ہوازن کا ایک قبیلہ .
۱ ۱۹۵		* سَلیح : شام پر عربوں کا اولین حکمران قبیلہ .
۱ ۱۹۶		* سَلیم اول : ترکیہ کی سلطنت عثمانیہ کا نواں سلطان (از ۱۵۱۸/۱۵۱۲ء تا ۱۵۲۶ء/۱۵۲۰ء) .
۲ ۲۰۳		* سَلیم ثانی : ترکیہ کی عثمانی سلطنت کا گیارہواں سلطان (از ۱۵۶۶ء تا ۱۵۸۲ء/۱۵۶۳ء) .
۲ ۲۰۴		* سَلیم ثالث : ترکیہ کی سلطنت عثمانیہ کا اٹھائیسواں سلطان (از ۱۶۰۳ء تا ۱۶۸۹ء/۱۶۰۳ء) .
۲ ۲۰۷		* سَلیم بن مَنصُور : قبائل مَضر (عدنان) کی شاخ قیس عیلان (رگ بآں) کا ایک طاقتور اور جنگجو قبیلہ .
۲ ۲۱۳		* سَلیمان : سولای ابوالربیع سلیمان بن محمد علوی، سلطان مراکش (از ۱۲۰۶ء تا ۱۲۹۲ء/۱۲۰۶ء تا ۱۲۳۸ء/۱۲۲۲ء) .
۲ ۲۱۸		* سَلیمان اول : سلیمان قانونی ، سلیمان ذی شان ، ترکیہ کی سلطنت عثمانیہ کا دسواں اور سب سے بڑا فرمان روا (از ۱۵۲۰ء/۱۵۲۶ء تا ۱۵۶۶ء) .
۲ ۲۲۱		* سَلیمان ثانی : ترکیہ کی سلطنت عثمانیہ کا بیسواں سلطان (از ۱۵۹۹ء تا ۱۶۸۷ء/۱۵۹۹ء تا ۱۶۹۱ء) .
۲ ۲۳۱		* سَلیمان بن الاشعث : رگ بہ ابو داؤد .
۱ ۲۳۳		* سَلیمان بن داؤد : بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر اور بادشاہ .
۱ ۲۳۳		* سَلیمان بن صَرْد الخزاعی : (یسار ، ابو مطرف) ، صحابی رسول ﷺ اور حضرت علیؑ کے پر جوش حامی (م ۶۶۵ء/۶۸۵ء) .
۱ ۲۳۱		* سَلیمان بن عبدالملک : (ولادت ۶۷۹ء - ۶۸۰ء) ، مشہور اموی خلیفہ (از ۶۸۶ء/۷۱۵ء تا ۷۹۹ء) .
۲ ۲۳۲		* سَلیمان بن قَتْلِمِش : سلاجقہ ایشیائے کوچک کی سلطنت کا بانی حکمران (از ۱۰۵۶ء/۱۰۶۳-۱۰۶۴ء تا ۱۰۸۶ء) .
۲ ۲۳۳		* سَلیمان بن مِهران : رگ بہ الاعمش .
۲ ۲۳۵		* سَلیمان بن وہب بن سعید ابو ایوب : ایک نو مسلم عباسی وزیر (م ۷۲۲ء/۸۸۵ء) .
۲ ۲۳۵		* سَلیمان پاشا : المعروف بہ خادم ، خواجہ سرا، سلیمان اعظم کا ایک ترک سپہ سالار اور مدبر (م ۱۵۳۸ء/۱۵۶۵ء) .
۲ ۲۳۶		* سَلیمان پاشا : (۱۳۱۶ء تا ۱۳۵۹ء) ، دوسرے عثمانی سلطان اور خاں کا بڑا بیٹا اور سلطان مراد اول کا بڑا بھائی ، یورپی علاقوں کا پہلا ترک فاتح اور تاریخ عثمانی کی ایک محترم شخصیت .
۲ ۲۳۷		

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۲۳۹	* سلیمان پاشا ملاطیہ لی ارمنی : عثمانی سلطان محمد رابع (۱۶۳۸ تا ۱۶۸۷ء) کا ارمنی النسل سپہ سالار ، مدبر اور وزیر اعظم (۱۶۸۳ء/۱۶۸۷ء)	
۱ ۲۵۰	* سلیمان چلبی : سلیمان ددہ ، سلطان مراد اول کے وزیر احمد پاشا کا بیٹا، خاوق شیخ امیر سلطان کا خلیفہ ، قدیم ترین عثمانی شاعر ، مصنف مثنوی وسیلۃ النجات (م ۱۸۲۵ء/۱۳۲۲ء) .	
۲ ۲۵۱	* سلیمان چلبی (امیر) : پلدرم بایزید اول کا بیٹا اور صارو خان اور قرہ سی کا فرمانروا (م ۱۸۱۳ء/۱۳۱۱ء) .	
۱ ۲۵۲	* سلیمان ماکو : بن بارک خان ، پشتو کا قدیم ترین نثر نگار اور مصنف تذکرہ اولالیائے افغان (حیات ۱۶۱۲ء/۱۲۱۵ء) .	
۱ ۲۵۳	* سلیمان المہوری : فن جہاز رانی کا ماہر اور اس موضوع پر متعدد رسائل مثلاً اصول بحری وغیرہ کا مؤلف (م قبل از ۱۶۶۲ء/۱۵۵۳ء) .	
۱ ۲۶۶	* سلیمان لدوی : سید (۱۸۸۳ء/۱۳۰۲ء تا ۱۹۵۳ء/۱۳۷۳ء) ، بر عظیم پاک و ہند کے مشہور عالم ، صاحب طرز انشا پرداز ، سیرت النبی اور ارض القرآن وغیرہ کے مؤلف .	
۲ ۲۶۹	* سلیمالیہ : (سلیمانی) ، جنوبی کردستان میں تاریخی اہمیت کا ایک شہر اور ایک ضلع .	
۲ ۲۷۳	* سمائرا : (سمائرا ، سمطره) ، جمہوریہ انڈونیشیا میں واقع دنیا کا پانچواں بڑا جزیرہ .	
۲ ۲۷۷	* سماع : ایک اصطلاح ، بمعنی صوفیہ کا موسیقی ، وجد اور سرتال میں الہماک .	
۲ ۲۷۸	* سماع خانہ : فارسی اصطلاح ، بمعنی صوفیوں کے سماع و رقص کے لیے مخصوص کمرہ .	
۲ ۲۷۸	* السماک : یعنی نمایاں ، مجمع الکواکب العذراء کا روشن ترین ستارہ .	
۱ ۲۷۹	* السماک الاعزل : رگ بہ علم نجوم .	
۱ ۲۷۹	* سماالہ : یا زمالہ : (۱) الجزائر کی سردار کی خیمہ گاہ ، یا کیمپ ؛ (۲) ترکوں کے زمانے میں الجزائر کے بعض قبائل پر مشتمل سوار پولیس .	
۲ ۲۷۹	* سمالی لینڈ : رگ بہ صومالیہ .	
۲ ۲۷۹	* سیمائو : کوتاہیہ کے سنجاق میں ایک قضا اور اس کا صدر مقام .	
۲ ۲۸۰	* سیمباوا : مجمع الجزائر سوندا صغیر میں شامل جمہوریہ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ .	
۱ ۲۸۲	* سیمبس : جزیرہ بوریو میں ایک ملائی ریاست .	
۲ ۲۸۲	* السمت : طرف ، قطب نما کا نقطہ ؛ علم ہیئت کی ایک اصطلاح .	
۲ ۲۸۳	* السمت : (Azimut , Zenith) ، علم ہیئت کی ایک اصطلاح ، بمعنی کسی ستارے یا جرم ارضی سے گزرنے والے خط عرض بلد اور الزوال کے ساتھ ملنے سے بننے والا زاویہ .	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۸۳		* سمت الراس : (Zenith) علم ہیئت کی ایک اصطلاح ، بمعنی مشاہدہ کنندہ کے اوپر انتصابی (شاقولی) سمت میں مرقی کرۂ سماوی کا بلند ترین نقطہ ، نیز افق کا بالائی قطب .
۱ ۲۸۵		* سمت القبلة : فلکی جغرافیے کی ایک اصطلاح ، بمعنی کسی خاص مقام پر سمت مکہ .
۱ ۲۸۹		* سمرقند : ماوراء النہر (Transoxiana ، سغد Soghd) کا بڑا شہر اور موجودہ روسی ترکستان میں اسی نام کے صوبے کا صدر مقام .
۲ ۲۹۳		* السمرقندی : رگ بہ ابو الیث .
۲ ۲۹۳		* السمرقندی : رگ بہ جہم بن صفوان .
۲ ۲۹۳		* السمرقندی : رگ بہ نظامی عروضی .
۲ ۲۹۳		* سمرنا : رگ بہ ازبیر .
۲ ۲۹۳		* آسٹک : مجھلی .
۲ ۲۹۳		* سمورہ : (Zamora) ، شمال مغربی ہسپانیہ میں اسی نام کے صوبے کا صدر مقام .
۲ ۲۹۵		* سمدہ : سندھ (پاکستان) کا ایک قدیم حکمران راجپوت قبیلہ (از ۵۷۳ تا ۶۱۳ تا ۵۹۲۶/۶۱۵۲۰) .
۲ ۲۹۶		* السمن : مکھن .
۲ ۲۹۷		* سمنان : (سمنون) ، ایران کا ایک قدیم شہر .
۱ ۲۹۸		* السمنالی : رگ بہ اشرف جہانگیر .
۱ ۲۹۸		* سمبود : دریائے نیل کے مغربی کنارے (نمیاط) پر واقع ایک شہر .
۱ ۲۹۸		* السموعل : (السموال) بن حیا بن عادیا ، دور جاہلی کا ایک قدیم یہودی شاعر .
۲ ۲۹۹		* سیوم : سخت گرم آندھی .
۲ ۳۰۰		* السمہودی : نور الدین ابو الحسن علی بن عبداللہ بن احمد الحسینی (۵۸۳ تا ۶۱۳ تا ۵۹۱۱/۶۱۵۰۶) ، مصر کا مشہور مؤرخ ، جغرافیہ نگار اور مصنف .
۱ ۳۰۲		* سمیساط : (قدیم سموسطہ) . دریائے فرات کے دائیں کنارے پر ایک گاؤں .
۱ ۳۰۲		* سنار : فتح علی شاہ ایران کے عہد (۵۱۲ تا ۵۱۷ تا ۵۱۸ تا ۵۱۹) کا تقریبی سکہ .
۲ ۳۰۲		* سنار گاؤں : عہد اسلامی میں بنگالہ کا ایک بارونق صنعتی شہر ، مشہور زمانہ ململ کے لیے معروف ، آج کل ٹرائن گنج میں ایک چھوٹا سا گاؤں .
۱ ۳۰۳		* سینان : معمار سنان (۵۸۹ تا ۶۱۳ تا ۵۸۸/۵۹۹۶) ، عہد عثمانی کا عظیم معمار .
۲ ۳۱۰		* سنان پاشا : سلطنت عثمانیہ کے متعدد وزیروں کا نام : (۱) خوجہ سنان پاشا، محمد ثانی فاتح کا وزیر (م ۸۹۱/۶۱۳۸۶) ؛ (۲) خادم سنان پاشا، سلیم اول کا نصرانی النسل وزیر اعظم (۵۹۲ تا ۶۱۵) ؛ (۳) خوجہ سنان پاشا ، سلطنت عثمانیہ کا پانچ بار بننے والا البانوی النسل وزیر اعظم (م ۱۰۰۰/۶۱۵۹۶) .

اشارات

عنوان

صفحہ نمبر

- سنالی : ابوالمجد مجدود (۵۴۶/۷۱ تا ۵۴۵/۷۱۵۰) ، فارسی زبان کا ایک ممتاز قصیدہ و مثنوی گو شاعر .
- ۱ ۳۱۳
- * السنبلہ : مجمع الکواکب العذراء کا معروف نام .
- ۲ ۳۱۷
- * سنبل زادہ وہبی : محمد بن رشید بن محمد افندی ، ایک ترکی شاعر اور عالم ، مصنف حکایت نامہ وغیرہ (۵۱۲۲۳۴/۷۱۸۰۹) .
- ۱ ۳۱۸
- * سنبلیہ : خلوتی سلسلے کی ایک شاخ ، منسوب بہ سنبل سنان الدین یوسف (۵۹۳۶/۱۵۲۹ - ۱۵۳۰) .
- ۲ ۳۲۰
- * سنترم : (Santarem) رگ بہ شنترین .
- ۲ ۳۲۱
- * سنجاہی : ایران کے صوبہ کرمان شاہ کا ایک کرد قبیلہ .
- ۲ ۳۲۱
- * سنجات : ایک کاروباری اصطلاح ، بمعنی ترازو کے باٹ (در اصل سنجات المیزان) .
- ۲ ۳۲۲
- * سنجار : دیار ربیعہ میں ایک ضلع کا صدر مقام اور پہاڑوں کا ایک سلسلہ .
- ۱ ۳۲۳
- * سنجاہی : (۱) جھنڈا ، نشان ، علم ؛ (۲) بحری اصطلاح ، بمعنی نشان پھریرا ، جہاز کا دایاں رخ ؛ (۳) ایک ترکی انتظامی و جغرافیائی علاقہ .
- ۲ ۳۲۳
- * سنجاہی شریف : قسطنطنیہ میں محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک .
- ۱ ۳۲۵
- * سنجر بن ملک شاہ : ناصر الدین (بعده معز الدین) ابوالحارث ، ایک سلجوق سلطان (۵۵۲/۷۱ تا ۵۵۷/۷۱) .
- ۱ ۳۲۶
- * سند : رگ بہ اسناد .
- ۱ ۳۲۸
- * سنداہل : چین کا قدیمی دارالسلطنت .
- ۱ ۳۲۸
- * سند باد نامہ : (Syntipas) ، ایک شہرہ آفاق مجموعہ حکایات .
- ۲ ۳۲۸
- سندھ : پاکستان کا جنوب مشرقی صوبہ اور برعظیم پاک و ہند میں اسلام کا دروازہ .
- ۲ ۳۲۹
- سندھی : (الف) سندھی زبان ؛ (ب) سندھی ادب .
- ۲ ۳۳۷
- سنڈ کلزم : رگ بہ صنف .
- ۲ ۳۶۹
- سنسکرت : برعظیم پاک و ہند میں ہندو تہذیب کے عروج کے زمانے کی معروف اور قدیم زبان .
- ۱ ۳۶۹
- سنطیر یا سنطور : ایک ساز .
- ۲ ۳۸۶
- * سنقر : سنقر ، (سونقور) ، کرمان شاہ کے تابع ایک ضلع .
- ۱ ۳۸۸
- * سنکرہ : زہریں دریائے فرات پر ایک گاؤں .
- ۲ ۳۸۸
- سنگاپور : جزیرہ نماے ملایا کے جنوبی سرے پر واقع ایک جزیرہ ، آجکل ایک آزاد و خود مختار ملک کا صدر مقام اور بین الاقوامی بندرگاہ .
- ۱ ۳۸۹
- * سنگھولی : (سنگوئی) ، سنہ ہجری کے شروع میں بالائی نیجر کے علاقے میں آباد ہونے والے حبشی النسل لوگ .
- ۱ ۳۹۰
- * سنن : رگ بہ سنۃ .
- ۲ ۳۹۰

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۹۰		* سنّار : خرطوم (سودان) سے ۱۷۰ میل دور ایک ضلع کا صدر مقام .
۲ ۳۹۰		* سنّہ : (سنندج) ایران کے صوبہ کردستان کا دارالحکومت اور اردلان کے والیوں کا قدیم مستقر (رگ بہ سیسر) .
۲ ۳۹۲		⊗ سنّہ : (طریقہ ، نہج ، سیرت ، راستہ) ، ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اقوال و افعال .
۱ ۳۱۰		* السنوسی : ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب ، تلمسان کا ایک ممتاز اشعری عالم ، فقیہ اور متعدد کتابوں کا مصنف (م ۵۸۹۵/۱۳۹۰ء) .
۱ ۳۱۲		⊗* السنوسی : سیدی محمد بن علی السنوسی المجاہری الحسنی الادریسی (۵۱۲۰۶/۱۷۹۱ء [یا ۵۱۲۰۲/۱۷۸۷ء] تا ۵۱۲۷۶/۱۸۵۹ء) ، ایک معروف صوفی بزرگ اور تصوف کے سلسلہ السنوسیہ کے بانی .
۲ ۳۱۳		● سنوک ہر خرنیجے : Snouck Hurgronje (۱۸۵۷ تا ۱۹۳۶ء) ، ہالینڈ کا نامور مستشرق ، مصنف ، لائڈن یونیورسٹی میں عربی کا پروفیسر اور متعدد علمی تحریروں کی روح رواں .
۲ ۳۱۳		* سنی گال : (سینیغال) ؛ افریقہ کے شمال مغرب میں واقع ایک مسلم مملکت .
۱ ۳۱۵		● سوات : پاکستان میں شامل ایک معروف ریاست ، آجکل مالاکنڈ ڈویژن کا ایک ضلع .
۱ ۳۲۱		● سوئن برگ : رگ بہ مستشرقین .
۱ ۳۲۱		* سواحلی : افریقہ کے مشرقی ساحل پر آباد مخلوط النسل آبادی .
۲ ۳۲۵		* سواد : عراق کا نام .
۱ ۳۲۶		* سواکن : (سواکم یا سواکن) ، بحیرہ احمر کے مغربی ساحل پر ایک بندرگاہ .
۱ ۳۲۷		* سوختہ : (آتش زدہ ، اندوہگین ، زخمی ، پیاسا وغیرہ) ، ترکی میں علم و ادب ، قانون اور دینی تعلیم کے ابتدائی دور کے طلبہ کے لیے ایک اصطلاح .
۱ ۳۲۷		● سودا : مرزا محمد رفیع سودا (۱۱۲۳ - ۱۱۲۵/۱۷۱۲ء تا ۱۱۹۵/۱۷۸۱ء) ، اردو زبان کے ایک نامور صاحب دیوان شاعر اور ممتاز ترین قصیدہ گو .
۲ ۳۳۳		* السّوداء : (العربیة السوداء) ، الجوف (جنوبی عرب) میں ایک ویران شدہ شہر .
۱ ۳۳۳		* سوڈان : (سوڈان) ، افریقہ کا ایک معروف اسلامی ملک .
۱ ۳۳۱		* سوده : یمن کا ایک قصبہ .
۲ ۳۳۱		⊗ سؤدۃ : ام المؤمنین حضرت سؤدۃ بنت زمعہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ (م ۵۲۲/۶۴۲ء) .
۲ ۳۳۳		● سوڈان : رگ بہ سوڈان .
۲ ۳۳۳		* سور : شیر شاہ سوری (رگ باں) کا افغان قبیلہ .
۱ ۳۳۵		* سورا کارتتا : سابق جزیرہ جاوا میں ایک سلطنت اور اس کا صدر مقام .

* سُورَةُ : (تکڑا یا حصہ) ، ایسا مجموعہ آیات قرآنی جس کا آغاز و انجام ہو اور جسے بر بنائے وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری سورتوں سے ممتاز کیا ہو ۔

۱ ۳۳۶

* سُورَت : بھارت کا ایک شہر اور اسی نام کے ضلعے کا صدر مقام

۲ ۳۳۸

* سُورِي حصار : (سیوری ، حصار) دو قصبے : (۱) انقرہ سے جنوب مغرب میں ؛ (۲) جھیل قوش آطہ سی کے کنارے ۔

۱ ۳۳۹

* السُّورِيه : رگ بہ الشام ۔

۱ ۳۳۹

⊙ سوزلی : محمد بن علی ، ایک ممتاز فارسی شاعر اور حکیم (۵۶۶م/۱۱۷۳ء) ۔

۲ ۳۳۹

* السُّوس : خوزستان یا عربستان کے ایرانی ضلع میں ایک تباہ شدہ مقام ۔

۱ ۳۵۲

* السُّوسِ الْأَقْصَى : مراکش کے جنوب میں ایک ضلع ۔

۱ ۳۵۳

* سوسن : خوزستان میں بالائی کارون کے کنارے ایک ویران مقام ۔

۲ ۳۵۳

* السُّوسِن : سفید اور زرد و سرخ لالے اور نیلگوں سوسنی کا مشترکہ نام ۔

۱ ۳۵۵

* سوسو : سودان میں باماکو کے شمال مشرق میں واقع ایک مقام ۔

۱ ۳۵۵

* سوسو : (سوسو) ، فوتا جالون کے خود بختر باشندوں پر مشتمل ایک قوم ۔

۱ ۳۵۵

⊙ سوختہ : رگ بہ سوختہ ۔

۱ ۳۵۶

* سوق : (بازار ، منڈی ، گلی کوچے وغیرہ) ، ایک معروف اصطلاح ۔

۱ ۳۵۶

* سوق الشيوخ : عراق میں دریائے فرات کے دائیں کنارے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ۔

۱ ۳۵۸

⊙ سوکارلو ، احمد : (۱۹۰۱ء تا ۱۹۷۰ء) ، جمہوریہ انڈونیشیا کے پہلے صدر (از ۱۹۴۵ء تا

۲ ۳۵۸

۱۹۷۰ء) اور مشہور مسلم سیاست دان ۔

* سوننات : (سوم ناتھ = چاند دیوتا) ، کاتھیواڑ (بھارت) کے جنوبی ساحل پر اپنے قدیم

۱ ۳۶۱

مندر کے باعث معروف شہر ۔

۲ ۳۶۱

* سوئیٹ روس : رگ بہ یو ۔ ایس ۔ ایس ۔ آر ۔

۲ ۳۶۱

* السویدیہ : بحیرہ روم سے بارہ میل کے فاصلے پر واقع انطاکیہ کی بندرگاہ ۔

۱ ۳۶۲

* سویز : مصر کا ایک انتظامی حلقہ اور اس کا صدر مقام ، نیز ایک مشہور نہر ۔

۲ ۳۶۶

* سویق : آنا ، ہریرہ ، نیز ایک غزوہ ۔

۱ ۳۶۷

* سہارنپور : اتر پردیش (بھارت) کا ایک شہر اور صدر مقام ۔

۱ ۳۶۸

* سہرورد : جبال (قدیم میڈیا) کا ایک شہر ۔

* السہروردی : شہاب الدین ابو حفص عمر بن عبداللہ ، ایک ممتاز صوفی اور طریقہ

۱ ۳۶۹

سہروردیہ کے بانی ، نیز ایک شافعی المذہب عالم دین اور

عوارف المعارف کے مصنف (م ۵۶۳۲/۱۱۷۳ء) ۔

* السہروردی : ابو الفتح شہاب الدین یحییٰ بن حبش بن امیرک المعروف بہ المقتول ، ایک

صفحہ عدد	اشارات	عنوان
۲ ۳۶۹	فلسفی، صوفی اور فرقہ اشراقیوں کے بانی، حکمت الاشراق کے مصنف (م ۵۵۸۷/۴۱۱۹۱)	* السُّهروردی : عبدالقاهر بن عبداللہ (۵۳۹/۴۱۰۹۷ تا ۵۶۳/۴۱۱۶۸) ، ایک حنفی المسلک فقیہ اور صوفی .
۱ ۳۷۲		* سہل بن ہارون : نویں صدی عیسوی میں تحریک شعوبیہ کا غالی پیرو ، ایک عرب مصنف اور شاعر ، رسالۃ البخلاء وغیرہ ، متعدد کتابوں کا مصنف .
۱ ۳۷۲		* سہل التستری : ابو محمد سہل بن عبداللہ بن یونس (۵۲۰/۴۸۱۸ یا ۵۲۰/۴۸۱۵ تا ۵۲۸۳/۴۸۹۶) ، ایک نامور سنی متکلم اور صوفی ، مصنف رسالہ عقائد وغیرہ .
۱ ۳۷۳		* سہل السجستانی : رگ بہ ابو حاتم السجستانی .
۱ ۳۷۶		* السہم : (۱) علم ہندسہ ؛ (ب) علم نجوم اور (ج) علم ہیئت کی اصطلاح .
۱ ۳۷۶		* سہی چلبی : صاحب دیوان عثمانی شاعر اور ایک تذکرۃ الشعراء ہشت بہشت کا مصنف (م ۱۵۳۸/۴۹۵۵ - ۱۵۳۹/۴۱۵۳۹) .
۲ ۳۷۷		* السہیل : علم ہیئت کی ایک اصطلاح ؛ ایک چمکدار ستارہ .
۲ ۳۸۰		* سیابجہ : (سیابگہ) ، خلیج فارس کے ساحلوں پر آباد ایک قدیم قوم .
۱ ۳۸۳		* سیاست : ایک معروف اصطلاح ، بمعنی تدبیر امور اور تدبیر ریاست وغیرہ .
۲ ۳۸۷		* سیاک سری الدرا پورہ : وسطی سماٹرا (اندونیشیا) کے مشرقی ساحلی علاقے کا صدر مقام .
۲ ۳۸۸		* سیالکوٹ : پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک تاریخی شہر اور اسی نام کے ضلع کا صدر مقام .
۱ ۳۹۰		* سیالکوٹی : رگ بہ عبدالحکیم سیالکوٹی .
۱ ۳۹۰		* سیالوی : رگ بہ شمس الدین سیالوی ، خواجہ .
۳۹۰		* سیام : تھائی لینڈ کا قدیم نام .
۲ ۳۹۰		* سیبویہ : عمرو بن عثمان بن قنبر ، بصرے کا ممتاز نحوی امام (م مابین ۴۱۶۱ - ۴۱۹۳) .
۲ ۳۹۳		* سیحان : ایشیائے کوچک کے جنوب مشرق میں ایک بڑا پہاڑی دریا .
۲ ۳۹۳		* سیحون : رگ بہ سیر دریا .
۱ ۳۹۵		* السید : (el - Cid) ، قشتالی عہد شجاعت (گیارہویں صدی عیسوی) کا مشہور ترین اور مقبول ترین بطل .
۱ ۵۰۰		* سیدۃ : الجزائر کا ایک قصبہ .
۱ ۵۰۰		* سیدیو املک : رگ بہ مستشرقین .
۱ ۵۰۰		* سیرا سینی : (Saracens) ، یورپی ممالک میں تاریخ کے قدیم دور میں اہل عرب کے لیے ایک اصطلاح .
۱ ۵۰۳		* سیراف : خلیج فارس پر واقع ایک ایرانی قصبہ ، سابقاً ایک اہم بندرگاہ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۵۰۳		* السیراۃ : ابو سعید الحسن بن عبداللہ بن المرزبان (۵۲۸/۵۸۹۳ تا ۵۳۶۸/۵۹۷۸) ، ایک ممتاز عالم دین ، شارح اور مصنف .
۲ ۵۰۵		⊗ سیرۃ : ایک مختلف المعانی اصطلاح ، بالخصوص سیرت نبویؐ .
۲ ۵۰۹		* سیرت لیبرس : رگ بہ لیبرس (سیرت) .
۲ ۵۰۹		⊗ سیرۃ عنترہ : (عنترہ) ، عربی کی بہترین داستان شجاعت .
۱ ۵۱۵		* السیر جان : ایران کے صوبہ کرمان کا ایک قصبہ .
۱ ۵۱۶		* سیر دریا : سیحون ، وسط ایشیا کا ایک بڑا دریا .
۱ ۵۱۷		* سیس : (سیسیہ) ، ایشیائے کوچک کا ایک قصبہ .
۲ ۵۱۷		* سیستان : (سجستان ، نیز سکستانہ ، نیمروز) ، افغانستان اور ایران کے مابین ایک سرحدی علاقہ .
۲ ۵۱۸		* سیسر : ایرانی کردستان کا ایک قصبہ .
۱ ۵۱۹		* سیسم : رگ بہ ساموس .
۱ ۵۱۹		* سیف بن ذی یزن : حمیری شاہی نسل سے عہد جاہلی کا مشہور بطل ، نیز ایک معروف عربی ”داستان شجاعت“ کا ہیرو .
۲ ۵۲۲		* سیف بن عمر الاسدی التمیمی : ایک عرب مؤرخ ، مصنف کتاب الفتوح الکبیر و الردۃ و کتاب الجمل و مسیر عائشہ و علی (م ۵۱۸۰/۵۷۹۶ یا ۵۲۰۰/۵۸۱۵) .
۲ ۵۲۲		* سیف الدولہ : رگ بہ صدقہ بن منصور .
۲ ۵۲۲		* سیف الدولہ : ابو الحسن علی بن عبداللہ بن حمدان (۵۳۰۳/۵۹۱۵ تا ۵۳۵۶/۵۹۶۷) ، حمدانی خاندان کا عظیم ترین حکمران اور امیر حلب .
۲ ۵۲۵		⊗ سیف الدولہ : عبدالصمد خاں دلیر جنگ ، مغلیہ حکومت کے دور زوال کا ایک ہنج ہزاری امیر اور صوبہ لاہور کا ناظم ؛ اس علاقے کے ایک حکمران خاندان کا بانی (م ۵۱۱۵/۵۷۳۷) .
۱ ۵۲۸		* سیف الدین الباخری : ابوالمعانی شیخ سعید بن مظفر ، شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ اور بخارا کے بزرگ ولی (م ۵۶۵۸/۱۲۵۹ - ۵۱۲۶۰) .
۲ ۵۲۹		* سیف الدین غازی : رگ بہ غازی سیف الدین بن زنگی .
۲ ۵۲۹		* سیفی بخاری : مولانا ؛ علم عروض کے ماہر اور مصنف عروض سیفی ، وغیرہ (م ۵۹۰۵/۵۹۰۹ یا ۵۹۰۹/۵۹۰۳) .
۱ ۵۳۰		⊗ سیکوارزم : رگ بہ دنیا .
۱ ۵۳۰		* سیگو : سابقاً فرانسیسی سودان اور آج کل جمہوریہ مالی کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
		* سیل : George Sale (۱۶۶۷ تا ۱۷۳۶) ، قرآن مجید کا براہ راست عربی سے انگریزی

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۵۳۰		میں پہلی بار ترجمہ کرنے والا معروف الگریز مستشرق .
۱ ۵۳۱		* سیلون : سری لنکا کا قدیم نام .
۲ ۵۳۲		* سیمرغ : فارسی ادبیات میں ایک افسانوی پرندہ .
۱ ۵۳۳		* سیموئل : (Samuel) ، رگ بہ اشموئیل .
۱ ۵۳۴		* سیمیا : رگ بہ علم (سیمیا) .
۲ ۵۳۵		* سین : رگ بہ س .
۱ ۵۳۶		* سیناء : (Senai) ، رگ بہ الطور .
۱ ۵۳۷		* سینوب : ایشیائے کوچک کے شمالی ساحل پر ایک قصبہ اور بندرگاہ .
		* سیواس : ترکی کی جدید انتظامی تقسیم کے وقت آناطولی (رگ باں) کی سب سے بڑی ولایت .
۲ ۵۳۸		* سیوری حصار : رگ بہ سوری حصار .
۱ ۵۳۹		* سیوط : رگ بہ سیوط .
		* السیوطی : ابو الفضل عبدالرحمن بن ابی بکر کمال الدین الطولونی الخضیری الشافعی (۸۳۹/۱۳۳۵ء تا ۹۱۱/۱۵۰۵ء) ، عہد معالیک کے ایک کثیر التصانیف متبحر عالم دین ، مفسر ، محدث اور مؤرخ .
۱ ۵۴۰		* سیوہ : صحرائے لیبیا کے شمال میں نخلستانوں کا ایک مجموعہ .
۲ ۵۴۱		* سیئون : حضرموت میں اسی نام کی پہاڑی کے پہلو میں ایک قصبہ .
۲ ۵۴۲		* سیئات : ایک قرآنی اصطلاح ، بمعنی گناہ ، برائیاں .
۲ ۵۴۳		* سید : (شہزادہ ، سردار ، حاکم ، مالک) ، ایک مختلف المعانی اصطلاح .
۲ ۵۴۴		* سید احمد خان : رگ بہ احمد خان سید ، سر .
۱ ۵۴۵		* سید محمد : کیسو دراز ؛ رگ بہ کیسو دراز .
		* السید الحمیری : ابو ہاشم اسماعیل بن محمد بن یزید (۱۰۵/۱۲۳ء تا ۱۸۹/۵۷۸ء) ، ایک عرب شاعر اور فرقہ کیسانیہ کا پیرو .
۱ ۵۴۶		

ش

* ش : (شین) ، عربی حروف تہجی کا تیرہواں ، فارسی کا سولہواں اور اردو کا انتیسواں حرف .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۵۳۷	* شاپاشیہ : بصرے اور الاحساء کے علاقے کا ایک غالی قرمطی فرقہ.	
۱ ۵۳۸	● الشابی : ابو القاسم (۱۹۰۶ یا ۱۹۰۹ تا ۱۹۳۳ء) ، المغرب کا ممتاز ترین جدید شاعر.	
۱ ۵۵۰	* شاپور : ایران کے تین ساسانی بادشاہوں کا نام : (۱) شاپور اول بن اردشیر ، عربوں کے ہاں ساہور الجنود (۲۳۱ تا ۲۷۲ء) ؛ (۲) شاپور ثانی بن هرمزد ، ذوالاكتاف (از ۳۱۰ تا ۳۷۹ء) ؛ (۳) شاپور ثالث (از ۳۸۳ تا ۴۳۸ء) .	
۱ ۵۵۹	* شاپور : ضلع شاپور خورہ (فارس) میں ایک دریا .	
۱ ۵۶۰	⊗ ساخت : Joseph Schacht ، بیسویں صدی کا ایک مشہور جرمن مستشرق .	
۲ ۵۶۰	⊗ شاد : (چاڈ)، جمہوریہ؛ لیبیا کے جنوب، سودان کے مغرب اور جمہوریہ وسطی افریقہ کے شمال میں واقع ایک افریقی ملک .	
۲ ۵۶۱	* الشاذلی : ابو الحسن علی بن عبداللہ عبدالجبار الشریف الزرویلی (نواح ۱۱۹۶/۵۵۹۳ - ۱۱۹۷ء تا ۱۲۵۸/۵۶۵۶ء) ، ایک مشہور و معروف صوفی اور سلسلہ شاذلیہ کے بانی .	
۱ ۵۶۳	* شاذلیہ : ابو الحسن علی بن عبداللہ الشاذلی کی طرف منسوب ایک معروف سلسلہ تصوف .	
۲ ۵۶۷	* شار : بخارا کے سامانی حکمرانوں کے زیر تسلط غرغستان کے حکمرانوں کا لقب .	
۲ ۵۶۸	* الشارات : جزیرہ نماے اندلس کے وسط میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ایک سلسلہ کوہ .	
۱ ۵۶۹	* شاش : رگ بہ تاشکنت .	
۱ ۵۶۹	* شاطیہ : Jativa ، مشرقی ہسپانیہ میں صوبہ بلنسیہ کا ایک شہر .	
۱ ۵۷۰	* الشاطبی : ابو محمد القاسم بن فیرہ فیرہ بن خلف بن احمد الرعینی (۵۳۸/۱۱۳۳ء تا ۵۹۰/۱۱۹۳ء) ، قرآن مجید کی قراءتوں اور تفسیر سے متعلق قصیدہ شاطبیہ کے مصنف .	
۱ ۵۷۲	* شاعر : شعر کہنے والا .	
۱ ۵۷۶	⊗ الشافعی : امام ابو عبداللہ محمد بن ادريس بن العباس الشافعی (۵۰/۱۵۰ء تا ۲۰۴/۸۲۰ء) ، اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک، مشہور عالم حدیث و فقہ و لغت، متعدد کتابوں کے مصنف اور فقہی مسلک شوافع کے بانی .	
۱ ۵۸۳	⊗ شایمار باغ : کشمیر ، لاہور اور دہلی میں واقع عہد مغلیہ کے تین باغات .	
۲ ۵۸۹	* شالہ : (شلہ)، الموحدون کے قلعہ رباط الفتح کے جنوب میں واقع مراکش کے مرینی سلاطین کا قبرستان .	
۲ ۵۹۰	* الشام : (سوریہ) ، ایک مشہور آزاد ، خود مختار عرب جمہوریہ .	
۲ ۶۰۷	⊗ شامل : امام ، داغستان میں نقشبندیہ سلسلے کے پیشوا اور روسی حکومت کے خلاف جہاد آزادی کے آخری اور ہردلعزیز رہنما .	

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۶۰۹	(۱) شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن یوسف، نامور محدث، سیرت نگار اور مؤرخ، مصنف سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد (م ۵۹۳۲/۴۱۵۳۵)؛ (۲) علی بن الحسین بن عزالدین الیمنی (۵۱۰۳۳/۴۱۶۲۳ تا ۵۱۱۲۰/۴۱۷۰۸)، زیدی عالم اور مصنف العدل والتوحید؛ (۳) ابو الفتح عثمان بن محمد الازہری، نامور حنفی فقیہ اور محدث (م ۵۱۲۱۳/۴۱۷۹۸)۔	⊗ الشامی : (۱)
۶۱۰	ماہر سیاست (م ۵۵۶۳/۴۱۱۶۹)۔	* شاوَر : ابو شجاع مجیر الدین بن مجیر السعدی ، آخری فاطمی خلیفہ العاضد کا وزیر اور
۶۱۲	ابو العباس احمد محمد ، فاس کے ایک ہر دل عزیز سید بزرگ (م ۵۱۰۱۳/۴۱۶۰۵)۔	* الشاوی : ابو العباس احمد محمد ، فاس کے ایک ہر دل عزیز سید بزرگ (م ۵۱۰۱۳/۴۱۶۰۵)۔
۶۱۳	شاویہ : (بھیڑیں ہاننے والے)، المغرب بالخصوص تامسنا (مراکش) اور اوراس (الجزائر) کے بعض قبائل ۔	* شاویہ : (بھیڑیں ہاننے والے)، المغرب بالخصوص تامسنا (مراکش) اور اوراس (الجزائر) کے بعض قبائل ۔
۶۱۵	شاہ : قدیم فارسی کی ایک معروف اصطلاح ، بمعنی فرمانروا ۔	* شاہ : قدیم فارسی کی ایک معروف اصطلاح ، بمعنی فرمانروا ۔
۶۱۷	شاہجہان : شہاب الدین صاحبقران ثانی ، نور الدین جہانگیر کا تیسرا بیٹا خرم ، ہندوستان کا مشہور مغل شہنشاہ (از ۱۶۲۸ تا ۴۱۶۵۸)۔	* شاہجہان : شہاب الدین صاحبقران ثانی ، نور الدین جہانگیر کا تیسرا بیٹا خرم ، ہندوستان کا مشہور مغل شہنشاہ (از ۱۶۲۸ تا ۴۱۶۵۸)۔
۶۲۰	شاہ جی کی ڈھیری : پشاور شہر سے متصل جنوب مشرق کی جانب قدیم بدھ آثار کے لیے مشہور ایک جگہ ۔	⊗ شاہ جی کی ڈھیری : پشاور شہر سے متصل جنوب مشرق کی جانب قدیم بدھ آثار کے لیے مشہور ایک جگہ ۔
۶۲۱	شاہ حسین : رگ بہ مادھو لال حسین ۔	* شاہ حسین : رگ بہ مادھو لال حسین ۔
۶۲۱	شاہد : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی گواہ ۔	*⊗ شاہد : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی گواہ ۔
۶۲۱	شاہ درہ : (شاہدرہ شہدرہ)، (۱) بھارت میں دہلی سے تین میل دور دریائے جمنا کے مشرقی کنارے پر ایک مقام؛ (۲) پاکستان میں لاہور کے نزدیک دریائے راوی کے مغرب میں ایک مضافاتی شہر ۔	⊗ شاہ درہ : (شاہدرہ شہدرہ)، (۱) بھارت میں دہلی سے تین میل دور دریائے جمنا کے مشرقی کنارے پر ایک مقام؛ (۲) پاکستان میں لاہور کے نزدیک دریائے راوی کے مغرب میں ایک مضافاتی شہر ۔
۶۲۵	شاہ دین، سر، میاں : رگ بہ لاہور ۔	⊗ شاہ دین، سر، میاں : رگ بہ لاہور ۔
۶۲۵	شاہ رخ میرزا : (۵۷۷۹/۴۱۳۷۷ تا ۵۸۵۰/۴۱۴۴۷) ، تیمور کا چوتھا بیٹا اور تیموری خاندان کا پہلا تاجدار (از ۵۸۰۷/۴۱۴۰۵)۔	* شاہ رخ میرزا : (۵۷۷۹/۴۱۳۷۷ تا ۵۸۵۰/۴۱۴۴۷) ، تیمور کا چوتھا بیٹا اور تیموری خاندان کا پہلا تاجدار (از ۵۸۰۷/۴۱۴۰۵)۔
۶۲۹	شاہ رود : دریائے قزل اوزن (سفید رود) سے وابستہ دو دریا ۔	* شاہ رود : دریائے قزل اوزن (سفید رود) سے وابستہ دو دریا ۔
۶۳۰	شاہ سون : (شاہ سوان) ، ایران میں ترکی قبائل کے لوگ ۔	* شاہ سون : (شاہ سوان) ، ایران میں ترکی قبائل کے لوگ ۔
۶۳۲	شاہ شجاع : جلال الدین بن محمد بن مظفر ، مظفری خاندان کا ایک حکمران (از ۴۱۳۵۸/۴۱۳۸۳ تا ۴۱۳۸۳/۴۱۳۸۳)۔	* شاہ شجاع : جلال الدین بن محمد بن مظفر ، مظفری خاندان کا ایک حکمران (از ۴۱۳۵۸/۴۱۳۸۳ تا ۴۱۳۸۳/۴۱۳۸۳)۔
۶۳۳	شاہ طاغ : (شاہ داغ، شہداغ) ، رگ بہ داغستان ۔	⊗ شاہ طاغ : (شاہ داغ، شہداغ) ، رگ بہ داغستان ۔
	شاہ عالم : ہندوستان کے دو مغل بادشاہوں کا لقب : (۱) شاہ عالم اول ، محمد معظم بن اورنگ زیب عالمگیر ، المعروف بہ بہادر شاہ (رگ بہاں) ؛ (۲) شاہ عالم	*⊗ شاہ عالم : ہندوستان کے دو مغل بادشاہوں کا لقب : (۱) شاہ عالم اول ، محمد معظم بن اورنگ زیب عالمگیر ، المعروف بہ بہادر شاہ (رگ بہاں) ؛ (۲) شاہ عالم

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۲ ۶۳۳	ثانی ، شاہزادہ علی گوہر بن عزیز الدین ء الحکیر ثانی ، آخری دور کا ایک برائے نام حکمران (از ۱۱۷۳ھ/۱۷۵۹ء تا ۱۲۲۱ھ/۱۸۰۶ء) .	
۲ ۶۳۳	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی : (۱۱۵۹ھ/۱۷۴۶ء تا ۱۲۳۹ھ/۱۸۲۳ء) ، ہندوستان کے مشہور عالم دین اور مفسر ، شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے اور جانشین ، تحفہ اثنا عشریہ وغیرہ متعدد کتابوں کے مصنف .	
۲ ۶۳۳	شاہ محمد بن عبد محمد بدخشی : رگ بہ ملا شاہ بدخشی .	⊗
۱ ۶۳۷	شاہ مخدوم : درگاہ پارا (راجشاہی) میں مدفون ایک ولی .	⊗
۱ ۶۳۷	شاہ مدار : رگ بہ بدیع الدین شاہ مدار (قطب المدار) .	⊗
۲ ۶۳۹	شاہ میر : ایک اولو العزم طالع آزما اور کشمیر میں پہلی اسلامی سلطنت کا بانی (عہد حکومت از ۱۲۳۱ھ/۱۸۲۲ء - ۱۲۳۲ھ/۱۸۲۳ء تا ۱۲۳۹ھ/۱۸۲۵ء) .	⊗
۲ ۶۳۹	شاہ ولی اللہ : رگ بہ ولی اللہ دہلوی .	⊗
۲ ۶۴۰	شاہنشاہ : رگ بہ شاہ .	*
۲ ۶۴۰	شاہ لواز خان : رگ بہ صمصام الدولہ .	*
۲ ۶۴۰	شاہی : شاہان ایران کا چھوٹا سا سکہ .	*
۲ ۶۴۰	شباط : سریانی سال کا پانچواں مہینا .	*
۲ ۶۴۰	شہام : جنوبی عرب میں متعدد اماکن کا نام : (۱) شہام حراز، صنعاء کے مغرب میں ایک پہاڑ ؛ (۲) شہام القصبہ ، جوف میں ایک مقام ؛ (۳) شہام کوکبان ، جبل سروہب کی ایک شاخ کے دامن میں ایک قصبہ .	*
۱ ۶۴۱	شہانکارہ : ایک کرد قبیلہ اور ان کا ملک .	*
۱ ۶۴۳	شہ برات : رگ بہ شعبان .	*
۲ ۶۴۳	شیرخان : شمالی افغانستان کا ایک قصبہ اور سابقاً ضلع جوزجان کا ایک بڑا شہر .	*
۲ ۶۴۳	شہستری : سعدالدین محمود بن عبدالکریم بن یحییٰ (۶۵۰ھ/۱۲۵۲ء تا ۷۲۰ھ/۱۳۲۰ء) ، مشہور فارسی صوفیانہ مثنوی گلشن راز کے مصنف .	*
۱ ۶۴۳	شب قدر : رگ بہ لیلة القدر .	⊗
۱ ۶۴۵	شبک : موصل کی ولایت میں ایک کردی الاصل مذہبی جماعت .	*
۱ ۶۴۵	شہل الدولہ : نصر بن صالح ، حلب کا ایک مرداسی حکمران (حیات ۱۰۳۵ھ/۱۰۳۵ء) .	*
۱ ۶۴۶	شہیلی : ابو بکر دلف بن جعفر (۸۶۱ھ/۸۲۳ء تا ۹۳۶ھ/۹۳۶ء) ، ایک جلیل القدر مالکی المذہب صوفی .	⊗*
۱ ۶۴۸	شہیلی : سراج الدین ابو حفص عمر بن اسحاق بن احمد (۱۳۱۳ھ/۱۳۱۳ء تا ۱۳۷۳ھ/۱۳۷۳ء) ، ایک مشہور معروف فقیہ اور مصنف التوشیح ، وغیرہ .	*
۱ ۶۴۹		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۶۵۰		⊗ الشبلی: بدر الدین ابو عبدالله محمد بن عبدالله ابن قیوم الشبلیہ (۵۷۱۲/۱۳۱۲ء تا ۵۷۶۹/۱۳۶۷ء)، مصنف آکام المرجان فی احکام الجان .
۱ ۶۵۰		⊗ شبلی نعمانی: محمد شبلی (۵۱۲۷۳/۱۸۵۷ء تا ۵۱۳۳۳/۱۹۱۳ء)، ہندوستان کے مشہور صاحب طرز انشا پرداز، سوانح نگار، شاعر، نقاد، ادیب، عالم، متکلم اور فقیہ، ناظم ندوۃ العلماء اور مصنف سیرۃ النبیؐ .
۱ ۶۵۵		* شبوہ: وادی جردان (جنوبی عرب) کا ایک شہر .
۲ ۶۵۵		* شبیب بن یزید: بن نعیم الشیبانی (۵۲۶/۶۴۷ء تا ۵۷۷/۶۹۷ء)، ایک خارجی سردار .
۱ ۶۵۷		⊗ شپرنگر: Alloys Sprenger، انیسویں صدی عیسوی کا ایک معروف مستشرق .
۱ ۶۵۸		* الشجاع: (پانی کا سانپ)، ایک لمبا ستارہ، علم الہیئت کی ایک اصطلاح .
۲ ۶۵۸		* شجر الدر: اسلامی دور میں مصر کی واحد ملکہ (۵۶۵۵/۱۲۵۷ء) .
۱ ۶۶۰		* الشحر: جنوبی عرب کے ساحل پر ایک شہر اور ضلع .
۱ ۶۶۱		* شد: (ربط المحزم)، پیشہ ور برادریوں، اور بعض سلسلہ ہائے تصوف میں باقاعدہ داخلے کی تقریب .
۲ ۶۶۲		* شداد (بتو): ایران کا ایک حکمران خاندان (از ۵۳۳/۹۵۱ء تا ۵۳۶۸/۱۰۷۵ء) .
۲ ۶۶۳		* شراب: پینے کی چیز، بالعموم خمر .
۲ ۶۶۵		* شراة: عالی خوارج کا نام .
۱ ۶۶۶		* الشریینی: یوسف بن محمد بن عبدالجواد بن خضر، ایک مصری مصنف (حیات ۵۱۰۷۵/۱۶۶۳ء) .
۱ ۶۶۷		* شرجہ: عرب میں تین مقامات: (۱) شرجة القریص، یمن کے ساحل پر ایک بندرگاہ؛ (۲) مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک مقام؛ (۳) خلیج فارس کے ساحل پر ایک بندرگاہ .
۱ ۶۶۷		* شرح: کسی کتاب یا تصنیف کی توضیح و تشریح .
۲ ۶۶۷		⊗ الشرح: قرآن مجید کی چورانویں سورۃ .
۲ ۶۶۷		⊗ شرحیل بن حسنہ: ایک مشہور صحابی، نامور سپہ سالار، فاتح اردن (م ۵۱۸/۶۳۹ء) .
۲ ۶۶۹		* الشراظ: ابو عبدالله محمد بن محمد بن عیشون، قاس (سراکش) کا نامور صوفی (۵۱۰۳۵/۱۶۲۵ء تا ۵۱۱۰۹/۱۶۹۷ء) .
۱ ۶۷۰		* شرشال: (شرشل)، الجزائر کا ایک شہر .
۱ ۶۷۰		* شرط: منطق، علم اصول، علم قروع اور قانون کی ایک معروف اصطلاح .
۱ ۶۷۱		* شرطہ: (۱) خلفا کے عہد میں ملکی نظم و نسق کے قائم رکھنے میں صوبوں کے عمال کی ایک مددگار جماعت .

اشارات

عنوان

صفحہ عمود

- * شرطہ : پولیس ، پولیس افسر .
- * شرع : رک بہ شریعت .
- * شرفاء : مراکش میں حسنی سادات وغیرہ کے خاندان .
- ⊗ شرف الدین احمد المنیری : رک بہ المنیری .
- * شرف الدین علی یزدی : ایرانی مؤرخ ، ادیب اور مصنف ظفر نامہ وغیرہ (م ۵۸۵۸/۶۱۳۵۳) .
- * شرقاویہ : وسطی مراکش میں المرابطون کے ایک سلسلے کی عام نسبت ، ابو الجعد کے زاویے کے بانی محمد بن ابی القاسم (م ۵۱۰/۶۰۱) اور اس کے اخلاف .
- * شرقی : جوانپور کا مشہور حکمران خاندان (از ۵۹۶/۶۲۹ تا ۵۸۹۳/۶۱۳۸۸) .
- * شرقی : ترکیہ کے عوامی گیتوں کے برعکس عام لوگوں کے لیے ایک قومی اسلوب میں کہے گئے گیتوں کی ایک قسم .
- * شرقیہ : مصر میں ایک صوبہ اور ضلع .
- * شرک : ایک دینی اصطلاح ، بمعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا : توحید کی ضد .
- ⊗* شرکۃ : کاروباری اشتراک کے لیے مستعمل ایک اصطلاح .
- ⊗ (قاضی) شریح الکندی : ابوامیہ شریح بن الحارث ، صدر اسلام کے ایک مشہور قاضی اور فقیہ (م ۵۸۷/۶۰۶) .
- * شریش : Jarez de la Frontera ، قادس Cades کے صوبے میں ہسپانیہ کا ایک اہم شہر .
- * الشریشی : ابو العباس احمد بن عبدالؤمن ، ایک اندلسی مصنف اور شارح (م ۵۶۱۹/۶۱۳۲۳) .
- ⊗ شریعت : دین اسلام کے لیے ایک مترادف اصطلاح .
- ⊗ شریعت اللہ ، حاجی : رک بہ فرائضی فرقہ (الفرائضیہ) .
- * شریف : عالی مرتبت اسلاف کی اولاد ، ممتاز خاندانوں کے سربراہ ، نیز سادات کے لیے مستعمل اصطلاح .
- * شریف ہاشا : (۱۸۲۳ تا ۱۸۸۷) ، خدیو اسماعیل اور خدیو توفیق کے عہد کا ایک ترکی الاصل مصری مدبر اور وزیر اعظم .
- ⊗ شریف حسین بن علی : (۱۲۷۱/۱۸۵۳ تا ۱۳۵۰/۱۹۳۱) ، ترکی حکومت کے خلاف حجاز میں بغاوت کے بعد انگریزوں کی مدد سے برسر اقتدار آنے والا حکمران .
- * شریف الرضی : ابو الحسن محمد بن الحسین بن موسیٰ (۳۵۹/۹۷۰ تا ۴۱۵/۱۰۱۵) ، بنو بویہ کے عہد کا ایک قصیدہ گو شاعر اور مصنف .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۷۲۳		* شُستَر یا شُوشتر : (تُستر) ، ایران کے صوبہ عربستان (قدیم خوزستان) کا ایک شہر .
		* شُستری : (۵۶۰۰/۷۲۰۳ تا ۵۶۶۸/۷۲۶۹) ، اندلس کا ایک صوفی شاعر اور عوامی
۱ ۷۲۶		عربی زبان کے موشحات کا مصنف .
۱ ۷۲۷		* شَطَا : دمیاط سے چند میل دور قرون وسطیٰ کا ایک مشہور مقام .
		* شَطَح : (او شطعیات) ، عالم سکر میں کہے گئے الفاظ و کلمات کے لیے تصوف کی
۱ ۷۲۸		ایک اصطلاح .
۲ ۷۲۹		* شَطْرُج : بساط پر کھیلا جانے والا ایک قدیم کھیل .
۱ ۷۳۳		* شَطَّ : ساحل .
۲ ۷۳۳		* شَطَّ العرب : دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے سنگم سے بننے والا مد و جزری دہانہ .
۲ ۷۳۴		* شَطَّارِیہ : صوفیہ کا ایک سلسلہ .
۲ ۷۳۵		* شعبان : قمری سال کا آٹھواں مہینا .
		* شعبان ، الملک الاشرف : ناصر الدین شعبان الثانی، مصر کا ایک مملوک سلطان (از ۷۶۴ھ/
۲ ۷۳۶		۱۳۶۳ء تا نواح ۷۷۸ھ/۷۳۷۷ء) .
		* شعبان ، الملک الكامل : سیف الدین شعبان الاول، مصر کا ایک مملوک سلطان (از ۷۶۶ھ/
۱ ۷۳۸		۱۳۴۵ء تا ۷۴۷ھ/۷۳۳۶ء) .
		* الشَّعبی : ابو عمرو عامر بن شراحیل بن عمرو (۷۲۰ھ/۷۶۴ء تا نواح ۷۱۱ھ/۷۷۲۸ء) ،
۲ ۷۳۹		جنوبی عرب کے ممتاز قاری ، محدث اور عالم .
۲ ۷۴۱		* شِعْر : رگ بہ فن (شعر و شاعری) .
		* الشعرائی : بہت سے اہل علم کی نسبت : (۱) ابو المواہب ، ابو عبدالرحمن عبدالوہاب
		ابن احمد الانصاری الشافعی المصری (۷۸۹۸ھ/۷۴۹۳ء تا ۷۹۷۳ھ/۷۵۶۵ء) ،
		ایک مشہور صوفی اور مصنف ؛ (۲) ابو محمد الفضل بن محمد بن المسیب ،
		جمع حدیث کے لیے طویل سفر کرنے والے ایک محدث (م ۷۲۸۲ھ/۷۸۹۵ء) ؛
		(۳) ابو العباس احمد بن جعفر بن مرزوق بن بستان ، دوسری صدی ہجری/
۲ ۷۴۱		آٹھویں صدی عیسوی کے ایک محدث .
۲ ۷۴۵		* الشعراء : قرآن مجید کی چھبیسویں سورت .
۲ ۷۸۶		* شعری : برج الکلب الاکبر کا سب سے روشن ستارہ .
۲ ۷۴۷		* شعویہ : ابتدائی اسلامی عہد میں عربوں کے خلاف ایک عجمی تحریک .
۲ ۷۴۸		* شَعِیَا : (اشعیا) بن آموس ، ایک قدیم اسرائیلی نبی .
۱ ۷۴۹		* شَعِیْب علیہ السلام : ایک قدیم قرآنی پیغمبر .
		* شَغْنَان : (شغنان) ، بالائی دریائے جیحون (پنج) کے کنارے ایک ضلع (بائیں کنارے کا
۱ ۷۴۹		حصہ افغانی بدخشان میں اور دائیں کنارے کا روسی ہامیر میں) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۷۵۰		⊗ شفاخالہ : رگ بہ بیمارستان .
۲ ۷۵۰		* شفاعت : دعا ، سفارش اور توسط کے معنوں میں امور دنیا و آخرت کے لیے مستعمل ایک اصطلاح .
۲ ۷۵۰		⊗ شفالی : ایران کے دو شاعر طبیبوں کے تخلص : (۱) مظفر بن محمد حسینی شفائی کاشانی (۲) شرف الدین حسین بن حکیم ملا اصفہانی (م ۱۰۳۷ھ / ۱۶۲۷ء) .
۱ ۷۵۵		* شفاون : (ششاون)، شمال مغربی مراکش میں ایک چھوٹا سا قصبہ .
۲ ۷۵۵		* الشفق : طلوع سحر اور شام کی سرخی ؛ نیز عام نقہ میں ایک اہم اصطلاح .
۱ ۷۵۶		* شفیق محمد الندی : المعروف بہ مصرف زادہ ، عثمانی شاہی مؤرخ اور صاحب اسلوب انشا پرداز ، مصنف شفیق نامہ وغیرہ (م ۱۱۲۷ھ / ۱۷۱۵-۱۷۱۶ء) .
۱ ۷۵۸		* شقالی : ایک کردی الاصل قبیلہ .
۱ ۷۵۹		* شق : طلوع اسلام سے قبل دو عرب کھنوں کا نام : (۱) شق اکبر ، ایک نیم افسانوی شخصیت اور (۲) شق الیشکری ، سطح کا ساتھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی پیشینگوئی کرنے والا کائن ؛ نیز شیطانوں کی ایک قسم .
۲ ۷۵۹		* شقندہ : (Secunda) ، قرطبہ کے بالمقابل وادی الکبیر کے بائیں کنارے پر ایک چھوٹا سا شہر .
۲ ۷۶۰		* شقویہ : (Segovia ، شقویہ) ، وسطی اندلس کا ایک قدیم شہر ؛ آجکل اسی نام کے صوبے کا صدر مقام .
۱ ۷۶۱		* شقورہ : (Segura) ، ہسپانیہ میں مرسیہ Murcia اور اوریولہ Orihuella کو سراب کرنے والا دریا .
۲ ۷۶۱		* شقیۃ النعمان : ترمزی رنگ کا پھول ، علم نباتات کی ایک اصطلاح .
۱ ۷۶۲		* شکار پور : ضلع سکھر (صوبہ سندھ ، پاکستان) میں واقع ایک معروف شہر .
۲ ۷۶۲		* شکاری : شکار کرنے والا .
۲ ۷۶۳		* شکاک : (شکاک) ، ترکی ایرانی سرحد پر ایک کرد قبیلہ .
۱ ۷۶۴		* شکر بیرامی : رگ بہ عید الفطر .
۱ ۷۶۵		⊗ شکر گنج : رگ بہ فرید الدین شکر گنج .
۱ ۷۶۵		⊗ شکستہ : رگ بہ فن (خطاطی) .
۱ ۷۶۵		⊗ شکل : رگ بہ (۱) تصویر ؛ (۲) فن (مصوری) .
۱ ۷۶۵		* شکلی : مشرقی ماورائے قفقاز (Transcaucasia) میں ایک ضلع .
۱ ۷۶۵		* شکیم ارسلان (امیر) : عہد حاضر کے ممتاز مفکر ، عظیم مؤرخ و مصلح اور عربی

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۷۶۶	زبان کے صاحب طرز انشا پرداز اور مصنف .	
۱ ۷۷۲	دارالحکومت اور عربوں کے دور حکومت میں مغربی اندلس کا پائے تخت .	* شلب : (Silves) ، جنوبی ہرتگال میں ایک چھوٹا سا شہر ، صوبہ المغرب کا سابق
۲ ۷۷۳	جزیرہ .	* شلطیش : (Saltes) ، ہسپانیہ میں ولہ (Huolva) کے بالمقابل ایک چھوٹا سا
۱ ۷۷۳	بولنے والوں کا نام .	* شلح : علاقہ سوس میں بالائی اطلس اور مقابل اطلس کے رہنے والے بربری زبان
۱ ۷۷۳	اسی نام کے صوبے کا دارالحکومت .	* شلمنکہ : (شلمنقہ، ظلمنکہ Salamanca) ، ہسپانیہ کے
۲ ۷۷۳		⊗ شلوار : رگ بہ سروال
۲ ۷۷۳		⊗ شلہ : رگ بہ شالہ .
۲ ۷۷۳	ایک مجمع نلکوا کب .	* الشلیاق : (Lyra یا Lyre) ،
۲ ۷۷۵		* شماخہ : رگ بہ شیروان .
۲ ۷۷۵		⊗ شمال مغربی سرحدی صوبہ : رگ بہ (۱) پاکستان ؛ (۲) ہند .
۲ ۷۷۵	مرکزی کردستان کی ولایت وان میں	* شمدیناں : (ناوجیا Nawcia ، بمعنی بین الجبال) ،
۲ ۷۷۵	سنجاق حکاری کی ایک قضا .	
۱ ۷۷۶		⊗ الشمس : قرآن مجید کی ۳۱ ویں سورت .
۱ ۷۷۷		* الشمس : سورج ؛ شمسی تقویٰات .
۲ ۷۷۹	مشہور عالم و شارح کتب حدیث .	⊗ شمس الحق ڈیلوی : (۱۸۵۶/۵۱۲۷۳ تا ۱۹۱۱/۵۱۳۲۹) ، بہار (بھارت) کے
۲ ۷۸۱	مشہور عالم و شارح کتب حدیث .	
۲ ۷۸۲	مشہور عالم و شارح کتب حدیث .	* شمس الدولہ : ابو طاہر بن فخر الدولہ ، کچھ عرصے کے لیے بویہی سلطنت کا حکمران
۲ ۷۸۲		(حیات ۱۰۲۱/۵۳۱۲ - ۱۰۲۲/۵۱۰۲۲) .
۲ ۷۸۲		* شمس الدین : رگ بہ (۱) جوینی ؛ (۲) ایلدگز ؛ (۳) التمش ؛ (۴) پہلوان التبریزی .
۲ ۷۸۲		* شمس الدین : ابن عبداللہ السطرائی ، ملایا کا ایک صوفی (م ۱۰۳۹/۵۱۶۳) اور
۲ ۷۸۲		مصنف <u>مرآة المؤمن</u> وغیرہ .
۱ ۷۸۵		⊗ شمس الدین سیالوی ، خواجہ : (۱۲۱۳/۵۱۷۹۹ تا ۱۸۸۳/۵۱۳۰۰) ، برعظیم پاک و
۱ ۷۸۷		ہند کے ایک نامور صوفی اور چشتی بزرگ .
۱ ۷۸۷		⊗ شمس الدین عبدالرحمن : بن محمد بن قدامہ ، رگ بہ ابن قدامہ الحنبلی (۳) .
۱ ۷۸۷		⊗ شمس الدین فقیر : رگ بہ فقیر شمس الدین .
۲ ۷۸۷		⊗ شمس المعالی : رگ بہ قابوس بن وشمگیر .
۲ ۷۸۷		* شمسیہ : درویشوں کا ایک سلسلہ ، منسوب بہ شمس ابو الثناء احمد بن ابی البرکات
۲ ۷۸۷		محمد سیواسی (م ۱۶۰۰/۵۱۰۰۹ - ۱۶۰۱/۵۱۶۰۱) .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۷۸۸		* الشماخی : ابو ساکن عامر بن علی بن عامر ابن اسقاو ، ایک اباضی فقیہ اور مصنف دیوان (مجموعہ قانون)، وغیرہ (م ۵۷۹۲/۷۱۳۸۹) .
۲ ۷۸۸		* الشماخی : ابو العباس احمد بن ابی عثمان سعید بن عبدالواحد ، ایک اباضی فقیہ اور سیرت نگار ، مصنف کتاب السیر وغیرہ (م ۷۹۲۸/۷۱۵۲۲) .
۱ ۷۸۹		* شعر : بنو طیثی کے دو متوازی سلسلہ ہائے کوہ ، یعنی جبل اجا اور جبل سلمیٰ کی سطح مرتفع .
۲ ۷۸۹		* شمن : ایک فارسی اصطلاح ، بمعنی بت پرست .
۱ ۷۹۲		* شناسی : متعدد ترکی شاعروں کا تخلص ؛ معروف ترین : ابراہیم شناسی افندی (۷۱۲۳۲/۱۸۲۶-۷۱۸۲۷ تا ۷۱۲۸۸/۷۱۸۷۱) ، سیاست کار ، ادیب ، صحافی اور مصنف .
۲ ۷۹۶		* شنترہ : (سنترو Cintra) ، پرتگال کا ایک چھوٹا سا شہر .
۱ ۷۹۷		* شنترین : (سنترم Santarem) ، پرتگال کا ایک اہم مقام .
۲ ۷۹۷		* شنت مالکس : (Simancas) ، شمالی ہسپانیہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ .
۱ ۷۹۸		* شنت مریۃ الغرب : (St. Maria de Algarve) ، قدیم زمانے میں الاندلس کے جنوب مغربی حصے کا ایک شہر .
۱ ۷۹۹		* شنت یالب : (شنت یعقوب ، شنت یاقوہ Santiago) ، ہسپانیہ میں مسیحی عہد کی مشہور ترین زیارت گاہ ؛ جلیقیہ کی سلطنت کا سابق پائے تخت .
۲ ۷۹۹		* شندی : خرطوم کے شمال میں نیل کے دائیں کنارے پر واقع ایک شہر .
۲ ۸۰۰		* الشنفری : عمرو بن مالک الازدی ، عہد جاہلیت کا ایک شاعر .
۳ ۸۰۳		⊗ شوالع : مسلک اہل السنۃ والجماعت میں امام محمد بن ادریس الشافعیؒ کے مقلد .
۱ ۸۰۹		* الشویک : کوہستان الشراء میں عربہ کے جانب شرق صلیبی جنگجوؤں کا ایک قلعہ .
۱ ۸۱۰		⊗ شوری : سیاسیات کی ایک اصطلاح ؛ مشورہ ، مشاورت .
۲ ۸۱۲		⊗ الشوری : قرآن مجید کی بیالیسویں سورۃ .
۲ ۸۱۳		* شوریدہ : حاجی محمد تقی ابن عباس الملقب بہ فصیح الملک شیرازی (۷۱۲۷۲/۷۱۸۵۵ تا ۷۱۳۳۵/۷۱۹۲۶) ، فارسی کا قصیدہ گو اور صاحب دیوان شاعر .
۲ ۸۱۳		* شوستر : رگ بہ شستر .
۲ ۸۱۳		* شوستری : سید تور اللہ بن شریف المرعشی ، ایک شیعہ مصنف اور شیعہوں کے لڑدیک شہید ثالث ؛ صاحب مجالس المؤمنین وغیرہ (م ۷۱۰۱۹/۷۱۶۱۰) .
۲ ۸۱۳		* شول : چین کا ایک علاقہ .
۱ ۸۱۵		* شولستان : صوبہ فارس کا ایک ضلع (بلوک) .
۲ ۸۱۵		* شوال : قمری سال کا دسواں مہینا .
۱ ۸۱۶		* شہاب الدولہ : رگ بہ بودود .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۸۱۶		* شہاب الدین : رگ بہ محمد معز الدین ابن سام .
۲ ۸۱۶		* شہاب الدین ابو العباس احمد بن علی القلقشندی : رگ بہ القلقشندی .
۲ ۸۱۶		* شہاب الدین ابو العباس ابن فضل العمری : رگ بہ العمری .
۲ ۸۱۶		⊗ شہاب الدین احمد بن ماجد : رگ بہ ابن ماجد .
۲ ۸۱۶		* شہاب الدین مقتول : رگ بہ السهروردی .
		⊗ شہادۃ : (۱) اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے معنوں میں ایک شرعی اصطلاح : (۲) ایک قانونی و عدالتی اصطلاح .
۲ ۸۱۶		
۱ ۸۲۲		* شہارہ : جنوبی عرب کا ایک شہر .
۱ ۸۲۳		⊗ شہداغ : رگ بہ داغستان .
۱ ۸۲۳		* شہر : ایک معروف جغرافیائی اصطلاح .
		⊗ شہر آشوب : کسی شہر یا ملک کی اقتصادی اور سیاسی بے چینی کے احوال پر مشتمل کوئی نظم .
۱ ۸۲۳		
۱ ۸۲۶		* شہر زور : کردستان کا ایک ضلع .
۲ ۸۲۶		* شہر سبز : رگ بہ کتس .
		* شہرستان : (شہرستان) متعدد ایرانی شہروں کے اہم حصوں کا عرف ، نیز (۱) شہرستان یزد گرد ، جرجان کے صوبے میں ایک قلعہ بند شہر : (۲) خراسان کا ایک شہر : (۳) سجستان کا ایک گاؤں : (۴) شہرستانہ ، ہمدان کے قریب ایک گاؤں : (۵) فارس کے شہر شاپور کا ایک نام .
۲ ۸۲۶		
		* الشہرستانی : محمد بن عبدالکریم (۵۶۹/۵۳۶ تا ۶۱۵/۵۵۳) ، محقق اور عالم ادیان و مذاہب ؛ فرقوں کے بارے میں مشہور کتاب الملل والنحل کے مصنف .
۲ ۸۲۷		
۲ ۸۲۹		* شہر یور : ایک ایرانی مہینا .
۱ ۸۳۰		* شہید : گواہ ، راہ حق میں جان دینے والا ، ایک اہم اسلامی اصطلاح .
۲ ۸۳۵		* شی : کوئی چیز ؛ علم جبر و مقابلہ کی ایک اصطلاح .
		* شیبالی (خالدان) : مغل شاہزادے شیبان (برادر باتو خان) کی اولاد پر مشتمل علاقہ خوارزم کا ایک حکمران خاندان .
۱ ۸۳۶		
		* شیبالی : ابو نصر فتح اللہ خان کاشانی ، انیسویں صدی عیسوی کا ایک ایرانی شاعر اور نثر و نظم کی ایک کتاب مقالات کا مصنف .
۲ ۸۳۸		
		* شیبالی خان : ابو الفتح محمد شاہی (یا شاہ) بیگ ازبک (نیز شیبک) ، ازبکوں کا ایک خان اور ماوراء النہر کا فاتح (م ۹۱۵/۸۱۵ تا ۹۵۰/۸۵۰) .
۱ ۸۳۹		
		* الشیبالی : ابو عبداللہ محمد بن الحسن بن فرقد (۵۱۳۲/۵۱۳۲ تا ۵۱۸۹/۵۱۸۹) .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۸۴۳	۶۸۰۳	* امام ابو حنیفہ کے نامور شاگرد ، فقہ حنفی کے اولین مرتب اور شارح ، کتاب السیر الکبیر اور کتاب الآثار وغیرہ کے مصنف .
۲ ۸۴۳	۶۸۲۰/۵۲۰۵ و ۶۸۲۸/۵۲۱۳	* الشیبالی : ابو عمرو اسحاق بن سرار المعروف الاحوص (نواح ۵۱۰۰/۵۱۸ - ۵۱۹ تا مابین ۵۲۰۵/۵۲۰۵ و ۵۲۱۳/۵۲۱۳) ، ایک بلند مرتبہ کوئی نحوی .
۲ ۸۴۶		* شیبہ (بنو) : حضرت شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ عبد اللہ کی طرف منسوب قریش مکہ کا ایک خاندان .
۱ ۸۵۰		* شیث : حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور پیغمبر .
۲ ۸۵۱		* شیخ : (۱) کسی دینی یا روحانی سلسلے کا بانی (معنی خاص) ؛ (۲) کوئی مرد پیر (عام معنی) .
۱ ۸۵۳		* شیخ آدم بنوڑی : رگ بہ آدم بنوڑی .
۱ ۸۵۳		* شیخ اسعد سوری : رگ بہ اسعد سوری .
۱ ۸۵۳		* شیخ الاسلام : علما کا ایک اعزازی لقب ، بعد ازاں ترکی حکومت میں ایک جلیل القدر عہدہ .
۱ ۸۶۱		* شیخ الجبل : رگ بہ راشد الدین ستان .
۱ ۸۶۱		* شیخ رحمکار : رگ بہ کا کا صاحب .
۱ ۸۶۱		* شیخ زادہ : شیخ کا بیٹا ، متعدد ترکی شخصیتوں کا اسم علم ؛ (۱) خورشید نامہ کا مصنف ، ۵۴۳۱/۵۱۳۳ تا نواح ۵۴۸۹/۵۱۳۸ ؛ (۲) قرق وزیر حکایہ سی (۱۵۰/۵۱۳۳۶) کا مصنف ؛ (۳) وحی الدین بن مصباح الدین مصطفی القوجوی ، تفسیر بیضادی وغیرہ کا حواشی نگار (م ۵۹۵۱/۵۱۵۳۵) ؛ (۴) عبدالرحمن بن الشیخ محمد بن سلیمان ، مجمع الانہر کی عربی شرح ملتقی الابحر کا مصنف (م ۵۱۰۷۸/۵۱۶۶۸) .
۱ ۸۶۱		* شیخ سعید : آبناے باب العندب پر ایک بندر گاہ .
۲ ۸۶۶		* شیخ صدر : رگ بہ عبدالنبی شیخ .
۲ ۸۶۶		* شیخ الطریقہ : رگ بہ شیخ .
۲ ۸۶۶		* شیخ عدی : رگ بہ عدی بن مسافر .
۲ ۸۶۶		* شیخ متی : ولد عباس ولد عمر ولد خلیل غوریا (۵۶۲۳/۵۱۲۲۶ تا ۵۶۸۸/۵۱۲۸۹) ، پشتو کا مشہور شاعر اور عارف .
۱ ۸۶۸		* شیخ مولی یوسف زلی : پشاور (پاکستان) کے شمالی علاقے کے یوسف زلی افغانوں کے مشہور رہنما ، قانون دان ، مؤرخ ، ادیب اور دفتر شیخ مولی (تصنیف ۵۸۲۰/۵۱۳۱۷) کے مصنف .
		* شیخی : متعدد ترکی شعراء کا تخلص ؛ (۱) روحانی شاعر مولانا یوسف سنان گرمیالی المعروف بہ شیخی چلبی (م ۵۸۲۹/۱۳۲۵ - ۵۱۳۲۶) ؛ (۲) شیخی :

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۸۶۹		عطائی کی حدائق الحقائق کے ایک ضمیمہ ذیل (تا ۱۷۸۰ء) کا مصنف .
۲ ۸۷۲		*⊗ شیخیہ : (شیخی) ، احمد احسانی کے متبعین اور ان کے اساتذہ پر مشتمل ایک فرقہ .
۲ ۸۷۶		* شیخیہ : سلسلہ شاذلیہ کی ایک شاخ ، بانی : عبدالقادر بن محمد المعروف بہ سیدی شیخ (۱۵۳۳/۹۵۱ء تا ۱۶۱۵/۱۰۲۳ء) .
۱ ۸۷۷		* شیدا : (ملا) ، ہندوستان میں فارسی زبان کا ایک شاعر (م ۱۶۳۲/۱۰۵۲ء) .
۱ ۸۷۸		* شیر : اسد [رک باں] .
۱ ۸۷۸		* شیراز : ایران کے صوبہ فارس کا دارالحکومت .
۱ ۸۷۹		* شیرازی : رک بہ بسحاق (ابو اسحق) .
۱ ۸۷۹		* شیرازی : ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی (۳۹۳/۱۰۰۳ء تا ۴۷۶/۱۰۸۳ء) ، ایک شافعی فقیہ اور متعدد فقہی کتابوں کے مصنف .
۱ ۸۸۰		* شیرازی : ابو الحسن عبدالملک بن محمد ، بارہویں صدی عیسوی کے وسط کا ایک ریاضی دان .
۲ ۸۸۰		⊗ شیرازی : صدر الدین : رک بہ صدرا (ملا) .
۲ ۸۸۰		*⊗ شیر شاہ : فرید الدین، سوری خاندان کا بانی اور ہندوستان کا حکمران (از ۱۵۳۰ء تا ۱۵۳۵ء) .
۲ ۸۸۳		* شیر علی ہارک زلی : امیر افغانستان، امیر دوست محمد کا بیٹا اور جانشین (از ۱۲۸۰ء تا ۱۸۶۳ء تا ۱۲۹۷/۱۸۷۹ء) .
۱ ۸۸۶		* شیرکوه : ابو العارث اسد الدین ، سلطان صلاح الدین ایوبی کا چچا اور مشہور سپہ سالار (م ۱۱۶۹/۵۶۳ء) .
۲ ۸۸۷		* شیر محمد : میان ، شرقپوری (۱۲۸۲/۱۸۶۵ء تا ۱۳۳۷/۱۹۲۸ء) ، برعظیم پاک و ہند میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک معروف بزرگ .
۲ ۸۸۸		* شیروان : (شروان ، شروان) ، بحیرہ خزر کے شمالی ساحل کا ایک ضلع .
۱ ۸۹۱		* شیروان شاہ : غالباً عہد قبل اسلام میں شیروان کے حکمران کا لقب .
۲ ۸۹۳		* شیریں قلم : رک بہ عبدالصمد شیریں قلم .
۲ ۸۹۳		* شیز : آذربایجان میں ایک بہت پرانا ایرانی آتشکدہ، مولد زردشت .
۱ ۸۹۵		* شیزر : شمالی شام کا ایک شہر .
۱ ۸۹۶		⊗ شیطان : خبیث، مردود ، اسلام میں بدی کے سرچشمے کے لیے ایک وصفی نام؛ ابلیس .
۲ ۸۹۸		⊗ شیعہ : دوست داران علی ، اولاد علی ، اثنا عشری ، امامت بالنص کے قائل ؛ ایک معروف فرقہ .
۲ ۹۰۹		⊗ شیفر چارلس : رک بہ مستشرقین .
۲ ۹۰۹		* شیاد : قلندر کے مترادف ایک اصطلاح .
۲ ۹۱۰		* شیاد حمزہ : ساتویں صدی ہجری میں ایشیائے کوچک کا ایک رکی شاعر .

جلد ۱۲

ص

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱		⊗ ص : عربی زبان کا چودھواں ، فارسی کا سترھواں اور اردو کا تیسواں حرف .
۲ ۱		⊗ ص : قرآن مجید کی اڑتیسویں سورۃ .
۱ ۳		* صَابُون : (صابن) ، ایک معروف لفظ .
۲ ۳		* الصَابُون : (الصابئة) ، دو فرقے : (۱) المَنْدِيَا (Mandaeans، مندویوں، مغتسلہ) یا الصَّبَوَّة (سَبَّة Subbas)، عراق کا ایک یہودی عیسائی فرقہ ؛ (۲) صابئہ حران : مسلمانوں کے عہد میں تادیر باقی رہنے والا ایک مشرک فرقہ .
۲ ۳		* الصَّابِي : ابو اسحق ابراہیم بن ہلال (۵۳۱۳/۴۹۲۵ تا ۵۳۸۴/۴۹۹۴) ، ایک نامور صابی فاضل، طبیب، ادیب اور شاعر، عہد بنو بویہ میں دیوان الانشاء میں کاتب .
۲ ۶		* الصَّابِي : ہلال بن المحسن (۵۳۵۹/۴۹۷۰ تا ۵۳۳۸/۴۱۰۵۶) ، ابراہیم بن ہلال کا پوتا ، فخر الملک ابو غالب محمد کا کاتب اور چند کتب کا مصنف ؛ اس خاندان کے دیگر ممتاز افراد : (۱) ابو اسحق ابراہیم بن زھرون ، ایک ماہر طبیب (م ۵۳۰۹/۴۹۲۱) ، (۲) ہلال بن ابراہیم بن زھرون ایک ہوشیار طبیب ؛ (۳) ثابت بن ابراہیم بن زھرون ، ایک طبیب (م ۵۳۶۵/۴۹۷۶) ؛ (۴) المحسن بن ابراہیم ابو علی ، ادیب ، شاعر اور مصنف (م ۵۳۰۱/۴۱۰۱۰) ؛ (۵) محمد بن ہلال ابو الحسن (۵۳۱۶/۴۱۰۲۵ تا ۵۳۸۰/۴۱۰۸۷) ، ایک فاضل مصنف .
۱ ۹		* صاحب : (ساتھی ، صحابی، وغیرہ) ، ایک کثیر المعانی اصطلاح .
۱ ۱۱		* صاحبِ قرآن : دو سعد سیاروں کے ایک برج میں اجتماع (قرآن السعدین) کے وقت پیدا ہونے والے کا اعزازی لقب .
۲ ۱۱		* صَارِلِيَّة : شمالی عراق میں موصل کے جنوب میں آباد ایک مذہبی فرقہ .
۱ ۱۲		* صَارُوخَان : سلاجقہ روم کے زوال کے بعد آناتولی کا ترکمان شاہی خاندان ؛ بانی : صاروخان (نواح ۵۲۰۰/۴۱۳۰۰ تا ۵۲۳۶/۴۱۳۳۵) .
۲ ۱۳		* صَارِي صَالِق ددہ : ایک ترک درویش اور بکتاشی ولی (حیات ۵۶۶۲/۱۲۶۳-۵۶۶۳/۱۲۶۳) .
۱ ۱۶		* صَارِي صَالِق ددہ : ایک ترک درویش اور بکتاشی ولی (حیات ۵۶۶۲/۱۲۶۳-۵۶۶۳/۱۲۶۳) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۱۸		* صاری عبدالله الندی : عہد عثمانیہ کا ایک ترک شاعر ، ادیب اور مصنف (م ۱۰۷۱ھ / ۱۶۶۰ - ۱۶۶۱ء) .
۱ ۱۹		* صاری کورز : (صاری کرز) ، نور الدین ، ایک ترک قبیہ اور قاضی عسکر (م نواح ۹۲۸ھ / ۱۵۲۱ - ۱۵۲۲ء) .
۱ ۲۰		* صاع : غلہ ناپنے کا ایک پیمانہ .
۱ ۲۱		* الصَّافَاتُ : الصَّافَاتُ ، قرآن مجید کی سنیسویں سورہ .
۲ ۲۲		* (حضرت) صالح : قوم ثمود کے نبی اور ایک قرآنی پیغمبر .
۲ ۲۳		* صالح بن طریف : دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی میں مراکش کی قوم برغواطہ کا متبہ اور ان کے الحاد کا بانی .
۲ ۲۴		* صالح بن علی : بن عبدالله بن عباس العباسی (۹۲ھ / ۷۱۰ء تا نواح ۱۵۰ھ / ۷۶۷ء) ، مصر اور فلسطین وغیرہ کا والی .
۲ ۲۵		* صالح بن مرداس : ابو علی اسدالدولہ ، پانچویں صدی ہجری میں مشرقِ ادنیٰ کا ایک ممتاز شیخ (م ۳۲۰ھ / ۹۲۹ء) .
۱ ۲۷		* (الملك) الصالح : صلاح الدین حاجی الثانی ابن الملك الاشرف شعبان ، مصر کا مملوک سلطان (از ۸۳۱ھ / ۱۴۳۱ء تا ۸۳۹ھ / ۱۴۳۸ء) .
۱ ۲۸		* (الملك) الصالح : صلاح الدین صالح بن سلطان محمد الناصر ، مصر کا مملوک فرمانروا (از ۸۵۲ھ / ۱۳۵۱ء تا ۸۵۳ھ / ۱۳۵۳ء) .
۲ ۲۸		* (الملك) الصالح : عماد الدین اسماعیل بن سلطان محمد الناصر (م ۸۳۶ھ / ۱۳۳۵ء) .
۱ ۲۹		* (الملك) الصالح : عماد الدین اسماعیل بن سلطان الملك العادل ابو بکر ایوبی ، بصری وغیرہ کا والی (م ۶۳۸ھ / ۱۲۵۰ء) .
۱ ۳۰		* (الملك) الصالح : نجم الدین ایوب ، (۶۰۳ھ / ۱۲۰۷ء تا ۶۳۷ھ / ۱۲۳۹ء) ، الملك الكامل محمد بن الملك العادل کا بڑا بیٹا اور ولی عہد ، سلطان دمشق و مصر (از ۶۳۷ھ / ۱۲۳۰ء) .
۲ ۳۵		* (الملك) الصالح : نور الدین اسماعیل ، زنگی خاندان کا فرمانروا اور اپنے والد نور الدین اتابک حلب و دمشق کا جانشین (از ۵۶۹ھ / ۱۱۷۳ء تا ۵۷۷ھ / ۱۱۸۱ء) .
۱ ۳۸		* الصامت : رگ بہ ناطق .
۱ ۳۸		* صامسون : ایشیائے کوچک کے شمالی ساحل پر ایک بندرگاہ .
۱ ۴۰		* صان : موجودہ صان الحجر ، مصر زبیر کے صوبہ شرقیہ میں ایک چھوٹا سا قریہ .
۲ ۴۱		* صائب : میرزا محمد علی صائب (نواح ۱۰۱۰ھ / ۱۶۰۱ء تا ۱۰۸۱ھ / ۱۶۷۰ء) ، هندوستان کا مشہور ایرانی نژاد فارسی شاعر اور صاحب طرز غزل گو .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۳		* صالان قلعه : جنوبی آذربيجان میں ایک چھوٹا سا شہر اور ضلع .
۲ ۳۳		* صباغہ : ولایت استانبول میں اسی نام کے ناحیے کا صدر مقام .
۲ ۳۶		* صبح : رگ بہ الشفق .
۲ ۳۶		* صبح ازل : رگ بہ (۱) بہاء اللہ ؛ (۲) بہائیت .
۲ ۳۶		* صبحی محمد : ایک ترک وقائع نویس اور تاریخ نگار (م ۱۱۸۲/۵۱۷۶۹ء) .
۱ ۳۷		* صبر : ایک اہم اسلامی تصور اور اصطلاح .
۱ ۵۲		* صبر : ایلوا ؛ افریقی ایلوے کے مختلف اقسام کے پودوں کے پتوں کا خشک کیا ہوا رس .
۲ ۵۲		* صیبا : عسیر (جنوبی عرب) کا ایک شہر اور ۱۹۳۲ء تک ادریسیوں کا دارالحکومت .
۲ ۵۲		* صیطلہ : تونس کا ایک قدیم شہر .
۱ ۵۳		* صحابہ : (رفیق ، ساتھی) ، ایک اصطلاح ، بمعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حالت ایمان میں دیدار کرنے والے خوش نصیب مسلمان اور آپ ﷺ کے رفقاء کرام .
۱ ۶۳		* صغار : عمان کے ساحل پر ایک بندر گاہ .
۲ ۶۹		* صعالت : رگ بہ جریدہ .
۲ ۶۹		* الصعراء : بحر ظلمات کے مشرق اور دریائے نیل کے مغرب میں واقع افریقہ کا مشہور ریگستان .
۲ ۷۳		* صُحف : رگ بہ صحیفہ .
۱ ۷۵		* صُخند : ایران کے صوبہ کرمانشاہ میں ایک چھوٹا سا قریہ .
۱ ۷۶		* صحیح : سند کے اعتبار سے آخر تک ثقہ راویوں کے ذریعے متصل اور باہم مربوط حدیث ، نیز ایسی احادیث پر مشتمل کتب حدیث ، مثلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیے ایک اصطلاح .
۱ ۷۶		* صحیفہ : ایک کثیر المعانی اسلامی اصطلاح .
۱ ۷۹		* صداق : رگ بہ سہر .
۱ ۷۹		* (ملا) صدرا : محمد بن ابراہیم بن یحییٰ قوامی شیرازی (۹۷۹ - ۱۰۵۲/۵۹۸۰ء تا ۱۰۵۰/۱۶۳۰ء) ، دور آخر میں اسلامی فلسفے کا مجدد اور متعدد کتب فلسفہ کا مصنف .
۲ ۸۳		* صدر اعظم : سلطان سلیمان القانونی کے زمانے سے ترکی وزراء اعظم کے لیے مستعمل لقب .
۱ ۸۵		* صدر الدین پیر : بن شہاب الدین ، خوجہ اور ست پنتھ فرقوں کا اصل بانی ، مصنف دس اوتار وغیرہ (۷۸۲/۱۳۸۰ء) .
۱ ۸۵		* صدر الصدور : قدیم اسلامی حکومتوں میں علما کے لیے مخصوص ایک اہم اور بلند منصب .
۱ ۹۳		* صدلہ : ایک اصطلاح ، بمعنی اتفاق فی سبیل اللہ ، خیرات وغیرہ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۱۰۰		* صدقہ بن منصور : بن ديس بن علي بن مزید، سيف الدوله ابو الحسن الاسدي، حاکم الحلة (از ۱۰۸۶/۵۳۷۹ - ۱۰۸۷ تا ۱۱۰۸/۵۵۰۱) .
۱ ۱۰۲		* الصديق : پہلے خلیفہ اسلام حضرت ابوبکرؓ کا لقب (رک بہ ابوبکر الصديق) ؛ نیز اسلام میں ایک بلند تر روحانی مقام .
۱ ۱۰۳		⊗ صديق حسن خان قنوجی : نواب امیر الملک والاجاہ (۵۱۲۳۸/۱۸۳۲ء تا ۵۱۳۰۷/۱۸۸۹ء) ، اردو ، عربی اور فارسی کے نامور عالم دین ، ادیب ، شاعر ؛ علوم و فنون کے قدر دان اور کثیر التصانیف مصنف .
۱ ۱۰۶		*⊗ صدیقی : سلطنت خداداد میسور کا ایک طلائی سکہ .
۱ ۱۰۶		* صرت : (قدیم نام سارد Sardes) ، لیڈیا Lydia (ایشیائے کوچک) کا پائے تخت ، آج کل ایک چھوٹا سا گاؤں .
۲ ۱۰۷		* صرف : مبادلہ زر ، ایک قصی اصطلاح .
۱ ۱۰۹		● صرلی کشمیری : شیخ یعقوب بن حسن ، کشمیر کا صوفی شاعر اور مصنف مغازی النبی (منظوم) ، وغیرہ (م ۱۰۰۳/۵۱۵۹۳) .
۲ ۱۰۹		* صرواح : جنوبی عرب کے دو ویران شہر .
۲ ۱۱۱		* صعده : یمن میں اسی نام کے ضلع کا صدر مقام .
۱ ۱۱۳		* الصعيد : (= صعيد مصر) ، قاہرہ کے جنوب سے اسوان کے بڑے جھرنے تک پھیلا ہوا بالائی مصر کا علاقہ .
۱ ۱۱۸		⊗ الصک : رک بہ (۱) دفتر ؛ (۲) دستاویزات .
۱ ۱۱۸		* الصفا : مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی ، حج و عمرہ کے لیے سعی کرنے کی ایک حد .
۲ ۱۱۸		* صفة : علم نحو ، علم بلاغت اور علم کلام وغیرہ کی ایک اصطلاح ، بمعنی تعریف ، وصف ، حالت و کیفیت وغیرہ .
۱ ۱۲۰		* صفد : آجکل اسرائیل میں شامل ایک تاریخی شہر .
۳ ۱۲۱		* الصفدي : (۱) صلاح الدین ابوالصفاء خلیل بن ایبک بن عبداللہ (۶۹۶ یا ۶۹۷/۵۶۹۷ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ء تا ۵۷۶۳/۱۳۶۳ء) ، مختلف علوم کا کثیر التصانیف ماہر ، مصنف الوافی بالوفیات ، وغیرہ ؛ (۲) الحسن بن ابی محمد عبداللہ الهاشمی ، مصری سلطان الناصر بن قلاوون کا مقرب درباری اور مصنف نزہة المالك والمملوک فی مختصر سيرة من ولی مصر من الملوک (تصنيف ۵۷۱۷/۱۳۱۶ و ۵۷۱۷/۱۳۱۷) .
۱ ۱۲۶		* صفر : اسلامی تقویم کا دوسرا مہینا .
۲ ۱۲۶		* الصفر : الکرزی زبرو Zero اور منسکرت سونیا کے مترادف علم ریاضی کی ایک اصطلاح .

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۲ ۱۲۷		* صَفْرُوی : شمالی مراکش کا ایک چھوٹا سا قصبہ .
۱ ۱۲۸		* الصَّفْرِيَّة : خوارج (رگ باں) کا ایک بڑا فرقہ (قیام ۵۶۵/۴۸۳ء) : بانی عبداللہ بن الصفار التیمی .
۲ ۱۳۰		* صَفَّارِيَّة : (صفاری ، خانوادہ) ، خراسان کا ایک سلسلہ سلاطین ؛ بانی : یعقوب بن لیث الصفار (م ۵۲۶۵/۴۸۷ء) .
۲ ۱۳۱		* صَفِيْن : دریائے فرات کے کنارے حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے مابین مشہور لڑائی کا مقام .
۱ ۱۳۶		* صَفْوِيَّة : اسلامی دور میں ایران کا مشہور حکمران خاندان ؛ بانی : اسماعیل اول (رگ باں) .
۱ ۱۳۸		* صَفِّي : فخر الدین علی بن الحسین الواعظ الکاشفی (م نواح ۵۹۳۹/۴۱۵۳۳ء) ، ایک مشہور ایرانی فاضل ، ادیب اور شاعر ، مصنف لطائف الطوائف ، رشحات عین الحیات ، وغیرہ .
۲ ۱۳۸		* صفی الدین : شیخ (۱۲۵۲/۵۶۵ - ۱۲۵۳ تا ۵۷۸۵/۴۱۳۳۳ء) ، ایران کے صفوی بادشاہوں کے جد امجد اور صفوی درویشوں کے بانی .
۲ ۱۳۰		* صفی الدین : عبدالؤمن بن یوسف بن فاخر الارجموی البغدادی ، علم موسیقی کا مشہور عرب مصنف ، صاحب الرسالة الشرفیہ وغیرہ (م ۵۶۹۳/۴۱۲۹۳ء) .
۱ ۱۳۳		* (حضرت) صفیہؓ : ام المؤمنین ، اصل نام زینب ، یہودی قبیلہ بنو النضیر کے رئیس حبیب بن اخطب کی دختر ، اخلاق اور علم و فضل میں ممتاز خاتون .
۲ ۱۳۳		* صقالبہ : سلاف (Salv) کا عربی مترادف ؛ ساتویں صدی عیسوی میں صقلب ، بوزنطی مملکت کی سرحد پر آباد ایک قوم ؛ اندلس میں ابتداءً غیر ممالکی اسیران جنگ ، نیز اموی خلفائے قرطبہ کے غیر ممالکی مخالفین .
۱ ۱۳۹		* صِقْلِيَّة : (سسیلی) ، مدت تک عربوں کی اسلامی حکومت کے زیر نگین بحیرہ روم کے وسط میں واقع ایک جزیرہ .
۲ ۱۶۶		* صَلَاة : رگ بہ صلوة .
۲ ۱۶۶		* صلاح الدین : سلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف اول بن امیر نجم الدین ایوب (۵۳۲/۴۱۳۸ تا ۵۸۹/۴۱۱۹۳ء) ، فاتح بیت المقدس ، مشہور و معروف سپہ سالار اور عادل حکمران (از ۵۶۳/۴۱۱۶۹ء) .
۲ ۱۷۷		* صلح : رفع نزاع کے معنوں میں ایک اہم اسلامی اصطلاح .
۲ ۱۷۹		* صَلَوَة : نماز ؛ اسلام کا رکن اول .
۲ ۲۰۵		* صَلَّة : عطیہ ، احسان ، نیز دو کلمات کو ملانے والے حرف یا حروف کے لیے ایک اصطلاح .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۰۷		*⊗ صلیب : وسطی عرب اور ملحقہ علاقے میں آباد ایک قبیلہ .
۱ ۲۰۸		*⊗ الصلیب : چلیپا ، سولی ؛ نصاریٰ کا مذہبی نشان .
۱ ۲۰۹		⊗ صلیبی جنگیں : یورپ کی عیسائی حکومتوں کے اتحاد مذہبی کے نتیجے میں تقریباً دو سو سال تک مسلمانوں کے خلاف لڑی جانے والی مذہبی جنگیں .
۲ ۲۲۱		* صائبی : یمن میں برائے نام مصر کا باجگزار حکمران خاندان ؛ بانی : علی بن محمد (م ۵۳۷/۱۰۸۰) .
۱ ۲۲۲		* صمد : (الصمد)، رگ بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی .
۱ ۲۲۲		* صمصام الدولہ : ابو کالیجار المرزبان البویہی ، بنو بویہ کا ایک سرکردہ سردار اور امیر الامراء (م ۵۳۸۸/۶۹۹۸) .
۲ ۲۲۳		* صمصام الدولہ : شاعنواز خان شہید خوانی اورنگ آبادی (۵۱۱۱/۱۷۰۰ء تا ۵۱۱۷/۱۷۰۵ء) ، ہند کے دور مغلیہ کا ایک مدبر اور مؤرخ ، مصنف مآثر الامراء .
۱ ۲۲۵		* صمصام السطنہ : لطف قلی خان (ولادت ۱۸۳۶ء) ، ایک بختیاری سردار اور ایران کی قومی تحریک کا ایک رہنما (حیات ۱۹۱۹ء) .
۱ ۲۲۶		* الصمصامہ : عرب بطل اور شاعر عمرو بن معدی کرب الزبیدی کی مشہور تلوار .
۱ ۲۲۸		* الصمیل بن حاتم : ابو جوشن الکلابی ، اندلس کا ایک عرب سردار اور اندلس میں عربوں کی ابتدائی تاریخ کی اہم شخصیت (م ۵۱۳۲/۶۷۵ء) .
۲ ۲۲۹		* صنج : (صنج) مجیرے اور جہانجہ کی قسم کے جملہ آلات موسیقی کا عام نام .
۱ ۲۳۵		* صندل : ایک معروف درخت، جس کی لکڑی خوشبودار ہوتی ہے .
۲ ۲۳۵		* صنعاء : یمن کا پائے تخت ، مشہور قدیم اور تاریخی شہر .
۲ ۲۳۶		* صنف : حرفہ ، کار ؛ ہم پیشہ برادریاں ؛ اسلامی عہد میں مسلم کاریگروں کی جماعتوں کے لیے مستعمل ایک اصطلاح .
۲ ۲۳۸		* صنم : خدا کے علاوہ پوجی جانے والی شے کے لیے ایک معروف اصطلاح .
۲ ۲۴۰		* صنہاجہ : بربر قوم کی ایک شاخ یا برادری .
۱ ۲۴۲		* صو : (تبرکی) ، پالی ، سیال ، عرق .
۱ ۲۴۲		* صواع : رگ بہ صاع .
۱ ۲۴۲		* صوباشی : (قائد عسکر) ، ترکیہ کے زیر اثر ممالک میں رائج ایک فوجی لقب .
۲ ۲۴۳		* صوبہ : ملک کے الگ الگ حصوں کے لیے مستعمل ایک اصطلاح .
۱ ۲۴۳		* صوبہ دار : [صوبیدار] مغلیہ دور میں حاکم صوبہ کا لقب، انگریزی عہد میں ایک چھوٹے درجے کا فوجی افسر .
۱ ۲۴۴		* صوحار : رگ بہ صحرار .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۲۳۳	* صور : (Tyre)، ایک جزیرے میں آباد فنیقیہ (Phoenicia) کا ایک شہر ، عہد عمارت سے شام کے شمالی ساحل پر ایک مالدار تجارتی مرکز .	
۲ ۲۳۵	* صَوْرَة : رگ بہ (۱) تصویر ؛ (۲) فن (مصوری) .	
۲ ۲۳۵	* صوفی : رگ بہ تصوف .	
۲ ۲۳۵	* صولوللی : محمد پاشا ، الملقب بہ طویل ، ایک مشہور ترکی وزیر اعظم (۴ ۱۵۸۷ء)	
۲ ۲۳۵	* صولاق : سلطنت عثمانیہ کی قدیم فوجی تنظیم میں سلطان کے محافظ دستے کے تیر انداز .	
۱ ۲۳۹	* صولاق زادہ : محمد ، المتخلص بہ ہمدی ، ایک ترکی مؤرخ ، مصنف فہرست شاہان (۴ ۱۰۶۸-۱۶۵۷/۱۶۵۸-۱۶۵۸ء) .	
۲ ۲۳۹	* الصولی : ابوبکر محمد بن یحییٰ ، ایک مؤرخ ، ادیب اور ماہر شطرنج ، مصنف کتاب الاوارق فی آل اخبار العباس و اشعارہم (۴ ۱۰۳۶/۱۰۳۶ء) .	
۱ ۲۵۰	⊗ صوم : روزہ ، اسلام کا چوتھا رکن .	
۲ ۲۵۳	* صومالیہ : بلاد الصومال ، مشرقی افریقہ کا ایک وسیع علاقہ .	
۱ ۲۶۰	* صومای : ترکی سرحد کے قریب ایران کا ایک کردی ضلع .	
۱ ۲۶۲	* صہیون : (۱) Zion ، یروشلم کا ایک مشہور مقام ؛ (۲) شمالی شام میں ایک قلعہ .	
۱ ۲۶۲	* صیدا : (صیدا ، Sidon) ، شام میں قدیم فنیقیہ کا مشہور شہر .	
۱ ۲۶۳	⊗ صیرفی : الصراف ، روپیہ پرکھنے والا ، نقدی کا لین دین کرنے والا .	
۱ ۲۶۳	⊗ الصین : یا چین ؛ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ، موجودہ سرکاری نام عوامی جمہوریہ چین .	
۱ ۲۶۳	* صین کلاں : منگول عہد میں کینٹن کی بندرگاہ کا عربی و فارسی نام .	
۲ ۲۸۹		

ض

۱ ۲۹۱	* ض : عربی حروف تہجی کا پندرہواں ، فارسی کا اٹھارہواں اور اردو کا اکتیسواں حرف .
۱ ۲۹۳	* ضابط : ترکیہ میں بعض کارکنوں اور افسروں ، بالخصوص فوجی افسروں کے لیے مستعمل لقب
۲ ۲۹۳	* ضیاب : رگ بہ عامر بن صعصعہ .
۲ ۲۹۳	* ضب : کاٹھے دار دم والی گوہ ، سو سمار

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۲۹۳		* قَبِيَّةُ بنِ اُدٍّ : بنِ طابِخَةَ بنِ الياسِ (خِندَف) بنِ مضرِ بنِ نزارِ بنِ مَعَدٍ ، اسی نام کے معروف عرب قبیلے کا ایک یطل اور اس کا مورث اعلیٰ .
۲ ۲۹۵		* الضَّبِّيُّ : ابو جعفر احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة ، ایک اندلسی فاضل اور مصنف بغية الملتس في تاريخ رجال اهل الاندلس (م ۵۹۹ھ/۳۰۳ء) .
۱ ۲۰۶		* الضَّبِّيُّ : ابو عكرمة ؛ رَكٌّ به المفضل .
۲ ۲۹۶		* ضَبَطَ : ایک مالیاتی اصطلاح ، بمعنی پیمائش کے ذریعے قابل لگان زمین کا محصول مقرر کرنا .
۱ ۲۹۶		* ضَبْطِيَّةٌ : عثمانی عہد کے اواخر میں پولیس اور ژاندرمہ کے لیے مستعمل ایک اصطلاح .
۲ ۲۹۶		⊗ الضَّعَاكُ " بنِ سفيان ؛ ابو سعيد ، سيفِ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم ، مشهور صحابی اور شہسوار (م ۱۱۱ھ/۶۳۲ء) .
۲ ۲۹۷		* الضَّعَاكُ بنِ ليسِ الشيبالي ؛ خارجيون کا قائد اور مروان ثانی کا حریف (م ۱۲۸ھ/۷۴۶ء) .
۲ ۲۹۷		* الضَّعَاكُ بنِ ليسِ الفهري ؛ ابو اليس (ابو عبدالرحمن) ، خلافت بنی امیہ کے اوائل عہد کی ایک اہم شخصیت (م ۶۸۳ھ/۸۶۳ء) .
۲ ۳۰۱		* ضَعِيٌّ : رَكٌّ به صَلْوَةٌ .
۲ ۳۰۱		⊗ الضَّعِيٌّ : قرآن مجید کی ترانویں سورۃ .
۲ ۳۰۲		* ضَيْدٌ : (۱) علم منطق کی ایک اصطلاح بمعنی معکوس یا تقيض .
۱ ۳۰۳		* ضَيْدٌ : (۲) علم فلسفہ کی ایک اصطلاح بمعنی مخالف اور مقابل .
۲ ۳۰۳		⊗ ضرارُ بنِ الازورِ الاسدي ؛ ایک صحابی رسولؐ اور قرون اولیٰ کی جنگوں کے نامور مجاہد (م ۱۱۱ھ/۶۳۳ء) .
۲ ۳۰۵		* ضرارُ بنِ الخطاب ؛ ابن مرداس الفهري ، مکے کا ایک شاعر ، جنگِ فجار [رگ باں] میں قبیلہ محارب بن فہر کا سردار (حیات ۱۲ھ/۶۳۳ء) .
۲ ۳۰۵		* ضَرْبٌ : رَكٌّ به (۱) دارالضرب ؛ (۲) سکہ .
۲ ۳۰۵		* ضَرْبٌ خَالِهٌ : رَكٌّ به دارالضرب .
۲ ۳۰۵		* ضِرْغَامٌ : ابو الاشبال الضرغام بن عامر بن سوار ، عہد بنی فاطمہ کا مشہور سپہ سالار اور ان کے آخری خلیفہ العاضد کا وزیر (۵۵۹ھ/۱۱۶۳ء) .
۱ ۳۰۹		* ضِرْوَةٌ : (احتیاج ، اضطراب) ، اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۱۱		* ضَرِيْبَةٌ : اسلامی حکومت میں محصولات شرعی کے علاوہ نافذ کیے گئے دیگر محصولات کے لیے ایک اصطلاح .
۱ ۳۵۳		* ضَرِيْبٌ : مصطفیٰ ، ایک نایابا ترکی مصنف اور شاعر (حیات ۱۳۹۲ھ/۱۳۹۳ء - ۱۳۹۳ھ) .
۱ ۳۵۳		* ضَرْبٌ : لُجْدٌ میں ایک گاؤں اور چشمہ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۵۳		* ضعیف : رگ بہ الجرح و التّعدیل .
۲ ۳۵۳		* ضعیف : جنوب مغربی عراق کا ایک معروف مالکی قبیلہ .
۱ ۳۵۵		* ضیمان : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی دیوانی ذمہ داری ، یا ہرجانہ وغیرہ .
۱ ۳۵۶		* ضیمان : محصولات کی اجارہ داری (استجارۃ) ؛ رگ بہ بیت المال .
۱ ۳۵۶		* ضمہ : رگ بہ حرکت (و سکون) .
۱ ۳۵۶		* ضمیر : رگ بہ نحو .
۱ ۳۵۶		* ضیا گوک الپ : رگ بہ گوک الپ ، ضیا .
۱ ۳۵۶		* ضیاء الدین ہرنی : رگ بہ ہرنی .
۱ ۳۵۶		* ضیالۃ : رگ بہ (۱) ضیف ؛ (۲) مہمان ؛ (۳) مسافر .
۱ ۳۵۶		* ضیعیۃ : ایک مالیاتی اصطلاح ، بمعنی جاگیر .
۲ ۳۵۶		* ضیف : عربی اصطلاح ، بمعنی مہمان .
۲ ۳۵۸		* ضیفہ خاتون : (صفیہ) بنت الملک العادل (۵۸۱-۵۸۲/۱۱۸۵-۱۱۸۶ء تا ۱۱۸۶ء تا ۱۱۸۷ء/۵۶۳ء
۲ ۳۵۸		۱۲۳۲ء) ، سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہتیجی اور بہو .

ط

۱ ۳۶۱	⊗ ط : عربی حروف تہجی کا سولہواں ، فارسی کا انیسواں اور اردو کا بتیسواں حرف .
۱ ۳۶۱	⊗ الطارق : قرآن مجید کی چھیاسویں سورۃ .
۲ ۳۶۲	⊗ طارق " بن زباد : بن عبداللہ ، مشہور اسلامی سپہ سالار ، ہسپانیہ کا فاتح اور پہلا ولی (از ۸۹۲ء/۸۹۳ء تا ۹۱۲ء/۹۱۳ء : ۹۱۰ء/۹۱۱ء) .
	* طاش کوہری زادہ : ایک گاؤں طاش کوہری سے منسوب، ترک علما کا ایک خاندان : (۱) مصطفیٰ بن خلیل الدین (۸۵۷ء/۸۵۳ء تا ۹۳۵ء/۹۲۸ء) ، سلطان سلیم کے اتالیق اور متعدد کتب فقہ کے شارح ؛ (۲) احمد بن مصطفیٰ بن خلیل، ابوالخیر عصام الدین (۹۰۱ء/۹۰۵ء تا ۹۶۸ء/۹۶۱ء) ، مشہور و معروف مؤرخ ، سوانح نویس ، مصنف الشقائق النعمانیۃ، وغیرہ ؛ (۳) کمال الدین محمد بن احمد ، ایک ترک مؤرخ ، قاضی عسکر ، مصنف تاریخ صاف یا تحفۃ الاصحاب، وغیرہ (حیات ۹۱۷ء) .

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۱ ۳۶۷	طالب آملی : (طالب)، مولانا محمد طالب، ایک خوش گو فارسی شاعر، دربار جہانگیر کا ملک الشعرا (م ۱۰۳۵/۱۶۲۵ء)؛	⊗
۲ ۳۶۹	طالقان : ایران کے دو شہر : (۱) بلخ اور مروالروذ کے مابین طخارستان میں ؛ (۲) قزوین اور ابہر کے درمیان دیلم میں .	*
۱ ۳۷۰	طالوت : قرآن مجید میں مذکور بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ (تورات میں شاؤل) .	⊗*
۲ ۳۷۳	طاؤسی : اصفہان کے آغا محمد کاظم تمباکو فروش، المعروف بہ طاؤس العرفاء (م ۱۲۹۳/۱۸۷۶ء) کے نام سے منسوب ایک فرقہ .	*
۱ ۳۷۸	طاہر : رگ بہ بابا طاہر .	*
۱ ۳۷۸	طاہر بن الحسین : (۱۵۹/۷۷۷ء تا ۲۰۷/۸۲۲ء)، خراسان میں خاندان طاہریہ کا بانی اور مشہور سپہ سالار .	*
۱ ۳۷۹	طاہر ہشتی : رگ بہ محمد طاہر ہشتی .	⊗
۱ ۳۷۹	(شیخ) طاہر الجزائری : بن صالح بن احمد بن مہوب بن ابی القاسم الجزائری (۱۲۶۸/۱۸۵۲ء تا ۱۳۳۸/۱۹۲۰ء)، ایک شامی لغت دان، ماہر السنۃ شرقیہ اور متعدد کتابوں کا مصنف .	⊗
۲ ۳۸۱	طاہر شاہ دکنی حسینی : احمد نگر کے سلطان برہان نظام شاہ کو فرقہ اثنا عشری میں داخل کرنے والا ایران کا ایک مذہبی عالم اور جدید تحقیق کی رو سے الموت کے اماموں کا وارث (م مابین ۱۵۲/۱۵۳۵ء و ۱۵۶/۱۵۳۹ء) .	*
۱ ۳۸۳	طاہر عمر : رگ بہ ظاہر العمر .	*
۱ ۳۸۳	طاہر وحید : محمد عماد الدولہ، قزوین کا ایک ایرانی شاعر (م ۱۱۱۰/۱۶۹۸ء - ۱۶۹۹ء) .	*
۱ ۳۸۳	طاہریہ : (آل طاہر)، خراسان کا ایک حکمران خاندان (از ۲۰۵/۸۲۱ء تا ۲۵۹/۸۷۳ء)؛ بانی : طاہر بن الحسین .	⊗
۲ ۳۹۳	الطالع لامرأته : عبدالکریم بن الفضل (۳۱۷/۹۲۹ء - ۳۹۳ء تا ۳۹۳/۱۰۰۳ء)، ایک عباسی خلیفہ (از ۳۶۳/۹۷۴ء تا ۳۸۱/۹۹۱ء) .	*
۲ ۳۹۳	طائف : مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق میں عرب کا ایک مشہور شہر اور صحت افزا مقام .	⊗
۱ ۳۹۷	طباشیر : مشرق میں ایک مقبول عام دوا .	*
۱ ۳۹۸	طب : رگ بہ علم (طب) .	*
۱ ۳۹۸	طبرستان : ایران کے صوبہ مازندران کا عربی نام .	*
۱ ۴۰۰	طبرقہ : (تبرکہ)، الجزائر کی سرحد سے دس میل مشرق میں تونس کا ایک ساحلی شہر .	*
	الطبری : (۱) ابو الطیب الطبری، طاہر بن عبد اللہ بن طاہر (م ۳۳۸/۹۵۹ء - ۳۶۰/۹۶۰ء تا	*

- ۲ ۳۰۰ مصنف المختصر فی الحدیث وغیرہ .
- * الطَّبْرِي : ابو جعفر محمد بن جریر (۵۲۲۳/۸۲۲ تا ۵۹۲۳/۸۳۱) مشہور مفسر و مؤرخ ، تاریخ الرسل و الملوك المعروف بہ تاریخ طبری کے مصنف .
- * طَبْرِيَه : (Tiberias) ، بحیرہ طبریہ (Sea of Galilee) کی مغربی جانب واقع ایک شہر .
- * طَبْس : ایران کے صوبہ خراسان میں ایک (بلکہ اصل میں دو) شہر .
- * طَبَقَات : کتاب اصناف .
- * طَبَل : ڈھول (drum) کی قسم کا ایک آلہ موسیقی .
- * طَبَل خَالِه : اسلامی ممالک میں فوجی باجے اور ان کے رکھے جانے والے مکان کے لیے ایک اصطلاح .
- * طَبْنَه : سراکش کا ایک قدیم اور آج کل معدوم شہر .
- * طَبُور : (طابور) ، مربع یا دائرے کی شکل میں گاڑیوں سے مورچہ بندی ، ایک ترکی فوجی اصطلاح .
- * الطَّحَاوِي : ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن عبدالملک الازدی الطحاوی (۵۲۳۹/۸۵۳ - ۸۵۳ تا ۵۳۲۱/۹۳۳) ، مصر کے ایک بڑے حنفی عالم ، فقیہ ، محدث اور معانی الآثار وغیرہ کے مصنف .
- * طَخَارِسْتَان : (تُخَارِسْتَان ، طَخِيرِسْتَان) ، آمودریا کی بالائی گزرگاہ پر واقع ایک ضلع .
- * طَرَابِيزُون : رگ بہ طربزون .
- * طَرَابِيس : اطرابلس ، ٹریپولی (Tripolis) ، جمہوریہ لیبیا کا دارالحکومت ، اہم بندرگاہ اور تاریخی شہر .
- * طَرَابِيسُ يَآ اَطْرَابِيسُ : (یونانی ٹیریپولس Tripolis) ، بحیرہ روم کے ساحل پر لبنان کا دوسرا بڑا شہر .
- * طَرَاز : (تلس کا عربی نام) ، وسط ایشیا کا ایک دریا اور اس پر واقع ایک شہر (شاید موجودہ اولیا اتا [رگ باں] کے قریب) .
- * طَرَاز : رگ بہ فن ، طراز .
- * طَرَاكُونَه : (طرکونہ Tarragona) ، ہسپانیہ میں بحیرہ روم کے ساحل پر ایک قصبہ اور اسی نام کے صوبے کا دارالحکومت .
- * طَرَب : رگ بہ فن (موسیقی) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۳۵		* طَرَبُزُون : (Trebizond)، بحیرہ اسود کے جنوب مشرقی گوشے میں پہاڑی ساحل پر واقع ایک شہر .
۱ ۳۳۹		* طَرَسُوس : ایشیائے کوچک اور شام کی سرحد پر ایک قدیم مشہور شہر اور پولوس کی جانے والی جگہ .
۲ ۳۵۱		* طَرَسُون بک : رگ بہ طُورسون بک .
۲ ۳۵۱		* طَرَسُون فقیہ : رگ بہ طُورسون فقیہ .
۲ ۳۵۱		* طَرَطُوس : (آنطَرَطُوس ، انطرسوس) ، شام کے ساحل پر جزیرہ ارادو (Arados) کے بالمقابل واقع ایک شہر .
۱ ۳۵۲		* طَرَطُوشہ : (Tortosa)، دریائے ابرہ (Ebro) کے بائیں کنارے پر ہسپانیہ کا ایک شہر .
۲ ۳۵۲		* الطَرَطُوشی : رگ بہ ابن ابی رندقہ .
۲ ۳۵۲		* طَرَفان : رگ بہ تورفان .
۲ ۳۵۲		* طَرَفہ بن عبد البکری : عہد جاہلیت کا ممتاز عرب شاعر اور سبغہ معلقہ کے طویل ترین قصیدے کا مصنف .
۱ ۳۵۶		* الطَرَمَاح بن حکیم الطائی : پہلی صدی ہجری کا مشہور صاحب دیوان عرب شاعر (م نواح ۵۱۲۵/۴۷۳۳) .
۱ ۳۵۷		* طَرِيف : ۱۰/۵۹۱ء میں ہسپانیہ کے ساحل پر اترنے والی فوج کا قائد اور موسیٰ بن نصیر کا متوسل (مولی) .
۱ ۳۵۸		* طَرِيف (جزیرہ) : (طریفہ) اندلس میں آبنائے جبل الطارق کے شمالی ساحل پر موسیٰ بن نصیر کے مولیٰ طریف کی طرف منسوب ایک چھوٹا سا شہر .
۱ ۳۵۸		* طَرِيقہ : راستہ ؛ اہل تصوف کی عملی رہنمائی کے لیے اخلاقی نفسیات کا ایک طریق ؛ مختلف سلاسل تصوف میں عام زندگی کے لیے روحانی تعلیم کا دستور العمل ؛ احکام اسلام کے علاوہ مخصوص آداب و قواعد پر مبنی معاشرہ .
۲ ۳۷۰		* طَسَم بن لاوز بن سام بن نوح : زمانہ قبل از تاریخ میں عربوں کا ایک افسانوی قبیلہ .
۱ ۳۷۰		* طَعَام : ایک اسلامی و قرآنی اصطلاح ، بمعنی کھانا، کھانے میں مباح امور کا خیال رکھنا .
۲ ۳۷۳		* طَغَا تيمور : رگ بہ تغا تیمور .
۲ ۳۷۳		* طُغْتِگین بن عبدالله : امین الدولہ ظہیر الدین ابو منصور ، دمشق کے حکمران خاندان بوری کا بانی ، ایک قابل اور عاقل فرمانروا (از ۱۱۰۳ء تا ۱۱۱۰ء) .
۲ ۳۷۳		* طُغْرِي : (طغرا) اوغوز کی رمزیہ تحریر یا خوش خط نشان (بعد ازاں سلجوقی اور عثمانی فرمانرواؤں کا اختیار کردہ) .
۲ ۳۷۵		* طُغْرَا : ملا طغرا مشہدی ، جہانگیر کے عہد میں ہندوستان میں وارد ہونے والا ایک

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۲ ۳۸۵	ایرانی ادیب ، شاعر اور مصنف رسالہ مرآة الفتوح (م قبل از ۱۱۳۰ھ/۱۷۱۷ء - ۱۷۱۸ء) .	* الطُّغْرَائِي : مؤيد الدين فخرالكتاب ابو اسماعيل الحسين بن علي ، ایک مشہور عربی شاعر، صاحب لامیة العجم (م ۱۱۲۱/۵۱۵ھ - ۱۱۲۲ء) .
۱ ۳۸۷		* طُغْرِي (اول) : بن محمد ، عراق کا ایک سلجوق بادشاہ (از ۱۱۳۲ھ/۱۷۲۹ء تا ۱۱۳۳ء) .
۱ ۳۸۹		* طُغْرِي (ثانی) : بن ارسلان ، عراق کا آخری سلجوق سلطان (از ۱۱۷۵ھ/۱۷۷۵ء تا ۱۱۹۳ھ/۱۷۹۰ء) .
۱ ۳۹۰		* طُغْرِي بِيگ : رکن الدين ابو طالب محمد بن ميکائيل ، پہلا سلجوق سلطان (از ۱۱۲۹ھ/۱۷۲۹ء تا ۱۱۳۵ھ/۱۷۳۳ء) .
۱ ۳۹۱		* طُغْرِي شاه : مغیث الدين طغرل شاه بن قلیچ ارسلان ، ایشیائے کوچک کا ایک سلجوق حکمران (از ۱۲۰۰ھ/۱۷۹۷ء - ۱۲۰۱ء تا ۱۲۲۵ھ/۱۸۱۲ء) .
۱ ۳۹۳		* الطَّنْف : کوفے کے مغرب میں دریائے فرات کے کنارے کے سیلابی میدان میں واقع ایک صحرائی علاقہ .
۱ ۳۹۵		* طفلی : احمد چلبی ، سترھویں صدی عیسوی کا ایک ترکی شاعر اور قصیدہ گو (۱۶۶۰ھ/۱۷۶۰ء - ۱۶۶۱ء) .
۲ ۳۹۵		* طفیای : عربی ، فارسی اور ترکی زبانوں میں مفت خورے کے لیے مستعمل اصطلاح .
۱ ۳۹۷		* طَّلَاع بن رزیک : الملک الصالح ، ایک فاطمی وزیر (۱۱۰۲ھ/۱۷۹۵ء تا ۱۱۵۶ھ/۱۷۵۶ء) .
۱ ۳۹۸		* طَّلَاق : ایک معروف قانونی و فقہی اصطلاح ، بمعنی خاوند کا اپنی بیوی کو نکاح سے آزاد کر دینا .
۱ ۳۹۹		* طَّلَاق : قرآن مجید کی پینسٹھویں سورہ .
۲ ۵۲۶		* طَلْبِيرَة : (Talavera) ، ہسپانیہ میں متعدد مقامات .
۲ ۵۲۷		* طَلْحَة بن عبیداللہ : عشرہ مبشرہ میں شامل ، صاحب ثروت و سخاوت اور ناسور صحابی (م ۱۱۳۶ھ/۷۳۶ء) .
۱ ۵۲۸		* طَلْسَم : (طَلْسَم) ، علم نجوم و جوتش اور جادو وغیرہ کی علامات و نقوش پر مشتمل کتبہ وغیرہ .
۲ ۵۳۰		* طَلْمَنَكَة : رگ بہ شلمنکہ .
۱ ۵۳۱		* طَلِيحَة بن خويلد : بن نوفل الاسدی ، ایک قبائلی شیخ ، جھوٹا مدعی نبوت اور بعد از قبول اسلام ایک بہادر مجاہد (م ۱۱۲۱ھ/۷۲۱ء) .
۱ ۵۳۱		* طَلِيطَاہ : (Toledo) ، میڈرڈ سے ساٹھ میل جنوب مشرق میں ہسپانیہ کا ایک قدیم شہر .
۲ ۵۳۲		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۵۳۸		* الطَّلِيْطِيُّ : ابو القاسم سعيد بن احمد الاندلسي، المعروف به قاضي سعيد (۵۴۲/۱۰۲۹ء تا ۵۶۲/۱۰۷۰ء)، فقه، تاريخ، رياضی اور علم نجوم کے ماہر، مصنف طبقات الامم وغيره .
۱ ۵۴۰		* طَنْبُور : ایک آلہ موسیقی .
۱ ۵۴۳		* طَنْجَه : (Tangier)، آبنائے جبل الطارق پر واقع مراکش کا ایک شہر .
۱ ۵۴۹		* طَنْظَا : مصر کے صوبہ غریہ کا صدر مقام .
۱ ۵۵۰		⊗ طَنْظَاوِي (شيخ) : بن جوهرى المصرى، الاستاذ الحكيم، الفيلسوف الاسلامى (ولادت ۵۱۲۸۷/۱۸۷۰ء)، مصر کے ایک ممتاز عالم، فلسفی اور مفسر قرآن مجید، مصنف الجواهر فى تفسير القرآن الكريم .
۲ ۵۵۱		* الطَنْظَاوِي : محمد عياد (۵۱۲۲۵/۱۸۱۰ء تا ۵۱۲۷۸/۱۸۶۱ء)، ایک عرب عالم اور مصنف، سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر .
۱ ۵۵۳		* طَوَاشِي : ترکی اور مصری زبانوں میں خواجہ سرا کے لیے ایک اصطلاح،
۱ ۵۵۴		⊗ طَوَاف : حج و عمرہ کا ایک رکن؛ اصطلاحاً بیت اللہ شریف کے گرد مخصوص طریقے سے سات چکر لگانا اور دعا مانگنا .
۱ ۵۵۷		* طُوْهَالِ عَثْمَانِ هَاشِمِي : (۵۱۱۰۴/۱۶۹۲ء تا ۵۱۱۴۶/۱۷۳۳ء)، ترکیہ کا ایک صدر اعظم .
۱ ۵۵۸		* طُوْهَالِ عَثْمَانِ هَاشِمِي : (شريف)، (۵۱۲۱۹/۱۸۰۴ء تا ۵۱۲۹۲/۱۸۷۳ء)، مملکت عثمانیہ کا نائب امیر البحر اور بوسنہ کا کامیاب والی .
۱ ۵۶۰		⊗ الطُّورُ : قرآن مجید کی باونویں سورۃ .
۲ ۵۶۱		* الطُّورُ : قرآن مجید میں مذکور ایک پہاڑ، حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہونے کی جگہ؛ نیز متعدد مقامات کا نام .
۱ ۵۶۵		* طُورَان : (طواران)، بلوچستان (پاکستان) کا ایک پرانا ضلع .
۲ ۵۶۶		* طُورِ خَانِ بِيْگ : رگ بہ ترخان بیگ .
۲ ۵۶۶		* طُورِ سُونِ بِيْگ : المتخلص به لبیبی، ایک عثمانی مؤرخ، مصنف تاریخ ابوالفتح (تصنيف ۵۹۰۳/۱۳۹۷ء تا ۵۹۰۵/۱۵۰۰ء) .
۱ ۵۶۷		* طُورِ سُونِ فُقِيْه : ایک عثمانی فقیہ اور سلطان عثمان غازی کا ہم زلف (م ۵۷۲۶/۱۳۲۶ء) .
۱ ۵۶۷		* طُورِ عِبْدِيْن : شمالی عراق عرب میں ایک پہاڑی سطح مرتفع .
۱ ۵۷۰		* طُورِ غُوْد : سلطان عثمان اول کا مصاحب اور سپہ سالار (حیات ۵۷۲۶/۱۳۲۶ء) .
۲ ۵۷۰		* طُورِ غُوْد : ایشیائے کوچک کا ایک ترکی قبیلہ .
۲ ۵۷۰		* طُورِ غُوْدَلِي : طور غود کا وطن، ایشیائے کوچک کا ایک علاقہ .
۱ ۵۷۱		* طُوس : خراسان کا ایک ضلع .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۷۲		* طُوسان : مروالشاہجان سے دوفرسخ کے فاصلے پر ایک گاؤں .
۲ ۵۷۳		* طُوسقہ : رگ بہ آرنادلق .
۲ ۵۷۳		* الطوسی : الشیخ محمد بن الحسن بن علی ابو جعفر (۵۳۸۵/۵۹۹۵ تا ۵۳۶۰/۶۱۰۶۷)، ایک شیعہ مجتہد ، عالم ، فلسفی اور متعدد شیعہ کتب علم کلام و فقہ کا مصنف .
۲ ۵۷۳		* الطوسی : نصیرالدین ابو جعفر محمد بن محمد بن الحسن (۵۵۹۷/۱۲۰۱ تا ۵۶۷۲/۱۲۷۳) ، ایک منجم ، مؤرخ ، شیعہ سیاستدان ، ہلاکو کا معتمد وزیر اور چند کتابوں کا مصنف .
۲ ۵۷۳		* طُوطی نامہ : رگ بہ نخشبی ، ضیاء الدین شیخ .
۲ ۵۷۷		* طُوغ : یاک یا گھوڑے کی دم ، سلطنت عثمانیہ میں ایک فوجی و عسکری نشان .
۲ ۵۷۷		* طوغانجی : ایک ترکی اصطلاح ، بمعنی باز کا شکاری ، نیز بازدار .
۱ ۵۷۸		* طُوفان : رگ بہ نوح .
۱ ۵۸۰		* طولمہ باغچہ : رگ بہ استانبول .
۱ ۵۸۰		* طُولون (بنو) : مصر کا ایک خود مختار حکمران خاندان (از ۵۲۵۳/۸۶۸ تا ۵۸۳
۱ ۵۸۳		۵۲۹۲/۵۹۰۵)؛ بانی : احمد طولون .
۱ ۵۸۳		* طولومبہ جی : (تولومبہ جی)، آگ بجھانے والا رضاکار، استعارہً غیر مہذب شخص .
۱ ۵۸۳		* طومان ہای ثانی : الملک الاشرف (بن قانصوہ الغوری) ، مصر کا آخری مملوک سلطان (از ۵۹۲۲/۱۵۱۶ تا ۵۹۲۳/۱۵۱۷) .
۱ ۵۹۱		* طُویس : ابو عبدالمنعم عیسیٰ بن عبداللہ الذائب ، پہلی صدی ہجری کا ایک مغنی .
۲ ۵۹۳		* طویل : علم عروض کی ایک بحر .
۲ ۵۹۳		* طویلہ : جنوبی عرب کا ایک سکھ ؛ رگ بہ لاری .
۱ ۵۹۶		* طویلہ : جنوبی عرب کا ایک شہر .
۱ ۵۹۶		* طہ : قرآن مجید کی بیسویں سورۃ .
۲ ۵۹۶		* طہ حسین : (ولادت ۱۸۸۹ء) عالم عرب کے ممتاز اور نامور نابینا ادیب ، نقاد ، الشاپرداز ، متعدد ادبی و تنقیدی کتب مثلاً فی الشعر الجاہلی کے مصنف اور مصر کے وزیر تعلیم .
۱ ۵۹۸		* طہارت : ایک اسلامی اصطلاح بمعنی پاکیزگی ؛ کسی چیز سے نجاست کا دور ہو جانا .
۲ ۶۰۲		* طہران : رگ بہ تہران .
۲ ۶۰۸		* طہماسپ اول : شاہ اسماعیل کا بڑا بیٹا اور ایران کے صفوی خاندان کا دوسرا حکمران (از ۵۹۳۰/۱۵۲۳ تا ۵۹۸۳/۱۵۷۶) .
۲ ۶۰۸		* طہماسپ ثانی : ایران کا دسواں صفوی بادشاہ (از ۵۱۱۳۵/۱۷۲۲ تا ۵۱۱۳۳/۱۷۲۱) .
۲ ۶۰۹		* طہماسپ اول : شاہ اسماعیل کا بڑا بیٹا اور ایران کے صفوی خاندان کا دوسرا حکمران (از ۵۹۳۰/۱۵۲۳ تا ۵۹۸۳/۱۵۷۶) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۶ ۶۱۰		* طہمان بن عمرو الکلابی : عہد بنی امیہ کا ایک صاحب دیوان عرب شاعر .
۱ ۶۱۲		* طہمورت : ایران کے ہاستانی دور میں پیشدادی خالدان کا دوسرا فرمانروا .
۲ ۶۱۶		* الطیالسی : رگ بہ ابوداؤد الطیالسی .
۲ ۶۱۶		* طیبہ : رگ بہ المدینۃ المنورۃ .
۲ ۶۱۶		* الطیر : رگ بہ علم (نجوم) .
۲ ۶۱۶		* طی : قدیم عرب کا ایک یمنی الاصل قبیلہ .

ظ

۱ ۶۱۹	ظ : عربی ہجاء کا سترہواں، فارسی کا بیسواں اور ترکی کا تیسواں اور اردو کا تینتیسواں حرف .	⊗
۱ ۶۲۰	* الظاہر : رگ بہ بنو فاطمہ .	*
۱ ۶۲۰	* الظاہر : رگ بہ (۱) الباطن ؛ (۲) الاسماء الحسنیٰ .	*
۱ ۶۲۰	* الظاہر : رگ بہ (۱) بیبرس الاول ؛ (۲) برقوق ؛ (۳) بنو فاطمہ ،	*
۱ ۶۲۰	* الظاہر العمر : شام کے ایک بدوی قبیلے بنو زیدان کے شیخ عمر کا بیٹا اور ایک ربع صدی تک باب عالی کے اقتدار سے ٹکر لینے والا ایک بدوی سردار (م ۱۷۷۵ء) .	*
۱ ۶۲۱	* الظاہر بامر اللہ : ابو نصر محمد بن الناصر ، ایک عباسی خلیفہ (از ۶۲۲/۱۲۲۵ء تا ۶۲۳/۱۲۲۶ء) .	*
۱ ۶۲۲	* الظاہر غازی (الملك) : (۵۶۸/۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۶۱۳/۱۲۱۵ء) ، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دوسرا بیٹا ، حلب کا والی .	*
۱ ۶۲۲	* الظاہریہ : الفاظ قرآن اور سنت کے ظاہری معانی سے احکام کا استخراج کرنے والا ایک دبستان فقہ .	*
۲ ۶۲۵	* ظرافت : رگ بہ مزاح و ظرافت .	⊗
۲ ۶۲۵	* ظفار : (۱) جنوبی یمن میں حمیری سلطنت کا دارالحکومت اور آجکل کھنڈروں کا مجموعہ؛ (۲) ص ۵ کے جنوب مغرب میں ایک ویران جگہ ؛ (۳) صنعاء کے جنوب مغرب میں ایک پہاڑی ؛ (۴) عرب کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ایک قدیم (اب ویران) شہر .	*
۲ ۶۲۸	* ظہران : (الظهران)، سعودی عرب کے صوبے الحساء میں خلیج فارس پر ایک بندرگاہ .	⊗
	* ظہوری کرشمیزی : مولانا نور الدین محمد (نواح ۹۴۴/۱۵۳۷ء تا ماہین ۱۰۲۴/۱۵۱۰ء)	⊗

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۶۲۹	۴۱۶۱۶ و ۴۱۰۲۶/۴۱۶۱۷) ، ایک مشہور فارسی صاحب دیوان شاعر اور مصنف سہ نثر ظہوری وغیرہ .	
۲ ۶۳۲	* ظہیر الدین (سید) : سرعشی (ولادت ۵۸۲۵/۴۱۳۱۲) ، ایک ایرانی مدبر اور مؤرخ (حیات ۵۸۶۸/۴۱۳۶۳) .	
۱ ۶۳۳	*⊗ ظہیر فاریابی : ابو الفضل طاہر بن محمد ظہیر الدین فاریابی ، مشہور ایرانی قصیدہ گو (م ۵۵۹۸/۴۱۲۰۱) .	

ع

۱ ۶۳۷	⊗ ع : عربی حروف تہجی کا اٹھارہواں ، فارسی کا اکیسواں اور اردو کا چونتیسواں حرف .	
۲ ۶۳۸	* عاتکہؓ : ایک صحابیہ ، یکے از سابقین اسلام ، حضرت عمر فاروقؓ اور ان کی شہادت کے بعد حضرت زبیرؓ بن العوام کی اہلیہ (حیات ۵۳۶/۴۶۵۷) .	
۱ ۶۳۹	* عاج : ہاتھی دانت اور اس کی مصنوعات .	
۲ ۶۴۷	*⊗ عاد : (قوم ہود) ، قرآن مجید میں مذکور ایک قدیم قبیلہ .	
۲ ۶۵۰	* عادۃ : رگ بہ (۱) شریعت (شرع) ؛ (۲) قانون (اسلامی) .	
۲ ۶۵۰	* عادل : رگ بہ عدل .	
۲ ۶۵۰	* العادل : دو ایوبی بادشاہوں کا لقب : (۱) الملک العادل ابوبکر محمد بن ایوب (ولادت ۵۴۰/۴۱۱۳۵ یا ۵۳۸/۴۱۱۳۳) ، سلطان صلاح الدین کا بھائی ، مددگار ، روحانی وارث اور سلطان مصر و شام (از ۵۹۶/۴۱۲۰۰ تا ۶۱۵/۴۱۲۱۸) ؛ (۲) الملک العادل ثانی ابوبکر سیف الدین بن الملک الكامل (رگ بآن) ، الملک العادل اول کا پوتا اور مصر کی حکومت پر الكامل کا جانشین (از ۶۳۵/۴۱۲۳۸ تا ۶۳۷/۴۱۲۳۰ : م ۶۳۵/۴۱۲۳۸) .	
۲ ۶۴۳	* العادل بن السلار ابوالحسن علی : ارتقی خاندان کے ایک سردار کا بیٹا اور فاطمی وزیر (حیات ۵۳۶/۴۱۱۵۱) .	
۱ ۶۵۳	* عادل شاہیہ : اسلامی دور میں بیجا پور (ہند) پر حکمرانی کرنے والا خاندان (از ۵۸۹۵/۴۱۳۸۹ تا ۶۸۶/۴۱۰۹۷) .	
۲ ۶۵۵	* عادلہ خاتون : بغداد کے عثمانی والی سلیمان پاشا مرزاقلی کی باثر بیوی (حیات ۵۱۱۷۸/۴۱۷۶۳) .	

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۶۵۶		⊗ العَدْبِيَت : قرآن مجید کی سوویں سورت .
۱ ۶۵۷		* العارض : نجد کا وسطی ضلع .
۱ ۶۵۸		* عارف حکمت ہے : (۱۲۰۱/۵۱۲۸۶ تا ۱۸۵۹/۵۱۲۷۵) ، عربی ، فارسی اور ترکی کا ایک شاعر اور شیخ الاسلام ، مصنف تذکرۃ شعراء وغیرہ .
۱ ۶۶۶		* عارفی پاشا : (۱۲۳۶/۵۱۸۳ تا ۱۸۹۵/۵۱۳۱۳) ، ایک ترک سیاستدان اور ترکیہ کا وزیر خارجہ .
۲ ۶۶۶		* العارة : یمن کے جنوبی ساحل پر ایک مقام .
۲ ۶۶۷		* عاریہ : ایک تقبی اصطلاح ، بمعنی دوسروں سے مانگی ہوئی یا استعار چیز .
۲ ۶۶۷		* عاشق : کسی سے شدید محبت کرنے والا ؛ عموماً ایک اصطلاح تصوف .
۱ ۶۶۸		* عاشق پاشا : علاء الدین علی (۱۲۷۲/۵۶۷ تا ۱۲۳۳/۵۷۳) ، ایک ترکی شاعر اور صوفی ، مصنف غریب نامہ وغیرہ .
۲ ۶۶۹		* عاشق پاشا زادہ : (۱۸۰۳/۵۱۳۰ تا نواح ۱۸۸۹/۵۱۳۸۳) ، عاشق پاشا شاعر کا پرپوتا ، عثمانی عہد کا ایک قدیم مؤرخ ، مصنف تواریخ آل عثمان .
۱ ۶۷۰		* عاشق چلبی : پیر محمد بن علی بن زین العابدین بن محمد لطاع (ولادت ۱۵۲۰/۵۹۲۶) ؛ حیات ۱۵۶۳/۵۹۷۲) ، ایک ترک ادیب اور شاعر ، مصنف مشاعر الشعراء وغیرہ .
۲ ۶۷۱		* عاشق ، محمد بن عثمان بن ہایزید : (ولادت ۱۵۵۵/۵۹۶۳ ؛ حیات ۱۵۹۸/۵۱۰۶) ، ایک ترک جغرافیہ نویس ، مصنف مناظر العوالم .
۲ ۶۷۲		⊗ عاشوراء : اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی دسویں تاریخ ؛ یوم شہادت حضرت امام حسینؑ .
۱ ۶۷۶		* عاصم : ابوبکر عاصم بن بہدلہ ابی النجود الاسدی ، یکے از قراء سبعہ ، روایت حفص کے راوی حفص بن سلیمان کے استاد (م ۱۲۷ - ۱۲۸/۵۷۳۵) .
۱ ۶۷۷		* عاصم : احمد ، سلطنت عثمانیہ کا ایک شاہی وقائع نویس اور متعدد کتب کا مترجم (م ۱۸۱۹/۵۳۲۱) .
۱ ۶۷۸		* عاصم الندی اسمعیل : رگ بہ چلبی زادہ .
۱ ۶۷۸		* العاصی : (Orontes) ، شمالی شام کا اہم ترین دریا .
۲ ۶۷۸		* العاصد لدین اللہ : ابو محمد عبداللہ بن یوسف ، مصر کا گیارہواں اور آخری فاطمی خلیفہ (۵۵۵/۱۱۶۰ تا ۵۶۷/۱۱۷۱) .
۱ ۶۸۱		* عائل : رگ بہ بالغ .
۱ ۶۸۱		* عائلہ : رگ بہ فرائض .
۲ ۶۸۱		* عالم : ایک فلسفیانہ اور قرآنی اصطلاح ، بمعنی جہان ، قوم ، لوگ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۶۸۸		* عالم : رگ بہ علماء .
۱ ۶۸۸		⊗ عالمگیر : رگ بہ محی الدین اورنگ زیب .
۱ ۶۸۸		* عالمیہ : عالم و ماہر عورت ؛ مصر کی مغنیات کا ایک طبقہ .
۱ ۶۸۸		* عالی افندی : رگ بہ عالی مصطفیٰ بن احمد .
۱ ۶۸۸		* عالی پاشا محمد امین : (۱۸۱۵ تا ۱۸۷۱ء) ، ایک عثمانی صدر اعظم .
۱ ۶۸۸		* عالی مصطفیٰ بن احمد : بن عبدالمولیٰ چلبی (۵۹۳۸/۹۵۴ تا ۵۱۰۰/۱۶۰۰ء) ،
۲ ۶۹۱		ترکی زبان کا ممتاز ادیب اور شاعر ، مصنف مہر و ماہ وغیرہ .
۱ ۶۹۳		* عامر (پنو) : رگ بہ بنو عامر .
۱ ۶۹۳		* عامر اول : (الملك الظافر صلاح الدين) ، یمن میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر خاندان بنو ظاہر کا بانی اور فرمانروا (از ۵۸۵/۱۳۴۶ء تا ۵۸۷/۱۳۶۶ء) .
۱ ۶۹۳		* عامر ثانی : الملك الظافر صلاح الدين بن عبدالوہاب ، خاندان بنو ظاہر کا آخری حکمران (از ۵۸۹۳/۱۳۸۸ء تا ۵۹۲۳/۱۵۱۷ء) .
۲ ۶۹۳		* العامر : جنوبی عرب کا ایک قبیلہ ، رگ بہ جمعدہ .
۲ ۶۹۳		⊗ * عامر بن صعصعہ : وسط عرب میں مغربی قبائل کا بڑا گروہ .
۲ ۶۹۳		⊗ * عامر بن الطفیل : زمانہ جاہلیت کا عرب شہسوار ، شاعر اور بثر معونہ میں صحابہؓ کی ایک جماعت کا سفاک قاتل (م ۵۱۰/۶۳۲ء) .
۱ ۶۹۷		* عامر بن عبدالقیس : عبداللہ العنبری ، بصرے کے ایک زاہد تابعی (م بعہد امیر معاویہؓ) .
۲ ۶۹۹		* عامری : بلاد بنو عامر .
۱ ۷۰۰		* العامری : رگ بہ ابو الحسن العامری .
۲ ۷۰۰		* عامریہ : منصور بن ابی عامر [رگ باں] کی اولاد اور موالی .
۲ ۷۰۰		* عامیل : کارکن ، اصطلاحاً محصل ، والی صوبہ .
۱ ۷۰۱		* عامل : ایک نحوی اصطلاح ، بمعنی عربی کلام کے الفاظ کی آخری حرکت پر اثر انداز ہونے والے اسباب یا مؤثرات .
۲ ۷۰۳		* عامیلہ : شمالی مغربی عربستان کا ایک قدیم قبیلہ .
۲ ۷۰۳		* العاملی ، الحر : رگ بہ الحر العاملی .
۲ ۷۰۵		* العاملی : محمد بن حسین بہاء الدین المتخلص بہ بہائی (۵۹۵۳/۱۵۴۷ء تا ۵۱۰۳/۱۶۲۱ء) ، فارسی شاعر اور متعدد عربی و فارسی کتب کا مصنف .
۲ ۷۰۵		* عاللیہ : عانان بن داود (نواح ۷۷۰ء) کے پیرووں پر مشتمل یہودیوں کا ایک فرقہ .
۱ ۷۰۶		* عانہ : (عانات، عنہ) ، دریائے فرات کے دائیں کنارے پر عراق جدید کا ایک قصبہ .
۱ ۷۰۷		⊗ عائشہ بنت ابی بکرؓ ، ام المؤمنین : حضرت عائشہ صدیقہؓ ، حضرت ابو بکرؓ کی دختر، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۷۰۷		زوجہ ، دو ہزار سے زائد روایات کی راویہ اور صحابیات میں نہایت عالمہ و فاضلہ خاتون (م ۵۵۸/۷۰۷) .
۲ ۷۱۳		عائشہ بنت طلحہ : حضرت طلحہؓ بن عبد اللہ کی صاحبزادی ، حضرت ابوبکرؓ کی نواسی ، اور عرب کی ایک نامور اور با اثر خاتون .
۲ ۷۱۳		عائشہ بنت یوسف : رگ بہ الباعونی .
۱ ۷۱۳		* عائشہ المنویہ : عائشہ بنت عمران بن الحجاج سلیمان المعروف بہ السیدۃ ، تونس کی ایک پاکباز زائدہ (م ۵۶۵۵/۷۱۳ یا ۵۶۵۳/۷۱۳) .
۲ ۷۱۵		* عائلہ : خاندان ، عیال یا اہل خانہ ،
۱ ۷۱۸		* عباہ : (کساء) ، رگ بہ اہل البیت .
۱ ۷۱۸		* عبّادۃ : باجہ (Bedja) کا ایک عربی زبان بولنے والا قبیلہ .
۲ ۷۱۸		* عبادات : ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی اللہ تعالیٰ کی پرستش ، اس سے دعا کرنا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری .
۱ ۷۲۱		* عبادت : رگ بہ عبادات .
۱ ۷۲۱		* عباد (بنو) : جنوب مغربی اندلس (دارالحکومت : اشبیلیہ) کا ایک عربی النسل حکمران خاندان (۵۳۱۳/۷۲۱ تا ۵۱۰۲۳/۷۲۱) ؛ بانی : ابو القاسم محمد بن اسماعیل بن عباد .
۱ ۷۲۶		* عبّاد بن زیاد : بن ابی سفیان ، ایک اموی سالار عسکر ، فاتح قندھار ، والی سجستان (حیات ۵۶۳/۷۲۶) .
۱ ۷۲۶		* عباد بن سلیمان الصیمری : (یا الصیمری) بصرے کا ایک نامور معتزلی عالم (م ۵۲۵/۷۲۶) .
۱ ۷۲۷		* عبّاد بن محمد : رگ بہ عباد ، بنو .
۱ ۷۱۷		* عبّادان (آبادان) : شط العرب کے بائیں کنارے پر اسی نام کے ایک جزیرے میں واقع ایک شہر .
۲ ۷۲۷		* العبّادی : ابو عاصم محمد بن احمد بن محمد بن عبد اللہ بن عباد المعروف بن القاضی الہروی (۵۳۷۵/۷۲۷ تا ۶۹۸۵/۷۲۷) ، ایک مشہور شافعی فقیہ ، ہرات کے قاضی اور متعدد کتابوں کے مصنف .
۱ ۷۲۸		* عبّاس اول : عباس مرزا الملقب بہ اعظم ، ایران کے صفوی خاندان کے بادشاہ محمد خدا بندہ کا دوسرا بیٹا اور اس کا جانشین (از ۱۵۸۷/۷۲۸ تا ۱۶۲۹/۷۲۸) .
۱ ۷۳۱		* عبّاس ثانی : رگ بہ صفویہ .
		* عبّاس بن ابی الفتوح : یحییٰ بن تمیم بن معز بن بادیس الصنهاجی ، ۵۰۹/۷۳۱ تا

- ۱ ۷۳۱ والا ایک فاطمی وزیر ، شمالی افریقہ کے بنو زیری سے تعلق رکھنے والا ایک فاطمی وزیر .
- * عباس بن فراس : وردوس ، ابو القاسم ، اندلس کا ایک شاعر اور نحوی (م ۵۲۷۳/۵۲۷۳) . (۷۸۸۷)
- ۲ ۷۳۲ * عباس بن ناصح الثقفی : ابو العلاء ، ایک اندلسی شاعر اور امیر الحکم اول کا معتمد خاص (م حدود ۵۲۳۸/۵۲۳۸) . (۷۸۵۲)
- ۲ ۷۳۳ * عباس (بنو) : رگ بہ عباسیہ .
- ۱ ۷۳۴ * العباس بن الاحنف : رگ بہ ابن الاحنف (نیز دیکھیے رگ لائڈن، بار دوم، بذیل العباس بن الاحنف) .
- ۱ ۷۳۴ * العباس بن الحسين الشیرازی : ابو الفضل ؛ معز الدولہ بویہی اور اس کے جانشین عزالدولہ بختیار کا وزیر (حیات ۵۳۶۲/۵۳۶۲) . (۷۹۷۳)
- * العباس بن عبدالمطلب : ابو الفضل ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ، ایک جلیل القدر صحابی اور خلفائے بنو عباس کے جد امجد (م ۵۳۲/۵۳۲) . (۷۶۵۳)
- ۲ ۷۳۴ * العباس بن عمرو الغنوی : خلفائے عباسیہ کا مشہور سپہ سالار اور عامل (۵۳۰۵/۵۳۰۵) . (۷۹۱۷)
- * العباس بن المأمون : مشہور عباسی خلیفہ المأمون کا بیٹا اور المعتصم کے عہد میں مدعی خلافت (م ۵۲۲۳/۵۲۲۳) . (۷۸۳۸)
- ۲ ۷۳۶ * العباس بن محمد : بن علی بن عبداللہ ، عباسی خلفا السفاح اور المنصور کا بھائی اور بوزنظیوں کے خلاف مہمات کا نامور سالار (۵۱۸۶/۵۱۸۶) . (۷۸۰۲)
- ۱ ۷۳۷ * العباس بن مرداس : بن ابی عامر بن حارثہ بن عبد قیس السلمی ، ایک عرب شاعر اور صغیر صحابی (م بعہد حضرت عمر فاروقؓ [۱۳ تا ۵۲۳]) . (۷۳۷)
- ۲ ۷۳۸ * العباس بن الولید : خلیفہ الولید اول کا بیٹا اور ایک اموی سپہ سالار (م ۵۱۳۲/۵۱۳۲) . (۷۷۵۰)
- * عباس آباد : ایران میں متعدد مقامات کا نام .
- ۲ ۷۳۹ * عباس الندی : رگ بہ بہاء اللہ .
- ۱ ۷۴۰ * عباس حلمی اول : خدیو مصر (از ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۳) . (۷۱۸۵۳)
- ۱ ۷۴۰ * عباس حلمی ثانی : خدیو مصر (از ۱۸۹۲ تا ۱۹۱۳) . (۷۱۹۱۳)
- ۱ ۷۴۱ * عباس میرزا : (۱۲۰۳/۱۲۰۳ تا ۱۲۳۹/۱۲۳۹) ، ایران کے قاچاری بادشاہ فتح علی شاہ کا بیٹا اور ولی عہد .
- ۱ ۷۴۲ * عباسیہ : عباسہ بنت احمد بن طولون کے نام سے موسوم مصر کا ایک قصبہ .
- ۲ ۷۴۲ * عباسیہ : خلیفہ ہارون الرشید کی بہن ، ایک معروف عباسی خاتون .
- ۲ ۷۴۳ * عباس (بنو) : رگ بہ عباسیہ .
- ۲ ۷۴۴

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۷۳۳	(۱) خلیفے بغداد کا خاندان	* عَبَّاسِيَّة : (بنو العباس) ، حضرت عباسؓ کی اولاد میں (۱) خلیفے بغداد کا خاندان
۱ ۷۶۷	(۲) برائے نام خلیفے مصر کا خاندان	(از ۶۵۰/۸۱۳۲ تا ۶۵۶/۸۱۳۵۸) ؛ (۲) برائے نام خلیفے مصر کا خاندان
۱ ۷۶۸	(از ۶۵۹/۸۱۲۶۱ تا ۶۹۲۳/۸۱۵۱۷) .	(از ۶۵۹/۸۱۲۶۱ تا ۶۹۲۳/۸۱۵۱۷) .
۲ ۷۶۸	آلِ عَبَّاسِيَّة : قیروان سے تین میل دور تونس کا ایک قدیم شہر .	* آلِ عَبَّاسِيَّة : قیروان سے تین میل دور تونس کا ایک قدیم شہر .
۲ ۷۶۸	عَبْدٌ : ایک عام عربی اصطلاح ، بمعنی غلام ، بندہ ، نیز ایک روحانی مرتبہ کمال .	* عَبْدٌ : ایک عام عربی اصطلاح ، بمعنی غلام ، بندہ ، نیز ایک روحانی مرتبہ کمال .
۲ ۷۶۸	عبدالله بن اباض : رگ بہ اباضیہ .	* عبدالله بن اباض : رگ بہ اباضیہ .
۲ ۷۶۸	عبدالله بن ابراہیم : رگ بہ اغالبہ .	* عبدالله بن ابراہیم : رگ بہ اغالبہ .
۲ ۷۶۸	عبدالله (محمد) : بن ابراہیم الثانی بن احمد ، ابو العباس ؛ رگ بہ اغالبہ .	* عبدالله (محمد) : بن ابراہیم الثانی بن احمد ، ابو العباس ؛ رگ بہ اغالبہ .
۱ ۷۶۹	عبدالله بن ابی اسحاق : الحضرمی ، بصرے کا ایک نحوی اور قاری (م ۱۱۷/۷۳۵ -	* عبدالله بن ابی اسحاق : الحضرمی ، بصرے کا ایک نحوی اور قاری (م ۱۱۷/۷۳۵ -
۱ ۷۶۹	۷۳۶) .	۷۳۶) .
۱ ۷۶۹	عبدالله بن اُتبی : بن سلول ، قبیلہ خزرج کی شاخ بنو العُجلیٰ کا سردار اور رئیس المنافقین	* عبدالله بن اُتبی : بن سلول ، قبیلہ خزرج کی شاخ بنو العُجلیٰ کا سردار اور رئیس المنافقین
۲ ۷۷۰	(م ۵۹/۶۳۱) .	(م ۵۹/۶۳۱) .
۲ ۷۷۰	عبدالله بن احمد : بن حنبل ؛ رگ بہ احمد بن حنبل .	* عبدالله بن احمد : بن حنبل ؛ رگ بہ احمد بن حنبل .
۲ ۷۷۰	عبدالله بن اسعد : رگ بہ الیافعی .	* عبدالله بن اسعد : رگ بہ الیافعی .
۲ ۷۷۰	عبدالله بن اسکندر : الشیبانی (۵۹۳۰/۸۱۵۳۳ تا ۱۰۰۶/۸۱۵۹۸) ، میانکال اور کرمینہ	* عبدالله بن اسکندر : الشیبانی (۵۹۳۰/۸۱۵۳۳ تا ۱۰۰۶/۸۱۵۹۸) ، میانکال اور کرمینہ
۲ ۷۷۰	وغیرہ کے علاقے کا حاکم اور بنو شیبان [رگ باں] کا سب سے بڑا	وغیرہ کے علاقے کا حاکم اور بنو شیبان [رگ باں] کا سب سے بڑا
۲ ۷۷۰	امیر .	امیر .
۲ ۷۷۲	عبدالله بن اسمعیل : مراکش کا ایک علوی [رگ باں] سلطان (از ۱۱۳۱/۸۱۷۲۹ تا	* عبدالله بن اسمعیل : مراکش کا ایک علوی [رگ باں] سلطان (از ۱۱۳۱/۸۱۷۲۹ تا
۲ ۷۷۲	۸۱۷۵۷/۸۱۷۵۷) .	۸۱۷۵۷/۸۱۷۵۷) .
۲ ۷۷۳	عبدالله بن آفطس : المنصور بن محمد بن مسلمہ ، اندلس کے شاہی خاندان بنو افطس	* عبدالله بن آفطس : المنصور بن محمد بن مسلمہ ، اندلس کے شاہی خاندان بنو افطس
۲ ۷۷۳	[رگ باں] کا بانی (عہد حکومت تا ۸۳۲۲/۸۱۰۳۱) .	[رگ باں] کا بانی (عہد حکومت تا ۸۳۲۲/۸۱۰۳۱) .
۲ ۷۷۳	عبد ابن ہری : رگ بہ ابن ہری .	* عبد ابن ہری : رگ بہ ابن ہری .
۲ ۷۷۳	عبدالله بن بُلْغَیْن : بن بادیس بن حبوس بن زبیری ، سلطنت غرناطہ کے زبیری صہاجی	* عبدالله بن بُلْغَیْن : بن بادیس بن حبوس بن زبیری ، سلطنت غرناطہ کے زبیری صہاجی
۲ ۷۷۳	ہرہری خاندان کا تیسرا اور آخری حکمران (از نواح ۸۳۵۶/۸۱۰۶۳ تا	ہرہری خاندان کا تیسرا اور آخری حکمران (از نواح ۸۳۵۶/۸۱۰۶۳ تا
۲ ۷۷۳	۸۳۸۳/۸۱۰۹۰) .	۸۳۸۳/۸۱۰۹۰) .
۱ ۷۷۵	عبدالله بن ثور : رگ بہ ابو فدیک .	* عبدالله بن ثور : رگ بہ ابو فدیک .
۱ ۷۷۵	عبدالله بن جعفر : بن ابی طالب ، الملقب بہ بحر الجود ، حضرت علیؓ کے بھتیجے	* عبدالله بن جعفر : بن ابی طالب ، الملقب بہ بحر الجود ، حضرت علیؓ کے بھتیجے
۱ ۷۷۵	(م مابین ۵۸۰/۶۹۹۹ و ۶۰۸/۷۹۰) .	(م مابین ۵۸۰/۶۹۹۹ و ۶۰۸/۷۹۰) .
۲ ۷۷۵	عبدالله بن جَعْفَر : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی اور صحابی ،	* عبدالله بن جَعْفَر : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی اور صحابی ،
۲ ۷۷۵	سہاجر حبشہ ، غزوہ احد (۶۲۳/۸۳) کے شہید .	سہاجر حبشہ ، غزوہ احد (۶۲۳/۸۳) کے شہید .
۲ ۷۷۵	عبدالله بن جَدْعَان : چھٹی صدی عیسوی کے اواخر میں قبیلہ تمیم بن مرہ کا ایک ممتاز	* عبدالله بن جَدْعَان : چھٹی صدی عیسوی کے اواخر میں قبیلہ تمیم بن مرہ کا ایک ممتاز

عنوان

اشارات

صفحہ عمود

- ۱ ۷۷۶ اور صاحب ثروت قریشی .
- * عبدالله بن الحسن : بن الحسن، علویوں کے سردار اور خلیفہ منصور کے زمانے میں خروج کرنے والے دو ائمہ محمد اور ابراہیم کے والد (م نواح ۱۳۳/۵۱۳۳) . (۷۷۶ء)
- ۱ ۷۷۷ عبدالله بن الحسین : شرق اردن کا امیر اور بعد ازاں المملكة الاردنية الهاشمية کا بادشاہ (از ۱۹۲۱ء تا ۱۹۵۱ء) .
- ۲ ۷۷۸ عبدالله بن حمدان : رگ بہ حمدان (بنو) .
- ۱ ۷۷۹ عبدالله بن حنظلہ : بن ابی عامر الانصاری ، یزید اول کے خلاف مدینہ منورہ میں برپا ہونے والے انقلاب کے ایک سربراہ (م ۶۸۳/۵۶۳) .
- * عبدالله بن خازم السلمي : عہد بنی امیہ میں والی خراسان اور مشہور سپہ سالار (م ۷۳/۵۷۳) . (۶۹۲ - ۶۹۳ء)
- ۲ ۷۷۹ عبدالله بن رشید : رگ بہ ابن رشید .
- ۲ ۷۸۰ عبدالله بن رواحہ : مشہور صحابی ، سپہ سالار ، شاعر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ بارہ نقیبوں میں سے ایک (م ۹۲۹/۵۸) .
- * عبدالله بن الزبیر : (ولادت ۶۲۲/۵۱ء تا ۶۴۳/۵۳ء) ، حضرت زبیرؓ بن العوام اور حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کے صاحبزادے ، صغیر صحابی ، مجاہد اور سالار عسکر ، حجاز و عراق کے خود مختار حاکم اور خلیفۃ المسلمین (۶۸۳/۵۶۳ء تا ۶۹۲/۵۷۳ء) .
- * عبدالله بن سبا : (نیز ابن السوداء ، ابن حرب و ابن وہب) ، ایک متنازع فیہ شخصیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد فتنوں کا محرک .
- ۱ ۷۸۳ عبدالله بن سرج : (عبید اللہ بن سرج) ، رگ بہ ابن سرج .
- * عبدالله بن سعد : حضرت عثمانؓ کا رضاعی بھائی ، عہد خلافت راشدہ کا ایک سپہ سالار اور ماہر مالیات مدبر (م ۶۵۷/۵۳۷ء - ۶۵۸ء) .
- * عبدالله بن سعود : رگ بہ ابن سعود .
- * عبدالله بن سلام : سابقاً ایک یہودی (نام : الحصین) ، صحابی رسولؐ (م ۶۶۳/۵۴۳ء - ۶۶۳ء) .
- ۲ ۷۸۶ عبدالله بن طاہر : (۷۱۸۲/۵۹۸ء تا ۷۲۳/۵۸۳ء) ، ایک شاعر ، سپہ سالار ، مدبر ، خلفائے عباسیہ کا معتمد اور والی خراسان کی حیثیت سے ایک خود مختار طاہری فرمانروا .
- ۱ ۷۸۸ عبدالله بن عامر : (۶۲۶/۵۴۶ء تا نواح ۵۹/۵۶۸ء) ، والی بصرہ ، حضرت عثمان غنیؓ کے عہد میں ممتاز سپہ سالار اور بعد ازاں امیر معاویہؓ کے حامی .
- ۲ ۷۸۹

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۲ ۷۹۰	مفسر قرآن .	* ⑤ عبد اللہ بن العباس : ابو العباس ، الملقب بہ الحبر (م ۵۶۸ / ۶۸۷) ، رسول اللہ ﷺ کے ابن عم اور ایک ممتاز صحابی ، راوی حدیث ، فقیہ ، محدث اور
۲ ۷۹۳	رک بہ المیورقی .	* عبد اللہ بن عبد اللہ : رک بہ المیورقی .
۲ ۷۹۳	رک بہ ابن الظاہر .	* عبد اللہ بن عبد الظاہر : رک بہ ابن الظاہر .
۳ ۷۹۳	مصنف (م ۶۱۸۵۳) .	* عبد اللہ بن عبد القادر : الملقب بہ منشی ، ملائی کا جدت طراز ادیب اور متعدد کتب کا
۲ ۷۹۶	والد ماجد (م ۶۵۷۰) .	* ⑥ عبد اللہ بن عبد المطاب : نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد (م ۶۵۷۰) .
۲ ۷۹۶	تا ۶۸۰ / ۵۶۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ / ۵۱۳۲ - ۷۳۹ - ۷۵۰ (۷۷۵) ، خلیفہ	* عبد اللہ بن عبد الماک : (نواح ۵۶۰ / ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ / ۵۱۳۲ - ۷۳۹ - ۷۵۰) ، خلیفہ
۱ ۷۹۸	میں سپہ سالار .	عبد الملک بن مروان کا بیٹا ، رومیوں کے خلاف متعدد جنگوں
۲ ۷۹۸	کا قائد (م ۷۱۳۷ / ۷۶۳) .	* عبد اللہ بن علی : عباسی خلفا السفاح اور المنصور کا چچا اور آخری اموی خلیفہ کے
۲ ۷۹۹	راوی (م ۷۶۹۳ / ۷۷۳) .	* عبد اللہ بن عمر : حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ، نامور صحابی اور احادیث
۲ ۸۰۱	عراق (م ۷۳۹ / ۷۵۰ - ۷۷۵) .	نبوی کے مشہور راوی (م ۷۶۹۳ / ۷۷۳) .
۱ ۸۰۲	رک بہ ابن الفرضی .	* عبد اللہ بن عمر : حضرت عمر بن عبد العزیز کے بیٹے اور کچھ وقت کے لیے والی
۱ ۸۰۲	اس کا جانشین (م ۷۱۸۹۹) .	عراق (م ۷۳۹ / ۷۵۰ - ۷۷۵) .
۱ ۸۰۳	رک بہ مکہ : شریف مکہ : رک بہ مکہ .	* عبد اللہ بن محمد : ایک مشہور فقیہ اور محمد احمد مہدی کی وفات (۷۱۸۸۵) پر
۱ ۸۰۳	تا ۶۸۸ / ۵۳۰ .	اس کا جانشین (م ۷۱۸۹۹) .
۲ ۸۰۳	مناجات وغیرہ .	* عبد اللہ بن محمد : بن علی ، ابو اسمعیل عبد اللہ بن ابی المنصور محمد بن علی الانصاری
۲ ۸۰۶	رک بہ ابن مسعود .	* عبد اللہ بن محمد : بن علی ، ابو اسمعیل عبد اللہ بن ابی المنصور محمد بن علی الانصاری
۲ ۸۰۶	رک بہ ابن قتیبہ .	(۷۳۹۶ / ۶۰۰ تا ۷۳۸۱ / ۸۸۰) المعروف بہ عبد اللہ انصاری ، پیر
۲ ۸۰۶	والے تابعی بزرگ .	ہرات ، متشدد حنبلی صوفی ، سلسلہ انصاریہ کے بانی اور مصنف رسالہ

عنوان

اشارات

صفحہ عمود

- * عبداللہ بن معاویہ : اموی حکومت کے خلاف خروج کرنے والے ایک سخی اور بہادر
علوی شاعر (م ۵۱۲۹/۷۷۶ء)۔
- ۱ ۸۰۷
- * عبداللہ بن المعتمر : رگ بہ ابن المعتمر۔
- ۱ ۸۰۸
- * عبداللہ بن المقفع : رگ بہ ابن المقفع۔
- ۱ ۸۰۸
- * عبداللہ بن موسیٰ : فاتح ہسپانیہ و المغرب موسیٰ بن نصیر کا بڑا بیٹا اور اپنے والد کے
بعد افریقیہ کا منتظم اور گورنر (م ۱۰۲/۷۷۰ء)۔
- ۱ ۸۰۸
- * عبداللہ بن سیمون : دوسری صدی ہجری/آٹھویں صدی عیسوی کی ایک اہم شخصیت ،
امام جعفر صادقؑ کے رفیق اور راوی حدیث ؛ مخالفین کی رو سے
فرقہ اسمعیلیہ کا بانی۔
- ۲ ۸۰۸
- * عبداللہ بن وہب : الراسی ، ایک خارجی سردار (م ۷۳۸/۷۶۵ء)۔
- ۲ ۸۱۰
- * عبداللہ بن ہلال : الحمیری الکوفی ، الحجاج کا ایک ہم عصر جادوگر۔
- ۱ ۸۱۱
- * عبداللہ بن ہمام : السلونی، پہلی صدی ہجری/ساتویں صدی عیسوی کا ایک عرب شاعر
(م نواح ۷۹۶/۷۱۵ء)۔
- ۲ ۸۱۱
- * عبداللہ بن یاسین : الجزولی ، مرابطی سلسلے کا بانی۔
- ۱ ۸۱۲
- * عبداللہ ہاشا : محسن زادہ چلبی، ایک ترک مدبر اور سپہ سالار (م ۱۱۶۲/۱۷۳۹ء)۔
- ۱ ۸۱۳
- * عبداللہ ٹولکی (مفتی) : رگ بہ یونیورسٹی اوریشنل کالج لاہور۔
- ۲ ۸۱۳
- * عبداللہ جودت : رگ بہ جودت عبداللہ۔
- ۲ ۸۱۳
- ⊗ عبداللہ خویشکی : قصوری ، المتخلص بہ عہدی ، شاہجہانی و عالمگیری عہد کا ایک
کثیر التصانیف عالم ، شاعر ، مؤرخ اور تذکرہ نویس ، مصنف
اخبار الاولیاء وغیرہ (حیات ۱۱۰۶/۱۶۹۳ء)۔
- ۲ ۸۱۳
- * عبداللہ سلطان پوری : رگ بہ مخدوم الملک۔
- ۱ ۸۱۷
- * عبداللہ صاری : رگ بہ صاری ، عبداللہ افندی۔
- ۲ ۸۱۷
- * عبداللہ الغالب باللہ : ابو محمد ، مراکش کے خاندان سعیدیہ کا ایک بانی سلطان
(از ۷۶۳/۱۵۵۷ء تا ۷۸۱/۱۵۷۳ء)۔
- ۱ ۸۱۷
- ⊗ عبداللہ الغزنوی : رگ بہ غزنوی۔
- ۱ ۸۱۸
- * عبدالبہا : رگ بہ (۱) بہائیت ؛ (۲) بہاء اللہ۔
- ۱ ۸۱۸
- * عبدالجبار بن احمد : بن عبدالجبار الہمدانی الاسدآبادی ، ابو الحسن ، ایک معتزلی
عالم دین ، شافعی مکتب فقہ کا پیرو اور متعدد کتب کا مصنف
(م ۳۱۵/۱۰۲۵ء)۔
- ۱ ۸۱۸
- * عبدالجبار بن عبدالرحمن : الازدی ، والی خراسان ، عہد عباسیہ کی نامور شخصیت
(م ۵۹/۷۶۰ء)۔
- ۱ ۸۱۹

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۱۹		● عبدالجلیل (سید): بلگرامی (۱۰۷۱/۱۶۶۱ء تا ۱۱۳۸/۱۷۲۵ء)، عربی، فارسی، ترکی اور ہندی زبانوں کے شاعر، ممتاز عالم دین اور عربی و فارسی کے ایک فاضل مصنف۔
۱ ۸۲۲		● عبدالحق: ”بابائے اردو“ ڈاکٹر مولوی عبدالحق (۱۸۷۰ تا ۱۹۶۱ء)، ہندوستان میں تحریک اردو کے نامور قائد، صاحب طرز انشا پرداز، محقق اور متعدد کتابوں کے مصنف۔
۲ ۸۲۶		* عبدالحق حامد: (۱۸۵۲ تا ۱۹۳۷ء)، ایک ترکی عالم، نثر نگار، شاعر اور مصنف۔
۱ ۸۳۰		* عبدالحق حقی: بن سیف الدین (الترک) الدہلوی البخاری القادری، ابو المجد (۱۵۵۱ء تا ۱۶۳۲ء)، دہلی کی ایک برگزیدہ شخصیت، علوم دینی و معقولات کے ممتاز عالم اور مصنف مدارج النبوة، وغیرہ۔
۱ ۸۳۲		● عبدالحق خیر آبادی: شمس العلماء علامہ: عربی اور منطق و حکمت کے عالم (۱۲۳۳/۱۸۲۸ء - ۱۸۲۹ء تا ۱۳۱۶/۱۸۹۹ء)، سلسلہ علمائے خیر آباد کی آخری کڑی اور مصنف زبدة الحکمة۔
۲ ۸۳۳		● (ملا) عبدالحکیم سیالکوٹی: ہندوستان کے ایک ممتاز عالم دین، ماہر کلام و فلسفہ و منطق اور متعدد کتب و حواشی کے مصنف (م ۱۰۶۷ء/۱۶۵۶ء)۔
۱ ۸۳۳		● میاں عبدالحکیم کاکڑ: (۱۰۷۰/۱۶۵۹ء تا ۱۱۵۳/۱۷۴۰ء)، ایک مشہور افغان عالم دین اور ولی اللہ۔
۱ ۸۳۵		* عبدالحمید بن یحییٰ بن سعد: عربی فن ترسل کا بانی، بلاغت میں ضرب المثل، صاحب طرز انشا پرداز، ادیب و کاتب (م حدود ۱۳۲/۷۷۵ء)۔
۱ ۸۳۷		* عبدالحمید اول: ایک عثمانی سلطان (از ۱۱۸۷/۱۷۷۴ء تا ۱۲۰۳/۱۷۸۹ء)۔
۲ ۸۳۹		* عبدالحمید ثانی (غازی): چھتھیواں عثمانی سلطان (از ۱۸۷۶ء تا ۱۹۰۹ء)۔
۲ ۸۵۳		● عبدالحمید لاہوری: مغلیہ دور میں برعظیم پاک و ہند کا مشہور مؤرخ، ایک صاحب اسلوب انشا پرداز اور مصنف بادشاہ نامہ وغیرہ (م ۱۰۷۳ء/۱۶۶۳ء)۔
۱ ۸۵۵		* عبدالحی: (۱۲۸۶/۱۸۶۹ء تا ۱۳۳۱/۱۹۲۳ء)، ہندوستان کے ایک مشہور و ممتاز عالم دین، فقیہ، سوانح نگار، مؤرخ اور مصنف نزہة الخواطر وغیرہ۔
۲ ۸۵۷		● عبدالعزیز فرنگی محلی: ابو الحسنات محمد (۱۲۶۳/۱۸۴۸ء تا ۱۳۰۳/۱۸۸۶ء)، ہندوستان کے ایک عالم دین، فقیہ، مؤرخ اور متعدد کتابوں کے مصنف۔
		* عبدالرحمن: اندلس کے متعدد اموی حکمران و خلفا: (۱) عبدالرحمن اول الملقب بہ

الداخل بن معاویہ بن ہشام ، ۱۳۲ھ/۷۴۹ء کے انقلاب سے بچ کر اندلس پہنچنے اور وہاں ایک آزاد و خود مختار اموی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہونے والا شہزادہ (م ۱۲۴ھ/۷۸۸ء) ؛ (۲) عبدالرحمن الثانی بن الحکم بن ہشام بن عبدالرحمن بن معاویہ اپنے باب الحکم اول کا جانشین اور اندلس کا ایک قابل و زیرک حکمران (از ۲۰۶ھ/۸۲۲ء تا ۲۳۸ھ/۸۵۴ء) ؛ (۳) عبدالرحمن الثالث بن محمد بن عبداللہ ، ہسپانیہ کا سب سے بڑا اموی حکمران اور الاندلس کا خلیفہ اول (از ۳۰۰ھ/۹۱۲ء تا ۳۵۰ھ/۹۶۱ء) ؛ (۴) عبدالرحمن الرابع، المرتضیٰ (۳۰۸ھ/۹۱۸ء) ؛ (۵) عبدالرحمن الخامس، المستظهر باللہ (۳۱۳ھ/۹۲۳ء) .

۱ ۸۶۰

۲ ۸۶۶

* عبدالرحمن بن ابی بکرؓ : خلیفہ اول کے صاحبزادے اور صحابی رسولؐ (۵۸م/۶۷۸ء) .
* عبدالرحمن بن حبيب : بن ابی عبیدہ (یا عبیدہ) القہری ، ایک مشہور تابعی ، اموی خلافت کے آخری ایام میں افریقیہ کا خود مختار والی

۲ ۸۶۷

(م ۱۳۷ھ/۷۵۵ء) .
* عبدالرحمن بن خالدؓ : بن الولید المخزومی ، مشہور مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے بیٹے اور بعض جنگوں میں مہمات سر کرنے والے

۱ ۸۶۸

۱ ۸۶۹

(م ۱۳۶ھ/۶۶۶ء) .
* عبدالرحمن بن رستم : رگ بہ الرستمیہ .
* عبدالرحمن بن سمرہ : بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ، فاتح کابل ، مشرقی خراسان اور سجستان میں دوبارہ اسلامی حکومت قائم کرنے والا

۱ ۸۶۹

مسلم سپہ سالار (۵۵۰ھ/۶۷۰ء) .
* عبدالرحمن بن طغایرک : سلجوقی اقتدار کے عہد ثانی کا ایک بااثر ترک امیر (م ۵۳۱ھ - ۵۳۲ھ/۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ء) .

۲ ۸۶۹

* عبدالرحمن بن عبداللہ الغافقی : مشہور سپہ سالار اور اندلس کے والی (از ۱۱۱ھ/۵۷۳ء سے ۱۱۳ھ/۷۲۲ء) .

۱ ۸۷۰

۲ ۸۷۰

* عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسی : (۱۰۳۰ھ/۱۶۳۱ء تا ۱۰۹۶ھ/۱۶۸۵ء) ، ایک مراکشی عالم ، فقیہ اور مصنف العمل الفاسی .

۱ ۸۷۱

* عبدالرحمن بن علی : رگ بہ ابن الربیع .
* عبدالرحمن بن عمر الصوفی ابوالحسین : (۲۹۱ھ/۹۰۳ء تا ۳۷۶ھ/۹۸۶ء) ، ایک ممتاز ہیئت دان اور مصنف صورالکواکب الثابتہ .

۱ ۸۷۱

⊗ عبدالرحمن بن عوف : صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، عشرہ مبشرہ میں شامل ، ایک متمول تاجر (م ۳۲۲ھ/۶۵۲ء) .

۱ ۸۷۲

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۷۹		* عبدالرحمن بن عیسیٰ : رگ بہ ابن الجراح .
۲ ۸۷۹		* عبدالرحمن بن القاسم : رگ بہ ابن القاسم .
۲ ۸۷۹		* عبدالرحمن بن محمد : رگ بہ ابن خلدون .
		* عبدالرحمن بن محمد بن ابی عامر : المعروف بہ سنخول یا سنخول (Sanchuelo) ، مشہور حاجب المنصور (رگ باں) کا بیٹا اور اپنے بڑے بھائی
۲ ۸۷۹		عبدالملک المظفر کا جانشین (۵۳۹۹/۱۰۰۸ء) .
		* عبدالرحمن بن مروان بن یونس : المعروف بہ ابن الجلیقی ، اندلس میں باغیوں کا سرغنہ اور بعد ازاں وادی آزه کا خود مختار حکمران (از
۲ ۸۸۰		۵۲۷ تا ۵۲۱/۸۸۹ء) .
		* عبدالرحمن بن ہشام : (ولادت ۵۱۲۰/۱۷۸۹ء) ، مراکش کا ایک علوی سلطان
۱ ۸۸۱		(از ۵۱۲۳۸/۱۸۲۲ء تا ۵۱۲۷۶/۱۸۵۹ء) .
		* عبدالرحمن خان : بن افضل خان بن امیر دوست محمد، افغانستان کا ایک ممتاز حکمران
۲ ۸۸۲		(از ۱۸۳۳ء تا ۱۹۰۱ء) .
۱ ۸۸۵		* عبدالرحیم بن علی : رگ بہ القاضی الفاضل .
۱ ۸۸۵		* عبدالرحیم بن محمد : رگ بہ ابن نباتہ .
		* عبدالرحیم خان خاناں : میرزا (۵۹۶۳/۱۵۵۶ء تا ۵۱۰۲۶/۱۶۲۷ء) ، اکبر کے اتالیق
		بیرم خان کا بیٹا ، سپہ سالار ، مدیر ، عالم ، شاعر ، اپنے عہد
۱ ۸۸۵		کا نامور امیر .
		* عبدالرزاق (مولیٰ) بن علی : بن حسین گیلانی ، لاهیجی ، قمی ، صفوی دور کا ایک فلسفی
		حکیم و شاعر اور متعدد کتب و حواشی کا مصنف (م ۵۱۰۷۲/
۲ ۸۸۸		۱۶۶۱ء) .
		* عبدالرزاق کمال الدین بن الغنائم القاشانی : ایک مشہور صوفی ، لطائف الاعلام وغیرہ
		متعدد کتب تصوف کا مصنف (م ۵۷۳۰/
۲ ۸۸۹		۱۳۲۹ء) .
		* عبدالرزاق کمال الدین بن جلال الدین اسحق السمرقندی : (۵۸۱۶/۱۴۱۳ء تا ۵۸۸۷/
		۱۳۸۲ء) ، ایک ایرانی مؤرخ
		اور مطلع سعدین و مجمع بحرین
۲ ۸۹۳		کا مصنف .
		* عبدالرشید بن عبدالغفور : الحسینی المدنی التتوی ، مشہور فارسی لغت نگار ، فرهنگ
۲ ۸۹۶		رشیدی یا رشیدی فارسی کا مصنف (حیات ۵۱۰۶۹/۱۶۵۸ء) .
		* عبدالرؤف بن علی الجاوی : الفنصوری السنکلی (۵۱۰۳۰/۱۶۲۰ء تا ۵۱۱۰۵/۱۶۹۳ء) ،

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۸۹۷	مصنف عمدة المحتاجين الى سلوك مسلك المفردين .	
۱ ۸۹۸		* عبدالسلام بن احمد : رگ به ابن غانم .
۱ ۸۹۸		* عبدالسلام بن مشيش الحسنى : تصوف میں قطب کا درجہ رکھنے والے مراکش کے ایک مقبول عام صوفی بزرگ (م ۵۶۲۵/۱۲۲۷-۱۲۲۸ء) .
۱ ۸۹۹		* عبدالصمد بن عبدالله الہامبالی : بانی طریقہ سمائیہ محمد السمان کا شاگرد اور امام غزالی "کی احیاء علوم الدین کا ملائی مترجم (حیات ۵۱۲۰۳/۱۷۸۸ء) .
۱ ۹۰۰		* عبدالصمد شیریں قلم : خواجہ ، ایرانی مصور اور خطاط ، ہندوستان میں مغل مصوری کا ایک بانی (حیات ۱۵۹۳ء) .
۱ ۹۰۶		* عبدالعزیز : بن سلطان محمود ثانی ، یسواں عثمانی سلطان (۵۱۲۷۷/۱۸۶۱ء تا ۵۱۲۹۳/۱۸۷۶ء) .
۱ ۹۰۷		* عبدالعزیز بن ابراہیم : الثمینی الاسجنی (۵۱۱۳۳/۱۷۲۰ء تا ۵۱۲۲۳/۱۸۰۸ء) ، فرقہ اباضیہ کا مشہور عالم اور مصنف کتاب النیل و شفاء العلیل، وغیرہ .
۱ ۹۰۸		* عبدالعزیز بن ابی دلف : رگ به الدلفی .
۱ ۹۰۸		* عبدالعزیز بن الحجاج : بن عبدالملک ، ایک اموی سپہ سالار اور اپنے عمزاد بھائی یزید ثالث کا ممتاز معاون (م ۵۷۳۳/۱۲۷۷ء) .
۱ ۹۰۹		* عبدالعزیز بن الحسن : اپنے والد مولای الحسن کا جانشین ، ایک مراکشی سلطان (از ۵۱۳۱۱/۱۸۹۳ء تا ۵۱۳۲۶/۱۹۰۸ء) .
۱ ۹۱۰		* عبدالعزیز بن سعود : رگ به ابن سعود .
۱ ۹۱۰		* عبدالعزیز بن محمد : بن ابراہیم الصنهاجی الفشتالی (۵۹۵۶/۱۵۳۹ء تا ۵۱۰۳۱/۱۶۲۱ء) ، ایک مراکشی عالم اور مؤرخ، مصنف مناہل الصفا فی اخبار الملوک الشرفاء وغیرہ .
۲ ۹۱۰		* عبدالعزیز بن محمد : بن سعود ؛ رگ به (۱) ابن سعود ؛ (۲) عرب (جزیرة العرب) .
۲ ۹۱۰		* عبدالعزیز بن مروان : خلیفہ مروان اول کا بیٹا اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا والد (م ۵۷۰۳/۸۸۵ء) .
۱ ۹۱۱		* عبدالعزیز بن موسیٰ : اندلس کے شہرہ آفاق فاتح موسیٰ بن نصیر کا بیٹا اور اپنے باپ کے بعد اندلس کا پہلا والی (از ۵۷۱۳/۸۹۵ء تا ۵۷۱۹/۸۹۷ء) .
۲ ۹۱۱		* عبدالعزیز بن ولید : خلیفہ ولید اول کا بیٹا اور ایک اموی سپہ سالار (م ۵۷۲۹/۸۱۱ء) .
۱ ۹۱۲		* عبدالعزیز افندی : قرہ چلبی زادہ ؛ رگ به قرہ چلبی زادہ .
۱ ۹۱۲		* عبدالعزیز شاہ دہلوی : رگ به شاہ عبدالعزیز دہلوی .

- * عبدالغفار بن عبدالکریم : رگ بہ القزوینی .
- * عبدالغفار الاخرس : رگ بہ الاخرس .
- ⊗ عبدالغفور میان : رگ بہ اخوند صاحب سوات .
- * عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی : دمشق کے ایک صوفی، عالم دین، شاعر اور بہت سی کتابوں کے مصنف (۱۰۵۰ھ/۱۶۳۱ء تا ۱۱۳۳ھ/۱۷۲۱ء) .
- * عبدالفتاح لومنی : ایک ایرانی مؤرخ، مصنف تاریخ گیلان وغیرہ (حیات ۱۰۳۸ھ/۱۶۲۸ء) .
- * عبدالقادر (سر، شیخ) : (۱۸۷۳ تا ۱۹۵۰ء)، اردو کے ایک نامور ادیب، برعظیم پاک و ہند کے ممتاز قانون دان .
- * عبدالقادر بن علی : بن یوسف القاسمی (۱۰۰۷ھ/۱۵۹۹ء تا ۱۰۹۱ھ/۱۶۸۰ء) ، سرائی کے قاسمی خاندان کا معروف ترین فرد اور قصر الکبیر میں زاویہ شاذلیہ کا شیخ اعظم .
- * عبدالقادر بن عمر البغدادی : (۱۰۳۰ھ/۱۶۲۱ء تا ۱۰۹۳ھ/۱۶۸۲ء) ، ایک مشہور لغوی اور مصنف خزائن الادب و لب لباب لسان العرب وغیرہ .
- * عبدالقادر بن نجیبی : الحافظ المراغی (۱۰۵۳ھ/۱۶۵۳ء تا ۱۱۲۵ھ/۱۷۲۱ء) ، تیمور کے زمانے کا مشہور گلوکار اور علم موسیقی کا ممتاز ایرانی مصنف .
- ⊗* عبدالقادر بن محی الدین : الحاج امیر عبدالقادر الحسنی الجزائرئی (۱۲۲۳ھ/۱۸۰۸ء تا ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء) ، الجزائر پر فرانسیزی قبضے کے خلاف جد و جہد کے نامور قائد .
- * عبدالقادر ہداؤلی : رگ بہ ہداؤنی .
- * عبدالقادر الجیلانی : (۱۰۷۷ھ/۱۰۷۷ء تا ۱۱۶۶ھ/۱۱۶۶ء) ، ایران پیر، بغداد کے مشہور عالم اور بزرگ سلسلہ قادریہ ترین ولی، کے بانی اور متعدد کتب، مثلاً فتوح الغیب وغیرہ کے مصنف .
- * (شاہ) عبدالقادر دہلوی : بن شاہ ولی اللہ بن شاہ عبدالرحیم (۱۱۶۷ھ/۱۷۵۳ء تا ۱۲۲۳ھ/۱۸۱۳ء - ۱۸۱۵ء) ، اردو زبان میں قرآن مجید کے اولین مترجم اور حاشیہ نگار .
- * عبدالقادر القرشی : محی الدین عبدالقادر بن محمد بن نصر اللہ بن سالم بن ابی الوفاء (۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء تا ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۷ء) ، فقہ حنفی کا ایک مصری معلم ، موانع نگار اور مصنف الجواهر المصنیۃ فی طبقات الحنفیہ وغیرہ .
- * عبدالقیس : مشرقی عرب کا ایک قدیم عربی قبیلہ .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۹۳۱		* عبدالقیوم : صاحبزادہ ، خان بہادر ، سر (۱۸۶۳ تا ۱۹۳۷ء) ، صوبہ سرحد کے سرسید ، اسلامیہ کالج پشاور کے بانی ، کرم اور خیبر کے پولیٹیکل ایجنٹ اور ہمد ازاں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ .
۲ ۹۳۳		⊗ عبدالکریم بن ابراہیم الجیلی : (۵۷۶۷/۱۳۶۵ء تا ۵۸۳۲/۱۴۳۸ء) ، ایک مشہور صوفی اور عالم ، مصنف <u>الانسان الکامل</u> وغیرہ .
۲ ۹۳۵		* عبدالکریم بن عجرد : رگ بہ ابن عجرد .
۲ ۹۳۵		* عبدالکریم بخاری : فارسی زبان میں وسط ایشیا کے ملکوں کی تاریخ کا مصنف (حیات ۵۱۲۳۶/۱۸۳۰ء) .
۲ ۹۳۵		⊗ عبدالکریم کشمیری (خواجہ) : بن خواجہ عاقبت محمود ، فارسی زبان کا ایک مؤرخ ، اور مصنف <u>بیان واقع وغیرہ</u> (حیات ۵۱۱۹۹/۱۷۸۵ء) .
۲ ۹۳۶		⊗ عبدالکریم منشی : منشی مولوی عبدالکریم علوی ، اٹھویں صدی عیسوی کے وسط کا ایک فارسی مؤرخ ، مصنف <u>محاربتہ کابل و قندھار</u> وغیرہ ، (حیات ۱۸۵۱ء) .
۱ ۹۳۹		* عبداللطیف البغدادی : موفق الدین ابو محمد بن یوسف ، المعروف بہ ابن اللباد (۵۵۷ء/۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ء تا ۱۲۳۱/۱۲۳۲ء - ۱۲۳۲ء) ، ایک ہمہ فن عالم اور ماہر سائنس ، مصنف کتاب <u>الافادہ والاعتبار</u> .
۱ ۹۵۰		* عبداللطیف بھٹائی : رگ بہ بھٹائی ، عبداللطیف .
۱ ۹۵۰		* عبداللطیف قسطنطنی : رگ بہ لطیفی .
۱ ۹۵۰		* عبدالمؤمن بن علی : بن علوی بن یعلیٰ ، تحریک الموحدین کے قائد مہدی ابن تومرت کا دست راست اور جانشین ، المغرب کے حکمران خاندان بنو مومن کا بانی فرمانروا (از ۵۲۷/۱۱۳۳ء تا ۵۵۸/۱۱۶۳ء) .
۱ ۹۵۵		* عبدالمجید بن عبداللہ : رگ بہ عبدون .
۱ ۹۵۵		* عبدالمجید اول : بن محمود ثانی ، ایک عثمانی سلطان (از ۱۲۵۵/۱۸۳۹ء تا ۱۲۷۷/۱۸۶۲ء) .
۱ ۹۵۷		* عبدالمجید ثانی : آخری عثمانی خلیفہ (از ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳ء) .
۱ ۹۵۷		⊗ عبدالمطلب بن ہاشم : ابو الحارث ، المقرب بہ شیبہ ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور قریش مکہ کے نامور سردار (م ۵۷۹ء) .
۲ ۹۵۸		* عبدالملک بن زہر : رگ بہ ابن زہر .
۲ ۹۵۸		* عبدالملک بن صالح بن علی : السقاح اور المنصور کا عم زادہ بھائی اور ہارون الرشید کے عہد میں ہوزنظیوں کے خلاف متعدد مہمات کا قائد (م مابین ۱۹۳ و ۱۹۹ء) .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۹۵۹		⊗ عبد الملک بن قُریب : رگ بہ الاصمعی .
		* عبد الملک بن قطن الفہری : ایک نامور بہادر قائد اور عبدالرحمن بن عبداللہ الغافی کے بعد اندلس کا حاکم اور والی (از ۵۱۱۳ / ۷۳۲ء تا ۵۱۲۳ / ۷۴۱ء) .
۱ ۹۵۹		* عبد الملک بن محمد : بن ابی عامر المعافری، ابو مروان المظفر، اندلس کے اموی خلیفہ ہشام ثانی الموید باللہ کے مشہور حاجب المنصور کا بیٹا اور جانشین (از ۵۳۹۲ / ۷۴۲ء تا ۵۳۹۹ / ۷۴۸ء) .
۱ ۹۶۰		* عبد الملک بن مروان : (ابوالولید) ، بنو مروان کا دوسرا اور بنو امیہ کا پانچواں خلیفہ (از ۵۶۵ / ۶۸۵ء تا ۵۸۶ / ۷۰۵ء) .
۱ ۹۶۱		* عبد الملک بن لُوح : رگ بہ سامانیہ .
۱ ۹۶۳		* عبد الملک بن ہشام : رگ بہ ابن ہشام .
۲ ۹۶۳		* عبد النبی : ابن شیخ احمد بن شیخ عبدالقدوس ، ایک صاحب معرفت و تقویٰ اور مقبول عام عالم ، عہد اکبری میں صدر الصدور (م ۵۹۹۲ / ۱۵۸۳ء) .
۲ ۹۶۳		* عبدالواحد بن علی التیمی : المراکشی ، ابو محمد المغربی ، مراکشی وقائع نگار اور مصنف المعجب فی تلخیص اخبار المغرب (م ۵۶۳۷ / ۱۲۵۰ء) .
۱ ۹۶۶		* عبدالوحد الرشید : رگ بہ الموحدون .
۱ ۹۶۷		* عبدالواد : (بنو عبدالواد ، یا زبانیہ یا بنو زیان) ، الجزائر کا ایک بربر حکمران خاندان (از ۵۶۳۳ / ۱۲۳۶ء تا ۵۹۵۷ / ۱۵۵۰ء) .
۱ ۹۶۷		* عبدالواسع جبلی : بدیع الزمان عبدالواسع ، ایک عالم اور صاحب دیوان شاعر (م ۵۵۵۵ / ۱۱۶۰ء) .
۲ ۹۷۱		* عبدالوہاب : رگ بہ (۱) محمد عبدالوہاب ؛ (۲) وہابیہ .
۲ ۹۷۳		* عبدالوہاب : (تاج الدین الملک المنصور) ، یمن کے طاہریہ خاندان کا ایک فرمانروا (از ۵۸۸۳ / ۱۳۷۸ء تا ۵۸۹۳ / ۱۳۸۸ء) .
۲ ۹۷۳		* عبدالوہاب بن عبدالرحمن بن رستم : رگ بہ رستمیہ .
۱ ۹۷۳		* عبدان : ابن رزام ، جنوبی عراق کے قرامطہ کے قائد حمدان قرمط کا بہنوئی اور نائب (م ۵۲۸۶ / ۸۹۹ء) .
۱ ۹۷۳		* العبدری : محمد بن محمد بن علی بن احمد بن سعود ابو محمد القرظی ، ایک سیاحت نامہ الرحلة المغربیہ کا مصنف (حیات ۵۶۸۸ / ۱۲۸۹ء) .
۲ ۹۷۳		* العبدری : (ابن الحاج) ، ابو عبداللہ محمد بن محمد العبدری الفاسی (م ۵۷۳۷ / ۱۳۳۶ء) ، ایک مالکی فقیہ اور مصنف مدخل الشرع الشریف .
۱ ۹۷۶		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۹۷۶		* عبدلی : آج کل عموماً جنوبی عرب کے مقام حج کے باشندوں کے لیے بطور اسم جمع مستعمل ایک اصطلاح .
۱ ۹۷۷		* عبدی : رک بہ عبدالله خویشگی قصوری .
۱ ۹۷۷		⊗ عبدی : عبدالله لاہوری (۱۰۲۵ھ/۱۶۱۶ء تا ۱۰۶۵ھ/۱۶۵۳ء) ، مشہور پنجابی شاعر اور عالم ، مصنف باران انواع .
۶ ۹۷۸		* عبدی : ایک عثمانی مؤرخ اور خواجہ سراؤں کے سردار یوسف آغا کا سر دفتر یا کاتب (حیات ۱۶۷۵ء) .
۱ ۹۷۹		* عبدی افندی : (۱۷۳۰ء تا ۱۷۶۳ء) ، عثمانی مؤرخ ، مصنف تاریخ سلطان محمود خان .
۱ ۶۷۹		* عبدی پاشا : ایک عثمانی مؤرخ اور شاہی معتمد خاص ، مصنف وقائع نامہ عبدی پاشا (م ۱۱۰۳ھ/۱۶۹۱ء) .
۲ ۹۸۰		⊗ عبس : قرآن مجید کی اسیویں سورت .
۲ ۹۸۱		* عبس : رک بہ غطفان .
۲ ۹۸۱		* عبیلہ : رک بہ عنترہ .
۲ ۹۸۲		⊗ عبودۃ : رک بہ عبادات .
۲ ۹۸۲		⊗ عبودیت : رک بہ عبادات .
۲ ۹۸۲		* عبید بن الابرص الاسدی : ابوزیاد ، ایک جاہلی شاعر (م ۵۵۴ء) .
۲ ۹۸۲		* عبیداللہ : رک بہ المہدی عبیداللہ .
۲ ۹۸۲		* عبیداللہ بن احمد خرداذبہ : رک بہ ابن خرداذبہ .
۲ ۹۸۲		* عبیداللہ بن زیاد : بن ایبہ ، یزید اول کے عہد میں والی کوفہ و بصرہ (م ۶۸۸ھ/۶۸۶ء) .
۱ ۹۸۳		⊗ عبیداللہ بن سریج : رک بہ ابن سریج .
۱ ۹۸۳		* عبیداللہ بن قیس الرقیات : رک بہ ابن قیس الرقیات .
۱ ۹۸۳		⊗ عبیداللہ سندھی : (۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء تا ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء) ، ہندوستان کی تاریخ جنگ آزادی کی ایک نمایاں شخصیت ، ممتاز عالم دین ، فلسفہ ولی اللہی کے ممتاز ماہر اور متعدد کتابوں کے مولف .
۱ ۹۸۶		⊗ عبید زاکالی : (نواح ۵۰۰ھ/۱۳۰۰ء تا ۵۷۷ھ/۱۳۷۰ء) ، ایران کا مشہور ترین طنز نگار شاعر اور ادیب .
۱ ۹۸۸		* عتار : رک بہ عتیرہ .
۱ ۹۸۸		* عتابہ : فلسطین ، عراق اور الجزیرہ میں عام طور سے رائج جدید عربی زبان کی چار مصرعی نظم کے لیے ایک ادبی اصطلاح .
۲ ۹۸۸		* عتبرہ : رک بہ اتبرہ .
		* عتبہ بن ربیعہ : ابو الولید بن عبد شمس بن عبد مناف ، قریش کا سردار اور مشہور دشمن

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۲ ۹۸۸	اسلام (م ۵۲/۶۲۳) .	* عتبہؓ بن غزوان : بن جابر بن وہب، ابو عبد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مشہور سپہ سالار اور ہالی بصرہ (م ۵۱۵/۵۱۷) .
۲ ۹۸۹	العقبی : ابو نصر محمد بن محمد الجبار (۵۳۵/۶۶۱ تا ۵۴۲/۶۶۸ یا ۵۳۱/۶۰۰) ، سلطان محمود غزنوی کا سفیر و معتمد، مؤرخ اور کتاب الیمینی کا مصنف .	* عتابؓ بن آسید : بن ابی العیص بن امیة الاموی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاقل و شجاع صحابی ، عامل مکہ ، امیر الحج (م نواح ۵۱۲/۶۳۳) .
۲ ۹۹۰	العنابی : ابو عمرو کلثوم بن عمرو بن ایوب التغلبی ، کاتب ، شاعر ، خطیب اور راوی (م ۵۲۲/۸۳۵) .	* عترة : رگ بہ اہل بیت .
۱ ۹۹۱	عتیق : رگ بہ (۱) عبد ؛ (۲) غلامی ؛ (۳) ام ولد .	* عتق : رگ بہ (۱) عبد ؛ (۲) غلامی ؛ (۳) ام ولد .
۲ ۹۹۱	عتیمہ : وسط عرب کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور بدوی قبیلہ .	* عتمہ : لغوی اعتبار سے شفق کے غائب ہو جانے کے بعد رات کا پہلا ٹلٹ اور اصطلاحاً صلوة العشاء کا نام .
۲ ۹۹۲	عتیرہ : دور جاہلی میں کسی دیوتا کے نام پر قربان کیا جانے والا مینڈھا اور اسکی قربانی .	* عتیرہ : دور جاہلی میں کسی دیوتا کے نام پر قربان کیا جانے والا مینڈھا اور اسکی قربانی .
۲ ۹۹۳	عتیث : قدیم زمانے میں فلسطین کے ساحل پر ایک بندرگاہ .	* عتیرہ : دور جاہلی میں کسی دیوتا کے نام پر قربان کیا جانے والا مینڈھا اور اسکی قربانی .
۲ ۹۹۳	عثمان اول : عثمان غازی (۵۶۸۹/۶۲۹ تا ۵۲۶/۶۳۶) ، یا ترکیہ کی سلطنت عثمانیہ کا بانی .	* عتیرہ : دور جاہلی میں کسی دیوتا کے نام پر قربان کیا جانے والا مینڈھا اور اسکی قربانی .
۱ ۹۹۵	عثمان ثانی : بن سلطان احمد اول ، سلطنت عثمانیہ کا سولہواں سلطان (از ۱۶۱۸ تا ۱۶۲۲) .	* عتیرہ : دور جاہلی میں کسی دیوتا کے نام پر قربان کیا جانے والا مینڈھا اور اسکی قربانی .
۲ ۹۹۵	عثمان ثالث : بن سلطان مصطفیٰ ثانی ، سلطنت عثمانیہ کا پچیسواں سلطان (از ۱۷۵۳ تا ۱۷۵۷) .	* عتیرہ : دور جاہلی میں کسی دیوتا کے نام پر قربان کیا جانے والا مینڈھا اور اسکی قربانی .
۱ ۱۰۰۱	عثمانؓ بن عفان : امیر المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابی، دوہرے داماد، جامع قرآن اور خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ (از ۵۲۳ تا ۵۴۵) .	* عثمانؓ بن عفان : امیر المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابی، دوہرے داماد، جامع قرآن اور خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ (از ۵۲۳ تا ۵۴۵) .
۲ ۱۰۰۱	عثمانؓ بن مظعون : بن حبیب بن وہب ، الجمعی ابو السائب ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم صحابی (م ۳۰۳/۶۲۵ - ۶۲۵) .	* عثمانؓ بن مظعون : بن حبیب بن وہب ، الجمعی ابو السائب ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم صحابی (م ۳۰۳/۶۲۵ - ۶۲۵) .
۱ ۱۰۱۱	عثمان جق : ایشیائی ترکیہ کی ولایت سیواس میں ایک قضا کا سب سے بڑا شہر .	* عثمان جق : ایشیائی ترکیہ کی ولایت سیواس میں ایک قضا کا سب سے بڑا شہر .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲	۱۰۱۲	* عثمان دافو دیو : رگ بہ پل .
۲	۱۰۱۲	* عثمان دقنہ : (یا دگنہ) بن ابی بکر دقنہ (۱۸۳ تا ۱۹۲۶ء) ، مشرقی سوڈان میں مہدیہ کا حاکم اور سپہ سالار .
۲	۱۰۱۲	* عثمان زادہ احمد نائب : اٹھارھویں صدی کے پہلے <u>ثلث</u> کا ممتاز ترکی شاعر ، ادیب اور مؤرخ ، مصنف حدیقة الوزراء وغیرہ (م ۱۱۳۶ھ/۱۷۲۳ء) .
۱	۱۰۱۸	⊗ عثمان مختاری : رگ بہ مختاری ، سراج الدین عثمان بن محمد المختاری الغزنوی .
۱	۱۱۰۸	⊗ عجائب : رگ بہ علم (العجائب) .
۱	۱۰۱۸	* عجارده : خاص طور پر خراسان میں پھیلنے والا خوارج کا ایک فرقہ .
۲	۱۰۱۸	* العجاج : ابو الشفاء عبدالله بن رؤبة ، خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ کے دور میں ایک مشہور عرب رجز گو اور صاحب دیوان شاعر (م ۵۹۷ھ/۷۱۵ء) .
۲	۱۰۱۹	* عجل (بنو) : شمالی عرب کا ایک قبیلہ اور بکر بن وائل کی اہم شاخ .
۱	۱۰۲۰	* عجلون : شرق اردن کا ایک ضلع .
۱	۱۰۲۰	* عجلہ : رتھوں ، گاڑیوں اور چھکڑوں کے لیے شمال مغربی ماسی زبانوں سے مستعار عربی لفظ .
۱	۱۰۲۳	* العجلی : ابو منصور، المعروف بہ الکسف و الخناق، دوسری صدی ہجری کا ایک متنبی .



صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱		* عَجَم : (گنگ، کند زبان)، غیر عرب ملک (خصوصاً ایران و توران) اور وہاں کے باشندوں کے لیے ایک کثیر الاستعمال اصطلاح .
۱ ۲		* عَجَمی اوغلان : (غیر ملکی لڑکا) ، عہد عثمانیہ میں قبوقولو (دربانوں) کے طور پر بھرتی کیے جانے والے (عموماً عیسائی) نوجوانوں کے لیے اصطلاح .
۲ ۲		* عَجَمیہ : غیر عربی زبانوں کو عربی حروف میں لکھنے کے لیے مستعمل ایک اصطلاح .
۲ ۲		* العَجَمیہ : رگ بہ الخمیہ .
۲ ۲		* عَجُوز : رگ بہ ایام العجوز .
۲ ۲		* عَدَد : رگ بہ علم (الحساب) .
۲ ۲		* عِدَت : نکاح ثانی سے قبل مطلقہ یا بیوہ عورتوں کے زمانہ انتظار کے لیے ایک شرعی اصطلاح .
۲ ۳		* عَدَس : مسور .
۱ ۳		* (X) عَدَل : رگ بہ معتزلہ .
۱ ۳		* عَدَل : اسم ذات (بمعنی عدل ، داد رسی) اور اسم صفت (بمعنی مستقیم و متوازن) کے طور پر مستعمل ایک اصطلاح ؛ معتزلہ کے مذہب کا ایک بنیادی اصول .
۲ ۶		* عدلی : سلطان محمد ثانی ، محمود ثانی اور بایزید ثانی کا تخلص .
۲ ۶		* (X) عَدَم : ہستی یا وجود کی نفی کے لیے علم منطق کی ایک اصطلاح .
۱ ۸		* (O) عَدَن : جمہوریہ جنوبی یمن کا دارالحکومت اور مشہور بندرگاہ ؛ سابقاً برطانوی زیر حمایت ریاست .
۱ ۱۲		* عَدَنان : عربوں کے سلسلہٴ انساب کی رو سے شمالی عربوں کا جد امجد .
۱ ۱۳		* عَدَویہ : شیخ عدی (رگ بآں) کے مریدوں (یزیدیوں) کا لقب .
۱ ۱۳		* عدی " بن حاتم : بن عبد اللہ بن سعد الطائی ، ابو ظریف ، مشہور شاعر اور سخی خاتم کے بیٹے اور ایک شجاع صحابی (م ۵۶۸/۵۶۸ء) .
۱ ۱۳		* عدی بن الرقاع : ابو داود عدی بن زید بن مالک بن الرقاع العاملی ، ملک شام میں بنو امیہ خصوصاً الولید بن عبدالملک کا مدح گو عرب شاعر .
۲ ۱۳		* عدی بن زید : چھٹی صدی عیسوی میں الحیرہ کا ایک ممتاز عیسائی عرب شاعر .
۲ ۱۵		* عدی بن مسافر : الاموی القرشی الہکاری ، عدویوں کے شیخ طریقت (م ۵۵۷/۵۵۷ء) .
۲ ۱۷		* عَذَاب (وعذاب القبر) : رگ بہ قبر .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۷		* عَذْرَاء : رگ بہ واسق و عذراء .
۲ ۱۷		* عَذْرَاء : رگ بہ علم (نجوم) .
۲ ۱۷		* عُدْرَة : بنو قضاعہ کے ایک بڑے ذیلی گروہ سے متعلق یمنی قبیلہ .
۲ ۲۰		* عُدْرِي : (۱) بنو عذره (رگ بہ عذره ، بنو) کا جدی نام ؛ (۲) حب عُدْرِي (پاک محبت) ، اسلامی فلسفہ کی تاریخ میں ایک ادبی و فکری موضوع .
۲ ۲۱		* عرابی پاشا : احمد عرابی المصری (۱۸۳۹ء تا ۱۹۱۱ء) ، انقلاب مصر کا ایک قائد اور معروف سیاستدان .
۱ ۲۷		* الْعِرَاق : (نیز العراق العربی) ، عالم عرب کا ایک معروف ملک .
۲ ۳۳		* عِرَاقِي : شیخ فخر الدین ابراہیم (۵۶۱۰ / ۱۲۱۳ء تا ۵۶۸۶ / ۱۲۸۷ء) ، حضرت بہاءالدین زکریا ملتانیؒ کے داماد اور فارسی کے مشہور صوفی شاعر .
۲ ۳۷		* الْعِرَاقِي : (انگور کی بیلوں کی جعفریاں یا ٹٹیاں) ، بحر اوقیانوس کے ساحل پر مراکش کا ایک قصبہ .
۱ ۵۰		* (جزيرة) العرب : جزیرہ نمائے عرب .
۲ ۱۰۶		* العرب : (ج : اعراب) ، جزیرہ العرب کے باشندے .
۱ ۱۲۸		* عَرَبَان : عراق عرب کا ایک مقام (آج کل کھنڈر) .
۲ ۱۲۸		* عربان : رگ بہ العرب .
۲ ۱۲۸		* عَرَبِستان : ” ملک عرب “ ؛ پہلوی عہد میں ایرانی صوبہ خوزستان کے لیے مستعمل اصطلاح .
۲ ۱۲۸		* عرب فقیہ : شہاب الدین احمد عبدالقادر ، سولہویں صدی عیسوی میں مسلم حبشہ کا وقائع نگار ، مصنف تحفة الزمان وغیرہ .
۱ ۱۲۹		* عَرَب كِير : (آرپ کیر ، ارب گیر) ، ولایت ملطیہ کے ایک ضلع کا صدر مقام .
۱ ۱۳۱		* عَرَبِيہ : (وادی عربہ) ، شرق اردن کے جنوبی رخنے کا بڑھاؤ ؛ تورات کی وادی اردن .
۲ ۱۳۱		* الْعَرَبِيہ : عربی زبان اور ادب .
۱ ۲۳۵		* الْعَرَجِي : عبداللہ بن عمر ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پرپوتے اور بہترین اموی شاعر (م حدود ۵۱۲ / ۷۳۸ء) .
۲ ۲۳۶		* عَرَادَة : قرون وسطی میں توپ خانے کا ایک آلہ .
۱ ۲۳۷		* عَرِاف : کاهن ، طبیب ، منجم یا قیافہ شناس (حازی) وغیرہ کے لیے مستعمل اصطلاح .
۱ ۲۳۸		* عَرَس : یا شادی ، دعوت ولیمہ ، نیز دولہا ، دلہن اور ان کے گھر کے بناؤ سنگھار کی رسوم کے لیے مستعمل اصطلاح .
۲ ۲۵۸		* عَرَش : رگ بہ کرسی .
۲ ۲۵۸		* عَرَش : الجزائر میں مشترکہ قبضے والی زمین کے لیے مستعمل اصطلاح .
۱ ۲۶۰		* عَرَش كُول : وهران (Oran) اور مراکش کی سرحد پر ایک قدیم (آجکل ناپید) شہر .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۲۶۰		* عَرَشِیں : رَکّ بہ ذراع .
		* عَرَض : ایک کثیر المعانی اصطلاح ، بمعنی چوڑائی ، پہنائی ، عرض البلد ، معائنہ
۲ ۲۶۰		افواج وغیرہ .
		⊗ عَرَض : (نیز رَکّ بہ جوهر)، بیک وقت جوهر کی ضد اور اس کا ماہہ الاستکمال ؛ علم
۱ ۲۶۱		کلام اور منطق کی ایک اصطلاح .
۱ ۲۶۱		* عَرِض : ایک مبہم اور غیر واضح اصطلاح ، بمعنی جسم یا عزت و آبرو .
۱ ۲۶۳		* عَرَضِ حال : عرضی اور درخواست کے معنوں میں عہد عثمانیہ کی ایک اصطلاح .
		* عَرَف : کسی عمل کو عقل کی بنیاد پر تواتر کے ساتھ کرنا ؛ علم اصول فقہ کی ایک
۱ ۲۶۳		اصطلاح اور قانون کا ماخذ .
۲ ۲۶۵		⊗ عَرَفَان : رَکّ بہ معرفت .
		* عَرَفَات : مکہ مکرمہ سے ۲۱ کلو میٹر مشرق میں ۹ ذوالحجہ کو حجاج کی وقوف گاہ اور
۲ ۲۶۵		جاے دعا .
		* عَرَفِی : جمال الدین شیرازی ، ایک مشہور صاحب دیوان فارسی شاعر (م ۵۹۹۹ھ)
۲ ۲۶۶		(۱۵۹۱ء) .
۱ ۲۶۹		* عَرِق : (جڑ ، نسل) ، نسب اور اصل کے لیے اصل عرب کی ایک اصطلاح .
		* عَرِق : (عِرگ) ، لُق و دق وسیع میدان کے لیے جغرافیائی اصطلاح ، بربری میں ایدین ؛
		محدود معنوں میں الحمادة الحمراء سے شروع ہو کر صحراے الجزائر کے درمیان
۲ ۲۷۰		سے ترچھا گزرتا ہوا وادی سورہ تک پھیلا ہوا بڑا ریگ زار .
۱ ۲۷۲		* عَرِق : رَکّ بہ صحراء .
۱ ۲۷۲		* عَرِق اللؤلؤ : رَکّ بہ صدف .
۱ ۲۷۲		* عَرِقه : (ارقه) ، جزیرہ عرب کے جنوبی ساحل پر حضر موت کے علاقے میں ایک قصبہ .
۲ ۲۷۲		⊗ عَرِگ : رَکّ بہ عَرِق .
۲ ۲۷۲		* عَرُوبہ : قدیم عربوں کے نزدیک جمعے کا دن .
۱ ۲۷۳		* عَرُوة بن الزبیر : بن العوام الاسدی ، یکے از ائمہ حدیث و فقہائے سبعہ (م ۵۹۳/۷۱۲ء) .
۱ ۲۷۳		* عَرُوة بن الورد بن ہابس العبسی : دور قبل اسلام کا ایک قدیم شاعر .
		* عَرُوج : (نیز اوروج) ، المعروف بہ بربروسہ ، نامور ترک نبرد آزما ، فاتح الجزائر
۲ ۲۷۳		(م ۵۱۸/۹۲۳ء) .
		* عَرُوسِ رسمی : (رسم عروسانہ ، عادت عروسی) ، عثمانی دور حکومت میں دلہنوں پر
۲ ۲۷۷		لگایا جانے والا ایک محصول .
		* عَرُوسِیہ : سلسلہ شاذلیہ کی ایک شاخ ، ایک درویش سلسلے کا نام ؛ ہانی : ابو العباس
۲ ۲۷۸		احمد بن محمد بن عبدالسلام بن ابو بکر بن العروس .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۲۴۸		* ⑤ عَرُوض : عربی اشعار کے علم اوزان وقوافی کا اصطلاحی نام .
۱ ۳۰۷		* عَرُوضی : رگ بہ نظامی عروضی .
۱ ۳۰۷		* عَرِيب بن سَعْد : الکاتب القرطبی ، اندلس کے اموی خلیفہ الحکم ثانی کا کاتب . (م حدود ۵۳۷/۵۹۸ء)
۱ ۳۰۷		* العَرِيش : (عریش المصر) ، فلسطین اور مصر کے درمیان بحیرہ روم کے ساحل پر ایک شہر .
۲ ۳۰۸		* ④ العَرِيضَة : رگ بہ دفتر .
۱ ۳۰۹		* عَرِيف : (تقیب) ، قدیم اسلامی عہد میں بعض سرکاری عہدے داروں کے لیے مستعمل ایک اصطلاح .
۱ ۳۰۹		* عَزَابِل : شیطان کا نام .
۱ ۳۱۲		* عَزَب : (غیر شادی شدہ) ، اصطلاحاً تیرھویں اور انیسویں صدی عیسوی کے درمیان ترک فوج کے بعض دستوں کے سپاہیوں کو دیا جانے والا ایک لقب .
۲ ۳۱۲		* ④ عَزْرَالِيل : موت کے فرشتے کا نام .
۱ ۳۱۳		* عِزْت ہاشا : احمد عزت فرگج (۱۸۶۴ تا ۱۹۳۷ء) ، ایک عثمانی سیاستدان اور ترکی افواج کا سپہ سالار .
۲ ۳۱۵		* عِزْت مُلَا : کچھ جی زادہ محمد عزت افندی ، سلطان محمود ثانی کے عہد کا ایک ممتاز ترک مدبر اور شاعر (م ۱۸۲۹/۱۲۳۵ - ۱۸۳۰ء) .
۱ ۳۲۱		* عِزَالِدَوْلَة : بعض مسلمان امراء ، مثلاً بختیار بویہی وغیرہ کا اعزازی لقب .
۱ ۳۲۲		* عِزَالِدِین : امراء اور بعض اوقات علما کا اعزازی لقب .
۱ ۳۲۲		* عِزَة : رگ بہ کثیر .
۱ ۳۲۲		* عَزَّة المِیْلَاء : پہلی صدی ہجری / ساتویں صدی عیسوی میں مدینے کی ایک مشہور و معروف مغنیہ اور نواز .
۱ ۳۲۲		* عِزِي : وقائع نویس سلیمان عزی افندی ، ایک ترک شاہی مؤرخ اور شاعر (م ۱۱۶۸/۱۷۵۵ء) .
۲ ۳۲۲		* العِزِي : عربوں کی ایک قدیم دیوی اور دور جاہلی میں طائف کے مقام پر نصب ایک صنم .
۱ ۳۲۳		* ⑤ عَزَل : ایک مانع حمل فعل (یعنی Coitus interruptus) ، علم فقہ کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۲۵		* عَزْمِي زادہ مصطفیٰ : (۱۵۷۰/۹۷۷ء تا ۱۶۳۱/۱۱۰۴ء) ، عہد عثمانیہ کا ایک ترک شاعر اور صاحب طرز ادیب .
۲ ۳۲۶		* ④ عَزْبِر : قرآن مجید میں مذکور بنی اسرائیل کے ایک قدیم پیغمبر .
۱ ۳۲۸		* العَزِيز : رگ بہ الاسماء الحسنی .
۲ ۳۲۹		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۲۹		* العزیز : رگ بہ ابویہ .
۲ ۳۲۹		* عزیز الندی : رگ بہ علی عزیز کردلی .
۲ ۳۲۹		* عزیز مصر : حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا مصر کا ایک اعلیٰ اور مقتدر عہدیدار .
۱ ۳۳۰		* العزیز باللہ : نزار ابو منصور ، پانچواں فاطمی خلیفہ اور مصر میں بنو فاطمہ کا پہلا حکمران (از ۴۶۵/۵۳۶ تا ۴۹۶/۵۳۸) .
۲ ۳۳۵		* عزیز ی : رگ بہ قرہ چلبی زادہ .
۲ ۳۳۵		* عزیز ی : ایک ممتاز عثمانی شاعر (م ۱۵۸۵/۵۹۹۳) .
۲ ۳۳۶		* عزیمت : (استقامت) ، علم فقہ ، نیز علم سحر و نیرنجات کی ایک اصطلاح .
۲ ۳۳۶		* عَسَس : اسلامی عہد میں شہروں میں رات کے وقت گشت کرنے یا پھرہ دینے والی جماعت .
۱ ۳۳۹		* عَسْلَان : فلسطین کے جنوبی ساحل پر ایک قدیم شہر .
۱ ۳۴۲		* العَسْلَانِي : رگ بہ ابن حجر العسقلانی .
۱ ۳۴۲		* العَسْكَر : رگ بہ جیش .
۱ ۳۴۲		* العسکر : رگ بہ عسکر سامرا .
۱ ۳۴۲		* عَسْكَر سَامْرَا : یا عسکر المعتصم ، سامرا کی تاسیس کے زمانے (۸۳۶/۵۲۳۱) میں ترک سپاہیوں کے ساتھ خلیفہ المعتصم کی نیمہ گاہ .
۲ ۳۴۲		* عَسْكَر مَكْرَم : قدیم ایام میں رستم قواذ کے کھنڈروں کے متصل ایک خیمہ گاہ یا چھاؤنی .
۱ ۳۴۳		* عسکری : (عسکر سے) ، فوجی سپاہی ، عثمانی اصطلاح میں فرمانروا .
۲ ۳۴۳		* العسکری : دو عربی لغوی : (۱) ابو احمد الحسن بن عبداللہ بن سعید (۶۰۶/۵۲۹۳ تا ۶۹۳/۵۳۸۲) ، مصنف کتاب التصحیف ؛ (۲) ابوہلال الحسن بن عبداللہ بن سہل ، مصنف کتاب الفروق اللغویہ وغیرہ (م ۱۰۱۰/۵۳۰۰) .
۱ ۳۴۶		* العَسْكَرِي : رگ بہ حسن عسکری .
۱ ۳۴۶		* عَسِير : مغربی عرب کا ایک علاقہ .
۲ ۳۴۶		* عِشَاء : رگ بہ صلوة .
۲ ۳۴۶		* عِشَاق : ایشیائے کوچک میں ولایت خداوند گار کی سنجاق کوتاہیہ میں ایک قضا کا صدر مقام .
۱ ۳۴۷		* عِشْر : پیداوار پر وصول کیا جانے والا ایک شرعی محصول .
۲ ۳۵۰		* عَشْرَةٌ مَبْشُرَةٌ : دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ہانے والے دس جلیل القدر صحابہ .
۱ ۳۵۱		* العِشَاب : جڑی بوٹیاں جمع کرنے یا فروخت کرنے والا .
۲ ۳۵۱		* عِشَالِي زَادَة : دو معروف ترک خاندان : (۱) قاضی مکہ اور لقیب الاشراف سیریک زادہ عبدالرحمن افندی کے داماد عشاقی زادہ عبدالباقی ، بانی سلسلۂ عشاقیہ (۳۵۰/م) .


صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۵۱	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عشق : زبان و ادب اور تصوف و سلوک کی ایک اصطلاح ، بمعنی محبت ، وفور شوق .
۲ ۳۵۲	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عشق آباد : ۱۹۲۳ء سے سوویٹ جمہوریہ ترکستان کا صدر مقام اور ایک معروف شہر .
۲ ۳۵۳	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عشی : شام ، رات ، نماز عشا کا وقت .
۱ ۳۵۶	۱) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عشیرہ : قبیلہ کا مترادف ، نیز قبیلے کی ایک شاخ .
۱ ۳۵۶	۱) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عصا : چھڑی ، لٹھی ، ڈنڈا .
۱ ۳۵۷	۱) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عیصامی : خواجہ عبدالملک عیصامی (ولادت : نواح ۱۱۱۵ھ / ۱۳۱۱ء) ، ہندوستان کا ایک فارسی شاعر اور غزنویوں کے عہد سے ۱۳۴۹ھ / ۱۳۴۹ء تک کے مسلمان فاتحین و سلاطین کے بارے میں رزمیہ مثنوی فتوح السلاطین یا شاہنامہ ہند کا مصنف (حیات ۱۳۵۱ھ / ۱۳۵۰ء) .
۱ ۳۵۹	۱) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عصبیہ : رگ بہ (۱) علم (میراث) ؛ (۲) الفرائض .
۲ ۳۶۰	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عصبیہ : کسی خاندان یا قبیلے میں نسبی رشتے کا جذبہ ، بعد ازاں قومی حمیت کے مفہوم میں ایک اصطلاح .
۲ ۳۶۰	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عصر : وقت ، زمانہ ، سہ پہر ، نیز ایک نماز کا نام .
۲ ۳۶۱	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* العصر : قرآن مجید کی ایک سو تیسری سورۃ .
۲ ۳۶۱	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عصار : شمس الدین محمد ، ایک ایرانی شاعر ، مصنف مثنوی مہر و مشتری (م ۱۱۸۵ھ / ۱۳۸۳ء) .
۲ ۳۶۲	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عصمت : اصول و عقائد دین میں خطا و گناہ سے مبرا ہونا ، علم عقائد و کلام کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۶۳	۱) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عصمت انولو : یا عصمت پاشا (۱۸۸۰ء تا ۱۹۷۳ء) ، جدید ترکیہ کا نامور قائد ، مدبر ، سپہ سالار ، فاتح سمرنا ، اتاترک کا دست راست اور وزیر اعظم اور بعد ازاں صدر جمہوریہ .
۲ ۳۶۳	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* العیاضہ : علم ہیئت کی اصطلاح ، اصطراب کی پشت پر مرتسم خط یا بصریہ .
۲ ۳۶۶	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عضدالدولہ : ابو شجاع فنا خسرو ابن رکن الدولہ بویہی ، امیر الامراء اور بویہی حکمران (از ۳۳۸ھ / ۹۴۹ء تا ۳۷۲ھ / ۹۸۳ء) .
۲ ۳۶۶	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عضدالدین الایچی : رگ بہ الایچی .
۲ ۳۲۹	۲) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عضدالدین ابو الفرج : محمد بن عبداللہ ، خلیفہ المستضیٰ کا وزیر (م ۵۷۳ھ / ۱۱۷۹ء) .
۱ ۳۷۰	۱) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* العضد : دریائے دجلہ کا ایک مشرقی معاون .
۱ ۳۷۰	۱) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	* عطاء : (بخشش ، عطیہ) ، ابتدائی دور میں مسلمانوں کی پنشن اور آگے چل کر فوجیوں کی تنخواہ کے لیے مستعمل ایک اصطلاح .
۱ ۳۷۱	۱) انیسویں صدی کے اواخر میں سمرنا کے تاجر اور سرکردہ لوگوں کا ایک خاندان .	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۷۳		* عطارد : شمسی نظام کا ایک معروف سیارہ .
		* عطاء بن ابی رباح : مکہ معظمہ کا ایک قدیم نامور فقیہ (م ۵۱۱۴/۴۷۳۲ یا ۵۱۱۵/۴۷۳۳) .
۲ ۳۷۵		* عطاء اللہ شاہ بخاری : رگ بہ مجلس احرار .
۲ ۳۷۶		* عطاء ہے : طیار زادہ عطاء اللہ احمد ، عہد عثمانیہ کا ایک ترک مؤرخ اور مصنف
۲ ۳۷۶		تاریخ عطاء (م ۵۱۲۹۴/۴۱۸۷۷ یا ۵۱۲۹۷/۴۱۸۸۰) .
۲ ۳۷۶		* عطاء ملک جوینی : رگ بہ الجوینی .
		* عطائی : عطاء اللہ بن یحییٰ بن پیر علی بن نصوح ، المعروف بہ نوعی زادہ عطائی
		(۵۹۹۱/۴۱۵۸۳ تا ۵۱۰۳۵/۴۱۶۳۶) ، مشہور ترک شاعر ، معلم ، قاضی اور
۲ ۳۷۶		مشہور تذکرہ الشقائق النعمانیہ کا مضم .
۲ ۳۷۸		* العطار : عطر فروش ، دوا فروش ، جڑی بوٹیاں بیچنے والا .
		* العطار، حسن بن محمد : ۵۱۱۸۰/۴۱۷۶۶ تا ۵۱۲۵۰/۴۱۸۳۵) ، ایک مغربی الاصل
		مصری عالم ، سرکاری اخبار الوقائع المصریہ کا رئیس ادارہ اور
۲ ۳۷۸		مصنف کتاب انشاء العطار .
		* عطار ، فرید الدین محمد بن ابراہیم : (۵۱۳/۴۵۱۳ تا ۵۵۸۶/۴۱۱۹۰) ، مشہور
		صوفی بزرگ اور فارسی شاعر ، مصنف منطق
۱ ۳۷۹		الطیر وغیرہ .
		* عطف : صرف و نحو کی ایک اصطلاح ، بمعنی دو مفرد لفظوں یا جملوں کو کسی حرف
۱ ۳۸۶		کے ذریعے مربوط کر دینا .
		⊙ عظمت اللہ خاں : (۱۸۸۸ تا ۱۹۲۷) ، جدید اردو ادب کی ایک اہم شخصیت ،
۱ ۳۸۷		صاحب طرز شاعر اور نقاد .
۱ ۳۸۹		* عظیم : رگ بہ الاسماء الحسنی .
		* عظیم اللہ خاں : جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے ایک ممتاز قائد اور ماہر فنون حرب (م نواح
۱ ۳۸۹		۵۱۲۷۵/۴۱۸۵۷) .
		* العظیمی : محمد بن علی بن محمد ابو عبد اللہ التتوخی ، المعروف بہ عظیمی (۵۳۸۳/
		۴۱۰۹ تا بعد از ۵۵۵۶/۴۱۱۶۱) ، حلب کا ایک وقائع نگار اور مصنف
۲ ۳۹۰		تاریخ حلب .
۱ ۳۹۱		* عفار : (عفر) ، رگ بہ دنقلی .
۱ ۳۹۱		* عفریت : قوی ، بد اور عیار فرد ، خصوصاً شیطان اور خبیث جن .
۱ ۳۹۲		* عفرین : دریائے العاصی کا ایک معاون .
۱ ۳۹۳		* عفس : مازو .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۹۳		* العَفْوُ : رُكٌّ به الاسماء الحسنی .
۲ ۳۹۳		* عَفِيفُ الدِّينِ التَّلْمِيسَانِي : رُكٌّ به التَّلْمِيسَانِي .
۲ ۳۹۳		* عَقَالِد : رُكٌّ به (۱) عَقِيدَه ؛ (۲) عِلْم (العقائد) .
۲ ۳۹۳		* عِقَاب : ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی سزا ، بدلہ ، بالخصوص مرنے کے بعد مجرم کو خدا کی طرف سے ملنے والی سزا .
۲ ۳۹۳		* عُقَاب : (۱) ہرندوں کا بادشاہ ؛ (۲) علم ہیئت میں ایک صورت فلکی ؛ (۳) علم کیمیا میں نوشادر .
۲ ۳۹۳		* حِصْنُ الْعُقَاب : (Las Navas de Tolosa) ، اندلس کے جنوبی حصے میں عہد اسلامی کا ایک مشہور قلعہ اور اہم معرکہ گاہ .
۲ ۳۹۵		* عَقَارِب : رُكٌّ به عَقْرَبِي .
۲ ۳۹۵		* عَقَال : رُكٌّ به عِمَامَه .
۷ ۳۹۵		* عَقَبَةُ النِّسَاء : رُكٌّ به بَغْرَاس .
۲ ۳۹۵		* الْعَقَبَةُ : شرق اردن کی ہاشمی سلطنت کی واحد بندر گاہ .
۲ ۳۹۵		* الْعَقَبَةُ : منی اور مکہ کے درمیان الصار مدینہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کا مقدس مقام .
۱ ۳۹۷		* عَقْبَه بن نَافِع : بن عبد قیس القرشی الفہری ، شمالی افریقہ میں ابتدائی عرب فتوحات کو استوار اور محکم بنانے اور بربری مقاومت کو ختم کرنے والا نامور سپہ سالار (م ۵۶۳/۵۸۳ء) .
۲ ۳۹۷		* عَقْد : اسلامی شریعت کی اصطلاح ، بمعنی کوئی ایک قانونی سلسلہ عمل ، مثلاً معاہدہ ، یا کوئی یک طرفہ اعلان مثلاً وصیت وغیرہ .
۲ ۴۰۰		* عَقْدُ الْاَلَامِل : رُكٌّ به حساب العقد .
۱ ۴۰۵		* الْعَقْدُ : رُكٌّ به حساب العقد .
۱ ۴۰۵		* عَقْرَب : بچھو .
۱ ۴۰۵		* عَقْرَبَاء : دو جگہوں کا نام ؛ (۱) یمامہ کی سرحد پر مسلمانوں اور حامیانِ مسیلمہ کذاب کے مابین جنگ کا مقام ؛ (۲) جولان کے غسانی بادشاہوں کی ایک سکونت گاہ .
۲ ۴۰۶		* عَقْرَبِي : نواح عدن کا ایک جنوبی عرب قبیلہ .
۱ ۴۰۶		* عَقْرَقُوْف : بغداد کے مغرب میں زمانہ قبل از مسیح کا ایک ویران شہر .
۱ ۴۰۷		* عَقْرَقِي : یورپی مینا .
۱ ۴۰۸		* عَقْل : فقہ ، سمجھ ، انسانی خواص میں سے ایک .
۲ ۴۰۸		* عَقْلِيَّات : عام الکلام کی ایک اصطلاح .
۱ ۴۱۰		* عَقْرَبَات : رُكٌّ به (۱) عَذَاب ؛ (۲) حُد .
۱ ۴۱۱		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۱۱		* عقیدہ : عرب بدوؤں کی سہمت اور لڑائیوں میں سپہ سالار .
۲ ۳۱۱		* عقیدہ : رگ بہ علم (العقائد) .
۲ ۳۱۳		* عقیق : ایک قیمتی پتھر .
۱ ۳۱۳		* العقیق : کئی وادیوں ، کانوں اور دوسری جگہوں کا نام .
۱ ۳۱۶		* عقیقہ : بچے کی ولادت کے ساتویں دن دی جانے والی قربانی .
۱ ۳۱۸		* عقیل بن ابی طالب : ایک مشہور اور مدبر صحابی ، حضرت علیؓ اور حضرت جعفر طیارؓ کے بڑے بھائی (م . ۵۵ / ۶۷۰) .
۲ ۳۱۸		* عقیل ، بنو : (۱) ایک قدیم عربی قبیلہ ؛ (۲) بنو عقیل (مقامی تلفظ عگیل) ، کارواں سالاروں اور شتر فروشوں کا نام .
۱ ۳۲۳		* عقیلیہ : الموصل کا ایک حکمران خاندان .
۲ ۳۲۶		* عک : ایک قدیم عربی قبیلہ .
۱ ۳۲۷		* عکاظ : دور قدیم میں اپنے سالانہ میلے کے باعث معروف ، طائف اور نخلہ کے درمیان ایک نخلستان .
۱ ۳۲۸		* عکہ : قاسطین کی بندرگاہ اور صلیبی جنگوں کی مشہور معرکہ گاہ .
۱ ۳۲۹		* العکوک : ایک عرب قصیدہ گو شاعر علی بن جبہ (۵۱۶ / ۵۷۷ تا ۵۲۱۳ / ۵۸۲۸) کا لقب .
۲ ۳۲۹		* علاء : ایک تعظیمی لقب ، مثلاً علاء الدولہ ، علاء الدین وغیرہ .
۱ ۳۳۰		* علاء الدولہ : رگ بہ کا کوہ (بنو) .
۱ ۳۳۰		* علاء الدولہ السنالی : (۵۶۵۹ / ۶۱۲۶۱ تا ۵۷۳۶ / ۶۱۳۳۶) ، رکن الدین ابوالمکارم احمد بن شرف الدین محمد بن احمد البیابانکی ، ایک نامی گراسی صوفی اور مصنف مشارع ابواب القدس وغیرہ .
۱ ۳۳۳		* علاء الدین : رگ بہ غوری .
۱ ۳۳۳		* علاء الدین بیگ : المعروف بہ علاء الدین پاشا ، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کا بیٹا (م نواح ۶۱۳۳۳) .
۲ ۳۳۳		* علاء الدین حسین پاشا : رگ بہ حسین شاہ .
۲ ۳۳۳		* علاء الدین محمد ان حسن : رگ بہ الموت .
۲ ۳۳۳		* علاء الدین محمد خلجی : رگ بہ خلجی .
۲ ۳۳۳		* علائہ : رگ بہ الایہ .
۲ ۳۳۳		* علاقہ : رگ بہ نسبت ، در لاک لائیڈن ، بار دوم .
۲ ۳۳۳		* العلالی : دریائے لیل اور بحیرہ احمر کے درمیان نوبہ زبیری کی ایک وادی .
۲ ۳۳۳		* علامہ : نشان توثیق یا امضای مختصر ، اسلامی مغربی ممالک میں خاندان مومنیہ

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
		کے زمانے سے دفتر خانے کے تمام سرکاری کاغذات پر مختصر دستخطی کے لیے مستعمل ایک اصطلاح .
۱	۴۳۵	* علام : عالم سے مبالغے کا صیغہ ، مختلف علماء کے القاب .
۲	۴۳۵	* علامی : رک بہ ابوالفضل .
۲	۴۳۵	⊗ علامی : جملة الممالک مدارالمہام علامی فہامی سعد اللہ خاں بن شیخ امیر بخش چنیوٹی ثم لاہوری ، اپنے زمانے کی ایک نادر و ممتاز شخصیت ، عہد شاہجہانی میں وزیر اعظم (م ۱۰۶۶/۵۱۰۶۶ء) .
۲	۴۳۵	* علث : (یا العث) ، بغداد کے شمال میں ایک قصبہ .
۱	۴۳۸	⊗ العلق : قرآن مجید کی چھیانوہیں سورۃ .
۱	۴۳۹	* علقمہ : بن عبدة التیمی الملقب بہ النحل ، چھٹی صدی عیسوی کے نصف اول کا ایک قدیم عرب شاعر .
۱	۴۴۰	* العلقمی : دریائے فرات کی ایک مغربی شاخ .
۲	۴۴۱	* علم : نشان مقام و راہ ، پرچم ، لواء .
۱	۴۴۲	*⊗ علم : جہل کی ضد :
۲	۴۴۳	(الف) لغوی بحث :
۲	۴۴۳	علم کی باضابطہ تعریفیں :
۱	۴۴۵	علم کے مختلف تصورات :
۲	۴۴۷	قرآن مجید کی رو سے :
۲	۴۵۱	علم حدیث کی رو سے :
۱	۴۵۵	فقہا اور متکلمین کی رائے :
۱	۴۵۹	عقلی تصورات :
۲	۴۷۳	شیعی تصورات :
	۴۸۳	صوفیہ کے خیالات !
۲	۴۸۸	قدیم اسلامی نظریے کی خصوصیات :
۱	۴۹۱	یورپی نشاہ الثانیہ پر اسلامی تحریک کا اثر :
۱	۴۹۷	مسلمانوں کا علمی نظریہ ، دور جدید ،
۱	۵۰۱	(ب) علوم مدونہ .



جلد ۱/۱۲

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر
۱	۱ - علوم دینیہ :	
۱	(۱) علوم القرآن (نیز رگ بہ قرآن) :	۵۶۴
۱	(۲) علوم الحدیث :	۸۶۸
۱	(۳) علوم الفقہ :	۱۲۶
۱	(۴) علم المیراث :	۱۲۲
۱	(۵) علم العقائد :	۳۲
۱	(۶) علم کلام [نیز رگ بہ ، (۱) علم نحو : (۲) کلام] :	۶۱
۲	(۷) علم تصوف : (نیز رگ بہ تصوف) :	۱۲۳
۲	(۸) علم الاخلاق :	۱۳۳
۱	(۹) علم النفس :	۱۳۲
	۲ - دیگر علوم :	
۲	(۱) سوانحی اور تاریخی ادب :	۱۴۳
۲	سوانحی ادب :	۱۴۲
۱	(الف) دینی سوانحی ادب :	۱۴۳
۲	علم سیرة :	۱۴۳
۲	علم رجال (رگ بہ اسماء الرجال) :	۱۸۵
۲	علم طبقات .	۱۸۵
۲	(ب) عام (غیر دینی) سوانحی ادب :	۱۸۵
۲	معجمات ؛ وفيات ؛	۱۸۵
۱	اخبار ؛ تذکرہ ؛ سوانح عمری ؛	۱۸۶
۱	(ج) تاریخی ادب :	۱۸۷
۱	تاریخ (رگ بان) ؛ بدائع وقائع .	۱۸۷
۲	تاریخی قصص و حکایات ؛ (رگ بہ تاریخ ، حکایہ ، قصہ) .	۱۹۳
۱	(۲) جغرافیہ :	۱۹۵
۱	(الف) علم جغرافیہ (رگ بہ جغرافیہ) ؛	۱۹۵
۱	(ب) علم العجائب ؛	۱۹۵

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
		۳ - علوم الادب واللسان :
		تمہید: ⊗
۱ ۱۹۸		علم الصرف: ⊗
۱ ۱۹۹		علم نحو: ⊗
۱ ۲۰۳		علم الاشتقاق: ⊗
۱ ۲۰۶		علم اللغة: ⊗
۲ ۲۰۹		انشا: [رک باں]: ⊗
۲ ۲۳۰		بلاغت: [رک باں]: ⊗
۲ ۲۳۰		معانی و بیان: رک بہ (۱) بیان: (۲) معانی: ⊗
۲ ۲۳۰		فنون شعر: رک بہ (۱) فن (شعر و شاعری): (۲) شاعر: ⊗
۲ ۲۳۰		محاسن ادب و نقد ادب: رک بہ (۱) بلاغت: (۲) بیان: (۳) ادب: جدید نظم: ⊗
۲ ۲۳۰		(الف) عربی: رک بہ العریہ: ⊗
۲ ۲۳۰		(ب) فارسی: رک بہ ایران: ⊗
۲ ۲۳۰		(ج) اردو: رک بہ (۱) اردو: (۲) پاکستان: ⊗
۲ ۲۳۰		(د) ترکی: ⊗
۲ ۲۳۶		جدید نثر: رک بہ انشا: ⊗
		۴ - علوم الحکمیہ :
۱ ۲۳۷		تمہید: ⊗
۲ ۲۴۲		علم الہیات: ⊗
۱ ۲۴۸		علم منطق: *⊗
۲ ۲۶۱		علوم ریاضیات: ⊗
۲ ۲۶۱		تمہید: ⊗
۲ ۲۷۵		علم الحساب: *⊗
۱ ۲۷۹		علم الهندسہ: *
۲ ۲۸۱		علم المساحة: *
۲ ۲۸۷		علم الجبرو المقابله [رک باں]: *
۲ ۲۸۷		علم ہیئت: *⊗
۱ ۳۰۲		علم زیج و تقویم: رک بہ (۱) تاریخ: (۲) زبان: ⊗
۱ ۳۰۳		علم المثلثات: ⊗
۲ ۳۰۳		علم جمل: رک جمل: ⊗

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۰۳		علم نجوم : *
۲ ۳۱۱		علم جفر : رک بہ جفر : ⊗
۲ ۳۱۱		علم الحروف : *
۲ ۳۱۳		علم سیمیا : *
۱ ۳۱۴		علم رمل : ⊗
۱ ۳۲۱		علم موسیقی : رک بہ فن (موسیقی) : ⊗
۱ ۳۲۱		علم حساب العقد : رک بہ حساب العقد : ⊗
۱ ۳۲۱		علم حساب الغبار : رک بہ حساب الغبار : ⊗
۲ ۳۲۱		۵ - علوم طبیعیہ : ⊗
۲ ۳۲۱		تسمیہ : ⊗
۲ ۳۲۳		علم طبیعیات : ⊗
۱ ۳۲۹		علم الکیما : * ⊗
۲ ۳۳۴		علم المعادن : ⊗
		۶ - علوم عملی طبیعیات :
۱ ۳۵۰		علم طب : ⊗
۲ ۳۵۹		علم فلاحت : *
۲ ۳۸۶		۷ - علوم حکمت عملی : ⊗
۲ ۳۸۶		علم سیاسیات : رک بہ سیاست : ⊗
۲ ۳۸۶		علم معاشیات : ⊗
۲ ۳۸۶		علم عمرانیات : ⊗
۱ ۳۹۷		۸ - طلسم و لیرلجات : ⊗
۱ ۳۹۷		علم تعبیر خواب : رک بہ الرویاء : ⊗
۱ ۳۹۷		علم فال : ⊗
۲ ۵۰۲		۹ - قصص و حکایات :
۲ ۵۰۲		حکایت : [رک ہاں] : ⊗
۲ ۵۰۲		قصہ : [رک ہاں] : ⊗
۲ ۵۰۲		مقامہ : ⊗
۱ ۵۰۹		علم معاضرات : ⊗
		۱۰ - صناعات و متفرقات :
		(۱) صناعات :
۱ ۵۱۴		علم بحریات : رک بہ (۱) ابن ماجہ : (۲) ہار ہوروسہ : (۳) سلیمان الصہری : ۱ ۵۱۴ : ⊗

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۱۲	علم حرییات : رک بہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بذیل غزوات) :	⊗
۱ ۵۱۲	علم (فن) الفروسیہ .	*
	(۲) - متفرقات :	
۲ ۵۱۸	علم الجمال :	⊗
۱ ۵۲۱	علم (تعلیم والتعلم) : رک بہ المتعلم والمعلم .	⊗
۲ ۵۲۱	علماء : رک بہ المتعلم والمعلم .	⊗



صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۱	۱	① عَلَمَدَار : عباس بن علیؑ بن ابی طالب ، حضرت علیؑ کے بیٹے اور میدان کربلا میں فوج حسینیؑ کے علمبردار (م . محرم الحرام ۵۶۱) .
۲	۳	② الْعَلَمَى : عَلَمُ الدِّين (م . ۵۷۹/۵۱۳۸۸ء) سے منسوب یروشلم کا ایک قدیم خاندان .
۲	۵	③ الْعَلَمَى : محمد بن الطیب (م ۱۱۳۴ یا ۵۱۱۳۵/۵۱۷۲۱ء) ، مراکش کا ایک شاعر اور ادیب ، مصنف انیس المطرب .
۱	۶	④ عِلْمِيَّة : عدلیہ اور مدارس سے متعلق دولت عثمانیہ میں بلند پایہ علما کی ایک جماعت .
۲	۱۰	⑤ عَلَوَا (یا عَلَوَة) : نُوبَة (رک باں) کی ایک قوم اور سلطنت کا نام .
۳	۱۱	⑥ عَلُوك : رِکِّ بَہِ الْجِنِّ .
۱	۱۱	* ⑦ عَلُوم : رِکِّ بَہِ عِلْم (علوم مَدَوْنَة) .
۱	۱۱	* عَلَوِيّ : جنوبی یمن کا ایک قبیلہ اور ضلع .
۲	۱۱	* عَلَوِيُون : (علویہ) ، مراکش کا موجودہ حسنی النسل حکمران خاندان (از ۱۰۷۵ء/۵۱۶۶۳ء) .
۱	۱۹	* عَلَوِيَّة : بنو علیؑ ، یعنی حضرت علیؑ کی اولاد و احفاد .
۱	۲۴	* الْعَلِيّ : رِکِّ بَہِ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنَى .
۱	۲۴	⑧ عَلِيّ بن ابی طالب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم اور داماد ، خلیفہ رابع (از ۳۶ تا ۵۴ھ) ، اثنا عشری شیعوں کے امام اول اور عظیم بطل اسلام (شہادت ۱۷ رمضان المبارک ۵۴ھ) .
۱	۷۲	* عَلِي بن الجہم : بن بدر بن الجہم السامی ، بحرین کے قبیلے بنو سامہ بن لؤی کا ایک عرب شاعر (م ۵۲۴۹/۵۸۶۳ء) .
۱	۷۳	* عَلِي بن الحسن بن المسلمہ : رِکِّ بَہِ ابْنِ الْمُسْلِمِہ .
۱	۷۳	* عَلِيّ (سیدی علی) حسین : تخلص کیاتب رومی ، ایک ترک امیر البحر ، شاعر ، محقق اور مصنف (م بعد از ۱۵۵۷ء) .
۲	۷۴	* عَلِي بن الحسين التولسی : رِکِّ بَہِ زَيْن الْعَابِدِيْن ، در لال لائیڈن ، بار دوم .
۲	۷۴	* ⑨ عَلِيّ بن الحسينؑ ، زین العابدینؑ : حضرت علیؑ کے پوتے اور اہل بیت نبویؐ کے چشم و چراغ ، فرقہ امامیہ کے چوتھے امام (م ۵۹۲م/۵۷۱ء یا ۵۹۳/۵۷۲ء) .
۱	۸۷	* عَلِي بن الحسين بن محمد بن احمد القرشی : رِکِّ بَہِ اَبُو الْفَرَجِ الْاَصْبَهَالِيّ .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۸۷		* علی بن حمود : رگ بہ حمودیون (بنو حمود) .
۱ ۸۷		* علی بن ابن الطبری : ابو الحسن علی بن سهل (۵۱۹۲/۵۸۰۸ تا ۵۲۳۷/۵۸۶۱) ، ایک یگانہ روزگار طبیب ، فلسفی اور فردوس الحکمة کا مصنف .
۱ ۸۸		* علی بن رضوان : ابو الحسن ، مصر کا مشہور طبیب ، ماهر فلکیات ، ریاضی دان اور متعدد کتابوں کا مصنف (م ۵۳۵۳/۶۱۰۶۱) .
۲ ۸۸		* علی بن زید البیہقی : رگ بہ البیہقی .
۲ ۸۸		* علی بن شمس الدین : گیلان کی ایک تاریخ (تاریخ خانی) کا مصنف .
۱ ۸۹		* علی بن شہاب الدین بن محمد الہمدانی : الملقب بعلی الثانی (۵۷۱۳ / ۱۳۱۳ء تا ۵۷۸۶/۱۳۸۵ء) ، ایک صوفی بزرگ اور کشمیر کے سب سے پہلے اسلامی مبلغ .
۱ ۹۰		* علی بن صالح : رگ بہ واسع علیسی .
۱ ۹۰		* علی بن ظافر الازدی : ابو الحسن جمال الدین (ولادت ۵۶۷/۱۱۷۱ء) ، ایک عرب مؤرخ ، ادیب اور مختلف کتب مثلاً الدول المنقطعه کا مصنف .
۲ ۹۰		* علی بن العباس المجوسی : (Haly Abbas) ، فن طب پر قرون وسطیٰ کا مصنف اور صاحب کتاب الصناعة یا کتاب الماکلی (م مابین ۹۸۲ و ۹۹۵ء) .
۱ ۹۱		* علی بن عبداللہ بن العباس : (۵۶۶۱/۸۳۰ تا ۱۱۷ - ۵۱۱۸/۷۳۵ - ۷۳۶) ، خلفائے بنو عباس کے جد امجد .
۱ ۹۲		* علی بن عیسیٰ : رگ بہ ابن الجراح .
۱ ۹۲		* علی بن عیسیٰ : پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی کا معروف ترین عرب ماهر امراض چشم اور مصنف تذکرۃ الکحالین .
۲ ۹۳		* علی بن غالیہ : رگ بہ غائبہ ، بنو .
۲ ۹۳		* علی بن محمد : النقی ، الہادی (۵۲۱۳/۸۲۹ء تا ۵۲۵۳/۸۶۸ء) ، اثنا عشریہ کے دسویں امام .
۱ ۹۸		* علی بن محمد الزنجی : المعروف بہ الزنج ، جنوبی عراق کے دہشت گرد اور شورش پسند حبشی غلاموں (رگ بہ زنج) کا سردار (م ۵۲۷۰/۸۸۳ء) .
۱ ۹۹		* علی بن محمد (الصلیحی) : رگ بہ صلیحی .
۱ ۹۹		* علی بن محمد القوشجی ، علاءالدین : ماهر ہیئت ، ریاضی دان اور صاحب حل اشکال القمر (م ۵۸۷۹/۶۱۳۷۳) .
۱ ۱۰۰		* علی بن معصوم : رگ بہ علی خان .
		* علی بن موسیٰ الرضا : الملقب بہ سلطان العرب و المعجم و امام ثامن ضامن (۵۱۳۸/۸۱۳۸) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۱۰۰	۱۶۶۵ تا ۱۸۱۸/۵۲۰۳) اثناعشریہ کے آٹھویں امام .	
۲ ۱۰۶		* علی بن مہدی : رگ بہ المہدی (آل) .
		* علی بن میمون بن ابی بکر الادریسی المغربی : (نواح ۸۵۳/۵۸۵۳ تا ۱۳۵/۵۹۱۱ تا ۱۵۱۱/۵۹۱۱) ، بربرنسل سے (مگر علوی ہونے کے
۲ ۱۰۶		مدعی) مشہور مراکش صوفی .
		* علی بن یوسف تاشفین : المرابطی امیر، خاندان تاشفین کا دوسرا سردار اور المغرب کے بڑے حصے اور جنوبی اندلس کا فرمانروا (از ۱۱۰۶/۵۵۰۰ تا
۱ ۱۰۷		۱۱۳۳/۵۵۳۷) .
		* علی ابراہیم خان بہادر : نواب امین الدولہ عزیز الملک خان بہادر علی ابراہیم خان خلیل عظیم آبادی (۱۱۳۸/۵۱۳۸ تا ۱۲۰۸/۵۱۲۰۸)
		(۱۲۹۳/۵۱۲۹۳) ، مشہور مؤرخ ، تذکرہ نگار ، ادیب ، شاعر ، اور مصنف گلزار ابراہیم وغیرہ .
۲ ۱۱۰		
۲ ۱۱۳		* علی ابو العین بن مامون : رگ بہ مامونہ .
		* علی اکبر خطای : چین کے احوال و کوائف پر فارسی کتاب خطای نامہ (تصنیف ۱۵۱۶/۵۹۲۲) کا مصنف .
۲ ۱۱۳		
۱ ۱۱۵		* علی الہی : الوہیت علی کے قائل غالی شیعوں کا ایک فرقہ .
		* علی امیری : (۱۲۷۳/۵۱۲۷۳ تا ۱۸۵۷/۵۱۸۵۷) ، ایک ترک عہدے دار ، مؤرخ اور صاحب تاریخ و ادبیات وغیرہ .
۱ ۱۱۵		
۲ ۱۱۵		* علی بابا : رگ بہ الف لیلة و لیلة .
		* علی بک (بے) : مولدا قفقازی ، مصر کی ایک ممتاز اور قسمت آزما شخصیت (۱۱۸۷/۵۱۱۸۷)
۲ ۱۱۵		(۱۲۷۳/۵۱۲۷۳) .
۱ ۱۱۸		* علی بن عثمان العباسی : (۱۲۶۶/۵۱۲۶۶ تا ۱۸۱۸/۵۱۸۱۸) ، ایک ہسپانوی سیاح .
۱ ۱۱۸		* علی پاشا تپہ دن لی : (۱۲۳۳/۵۱۲۳۳ تا ۱۸۲۲/۵۱۸۲۲) ، یانیہ (Jannina) اور بعد ازاں آناطولی کا والی .
		* علی پاشا چالدارلی زادہ : (جنوری زادہ) ، دولت عثمانیہ کا قاضی عسکر ، بعد ازاں صدر اعظم (م ۱۸۰۹/۵۱۳۰۷) ،
۲ ۱۲۱		
۱ ۱۲۳		* علی پاشا چورلولی : (۱۶۷۰/۵۱۶۷۰ تا ۱۷۱۱/۵۱۷۱۱) ، دولت عثمانیہ کا ایک صدر اعظم .
		* علی پاشا حکیم اوغلو : (۱۶۸۹/۵۱۶۸۹ تا ۱۷۷۱/۵۱۷۷۱) ، عثمانی سلاطین محمود خان اول اور عثمان خان ثالث کے عہد کا صدر اعظم .
۱ ۱۲۳		
		* علی پاشا خادم : دولت عثمانیہ میں پہلے آق آغاسی ، پھر بیگر بیگی اور بالآخر صدر اعظم (م ۱۵۱۱/۵۹۱۱) .
۲ ۱۲۵		
۱ ۱۲۶		* علی پاشا داماد : (۱۶۶۷/۵۱۶۶۷ تا ۱۷۶۸/۵۱۷۶۸) ، دولت عثمانیہ کا صدر اعظم .

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۱ ۱۲۷		* علی پاشا رضوان : بیگو وچ : رگ بہ رضوان بیگو وچ (در لائڈن ، بار دوم) .
۲ ۱۲۷		* علی پاشا سمیز : دولت عثمانیہ کا ایک صدر اعظم (م ۱۵۶۵/۸۹۷۲) .
۱ ۱۲۸		* علی پاشا سورمہ لی : دولت عثمانیہ کا ایک صدر اعظم (م ۱۶۹۵/۸۱۱۰۶) .
۲ ۱۲۸		* علی پاشا عرابہ جی : (آرابہ جی : نواح ۱۰۳۰-۱۰۳۲/۸۱۰۳۲-۱۶۲۰ تا ۱۶۲۲ تا ۸۱۱۰۳) / ۱۶۹۳) ، دولت عثمانیہ کا ایک صدر اعظم .
۱ ۱۲۹		* علی پاشا کوزلجہ : دولت عثمانیہ کا امیر البحر اعظم اور بعد ازاں صدر اعظم (م ۱۶۳۱) .
۲ ۱۲۹		* علی پاشا مبارک : (۱۸۲۳/۸۱۲۳۹ تا ۱۸۹۳/۸۱۳۱۱) ، ایک مصری سیاست دان اور مصنف ، صاحب الخطط الجديدة التوفیقیہ .
۲ ۱۳۰		* علی تگین : ماوراء النہر کا ایک ایلخانی حکمران (م ۳۲۵ - ۳۲۶/۸۳۲۶) .
۲ ۱۳۱		* علی چلبی : رگ بہ واسع علیسی .
۲ ۱۳۱		* علی حیدر : (۱۱۰۱/۸۱۱۰۱ تا ۱۶۹۰/۸۱۱۹۹) ہنجابی کے ایک ممتاز شاعر .
۲ ۱۳۲		* علی خان : رگ بہ مہدی خان .
۲ ۱۳۲		⊗ علی خان ، مرزا سید : بن احمد بن محمد الحسینی (۱۰۵۲/۸۱۰۵۲ تا ۱۱۱۸/۸۱۱۱۸) / ۱۷۰۷) ، مصنف سلافة العصر فی محاسن اعیان العصر ، سلوة الغریب ، وغیرہ .
۲ ۱۳۳		⊙ علی الرضا بن موسی بن جعفر : رگ بہ علی بن موسی الرضا .
۲ ۱۳۳		* علی رضا عباسی : (آقا رضا) ، دسویں - گیارہویں صدی ہجری میں ایران کا ایک مشہور مصور .
۱ ۱۳۶		* علی شاہ مردان : حضرت علیؑ کا ایک لقب .
۱ ۱۳۶		* علی شیر قانع : میر (۱۱۳۰/۸۱۱۳۰ تا ۱۷۲۷/۸۱۲۰۳) ، ایک سندھی مؤرخ ، مقالات الشعراء اور تحفہ الکرام وغیرہ کا مصنف .
۱ ۱۳۷		* علی شیر لوالی : علی شیر بیگ یا امیر علی شیر المتخلص یہ نوائی (۱۳۳۱ تا ۱۵۰۱) ، وسط ایشیا کے ترکی ادب کی سب سے بڑی شخصیت .
۲ ۱۵۳		* علی عزیز الندی گردلی : ایک ترک سیاستدان اور مصنف (م ۱۷۹۸/۸۱۲۱۳) .
۲ ۱۵۳		* علی کبیر محمد : معروف بہ میرن جان الہ آبادی (۱۲۱۲/۸۱۲۱۲ تا ۱۷۹۷) نواح ۱۸۳۸/۸۱۲۶۵) ، فارسی زبان کے شاعر ، مصنف اور مترجم .
۱ ۱۵۵		* علی کوچک : رگ بہ بکتگین .
۱ ۱۵۵		* علی گڑھ : (ہرانا نام کول) ، اتر ہریش (بھارت) میں اسلامیان ہند کے تعلیمی مرکز مسلم یونیورسٹی کی بنا پر معروف شہر اور ضلعی صدر مقام .
۱ ۱۵۶		* علی گڑھ تحریک : سرسید احمد خان کے زیر قیادت اسلامیان ہند کی ایک اہم تعلیمی اور تہذیبی تحریک .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۱۵۸		⊗ علی المتقی : رک بہ المتقی الہندی .
۲ ۱۵۸		* علی محمد شیرازی : رک بہ باب .
۲ ۱۵۸		⊗ علی مردان : رک بہ مبتلا .
۲ ۱۵۸		⊗ علی مردان : ساتویں صدی ہجری میں بنگالہ میں اقتدار حاصل کرنے والا ایک خلجی قسمت آزما (۸۶۱۵/۴۱۲۱۳) .
۲ ۱۵۹		* علی مردان خان : نادر شاہ کے قتل (۴۱۷۳) کے بعد شہرت حاصل کرنے والا ایک بختیاری سردار (م نواح ۱۱۶۳/۴۱۷۵) .
۱ ۱۶۰		⊗ علی مردان خان ، امیرالامرا : عہد شاہجہانی کا ایک جلیل القدر امیر ، کشمیر و پنجاب کا صوبیدار اور خوبصورت باغات اور عمارات بنوانے کا شائق (م ۱۰۶۷/۴۱۶۵۷) .
۱ ۱۶۲		⊗ علی المہالمی : الملقب بہ مخدوم ابوالحسن علاء الدین؛ ہندوستان کے ایک ممتاز عالم اور مصنف تفسیر تبصیر الرحمن وغیرہ (م ۸۳۵/۴۱۳۳۲) .
۱ ۱۶۳		* علی واسع : رک بہ واسع علی .
۱ ۱۶۳		* علی وردی خان : الملقب بہ مہابت جنگ ، اواخر دور مغلیہ میں بہار ، بنگال اور اڑیسہ کا ایک معروف نائب السلطنت (م ۱۷۵۶) .
۱ ۱۶۳		⊗ علی ہجویری : رک بہ داتا گنج بخش " .
۱ ۱۶۳		* علیم : رک بہ (۱) الاسماء الحسنی ؛ (۲) علم .
۱ ۱۶۳		⊗ علیم الدین (حکیم) : رک بہ وزیر خان .
۲ ۱۶۳		* اَلْعَلِمِي : ابو الیمن مجیر الدین عبدالرحمن (۸۸۶/۴۱۳۵۶ تا ۹۲۸/۴۱۵۲۲) ، ایک عرب مؤرخ ، مصنف الانس الجلیل بتاريخ القدس و الخلیل وغیرہ .
۲ ۱۶۵		* علیون : قرآن مجید کی ایک کثیر المعانی اصطلاح .
۲ ۱۶۵		* عماد الدولہ : ابو الحسن علی بن بویہ الدیلمی ، بنو بویہ کا پہلا حکمران (از ۸۳۲۲/۴۹۳۳ تا ۸۳۳۸/۴۹۳۹) .
۱ ۱۶۶		* عماد الدین : ابو عبداللہ محمد بن محمد الکاتب الاصفہانی (۵۱۹/۱۱۲۵ تا ۵۹۷/۱۲۰۱) ، عربی کا مشہور صاحب طرز الشاہرداز اور مؤرخ ، مصنف خریدة القصر و جریدة اهل العصر .
۱ ۱۶۷		* عماد شاہ : رک بہ عماد شاہیہ .
۱ ۱۶۷		* عماد شاہیہ : فتح اللہ عماد الملک سے منسوب، ہرار (رک بان) کا ایک حکمران خاندان (از ۱۳۹۰ تا ۱۵۷۲) .
۱ ۱۶۸		● عمادی غزلوی : (نیز عمادی شہر یاری) ، عہد سلاجقہ کا ایک فارسی شاعر (م مابین ۵۳۰/۱۱۳۵ و ۵۴۵/۱۱۵۰) .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۴۱		* عمادیدہ : موصل سے شمال میں کردستان کا ایک معروف مردم خیز شہر .
۲ ۱۴۲		* عمارہ : جنوبی عراق میں ۱۹۱۳ء تک اسی نام کی سنجاق کا صدر مقام .
۲ ۱۴۳		* عمارۃ : بمعنی مکان ، حویلی ، نیز ترکیہ میں دینیات کے متعلمین کے لنگر خانے .
۱ ۱۴۳		* عمارہ بن ابی الحسن علی : بن زیدان الیمنی (۵۱۵ھ/۱۱۲۱ء تا نواح ۵۶۹ھ/۱۱۷۳ء) ، فاطمیوں کے عہد کا ایک عرب ادیب اور صاحب دیوان شاعر .
۲ ۱۴۶		* عمالِقہ : (عمالِق ؛ بائبل : Amalekites) ، مسلمانوں کی ادبی روایات میں یہودیوں کی مخالف ایک قدیم قوم .
۲ ۱۴۷		* عمامہ : پگڑی ، دستار ؛ مشرق کے اسلامی ملکوں میں مردوں کے سر کا لباس .
۲ ۱۹۶		* عمان : خلیج فارس پر ایک آزاد اسلامی ریاست .
۲ ۲۰۲		* عمر بن ایوب : رگ بہ (۱) حماة ؛ (۲) ایویہ .
۲ ۲۰۲		* عمر بن حفص : (ابو جعفر) ، خلیفہ المنصور عباسی کے عہد میں والی افریقیہ (از ۱۵۱ھ/۷۶۸ء) اور معروف سپہ سالار (م ۱۵۳ھ/۷۷۱ء) .
۱ ۲۰۳		* عمر بن حفصون : اندلس کے اموی حکمرانوں کے خلاف ایک طویل بغاوت کا قائد (م ۳۰۶ھ/۹۱۸ء) .
۱ ۲۰۴		* عمر بن الخطاب : امیر المؤمنین ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز صحابی اور خلیفہ ثانی ، بطل اسلام ، فاتح اعظم اور عظیم مدبر (شہادت ۲۳ھ/۶۴۴ء) .
۲ ۲۳۰		* عمر بن ابی ربیعہ : (۲۳ھ/۶۴۴ء تا ۱۲ھ/۷۱۲ء) ، اموی عہد کا ممتاز ترین غزل گو شاعر .
۲ ۲۳۲		* عمر بن عبدالعزیز : بن مروان بن الحکم ، ابو حفص ، خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرنے والے صالح اور عادل اموی خلیفہ (از ۹۹ تا ۱۰۱ھ) .
۲ ۲۳۷		* عمر بن علی : (شرف الدین) المصری السعدی ، المعروف بابن الفارض ، ایک مشہور عرب صوفی شاعر (۵۷۶ھ/۱۱۸۱ء تا ۶۳۲ھ/۱۲۳۵ء) .
۱ ۲۳۹		* عمر بن ہبیرہ : رگ بہ ابن ہبیرہ .
۱ ۲۳۹		* عمر الندی : ترکیہ میں عہد عثمانیہ کا ایک قاضی اور مؤرخ ، مصنف غزوات حکیم اوغلو علی پاشا (م بعد از ۱۱۵۲ھ/۱۷۳۹ء) .
۲ ۲۳۹		* عمر خیام : سلجوقی عہد کا مشہور ایرانی سائنس دان ، عالم ہیئت و ریاضیات ، شاعر اور عظیم رباعی گو (م ۱۱۳۲ھ/۱۵۲۶ء) .
۲ ۲۳۹		* عمران : (عبرانی : عمرام) ، بروئے توریت حضرت موسیٰ کے والد اور تاریخ بنی اسرائیل کے ایک نامور شخص ؛ بروئے قرآن مجید حضرت عیسیٰ کے نانا .

صفحہ نمبر	اشارات	تنوان
۲ ۲۵۰	عہد حجاج بن یوسف الثقفی کا ایک عرب شاعر ، قرآن مجید اور احادیث کا عالم ۔	* عمران بن حِطَّان السدوسی : البصری ،
۲ ۲۵۱	اور بعد ازاں حاکم بطائح (م ۵۳۶۹/۴۹۷۹) ۔	* عمران بن شاہین : آل بویہ کے زمانے میں زیریں فرات کے دلدلی علاقے کا ایک رہزن
۲ ۲۵۱	دہلی کے ایک مشہور عالم، مدرس اور متعدد کتب (مثلاً شرح کنز الدقائق) کے مصنف ۔	* العِمْرالی : معین الدین الہندی ، آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں
۱ ۲۵۲	عمرانیات : رگ بہ علم (عمرانیات) ۔	* عُمْرانیات : رگ بہ علم (عمرانیات) ۔
۱ ۲۵۲	عمر کوٹ : (امر کوٹ) ، سندھ میں سیاسی و تاریخی اعتبار سے ایک اہم قدیم قصبہ ۔	* عمر کوٹ : (امر کوٹ) ، سندھ میں سیاسی و تاریخی اعتبار سے ایک اہم قدیم قصبہ ۔
۲ ۲۵۳	عمر بن امیہ : بن خویلد ، مشہور صحابی اور عہد نبوی میں ممتاز سیاسی خدمات انجام دینے والے مجاہد (م قبل از ۸۶) ۔	* عمرو بن امیہ : بن خویلد ، مشہور صحابی اور عہد نبوی میں ممتاز سیاسی خدمات انجام دینے والے مجاہد (م قبل از ۸۶) ۔
۱ ۲۵۶	عمر بن الاہتم : (= سنان) بن سنی التیمی ، الملقب بہ العُکحل ، بنو تمیم کا ممتاز شاعر و خطیب (م ۵۷۷/۴۶۷) ۔	* عمرو بن الاہتم : (= سنان) بن سنی التیمی ، الملقب بہ العُکحل ، بنو تمیم کا ممتاز شاعر و خطیب (م ۵۷۷/۴۶۷) ۔
۱ ۲۵۷	عمر بن سعید : بن العاص بن امیہ الاموی ، المعروف بہ الاشدرق ، بنو امیہ کا ایک عامل اور سپہ سالار (م ۵۷۰/۴۶۹) ۔	* عمرو بن سعید : بن العاص بن امیہ الاموی ، المعروف بہ الاشدرق ، بنو امیہ کا ایک عامل اور سپہ سالار (م ۵۷۰/۴۶۹) ۔
۲ ۲۵۷	عمر بن العاص : (العاصی) ، نامور صحابی ، سپہ سالار اور فاتح مصر (م ۵۳۲/۴۶۳) ۔	* عمرو بن العاص : (العاصی) ، نامور صحابی ، سپہ سالار اور فاتح مصر (م ۵۳۲/۴۶۳) ۔
۱ ۲۶۰	عمر بن عبید بن باب : ابو عثمان (۵۸۰/۴۶۹ تا نواح ۵۱۳۳/۴۷۱) ، ابتدائی دور کا ایک معتزلی عالم ۔	* عمرو بن عبید بن باب : ابو عثمان (۵۸۰/۴۶۹ تا نواح ۵۱۳۳/۴۷۱) ، ابتدائی دور کا ایک معتزلی عالم ۔
۱ ۲۶۱	عمر بن عدی : بن نصر بن ربیعہ ، تیسری صدی عیسوی میں حیرہ کا پہلا لخمی بادشاہ (از ۲۶۸ تا ۴۸۸) ۔	* عمرو بن عدی : بن نصر بن ربیعہ ، تیسری صدی عیسوی میں حیرہ کا پہلا لخمی بادشاہ (از ۲۶۸ تا ۴۸۸) ۔
۲ ۲۶۲	عمر بن لعیثہ : بن ذریح بن سعد الضبعی ، بنو قیس کا ایک قدیم عرب شاعر (م مابین ۵۳۰ و ۴۵۳) ۔	* عمرو بن لعیثہ : بن ذریح بن سعد الضبعی ، بنو قیس کا ایک قدیم عرب شاعر (م مابین ۵۳۰ و ۴۵۳) ۔
۲ ۲۶۲	عمر بن کلثوم : زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور اور نیک نام سردار اور شاعر ، السہلہل (رگ بان) کا نواسا ، یکے از العمران ۔	* عمرو بن کلثوم : زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور اور نیک نام سردار اور شاعر ، السہلہل (رگ بان) کا نواسا ، یکے از العمران ۔
۱ ۲۶۳	عمر بن لعی : بنو خزاعہ ، بنو کعب اور دیگر قبائل عرب کا مورث اعلیٰ ، مکے کا حاکم اور کعبے کا متولی ۔	* عمرو بن لعی : بنو خزاعہ ، بنو کعب اور دیگر قبائل عرب کا مورث اعلیٰ ، مکے کا حاکم اور کعبے کا متولی ۔
۲ ۲۶۵	عمر بن اللیث : سجستان میں خاندان صفاریہ کے بانی یعقوب بن اللیث کا بھائی اور جالشین (م ۵۲۸۹/۴۹۰۲) ۔	* عمرو بن اللیث : سجستان میں خاندان صفاریہ کے بانی یعقوب بن اللیث کا بھائی اور جالشین (م ۵۲۸۹/۴۹۰۲) ۔
۲ ۲۶۶	عمر بن سعیدہ : مامون الرشید کا ایک ترکی النسل کاتب اور انشا پرداز (م ۵۲۱۷/۸۸۳۲) ۔	* عمرو بن سعیدہ : مامون الرشید کا ایک ترکی النسل کاتب اور انشا پرداز (م ۵۲۱۷/۸۸۳۲) ۔

صفحہ ہود	اشارات	عنوان
۲ ۲۶۷	اور ایک مسلمان مجاہد (م نواح ۵۲۱/۴۶۳۱)۔	* عمرو بن معدیکرب : بن عبداللہ الزبیدی ، ابو ثور ، مشہور عرب ہطل ، مخضرم شاعر
۱ ۲۶۸	ایک جنگجو اور ظالم بادشاہ (از ۵۵۳ء تا ۵۷۰ء)۔	* عمرو بن ہند : الملقب بہ المحرق ، حیرہ کے لخمی بادشاہ المنذر کا بیٹا اور جانشین ،
۲ ۲۶۸	اموی قصر (تعمیر : ۷۱۲ و ۷۱۵ء)۔	* عمرو : (تصیر عمرہ) ، دریائے اردن کی مشرقی سمت کے علاقے میں واقع ایک قدیم
۱ ۲۷۳	عہد کا نامور عالم اور مسالک الابصار فی ممالک الامصار کا مصنف (حیات ۵۳۱/۴۱۳۳)۔	* عمرو : حج اصغر ، خاص شرائط و ارکان کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت اور سعی و طواف۔
۲ ۲۸۲	اسکندروٹہ کی سنجاق میں واقع شمالی شام کا ایک وسیع اور دریائی مٹی سے ڈھکا ہوا میدان۔	* عمروی : شہاب الدین ابو العباس احمد بن یحییٰ (ولادت ۵۰۰/۴۱۳۰۱) ، مملوک
۱ ۲۸۵	عمل : (فعل یا کام) ، فلسفہ اور علم کلام کی اصطلاح۔	
۱ ۲۸۶	عمار (بنو) : صابیوں کے قبضے سے پہلے طرابلس پر حکمران قاضیوں کا خاندان (از ۵۳۶۲/۴۱۰۷۰ء تا ۵۵۰۱/۴۱۱۰۷ء)۔	* عمروی : شہاب الدین ابو العباس احمد بن یحییٰ (ولادت ۵۰۰/۴۱۳۰۱) ، مملوک
۱ ۲۸۷	عمار، بنو (یا بنو ثابت) : طرابلس الغرب کا ایک حکمران خاندان (از ۵۲۷/۴۱۳۲۷ء تا ۵۸۰۳/۴۱۳۰۰ء)۔	عہد کا نامور عالم اور مسالک الابصار فی ممالک الامصار کا مصنف
۱ ۲۸۸	عمار الموصلی : ابو القاسم عمار بن علی ، ایک مشہور عرب کحال ، الحاکم (۹۹۶ تا ۴۱۰۲) کا معاصر اور المنتخب فی علاج العین کا مصنف۔	
۲ ۲۸۸	عمار بن یاسر : بن عامر بن مالک ، ابو الیقظان ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی اور حضرت علیؓ کے حلیف اور طرفدار (م ۵۳۷/۴۶۵ء)۔	* عمروی : اسکندروٹہ کی سنجاق میں واقع شمالی شام کا ایک وسیع اور دریائی مٹی سے ڈھکا ہوا میدان۔
۲ ۲۸۹	عماریہ : الجزائر کی ایک مذہبی جماعت۔	
۲ ۲۹۰	عمان : اردن کی ہاشمی سلطنت کا دارالحکومت۔	
۲ ۲۹۰	عمواس : (نیز عمواس) ، نواح بیت المقدس میں فلسطین کا ایک قدیم شہر۔	
۱ ۲۹۳	عمود : (خیمے کی چوب) ، ستون کے لیے مسلم فن تعمیر کی ایک اصطلاح۔	
۲ ۲۹۳	عمور (جبل) : جنوبی الجزائر میں واقع صحرائے اعظم کے سلسلہ کوہستان اطلس کا ایک حصہ۔	
۱ ۲۹۵	عموریہ : (Amorium : سریانی : امورین Amorim) ، قسطنطنیہ سے کیلیکیا جانے والی سڑک پر فریجیا میں واقع ایک قلعہ۔	
۱ ۲۹۶	عمید : ایک اصطلاح : (۱) قرون وسطیٰ کے ترکی ممالک میں بعض عہدے داروں کے	

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۲۹۷		القاب اور اسمائے ماموریت کا ایک جز ؛ (۲) سامانی اور غزنوی عہد میں اونچے عہدے داروں کا لقب .
۲ ۳۰۰		* عمید الدین : اسعد بن نصر الہزاری الانصاری ، اتابک سعد بن زنگی کے عہد کا وزیر اور شاعر (م ۵۶۲۳/۱۲۲۷ء) .
۱ ۳۰۱		* العمیدی : رکن الدین ابو حامد محمد بن محمد السمرقندی ، ایک معروف حنفی فقیہ اور الارشاد وغیرہ کا مصنف (م ۵۶۱۵/۱۲۱۸ء) .
۲ ۳۰۱		* عناق : (۱) حضرت شیث کی توام بہن اور قابیل کی بیوی ؛ (۲) سیاہ گوش ؛ (۳) بنات النعش کا ایک ستارہ .
۱ ۳۰۲		* عنایت اللہ کنبو : دور مغلیہ کا ایک عالم اور مؤرخ ، بہار دانش اور تاریخ دلکشا کا مصنف (م ۵۱۰۸/۱۶۶۹ء) .
۲ ۳۰۲		⊗ عنایت اللہ خان المشرقی : المعروف بہ علامہ مشرقی (۱۸۸۸ء تا ۱۹۶۳ء) ، برعظیم پاک و ہند میں خاکسار تحریک کے بانی ، ماہر تعلیم و ریاضی ، مصنف تذکرہ وغیرہ ، و مدیر الاصلاح .
۱ ۳۰۳		⊗ عنایت (شاہ) قادری : قصوری ، لاہوری ، شطاری سلسلے کے صوفی بزرگ ، بلھے شاہ (رک بان) کے مرشد اور غایۃ الحواشی وغیرہ کے مصنف (حیات ۵۱۱۵/۱۷۳۷ء) .
۱ ۳۰۶		* عَبْر : سمندروں میں پائی جانے والی ایک مشک جیسی خوشبودار قیمتی چیز .
۱ ۳۰۷		* الْعَبْر : (بنو) ، بنو تمیم میں سے ایک عرب قبیلہ .
۱ ۳۰۸		* عَبْر : رک بہ سیرۃ عنتر .
۱ ۳۰۸		* عَبْرہ : بن شداد ، چھٹی صدی عیسوی کا ایک جنگ آزما عرب شاعر .
۲ ۳۰۹		* عَبْرِي : (۱) مصر میں : سیرۃ عنتر بیان کرنے والا داستان گو ؛ (۲) ترکی لفظ اتاری یا انتری سے ماخوذ ، بمعنی قفطان کے نیچے پہنا جانے والا مختصر سا لباس .
۱ ۳۱۰		* عَبْرَة : (چھوٹی برچھی یا عصا) ، علم حدیث و فقہ اور فن عمارت کی ایک اصطلاح .
۲ ۳۱۰		* عَبْرَة : ایک بہت قدیم عرب قبیلہ .
۱ ۳۱۳		* عَبْرَة : مراکش اور الجزائر میں منایا جانے والا ایک قدیم تہوار .
۲ ۳۱۳		* عَبْر : اصل ، رکن اور جوہر اولی وغیرہ ؛ ایک مختلف المعانی اصطلاح .
۲ ۳۱۳		* عَبْرِي : ابو القاسم حسن بن احمد العنصری البلخی ، محمود غزنوی کے دربار کا ایرانی شاعر (م نواح ۵۳۳۱/۱۰۳۹ - ۱۰۵۰ء) .
۲ ۳۱۸		* عَبْقَاء : (عنقاء المغرب) ، ایک معروف روایتی پرندہ .
۱ ۳۱۹		* عَبْكَوْت : مکرئی .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۲۰		⊗ العنکوت : قرآن مجید کی انتیسویں سورت .
۱ ۳۲۱		* العنابہ : (موجودہ بونہ) ، الجزائر کے مشرق میں ایک ساحلی قصبہ .
۲ ۳۲۲		* عناز (بنو) : عراق و ایران کے درمیان سرحدی علاقے کا ایک حکمران خاندان (از نواح ۵۳۸۱/۶۹۹۱ تا ۵۱۱۱/۶۱۱۱) .
۱ ۳۲۶		* عنوان : سرورق پر لکھا جانے والا کتاب کا نام .
۲ ۳۲۶		* عنوان : محمد رضا بن حاجی صالح التبریزی ، گیارہویں صدی ہجری کا ایک فارسی شاعر .
۲ ۳۲۶		* عنیزۃ : جنوبی نجد میں ضلع قصیم کا ایک اہم شہر .
۲ ۳۲۸		* عواذلہ : رگ بہ عوذلی .
۲ ۳۲۸		* عوارض : (عوارض دیوانیہ) ، سلطنت عثمانیہ میں سلطان کے نام سے انیسویں صدی کے دوسرے ربع تک وصول کیے جانے والے بعض محصولات .
۲ ۳۳۰		* العوازم : شمال مشرقی عرب کا ایک بدوی قبیلہ .
۱ ۳۳۱		* العواصم : شام کے شمال مشرق میں بوزنطی سلطنت اور خلفا کے مابین متنازعہ سرحدی علاقے کا ایک حصہ .
۱ ۳۳۲		* العوالق : رگ بہ عولقی .
۱ ۳۳۲		* العوامر : جنوبی اور مشرقی عرب میں تین بڑی شاخوں میں منقسم بدویوں کا ایک قبیلہ .
۱ ۳۳۳		* عوانہ بن الحكم الکلبی : ایک نامور عرب مؤرخ اور مصنف (م ۵۱۳/۶۷۳ یا ۵۱۵۳/۶۷۳) .
۱ ۳۳۳		* عوج : (عاج) بن عنق (عناق) ، بائیل : Og ؛ بشن کا دیو ہیکل بادشاہ ، قدیم قصص کا ایک دراز قد کردار .
۱ ۳۳۳		* العود : (Lute) ، قدیم زمانے سے مستعمل ایک آلہ موسیقی .
۲ ۳۳۱		* عوذلی : (الف) ایک قبیلے کا خاندانی لقب ؛ (ب) مغربی عدن کا ایک ضلع .
۱ ۳۳۲		* عوض : ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۳۳۲		* العوفی : محمد بن محمد بن یحییٰ البخاری الحنفی ، چھٹی - ساتویں صدی ہجری کا ایک مشہور عالم ، لباب الالیاب اور جوامع الحکایات کا مصنف .
۱ ۳۳۵		* عول : علم الفرائض کی ایک اصطلاح ، کسی ورثے میں مکسور حصوں کی تقسیم کے وقت وارثوں کے مجموعی حصے کے ایک اکائی سے بڑھ جانے کی صورت میں مشترک مقسوم علیہ کو بڑھا دینا .
۲ ۳۳۵		* عولقی : (الف) قبائلی وفاق ؛ (ب) جنوبی عرب کے ایک علاقے کا نام .
۱ ۳۳۷		⊗ عہد : پختہ وعدہ ؛ ایک فقہی اصطلاح .
		* عیاض بن موسیٰ : ابو الفضل ، عالم المغرب اور امام اہل الحدیث ، ایک مشہور مالکی

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
.	فقیہ اور محدث ، مصنف کتاب الشفا وغیرہ (م نواح ۵۳۳/	
۱ ۳۵۱		۶۱۱۳۹) .
۲ ۳۵۲		⊗ عید : مسلمانوں کے دو اہم تہوار .
۱ ۳۵۳		* عید الاضحیٰ : عید قربان و عید النحر یا عید الکبیر (بڑی عید) .
۲ ۳۵۳		* عید پیرام : رگ بہ پیرام .
		* عید الفطر : عید الصغیر (چھوٹی عید) : ماہ رمضان کے خاتمے پر یکم شوال المکرم کو منائی جانے والی عید .
۲ ۳۵۳		* عید روس : (یدروس) ، با علوی کی شاخ سقاف میں سے جنوبی عرب ، ہندوستان اور انڈونیشیا میں آباد فاضل سادات و صوفیہ کا ایک خاندان .
۱ ۳۵۵		* العید روسی : رگ بہ عید روس .
۱ ۳۵۹		* عیداب : بحیرہ قلزم کے افریقی ساحل پر ایک قدیم (اب ویران) بندرگاہ .
۱ ۳۶۰		⊗ عیسیٰ : ابن مریم ، بنی اسرائیل کے مشہور اور صاحب کتاب (انجیل) رسول .
		* عیسیٰ بن دینار : بن وafd الغافقی ، اندلس میں اسلامی فقہ ، دینیات اور علم کلام کے تین بڑے بانیوں میں سے ایک .
۲ ۳۷۳		* عیسیٰ بن الشیخ : بن السلیل الشیبانی ، المعتمد کے عہد میں رملہ کا والی (م ۲۶۹/۵۲۶۹)
۲ ۳۷۶		۶۸۸۲) .
۱ ۳۷۷		* عیسیٰ بن علی : رگ بہ علی بن عیسیٰ .
۱ ۳۷۷		* عیسیٰ بن عمر : الثقفی البصری ، ایک قدیم عرب نحوی اور قاری (م ۵۱۳۹/۷۶۶) .
		* عیسیٰ بن موسیٰ : بن محمد بن علی ، پہلے دو عباسی خلفا السفاح اور المنصور کا بھتیجا (م ۵۱۶۷/۷۸۳) .
۱ ۳۷۸		* عیسیٰ بن المہنا : شرف الدین الطائی ، شامی بدوی قبیلے آل فضل کا سردار ، سلامیہ کا جاگیردار اور مسالیک اور منگولوں کی باہمی جنگوں میں ایک اہم کردار (م ۵۶۸۳/۷۲۸۳) .
۱ ۳۷۹		* عیسیٰ لہر : (نہر عیسیٰ بن علی) ، بغداد کے گرد و نواح میں بہنے والی چار قدیم نہروں میں سے ایک (آج کل نا پید) .
۲ ۳۸۰		* عیساوی : (= عیسوی) ، رگ بہ نصاریٰ .
۲ ۳۸۱		* العیساویہ : (العیسویہ) ، ابو عیسیٰ الاصفہانی (رگ باں) سے منسوب ایک یہودی فرقہ .
۱ ۳۸۱		* عیساویہ : (عیساوی) ، مراکش میں ایک طریقہ تصوف ؛ بانی : شیخ محمد بن عیسیٰ الصفیانی المختاری المعروف بہ مرشد کامل (م مابین ۵۹۳۰/۷۵۲۳ و ۶۱۵۲۷/۸۹۳۳) .
۲ ۳۸۲		۶۱۵۲۷/۸۹۳۳) .
۱ ۳۸۹		* عین : رگ بہ ع .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۸۹		* عَيْن : آنکھ ؛ عمل بصارت اور مظاهر و اعیان وغیرہ کے لیے ایک کثیر المعانی اصطلاح .
۲ ۳۹۰		* عَيْن : جمیع آلات بصر کے لیے ایک قدیم طبی اصطلاح .
۲ ۳۹۲		* عَيْن : بد نظری کے لیے اسلامی اصطلاح .
۱ ۳۹۳		* عَيْنَات : وادی تریم میں حضرموت کا ایک شہر .
۲ ۳۹۳		* عَيْن التمر : انبار اور کوفے کے درمیان ایک قدیم تاریخی مقام .
۲ ۳۹۶		* عَيْن تَمَشْنَتْ : الجزائر کا ایک قصبہ .
۲ ۳۹۶		* عَيْن جَالُوت : فلسطین میں واقع ایک قدیم گاؤں ، حضرت داؤدؑ اور جالوت اور بعد ازاں منگولوں اور مغلوں کے درمیان معرکہ آرائی کا میدان .
۲ ۳۹۸		* عَيْن العَجْر : (عنجر) ، البقاع (رک باں) میں ایک اہم اور قدیم مقام اور خلفائے بنو امیہ کی ایک سکونت گاہ .
۲ ۳۹۹		* عَيْن دَرَّهَم : شمالی تونس میں ۲۶۳۱ فٹ کی بلندی پر واقع عسکری اعتبار سے ایک اہم مقام .
۱ ۴۰۰		* عَيْن دَلْفَه : شام کے شمالی علاقے میں ایک چشمہ .
۲ ۴۰۰		⊗ عَيْن الدِّين : (شیخ) ، نام محمد ، عرف گنج العلوم ، برعظیم پاک و ہند کے ایک قدیم عالم دین ، معلم اور مصنف (م ۵۷۹۵/۱۳۹۳ء) .
۲ ۴۰۲		* عَيْن زَرْبَه : آناطولی (رک باں) کا ایک ویران قصبہ .
۲ ۴۰۳		* عَيْن شَمْس : قدیم مصری شہر اون کا عربی نام .
۲ ۴۰۵		* عَيْن طاب : (عین تاب) ، آناطولی کے جنوب مشرق میں ایک اہم شہر اور ایک ولایت کا صدر مقام .
۱ ۴۰۷		* عَيْن مُوسَى : متعدد چشموں کا نام : (۱) وادی موسیٰ میں بمقام سیق ؛ (۲) شام میں الکفر (علاقہ حوران) کے شمال میں ؛ (۳) قاہرہ کے مشرق میں جبل المقطم پر ؛ (۴) عیون موسیٰ : اردن میں چشموں کا ایک مجموعہ ؛ (۵) قصبہ سویز کے جنوب مشرق میں بارہ چشموں کا ایک مجموعہ .
۱ ۴۰۸		* عَيْن الوَرْدَه : بقول بعض راس العین (رک باں) کا دوسرا نام ، ۶۸۵/۵۶۵ء میں شیعین کوفہ اور شامی افواج کے درمیان معرکہ آرائی کا میدان .
۲ ۴۰۸		* عینی : حسن اقلندی (۱۱۸۰/۱۲۶۶ء تا ۱۲۵۳/۱۸۳۷ء) ، عثمانی سلطان محمود ثانی کے عہد کا مشہور ترین شاعر .
۱ ۴۰۹		* العینی : بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ (۵۶۲/۱۳۶۱ء تا ۵۸۵/۱۳۵۱ء) ، ایک مشہور حنفی فقیہ ، محدث اور شارح صحیح بخاری .
۲ ۴۱۰		* عِيَار : لفظی معنی بدمعاش ، لچا ، آوارہ ؛ نویں سے بارہویں صدی تک فتوہ کے تحت عراق اور ایران میں بھرتی کیے جانے والے سپاہیوں کے لیے ایک فارسی اصطلاح .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۱۱	ابو سالم عبداللہ بن محمد (۵۱۰۳۷/۶۱۶۲۷ تا ۵۱۰۹۰/۶۱۶۷۹) ، ایک بربر عالم ، محدث ، فقیہ ، ادیب ، صوفی اور مصنف .	* العیاشی : ابو سالم عبداللہ بن محمد
۲ ۳۱۲	ابو نصر محمد بن مسعود بن محمد عیاش ، تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی کا ایک شیعہ عالم اور مصنف .	* العیاشی : ابو نصر محمد بن مسعود بن محمد عیاش

غ

۱ ۳۱۵	غ : (غین) ، عربی حروف تہجی کا ایسواں ، فارسی کا بائیسواں اور اردو کا پینتیسواں حرف .	⊗ غ : (غین) ، عربی حروف تہجی کا ایسواں ، فارسی کا بائیسواں اور اردو کا پینتیسواں حرف .
۲ ۳۱۵	غات : صحرائے طرابلس کا ایک شہر .	* غات : صحرائے طرابلس کا ایک شہر .
۱ ۳۱۶	غارم : (غریم ، بمعنی مقروض) ، زکوٰۃ کے قرآنی مصارف میں سے ایک مصرف ؛ ایک اہم فقہی اصطلاح .	* غارم : (غریم ، بمعنی مقروض) ، زکوٰۃ کے قرآنی مصارف میں سے ایک مصرف ؛ ایک اہم فقہی اصطلاح .
۱ ۳۱۷	غازان محمود (غازان خان) : (از ۵۶۹۳/۶۱۲۹۵ تا ۵۷۰۳/۶۱۳۰۳) ، ایران کا ایک مغول ایلخانی فرمانروا .	* غازان محمود (غازان خان) : (از ۵۶۹۳/۶۱۲۹۵ تا ۵۷۰۳/۶۱۳۰۳) ، ایران کا ایک مغول ایلخانی فرمانروا .
۲ ۳۱۸	غازی : غزوہ میں شریک ؛ اصطلاحاً غیر مسلموں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والا مجاہد .	* غازی : غزوہ میں شریک ؛ اصطلاحاً غیر مسلموں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والا مجاہد .
۲ ۳۲۱	غازی (شاہ عراق) : شاہ فیصل اول کا بیٹا اور اس کا جانشین (از ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ء) .	* غازی (شاہ عراق) : شاہ فیصل اول کا بیٹا اور اس کا جانشین (از ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ء) .
۲ ۳۲۱	غازی : رگ بہ الملک الظاہر .	* غازی : رگ بہ الملک الظاہر .
۲ ۳۲۱	غازی سیف الدین : بن عماد الدین زنگی ، الموصل کا اتابک (از ۵۳۱/۱۱۳۳ء تا ۵۳۳/۱۱۳۹ء) .	* غازی سیف الدین : بن عماد الدین زنگی ، الموصل کا اتابک (از ۵۳۱/۱۱۳۳ء تا ۵۳۳/۱۱۳۹ء) .
۲ ۳۲۲	غازی سیف الدین : بن قطب الدین مودود [رگ باں] ، موصل کا اتابک (از ۵۲۵/۱۱۲۷ء تا ۵۲۶/۱۱۱۸ء) .	* غازی سیف الدین : بن قطب الدین مودود [رگ باں] ، موصل کا اتابک (از ۵۲۵/۱۱۲۷ء تا ۵۲۶/۱۱۱۸ء) .
۱ ۳۲۳	غازی (علی پاشا) : رگ بہ علی پاشا .	* غازی (علی پاشا) : رگ بہ علی پاشا .
۱ ۳۲۳	غازی پور : اتر پردیش (بھارت) کے ایک ضلع کا صدر مقام .	⊗ غازی پور : اتر پردیش (بھارت) کے ایک ضلع کا صدر مقام .
۲ ۳۲۳	غازی چیلی : اہل جنیوا کے خلاف بحری مہمات کی بنا پر معروف سینوب (ترکیہ) کا حکمران (از ۵۰۰/۱۳۰۰ء تا ۵۲۳/۱۳۳۰ء) .	* غازی چیلی : اہل جنیوا کے خلاف بحری مہمات کی بنا پر معروف سینوب (ترکیہ) کا حکمران (از ۵۰۰/۱۳۰۰ء تا ۵۲۳/۱۳۳۰ء) .
۲ ۳۲۳	غازی خان : ملک سہراب خان ڈو ڈائی بلوچ کے تین فرزندوں میں سے ایک اور پاکستان کے مشہور شہر ڈیرہ غازی خان کا بانی اور جاگیردار (حیات ۱۵۳۵/۱۹۵۲ء) .	* غازی خان : ملک سہراب خان ڈو ڈائی بلوچ کے تین فرزندوں میں سے ایک اور پاکستان کے مشہور شہر ڈیرہ غازی خان کا بانی اور جاگیردار (حیات ۱۵۳۵/۱۹۵۲ء) .
۲ ۳۲۳	غازی الدین ہیلر : نواب سعادت علی خان کا دوسرا بیٹا ، سلطنت مغلیہ کا برائے نام	* غازی الدین ہیلر : نواب سعادت علی خان کا دوسرا بیٹا ، سلطنت مغلیہ کا برائے نام

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۲۵	وزیر ، بادشاہ اودھ (از ۱۸۱۹ء/۱۲۳۳ھ تا ۱۸۲۷ء/۱۲۴۳ھ) .	* غازی الدین خان : میر شہاب الدین فتح جنگ ؛ عابد خان الملقب بہ قلیچ خان کا بڑا بیٹا اور دکن کے نظام الملک آصف جاہ اول کا والد ، اورنگ زیب عالمگیر کے عہد کا مشہور سپہ سالار اور ماہر جنگ (م ۱۷۰۹ء) .
۱ ۳۲۶		* غازی گرای اول : قریم (کریمیا) کا خان (م ۱۵۲۳ء/۹۲۳ھ) .
۱ ۳۲۶		* غازی گرای ثانی : المعروف بہ بورا (= طوقان) ، قریم (کریمیا) کا دوبار خان (از ۱۵۸۸ء/۹۹۶ھ تا ۱۵۹۶ء/۱۰۰۵ھ و از ۱۵۹۶ء/۱۰۰۵ھ تا ۱۶۰۷ء/۱۰۱۶ھ) اور ایرانیوں کے خلاف عثمانی فوج کا قائد ، نیز ادیب اور شاعر .
۲ ۳۲۶		* غازی گرای ثالث : اپنے والد سلیم گرای کے بعد قریم (کریمیا) کا خان (از ۱۱۱۶ھ/۱۷۰۳ء تا ۱۱۱۸ھ/۱۷۰۷ء) .
۲ ۳۲۸		* غازی محمد : المعروف بہ کزی (قاضی) ملا ، قفقار کی جنگ آزادی کا ایک مسلمان رہنما (رگ بہ داغستان) .
۱ ۳۲۹		* غازی میاں : المعروف بہ سپہ سالار مسعود غازی ، برعظیم پاک و ہند کے ایک قدیم اور مشہور ولی ، سلطان محمود غزنوی کی فوج کے ایک سپاہی اور شہید (م ۱۰۳۳ء/۳۲۳ھ) .
۱ ۳۲۹		* غازیہ : مصر میں برامکہ کہلانے والی رقاصہ عورتیں .
۱ ۳۳۱		* غاشیہ : (غلاف ، خصوصاً زین کا) ، سلاجقہ اور ممالیک کے ہاں منصب بادشاہت کا ایک نشان .
۲ ۳۳۱		⊗ الغاشیہ : قرآن مجید کی اٹھاسیویں سورۃ .
۲ ۳۳۱		⊗ غافر : رگ بہ المؤمن (سورۃ) .
۱ ۳۳۳		⊗ الغافر : اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک .
۱ ۳۳۳		* الغافقی : محمد بن قسوم بن اسلم ، چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی کا ایک اندلسی عالم ، معالج امراض چشم اور چند کتب کا مصنف .
۲ ۳۳۳		⊗ غالب : میرزا اسد اللہ خان (۱۷۹۷ء/۱۲۱۲ھ تا ۱۸۶۹ء/۱۲۸۵ھ) ، برصغیر پاک و ہند میں اردو اور فارسی کے عظیم صاحب دیوان شاعر اور متعدد کتابوں کے مصنف .
۱ ۳۳۳		* غالب اسمعیل : (۱۸۳۷ء تا ۱۸۹۵ء) ، سلطنت عثمانیہ کے نامور مدبر ادھم پاشا کا بیٹا ، ہریوی کونسل کا رکن اور بعد ازاں صوبہ افریطش کا مشاور .
۲ ۳۳۲		* غالب ددہ : (۱۱۷۱ء/۱۷۵۷ء - ۱۷۵۸ء تا ۱۲۱۳ھ/۱۷۹۹ء) عثمانی ادب کے قدیم دبستان کے آخری بڑے شاعر .
۱ ۳۳۳		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۳۳		* غالب بن صعصعة : مشہور عرب شاعر فرزدق کا باپ اور بنو تمیم کا ایک فیاض فرد .
		* غالب بن عبدالرحمن الصقلی : اندلسی خلفا الحکم ثانی اور ہشام کا عظیم سپہ سالار ، اندلس میں عیسائیوں اور افریقہ میں ادریسیوں اور فاطمیوں کے خلاف جنگوں کا قائد (م ۵۳۷/۶۹۸۱) .
۲ ۳۳۶		
۱ ۳۳۷		⊗ غالی : رگ بہ شیعہ .
۱ ۳۳۷		* غامد : سعودی عرب کا ایک قبیلہ ، نیز ایک ضلع .
۱ ۳۳۸		* غَالَه : نائیجیری سوڈان کا ایک قدیم اور آج کل ویران شہر .
۱ ۳۵۱		* غَانَه : افریقی جمہوریہ (سابقاً گولڈ کوسٹ) میں اشاعت اسلام .
		* غَايَه (بنو) : الموحدون کے عہد میں المرابطون کو دوبارہ برسراقتدار لانے کی کوشش کرنے والا صنہاجہ بربروں کا ایک خاندان .
۲ ۳۵۳		
۲ ۳۵۷		* غُبَار : (گرد) ، خطاطی کی ایک قسم ، انتہائی باریک تحریر .
۲ ۳۵۷		* الغُبَار : رگ بہ حساب الغبار .
		* غُبْرِيْنِي : سابق میں الجزائر کے علاقہ قبائلیہ کے مشرقی سرے پر آباد، زاوہ بربروں کی ایک شاخ (بنو غبرون کی نسبت سے) .
۲ ۳۵۷		
۱ ۳۵۸		* غُجْدُوَان : بخارا کے قریب ایک قصبہ .
		* غُجْدُوَالِي " : خواجہ عبدالخالق بن عبدالجلیل فلوری اور شیخ طریقت ، عالم اور مصنف (م ۵۶۱۷/۶۱۲۲۰) .
۲ ۳۵۸		
۱ ۳۶۰		* غُدَامَس : طرابلس سے جنوب مغرب میں الصحراء کا ایک شہر اور نخلستان .
		* غُدَيْرِ الْعُحْم : مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مابین جحفہ کے قریب واقع شیعوں کے نزدیک ایک قابل احترام مقام .
۲ ۳۶۰		
۲ ۳۶۱		* غُرَاب : کوا .
۱ ۳۶۳		* الغُرَاب : جنوبی آسمان پر ستاروں کا مجموعہ .
۲ ۳۶۳		* غُرَابِيَه : غالی شیعوں کا ایک فرقہ .
۱ ۳۶۳		* غُرْب : مغرب ، مشرق کی ضد .
۲ ۳۶۳		* غُرْبِيَّة : مصر کے ڈیلٹا میں ایک صوبہ .
		* غُرْجِسْتَان : (غرشستان ، غرشتان) ، افغانی ترکستان میں مرغاب کی بالائی وادی کا ایک علاقہ .
۱ ۳۶۵		
۱ ۳۶۶		* غُرْدَايَه : (غردیہ گردایہ) ، الجزائر کے جنوب میں مزاب کا ایک شہر .
۱ ۳۶۸		* غُرُوش : رگ بہ غروش .
۱ ۳۶۸		* غُرْمَاه : رگ بہ غارم (غریم) .
		* غُرْبَاطَه : (Granada) ، اندلس کا مشہور تاریخی شہر ، اسلامی سلطنت غرناطہ کا

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۶۸	دارالحکومت ، موجودہ سپین کا ایک صوبہ اور اس کا صدر مقام .	
۲ ۳۷۰	* غروش : غرش ، قرش ، پیاستر (Piastre) ، ترکیہ کا ایک وزنی چاندی کا سکہ .	
۱ ۳۷۲	* غریب : عجیب ، نادر ، نامانوس ، غیر ملکی ؛ ایک کثیر المعانی اصطلاح : (۱) قرآن مجید و حدیث کے نادر الفاظ ؛ (۲) منقطع سلسلہ روایت والی احادیث ؛ (۳) بحر المتدارک .	
۲ ۳۷۲	⊗ غریب شاہ شہ : رضا شاہ پہلوی کے عہد میں ایرانی بلوچستان کے مقام پارک سے پاکستانی بلوچستان میں نقل مکانی کرنے والے ایک بزرگ (م ۱۳۵۲ھ)	
۱ ۳۷۳	اور ان سے موسوم ایک مقام .	
۱ ۳۷۳	* الغریض : ابو یزید ، یا ابومروان عبدالملک ، اوائل عہد اسلام میں مکے کا ایک مشہور ماہر موسیقی (م نواح ۵۹۸/۷۱۷ء) .	
۱ ۳۷۳	* غز : چھٹی صدی عیسوی میں چین سے بحیرہ اسود تک کے تمام قبائل کو متحد کر کے ایک بدوی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ترکوں کا اوغوز قبیلہ .	
۱ ۳۷۴	* غزاة یا غزوة : کفار کے خلاف جنگ .	
۱ ۳۷۴	* غزال : ثوری نوع کے وحشی ہرن .	
۱ ۳۷۹	* الغزال : یحییٰ بن الجکم ، اندلس میں الجکم اور عبدالرحمن ثانی کے زمانے کا ایک نازک اندام شاعر اور بوزنظی دربار میں اندلس کا سفیر .	
۱ ۳۸۱	* الغزالی : احمد بن محمد ، امام ابو حامد الغزالی کے بھائی ، اپنے زمانے کے مشہور صوفی بزرگ اور چند کتابوں کے مصنف (م ۵۲۰/۷۲۶ء) .	
۱ ۳۸۲	* الغزالی : امام ابو حامد محمد بن محمد الطوسی الشافعی (۵۰/۷۵۸ء تا ۵۵/۸۱۱ء) ، عالم اسلام کے بدیع الخیال مفکر ، عالم دینیات ، متکلم ، صوفی اور متعدد دینی ، فقہی اور کلامی کتابوں کے مصنف .	
۱ ۳۹۰	* غزالی : محمد چلبی ، سلطان سلیمان کے ابتدائی عہد کا ایک ترکی شاعر (م نواح ۸۳۱-۸۳۲/۱۴۳۷-۱۴۳۸ء) .	
۱ ۳۹۱	⊗ غزل : (فارسی) ، فارسی ، اردو اور دیگر زبانوں میں عشق و محبت کے موضوع پر مشہور و مقبول صنف سخن .	
۲ ۵۱۱	* غزنیہ (غزلی یا غزلیں) : مشرقی افغانستان کا ایک قدیم تاریخی شہر ، غزنوی سلاطین کا دارالحکومت .	
۱ ۵۱۷	⊗ غزنوی ، عبداللہ : سید (۱۲۳۰/۱۸۱۵ء تا ۱۲۹۸/۱۸۸۱ء) ، غزنی سے ترک وطن کر کے امرتسر میں آباد ہونے والے عالم دین ، محدث اور ایک تفسیری حاشیے کے مصنف .	
۱ ۵۱۷	* غزنویہ : بغزہ پر حکمران ایک ترکی النسل خانوادہ (از ۳۶۷/۹۷۷ء تا ۵۸۳/۱۱۸۳ء)	

صفحہ نمبر	اشارات	منوان
۲ ۵۲۱	۰ (۴۱۱۸۷)	
۲ ۵۲۸		* غزوی دور کا فن اور یادگار عمارتیں : سلطنت غزنہ کی دستکاریاں اور اہم عمارتیں .
۱ ۵۳۱		⊙ غزوات : رگ بہ غزوات : غزوات نبوی بذیل مقالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، در جلد ۱۹ .
۱ ۵۳۱		* الغزولی : علاء الدین علی بن عبداللہ البہائی دمشقی ، برہر نسل کا ایک عرب عالم اور مصنف مطالع البدور فی منازل السرور (م ۵۸۱۵/۴۱۳۱۲) .
۲ ۵۳۱		* غزۃ : جنوب مغربی یہودیہ (Judea) کا ایک اہم تجارتی شہر .
۲ ۵۳۲		* غسان : بنو شام کا ایک قدیم یعنی الاصل اور بوزنطی سلطنت کا اطاعت گزار حکمران عیسائی خاندان .
۱ ۵۳۶		* الغسانی : ابو عبداللہ محمد (حمو) بن عبدالوہاب ، مراکش کے سلطان کا وزیر و سفیر (حیات ۵۱۱۰۳/۴۱۶۹۲) .
۲ ۵۳۶		* الغسالیہ : فرقہ مرجنہ میں شامل ، غسان الکوفی کے پیرو .
۱ ۵۳۷		* غسل : طہارت کبریٰ کی بجا آوری کے لیے ایک شرعی اصطلاح .
۱ ۵۳۷		* غسل الملائکۃ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اور غزوہ احد کے نامور شہید حضرت حنظلہؓ بن ابی عامر الاوسی کا لقب .
۱ ۵۳۸		* غضب : ایک فقہی اصطلاح ، کسی سے کوئی چیز زبردستی چھین لینا ؛ غیر قانونی قبضہ ؛ دوسرے کے حقوق کا ناجائز استعمال .
۲ ۵۳۸		* الغضنفر : عدۃ الدولۃ ابو تغلب فضل اللہ بن ناصر الدولہ الحمدانی ، حاکم موصل (از ۵۳۵۸/۴۹۲۸ تا ۵۳۲۹/۴۹۷۹) .
۲ ۵۳۹		* غطفان : دو عرب قبیلوں کا نام .
۲ ۵۴۱		* غفار : معدی (اسمعیلی) خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک عرب قبیلہ .
۱ ۵۴۲		⊙ غفار : بخشنے والا ؛ رگ بہ الاسماء الحسنی .
۱ ۵۴۲		* غفاری : احمد بن محمد ، ایرانی مؤرخ اور شاعر ، نگارستان اور نسخہ جہاں آراے غفاری کا مصنف (م ۵۹۷۵/۴۱۵۶۷) .
۲ ۵۴۲		* غفران مآب : سید دلدار علی (۵۱۱۶۶/۴۱۷۵۳ تا ۵۱۲۳۵/۴۱۸۲۰) ، برعظیم پاک و ہند کے ایک متأخر شیعہ مجدد مجتہد اور متعدد کتابوں کے مصنف .
۲ ۵۴۹		⊙ غفور : بخشنہار ؛ رگ الاسماء الحسنی .
۲ ۵۴۹		* غفوری مجید : (۱۸۸۱ تا ۱۹۳۳ء) ، بشکردوں اور تاتاریوں کا ایک صاحب دیوان قومی شاعر .
۲ ۵۵۹		* غلافہ : علفقہ ، غلفکہ) ، بیت الفقیہ کے نزدیک زبیدہ (یمن) کی بارونق بندرگاہ اور ایک قدیم تجارتی منڈی اور شہر .
۱ ۵۵۱		* غلام : لڑکا ، نوکر ؛ رگ بہ عبد .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۵۵۱	غلام احمد ، مرزا : قادیانی : (۱۸۳۵ تا ۱۹۰۸ء) ، بر عظیم پاک و ہند کا ایک متنبی اور بانی جماعت احمدیہ (رگ باں ، در تکملہ) .	⊗ غلام احمد ، مرزا : قادیانی : (۱۸۳۵ تا ۱۹۰۸ء) ، بر عظیم پاک و ہند کا ایک متنبی اور بانی جماعت احمدیہ (رگ باں ، در تکملہ) .
۱ ۵۵۱	غلام ثعلب : محمد بن عبدالواحد بن ابی ہشام ، ابو عمر الزاهد المطرز البارودی (۵۲۶۱/۶۸۷ تا ۶۸۷ تا ۷۳۵/۷۹۵ء) ، ایک عرب ماهر لغت ، شارح اور مصنف .	* غلام ثعلب : محمد بن عبدالواحد بن ابی ہشام ، ابو عمر الزاهد المطرز البارودی (۵۲۶۱/۶۸۷ تا ۶۸۷ تا ۷۳۵/۷۹۵ء) ، ایک عرب ماهر لغت ، شارح اور مصنف .
۱ ۵۵۲	غلام حسین سلیم زید پوری : ایک ہندوستانی مؤرخ ، مصنف ریاض السلاطین (۱۸۱۵/۱۲۳۰ء) .	* غلام حسین سلیم زید پوری : ایک ہندوستانی مؤرخ ، مصنف ریاض السلاطین (۱۸۱۵/۱۲۳۰ء) .
۲ ۵۵۲	غلام حسین مسعودی (بگٹی) : بلوچستان میں انگریزوں کے خلاف جنگوں کا ایک مجاہد (شہادت ۱۸۶۷ء) .	● غلام حسین مسعودی (بگٹی) : بلوچستان میں انگریزوں کے خلاف جنگوں کا ایک مجاہد (شہادت ۱۸۶۷ء) .
۱ ۵۵۳	غلام حیدر بخاری : شاہ ، سید (۱۲۵۳/۱۸۳۸ تا ۱۳۲۶/۱۹۰۸ء) ، سلسلہ چشتیہ کے ایک نامور شیخ طریقت اور خاتقاہ جلال پور (ضلع جہلم) کے بانی .	⊗ غلام حیدر بخاری : شاہ ، سید (۱۲۵۳/۱۸۳۸ تا ۱۳۲۶/۱۹۰۸ء) ، سلسلہ چشتیہ کے ایک نامور شیخ طریقت اور خاتقاہ جلال پور (ضلع جہلم) کے بانی .
۲ ۵۵۳	غلام خلّال ، ابو بکر عبدالعزیز بن جعفر بن احمد ، ایک جلیل القدر حنبلی محدث و مفتی اور متعدد کتب (زاد المسافر وغیرہ) کے مصنف (۳۶۳م/۹۷۳ء) .	* غلام خلّال ، ابو بکر عبدالعزیز بن جعفر بن احمد ، ایک جلیل القدر حنبلی محدث و مفتی اور متعدد کتب (زاد المسافر وغیرہ) کے مصنف (۳۶۳م/۹۷۳ء) .
۲ ۵۵۵	غلام رسول ، مولوی : (۱۸۳۹ تا ۱۸۹۲ء) ، پنجابی کے نامور شاعر اور مقبول عام قصوں احسن القصص وغیرہ کے مصنف .	⊗ غلام رسول ، مولوی : (۱۸۳۹ تا ۱۸۹۲ء) ، پنجابی کے نامور شاعر اور مقبول عام قصوں احسن القصص وغیرہ کے مصنف .
۱ ۵۵۶	غلام رسول ، مولوی ، (قلعہ) : (ولادت ۱۲۲۸/۱۸۱۳ء) ، پنجاب کے ایک ممتاز عالم ، مفتی ، کلاسیکی پنجابی شاعر اور بہت سی کتابوں کے مصنف .	⊗ غلام رسول ، مولوی ، (قلعہ) : (ولادت ۱۲۲۸/۱۸۱۳ء) ، پنجاب کے ایک ممتاز عالم ، مفتی ، کلاسیکی پنجابی شاعر اور بہت سی کتابوں کے مصنف .
۱ ۵۵۷	غلام سرور ، مفتی : (۱۲۲۳/۱۸۲۸ تا ۱۳۰۷/۱۸۹۰ء) ، لاہور کے نامور عالم ، مفتی ، تذکرہ نگار اور خزینۃ الاصفیاء وغیرہ کے مصنف .	● غلام سرور ، مفتی : (۱۲۲۳/۱۸۲۸ تا ۱۳۰۷/۱۸۹۰ء) ، لاہور کے نامور عالم ، مفتی ، تذکرہ نگار اور خزینۃ الاصفیاء وغیرہ کے مصنف .
۲ ۵۵۷	غلام فرید : رگ بہ فرید .	⊗ غلام فرید : رگ بہ فرید .
۲ ۵۵۹	غلام قادر روہیلہ بن ضابطہ خان : نواب نجیب الدولہ کا پوتا ، حاکم نجیب آباد ، مغل شاہنشاہ شاہ عالم اور اس کے خاندان سے ظالمانہ سلوک کرنے والا بدنام شخص (۳م/۱۲۰۳ تا ۸۹/۱۷۸۹ء) .	* غلام قادر روہیلہ بن ضابطہ خان : نواب نجیب الدولہ کا پوتا ، حاکم نجیب آباد ، مغل شاہنشاہ شاہ عالم اور اس کے خاندان سے ظالمانہ سلوک کرنے والا بدنام شخص (۳م/۱۲۰۳ تا ۸۹/۱۷۸۹ء) .
۲ ۵۵۹	غلام معی الدین بگوی ، مولانا : (۱۲۱۰/۱۷۹۵ تا ۱۲۷۳/۱۸۵۶ء) ، پنجاب کے مشہور عالم ، مبلغ اسلام ، صوفی اور محدث .	● غلام معی الدین بگوی ، مولانا : (۱۲۱۰/۱۷۹۵ تا ۱۲۷۳/۱۸۵۶ء) ، پنجاب کے مشہور عالم ، مبلغ اسلام ، صوفی اور محدث .
۱ ۵۶۱	غلام معی الدین قصوری (مولانا) : (۱۲۰۲/۱۷۸۷ تا ۱۲۷۰/۱۸۵۳ء) ، سکھ عہد کے ایک نامور عالم و عارف ، شیخ طریقت ، مبلغ دین اور چند کتب کے مصنف .	● غلام معی الدین قصوری (مولانا) : (۱۲۰۲/۱۷۸۷ تا ۱۲۷۰/۱۸۵۳ء) ، سکھ عہد کے ایک نامور عالم و عارف ، شیخ طریقت ، مبلغ دین اور چند کتب کے مصنف .
۲ ۵۶۲	غلامان (خالدان) : رگ بہ (۱) ایلتمش : (۲) بلبن وغیرہ ، سلاطین خالدان غلامان .	⊗ غلامان (خالدان) : رگ بہ (۱) ایلتمش : (۲) بلبن وغیرہ ، سلاطین خالدان غلامان .
۲ ۵۶۳	غلامی : باقاعدہ تجارت کا درجہ حاصل کرنے والا ، انسانوں کی خرید و فروخت کا	*⊗ غلامی : باقاعدہ تجارت کا درجہ حاصل کرنے والا ، انسانوں کی خرید و فروخت کا

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۲ ۵۶۳	ایک معاشرتی ادارہ یا رسم و رواج ؛ نیز رگ بہ عبد .	
۱ ۵۷۶	غَلْجَه : دریائے جیحوں کے منبع کے قریب علاقہ پامیر اور بالائی یارقند وغیرہ میں آباد ایرانی الاصل قبائل .	* غَلْجَه
۲ ۵۷۷	غَلْزَلِی : ایک بڑا اور اہم افغان قبیلہ .	* غَلْزَلِی
۲ ۵۸۰	غَلَطَات مشہورہ : غلط العوام ، ترکی اصطلاح .	* غَلَطَات مشہورہ
۱ ۵۸۱	غَلَطَه : (Galate) ، قسطنطنیہ کی ایک مضافاتی بستی (رگ بہ قسطنطنیہ) .	* غَلَطَه
۱ ۵۸۱	غَلَطَه سَرای : استانبول سے کچھ آگے شاخ زریں کے قریب واقع پیرا (بای اوغلو) کے شاہی محل کا ایک مکتب .	* غَلَطَه سَرای
۱ ۵۸۳	غُمَارَه : المغرب کے مغربی علاقے میں ایک مصمودی بربر قبیلہ .	* غُمَارَه
۲ ۵۸۳	غُمَدَان : یمن کے صوبہ صنعاء میں ایک شاندار قلعہ .	* غُمَدَان
۲ ۵۸۵	غَمْغَمِین : برعظیم کے ایک معروف بزرگ ، صاحب دیوان شاعر اور مصنف سید علی بن سید محمد الملقب بہ حضرت جی کا تخلص (م ۱۲۶۸/۵۱۸۵۱ء) .	⊗ غَمْغَمِین
۲ ۵۸۷	غَنَا : رگ بہ فن (موسیقی) .	* غَنَا
۲ ۵۸۷	غَنَی : خود کفیل ؛ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک .	* غَنَی
۲ ۵۸۷	غَنَی کشمیری : ملا محمد طاہر غنی (۱۷۰۱ء/۵۱۶۰۸ء تا ۱۷۷۹ء/۵۱۶۶۸ء) ، کشمیر کے نامور عالم ، مدرس اور مشہور صاحب طرز فارسی شاعر .	⊗ غَنَی کشمیری
۱ ۵۹۲	غَنَی بن اَعْصَر : شمالی عرب کا ایک قبیلہ .	* غَنَی بن اَعْصَر
۲ ۵۹۲	غَنِيْمَة : مسلمانوں کو جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والے اسلحہ ، گھوڑے اور منقولہ سامان وغیرہ کے لیے ایک اسلامی اصطلاح .	* غَنِيْمَة
۲ ۵۹۳	غَنِيْمَت كُنْجَاهِي : محمد اکرام ، گیارہویں صدی ہجری کے اواخر میں پنجاب کا مشہور فارسی گو شاعر ، مثنوی نیرنگ عشق کا مصنف .	⊗ غَنِيْمَت كُنْجَاهِي
۱ ۵۹۶	الغَوَار : مشرقی عرب میں تیل کی پیداوار کے لیے معروف ایک کوہستانی علاقہ .	* الغَوَار
۱ ۵۹۷	غَوَازِي : رگ بہ غازیہ .	* غَوَازِي
۱ ۵۹۷	غَوْث : (دستگیری ، نجات) ، ولایت کے ایک بلند مرتبے کا حامل (رگ بہ قطب) .	* غَوْث
۱ ۵۹۷	غور : افغانستان میں وادی ہلمند اور ہرات کے درمیان ایک پہاڑی علاقہ ، سابقاً غوری خاندان کے سلاطین کا دارالحکومت .	* غور
۲ ۵۹۷	الغور : پہاڑوں کے درمیان نشیبی زمین کے لیے ایک جغرافیائی اصطلاح .	* الغور
۱ ۵۹۸	غوری خاندان مالوہ : مالوہ کا ایک حکمران خاندان (۱۳۰۱ء تا ۱۳۳۶ء) ؛ بانی : حسین ، فیروز شاہ تغلق کا ایک امیر .	* غوری خاندان مالوہ
۱ ۵۹۹	غوری : افغانستان ، ایران اور ہندوستان پر برسوں حکمرانی کرنے والا ملوک غور کا ایک خاندان .	* غوری

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۶۰۶	* الغوطہ : مملکت شام میں دمشق اور اس کے نواح پر مشتمل علاقہ .	
۱ ۶۰۸	* غول : مختلف شکلیں اختیار کر کے انسانوں کو بھٹکانے والے سرکش جنوں کی ایک خاص قسم .	
۱ ۶۰۹	* غواصی : دو مشہور شاعر : (۱) عز الدین غواصی یزدی ، فارسی زبان کا شاعر (م ۵۹۶۰/۱۵۵۳ء) ؛ (۲) ملا غواصی ، دکن میں گولکنڈہ کے قطب شاہی سلطان عبداللہ کے دربار ملک الشعراء (م بعہد تانا شاہ : ۵۱۰۸۳/۱۶۷۲ء تا ۵۱۰۹۷/۱۶۸۶ء) .	
۱ ۶۱۲	* غیاث الدین بلبن وغیرہ : رگ بہ (۱) بلبن ، (۲) کیخسرو ، (۳) محمد وغیرہ .	
۱ ۶۱۲	* غیاث الدین تغلق اول : غازی الملک ، تغلق خاندان کا بانی اور ہندوستان کا مشہور حکمران (از ۵۷۲۰/۱۳۲۰ء تا ۶۷۲۵/۱۳۲۵ء) .	
۲ ۶۱۳	* غیاث الدین تغلق شاہ ثانی : ابن فتح خان بن سلطان فیروز شاہ ، خاندان تغلق کا ایک حکمران (از ۵۷۹۰/۱۳۸۸ء تا ۱۳۸۹ - ۵۷۹۱/۱۳۸۹ء) .	
۱ ۶۱۵	⊙ غیاث الدین منصور بن صدر الدین : امیر ، حسنی حسینی دشتکی (۵۸۶۶/۱۳۶۲ء تا ۵۹۳۹/۱۵۳۲ء) ، ایران کا صدر الصدور اور قاضی القضاة ، علوم طبیعی اور الہیات کا فاضل اور متعدد شروح و کتب کا مولف .	
۱ ۶۱۷	* غیار : ذمی کے شانوں پر باندھا جانے والا ایک امتیازی نشان یا کپڑے کا بلا .	
۲ ۶۱۷	* غیب : بمعنی غائب ، غیر حاضر اور پوشیدہ اشیا ، نادیدہ عالم ارواح وغیرہ .	
۱ ۶۱۸	* غیبۃ : (غیر حاضری) ، ذہن کے ماسوا اللہ سے پاک ہونے کے لیے تصوف کی ایک اصطلاح .	
۲ ۶۱۸	* غیظہ : (غائظہ ، غیظہ) ، شمالی افریقہ اور جنوبی یورپ میں مقبول ایک آلہ موسیقی .	
۲ ۶۱۹	* غیلان بن عقبہ : رگ بہ ذوالرمة .	
۲ ۶۱۹	* غیلان بن مسلم : ابو المروان الدمشقی ، اولین قدریوں میں سے ایک (م بعہد ہشام بن عبدالملک ۵۱۱۵/۷۲۳ء تا ۵۱۲۵/۷۴۳ء) .	



ف

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱		⊗ ف : (فاء) ؛ عربی حروف ہجا کا بیسواں، فارسی کا بائیسواں اور اردو کا چھتیسواں حرف .
۲ ۲		⊗ الفاتحہ : قرآن مجید کی پہلی اور اہم ترین مکی سورہ .
۱ ۷		* الفاتک : خاندان نجات کے تین فرمانروا ، رگ بہ نجات .
۱ ۷		⊗ فاذرہر : رگ بہ بازہر .
۱ ۷		* فاراب : (باراب ، پاراب) ، وادی سیر دریا کا ایک ضلع .
		* القارابی : ابو النصر محمد بن محمد بن ترخان ابن اوزلغ (۸۷۰ تا ۹۵۰ء) ، ایک نامور مسلمان فلسفی ، سائنس دان ، ماہر موسیقی ، حکیم حاذق ، متعدد کتب طب و فلسفہ کا مصنف اور حکماء یونان بالخصوص ارسطو کا شارح .
۲ ۷		
۱ ۳۸		* فارس : (پارس) ، ایران کا ساتواں استان (صوبہ) .
۱ ۴۱		* فارس : ایک کثیر الاستعمال لفظ بمعنی اسپ سوار .
		* فارس بن محمد حسام الدولہ : ابو الشوق ، حلوان اور گرد و نواح کے دوسرے مقامات کا امیر (از ۵۴۰/۱۰۰۰ء تا ۵۴۲/۱۰۴۶ء) .
۱ ۴۳		* فارس الشدیاق : احمد بن یوسف ، ایک نامور عرب صحافی ، استانبول کے مقبول عام ہفت روزہ الجوائب کا مدیر اور چند کتب کا مصنف (م ۵۱۳/۱۱۱۷ء) .
۱ ۴۴		
۱ ۴۵		* فارسی : (زبان و ادب) ، رگ بہ ایران .
		* الفارسی : ابو علی الحسن بن علی (۵۲۸۸/۹۰۰ء تا ۵۳۷۷/۹۸۷ء) ، ایک ممتاز نحوی اور متعدد کتابوں کا مصنف .
۱ ۴۵		
۱ ۴۶		* فارسیہ : رگ بہ ایران .
۱ ۴۶		* الفارسیہ : سعودی عرب اور ایران کے ساحلوں کے مابین خلیج فارس میں ایک جزیرہ .
۱ ۴۶		* فارماسون : رگ بہ ماسونیہ .
۱ ۴۶		* الفاروق : رگ بہ عمر بن الخطاب .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۴۶		فاروقی : (خاندان) ، رگ بہ فاروقیہ .
۱ ۴۶		* الفاروقی : عبدالباقی (۵۱۲۰۳/۵۱۲۹۰ تا ۵۱۲۷۸/۵۱۸۶۲) ، ایک صاحب دیوان عراقی شاعر اور مملوکوں کے مقابلے میں قاسم پاشا اور علی رضا پاشا کا رفیق .
۱ ۴۶		* الفاروقی : ملا محمود بن محمد بن شاہ محمد جونپوری ، برعظیم پاک و ہند کے ایک عظیم عالم ، منطقی اور الحکمة ابالغۃ اور اس کی شرح الشمس البازغة کے مصنف (م ۵۱۰۶۲/۵۱۶۵۲) .
۲ ۴۶		* فاروقیہ : حضرت عمر فاروقؓ سے منسوب جنوبی ہند میں خاندیش کے نیم خود مختار مسلمان حکمرانوں کا خاندان (از ۵۷۸۳/۵۱۳۸۲ تا ۱۶۰۰/۵۱۰۰۹ - ۱۶۰۱) بانی : ملک راجا یا راجا احمد .
۲ ۴۸		* فازاز : فاس و مکناس کے جنوب میں مراکش کے وسطی سلسلہ کوہ کا شمال مغربی سرا .
۱ ۵۵		* فازوغلی : نیل ازرق سے لے کر حبشہ تک پھیلا ہوا جمہوریہ سودان کا ایک پہاڑی ضلع .
۲ ۵۵		* فاس : (ہسپانوی : Fez) ، مراکش کا مشہور تاریخی شہر اور سلطان کا ایک مقام سکونت .
۱ ۵۶		* فاسد و باطل : علم اصول فقہ کی ایک اصطلاح .
۲ ۷۵		* فاسق : ایک شرعی اصطلاح ، بمعنی حد شرع سے باہر نکلنے والا شخص .
۱ ۷۷		* الفاسی : تقی الدین محمد بن احمد بن علی المکی الحسنی (۵۷۷۵/۵۱۳۷۳ تا ۵۸۳۲/۵۱۳۲۹) ، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ایک عالم ، سیاح اور متعدد موضوعات ، بالخصوص تاریخ مکہ پر کتابوں کے نامور مصنف .
۲ ۸۰		* الفاسیون : اہل فاس .
۲ ۸۲		* الفاشر : زمانہ سابق میں ایک چھوٹی سی سلطنت ، اب جمہوریہ سودان کے صوبہ دارفور (رگ باں) کا صدر مقام .
۲ ۸۳		* فاشودہ : سودان کے ایک وسیع صوبے اور اس کے صدر مقام کا سابق نام .
۱ ۸۵		* فاصِلہ : وقفہ ، عروض کی ایک اصطلاح ، ایسے تین یا چار متحرک حروف صحیحہ جن کے بعد حرف صحیح ساکن آئے .
۲ ۸۵		* فاضل بے ، حسین : نیز فاضل اندرونی (نواح ۵۱۱۷۰/۵۱۷۵۷ تا ۵۱۲۲۵/۵۱۸۱۱) ، اپنی عشقیہ تصانیف کے باعث شہرت پانے والا ایک ترکی شاعر .
۱ ۸۶		* فاضل حسین بے : رگ بہ فاضل بے حسین .
۲ ۸۶		* فاضل پاشا : مصطفیٰ مصری (۱۸۳۰ تا ۵۱۸۷۵) ، مصر و ترکیہ میں متعدد وزارتوں پر فائز رہنے والا ایک عثمانی مصری سیاستدان .
۲ ۸۶		* فاضل الدین قادری : سید ابو الفرج محمد المعروف بہ قطب معظم ، پنجاب میں سلسلہ

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۸۷		قادریہ فاضلیہ کے بانی (م ۱۱۵۱/۵۱۷۳۹)۔
۲ ۸۸		⊗ فاطر : قرآن مجید کی پینتیسویں سورت ۔
		⊗* فاطمہؓ : سیدۃ النساء العالمین ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چھپتی صاحبزادی ، حضرت علیؓ کی زوجہ محترمہ اور حسنینؓ کی والدہ
۱ ۹۰		معظمہ (م ۱۱۱/۵۶۳۲)۔
		* فاطمیون : (فاطمیین ؛ بنو فاطمہ) ، شمالی افریقہ اور بعد ازاں مصر کا حکمران خاندان
۱ ۱۰۱		(از ۵۲۹۷/۹۰۹ - ۶۱۰ تا ۵۶۷/۱۱۷۱)۔
۲ ۱۳۰		* فاطمی فن : فاطمی عہد کے فنون ۔
۲ ۱۳۵		* فاعل : علم نحو کی ایک اصطلاح ۔
		* الفاکہی : (۱) ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق بن العباس ، مکہ مکرمہ کا ایک مؤرخ (حیات ۵۲۷۲/۸۸۵) ؛ (۲) عبد اللہ بن احمد المکی الشافعی النحوی (۵۸۹۹/
۱ ۱۳۶		۶۱۴۹۲ تا ۵۹۷۲/۱۵۶۳) ، حدود النحو کا مصنف ۔
۲ ۱۳۶		⊗ فال : رگ بہ علم (طلسم و نیرنجات) ۔
۲ ۱۳۶		⊗ فال نامہ : رگ بہ علم (طلسمات و نیرنجات) ۔
۲ ۱۳۶		⊗ فان کریمر : Alfred von Kremer (۱۸۲۸ تا ۱۸۸۹) ، آسٹریا کا نامور مستشرق ۔
۱ ۱۳۷		* فانوس : ایک تہ ہو جانے والی لالٹین ۔
۱ ۱۳۷		* فاؤ : (Fao) ، شط العرب کے دہانے کے قریب ترکی قلعہ اور تار گھر ۔
۱ ۱۳۷		* الفائز بنصر اللہ : ایک فاطمی خلیفہ (از ۵۴۹/۱۱۵۴ تا ۵۵۵/۱۱۶۰)۔
		* فتی : (نوجوان) ، اندلس میں محل شاہی کے کسی اعلیٰ منصب پر ماسور غلام کے لیے ایک اصطلاح ۔
۱ ۱۳۷		* فُتَا جَلَوْن : جمہوریہ گنی کے شمال مشرق میں مغربی افریقہ کا اہم ترین کوہستانی علاقہ ۔
۱ ۱۳۸		⊗ الفتاویٰ : شریعت اسلامی کے فروعی مسائل کا اجتہاد و استنباط کے ذریعے حل ۔
۱ ۱۳۹		⊗ فتاویٰ جہانداری : برعظیم پاک و ہند کے مشہور مؤرخ ضیاء الدین برنی کے سیاسی نظریات پر مشتمل کتاب ۔
۲ ۱۴۴		⊗ فتاویٰ عالمگیری : اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت (۱۶۵۸ تا ۱۷۰۷) میں سرکاری حکم سے علما کی ایک جماعت کا مرتب کردہ مجموعہ فتاویٰ ۔
۲ ۱۴۵		* الفَتَّاح : رگ بہ الاسماء الحسنی ۔
۲ ۱۵۵		* فِتَّاحی : یحییٰ سبیک نیشاپوری ، ایک نثر نگار اور شاعر (۱۴۴۸-۱۴۴۹/۸۵۲م تا ۱۴۴۹-۱۴۴۸/۸۵۲م) یا
۲ ۱۵۵		(۱۴۴۹/۸۵۳ - ۱۴۵۰)۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۵۶		⊗ فتح : فتحہ ، (۱) علم نحو کی اصطلاح ، بمعنی حرکت زبر ؛ (۲) علم الحساب کی ایک اصطلاح ، بمعنی کسی عدد کا مربع ۔
۱ ۱۵۶		⊗ الفتح : قرآن مجید کی اڑتالیسویں سورۃ ۔
۲ ۱۵۷		* الفتح : ابونصر الفتح بن محمد عبید اللہ القیسی ، المعروف بہ فتح بن خاقان ، اندلس کا ایک بلند پایہ نثر نگار اور تذکرہ نویس ، مصنف قلائد العقیان ، وغیرہ (م ۵۵۲۸ / ۶۱۱۳۳ / ۵۵۳۵ / ۶۱۱۳۰) ۔
۱ ۱۵۹		⊗ الفتح بن خاقان : المتوکل عباسی کا ایک منظور نظر مصاحب (م ۵۲۴۷ / ۶۸۶۱) ۔
۲ ۱۵۹		⊗ فتح پور سیکری : اتر پردیش (بھارت) میں شہنشاہ اکبر کا آباد کردہ شہر (آجکل ویران) ۔
۲ ۱۶۰		* فتح علی اخونزادہ : رک بہ اخوند زادہ میرزا فتح علی ۔
۲ ۱۶۰		* فتح علی شاہ : قاچار خاندان کا ایک ایرانی بادشاہ (از ۵۱۲۱۲ / ۶۱۷۹۷ تا ۵۱۲۵۰ / ۶۱۸۳۳) ۔
۲ ۱۶۱		* فتح نامہ : سلطنت عثمانیہ میں فتح و نصرت کے سرکاری اعلان کے لیے ایک اصطلاح ۔
۲ ۱۶۳		* ⓧ فترہ : (وقفہ) ، ایک اصطلاح ، بمعنی ایک نبی کے وصال سے لے کر دوسرے نبی کے ظہور تک یا ایک وحی سے دوسری وحی تک کا زمانہ ۔
۲ ۱۶۳		* فتنہ : ایک قرآنی و شرعی اصطلاح ۔ بمعنی امام کے خلاف سازش و بغاوت یا مسلمانوں کے مابین خانہ جنگی ۔
۲ ۱۶۷		* فتویٰ : رک بہ الفتاویٰ ۔
۲ ۱۶۷		* فتوہ : مروۃ کے مترادف اصطلاح ، بمعنی پختہ سن کے آدمی کی صفات ، نیز مسلمان ملکوں کی مختلف شہری تنظیمیں ۔
۲ ۱۸۶		* فٹاغورس : رک بہ فیثا غورس ۔
۲ ۱۸۶		* الفجار : گناہ اور محرمات کا ارتکاب ، زمانہ جاہلیت میں قریش اور قیس عیلان کے مابین حرمت والے مہینوں میں لڑی جانے والی جنگوں کا ایک مشہور سلسلہ ۔
۲ ۱۸۷		* فجر : رک بہ صلوٰۃ ۔
۲ ۱۸۷		⊗ الفجر : قرآن مجید کی نواسیوں سورۃ ۔
۲ ۱۸۸		* فجر آتی : (ظہور صبح) ، ترکوں کی ایک ادبی انجمن ؛ نیز رک بہ ترک (ادبیات) ۔
۲ ۱۸۸		* فجور : رک بہ فاسق ۔
۲ ۱۸۸		* فجیح : رک بہ فقیق ۔
۲ ۱۸۸		* الفجیرہ : متار کہ جنگ کی پابند سات عرب شیوخ کی ریاستوں میں سے ایک ریاست ۔
۲ ۱۸۹		* فحس البلوط : (Las Pedroches) ، اندلس میں قرطبہ کے جنوب مغرب میں المعدن تک پہنچی ہوئی ایک وادی ۔
۲ ۱۸۹		* فحل یا فحل : (Pella : Phl) ، شرق اردن کی مغربی ڈھلانوں پر آباد عہد قدیم کا

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۱۹۰	ایک شہر (آجکل کھنڈر) .	* فَخّ : مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک ندی اور ۵۱۶۹/۶۷۸۶ء میں حسین بن علی بن الحسن
۲ ۱۹۰	اور ان کے رفقا کی شہادت گاہ .	* فَخَّار : رگ بہ فن (فَخَّار) .
۱ ۱۹۱		* فِخْد : (فِخْد)، رگ بہ (۱) عشیرہ : (۲) قبیلہ .
۱ ۱۹۱		⊗ فِخْر : کبر و شرف و عظمت کا ادعا ؛ اعزازی خطابات کا جز (مثلاً فخر الدولہ) .
۱ ۱۹۱		* فخر الدولہ : ابو الحسن علی بن رکن الدولہ ، الجبال ، طبرستان اور جرجان کا بویہی
۱ ۱۹۲	حاکم (حیات ۵۳۸۷/۶۹۹۷ء) .	* فخر الدین بن قرقماس : (۵۹۸۰/۱۵۷۲ء تا ۶۱۰۳۵/۱۶۳۵ء) ، دروز کا امیر اور
۱ ۱۹۳	لبنان کی ایک طاقتور سیاسی شخصیت .	⊗* فخر الدین الرازی : ابو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن (۵۴۳/۱۱۴۹ء تا ۶۰۶/۱۲۰۹ء) ، سربرآوردہ عالم ، محقق اور مفسر ، صاحب تفسیر کبیر
۲ ۱۹۴	وغیرہ .	* فخر الدین مبارک شاہ : المعروف بہ فخرآ ، بنگالہ کے پہلے خود مختار شاہی خاندان
۱ ۲۰۳		مبارک شاہیہ کا بانی اور حکمران (از ۵۳۹/۱۳۳۸ء تا ۵۷۱/۱۱۷۱ء) .
۱ ۲۰۳		* فخر الملک : ابو المظفر علی بن نظام الملک ، مشہور سلجوقی وزیر نظام الملک کا
۱ ۲۰۳		سب سے بڑا بیٹا اور برکیاروق کا وزیر (م ۵۰۰/۱۱۰۶ء) .
۱ ۲۰۴		* فخری الاصفہانی : شمس الدین محمد ، ایرانی ماہر لسانیات اور مصنف معیار الجمالی
۲ ۲۰۴		(حیات ۵۴۲/۱۱۴۱ء) .
۲ ۲۰۴		* فخری بروسوی : ترکیہ کا ممتاز ترین نقش تراش (م ۱۶۱۸ء) .
۲ ۲۰۴		* الفخری : محمد بن علی بن طباطبائی المعروف بہ ابن الطاطقی کی تصنیف کردہ تاریخ کی
۲ ۲۰۴		نہایت اہم کتاب الفخری فی الآداب السلطانیہ والدول الاسلامیہ .
۲ ۲۰۵		* فِدَاء : فدیہ ، نیز مقام منیٰ میں دی جانے والی قربانی .
۱ ۲۰۶		* فِدائی : بمعنی جاں نثار ، اصطلاحاً (۱) اسماعیلی فرقے کے حشاشین قاتل ؛ (۲) انقلاب
۱ ۲۰۶		ایران کے بعد دستور پسند ؛ (۳) شیخ زادہ لاهیجی اور میرزا سعید اردستانی کا
۲ ۲۰۶		تخلص .
۲ ۲۰۶		* فِدائی خان کوکہ : مظفر حسین ، خان جہاں کوکلتاش کا بھائی ، شاہجہان کا معتمد
۲ ۲۰۶		درباری اور اورنگ زیب عالمگیر کا ایک سالار عسکر (م ۱۰۸۹/۱۶۷۸ء) .
۲ ۲۰۶		* فِدالیان اسلام : ایران کی نیم مذہبی اور نیم سیاسی دہشت پسند خفیہ تنظیم (۱۹۴۳ء تا

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۲۰۸		* قَدَان : پیمائش اراضی کا ایک مصری پیمانہ ؛ زراعت کے بیلوں کی جوڑی . (۱۹۵۵ء)
۱ ۲۱۰		* قَدَك : شمالی حجاز میں خیبر کے قریب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ایک قدیم قصبہ .
۲ ۲۱۰		* قَدُو : رگ بہ فدیہ .
۱ ۲۱۵		* قَدِيَّة : (بدل ، جزا ، قربانی) ؛ ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی اسیران جنگ کی رہائی کا معاوضہ .
۱ ۲۱۵		* قَدِيكَة : (رقم ، مجموعہ ، میزان) ، عثمانی عہد حکومت کی ایک اصطلاح ، بمعنی شکایات اور عرضداشتوں کا خلاصہ ، نیز عثمانی عہد کی مختصر تاریخ کے لیے بطور عنوان .
۲ ۲۱۶		* فَر : رگ بہ فرو .
۱ ۲۱۴		* الفرات : عراق کا مشہور دریا .
۱ ۲۱۴		* الفرات (بنو) : رگ بہ ابن الفرات .
۲ ۲۲۰		* فِرَارِي : (بھگوڑا) ، ایک ترکی اصطلاح ، غیر ملکوں میں پناہ لینے والے ترک نوجوان .
۲ ۲۲۰		* فِرَاسَة : (۱) قاضی اور حاکم تنظیم کی ذاتی بصیرت ؛ (۲) چہرے بشرے کی علامتیں پہچاننا ؛ (۳) صوفیہ کا وہی وجدانی ادراک .
۲ ۲۲۰		* الفرافرة : (نیز الفرافره) ، منیا کے مصری صوبے میں شامل صحرائے لیبیا کا ایک نغاستان .
۲ ۲۲۱		* فَرَاه : صوبہ ہرات (افغانستان) کا ایک شہر .
۲ ۲۲۱		* فَرَاهِي : ابو نصر مسعود بن ابی بکر حسین بن جعفر ، ساتویں صدی ہجری کا ایک ایرانی ماہر لسانیات اور صاحب نصاب الصبیان .
۱ ۲۲۲		* فَرَالِض : رگ بہ میراث .
۱ ۲۲۲		* فَرَالِضِي فرقه : تَضِيہ ، بنگال کے مسلمانوں کا ایک دینی اور نیم سیاسی فرقہ ؛ بانی : حاجی شریعت اللہ (۱۷۸۰ تا ۱۸۳۰ء) .
۱ ۲۲۲		* فَرَابَر : قریہ عالی ، یا رباط طاہر بن علی ، آمل کے بالمقابل واقع روس کا ایک شہر .
۳ ۲۲۵		* الفَرَج : الملک الناصر ناصر الدین ، سلطان برقوق (رگ بہ) کا بیٹا اور جانشین (از ۵۸۰/۱۳۹۹ء تا ۵۸۱۵/۱۴۱۲ء) .
۲ ۲۲۶		* فرج آباد : مازندارن میں ایک مقام .
۱ ۲۲۸		* فرج اَنْطُون : (۱۸۷۳ تا ۱۹۲۲ء) ، طرابلس (لبنان) کا عرب مصنف اور صحافی .
۲ ۲۲۹		* فرحات جَرْمَالُوس : ایک عیسائی عرب ماہر علم اللسان ، شاعر اور انیسویں صدی عیسوی میں عرب ممالک کی ادبی نشاۃ ثانیہ کا پیشرو .
۱ ۲۳۰		* فَرْد : (واحد ، اکیلا ، تنہا) ، ذات باری کے متعلق علم الہیات کی ایک اصطلاح .
۱ ۲۳۳		

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۲ ۲۳۵		* فردوس : رگ بہ جنتہ .
۲ ۲۳۵		⊗ فردوسی : ابو القاسم حسن بن منصور یا حسن بن علی وغیرہ (نواح ۳۲۹ - ۳۳۰ / ۹۳۰ - ۹۴۱ تا ۵۳۱ / ۴۱۰۲) ، شاہنامہ کا مصنف ، عظیم فارسی شاعر .
۲ ۲۳۳		* فردوسی : (فردیوسی) ، سلطان بایزید ثانی (۱۳۸۱ تا ۱۵۱۲ء) کے عہد میں بروسہ کا ایک ترکی شاعر .
۱ ۲۳۳		* فردہ : رگ بہ فرضہ .
۱ ۲۳۳		* فردی : بعض ایرانی شعرا کا تخلص : (۱) فردی (م اوائل عہد سلطان سلیمان اول) ؛ (۲) اریچی زادہ حسین (م ۵۱۲۱ / ۴۱۰۹) ؛ (۳) درویش فردی (م ۵۱۲۵ / ۴۱۰۳) .
۲ ۲۳۳		* الفراء : ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الکوفی النحوی (نواح ۵۱۳۳ / ۴۶۱ تا ۵۲۰ء)
۲ ۲۳۳		* فرخ آباد : اثر پردیش (بھارت) میں ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۲ ۲۳۸		⊗ فرخ سیر : ابو المظفر محمد معین الدین بن عظیم الشان بن شاہ عالم بہادر شاہ اول بن شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر (۵۱۰۸۳ / ۱۶۷۳ء تا ۵۱۱۳۱ / ۱۷۱۹ء) ، سلطنت مغلیہ کے دور زوال کا ایک حکمران (از ۵۱۲۳ / ۱۷۱۳ء تا ۵۱۳۱ / ۱۷۱۹ء) .
۲ ۲۳۹		* فرخان : کیلان شاہ بن دابوید ، المعروف بہ بزرگ و ذوالمنقب ، طبرستان کا ایک سپہبند (۴۰۹ تا ۴۲۲ء) .
۱ ۲۵۳		* فرخی : ابو الحسن علی بن جولوغ ، محمود غزنوی کے دربار کا ایک قادر الکلام صاحب دیوان ایرانی شاعر (م ۵۳۲۹ / ۴۱۰۳۸) .
۱ ۲۵۵		* فریش : (Casti lo del Hierro) ، ہسپانیہ میں صوبہ اشبیلیہ کا ایک علاقہ .
۱ ۲۵۶		* الفرزدق : امام بن غالب بن صعصعہ (۵۲۰ / ۶۳۱ء تا ۵۱۱۳ / ۷۳۲ - ۴۳۳ء) ، اموی عہد کا ایک ممتاز اور نامور عرب شاعر .
۱ ۲۶۹		* الفرس : (۱) گھوڑا ؛ (۲) ستاروں کا ایک مجموعہ .
۱ ۲۶۲		* الفرس : عربوں کے ہاں اہل فارس (ایران) کے لیے مستعمل کلمہ .
۲ ۲۶۳		* فرسان : (تیز فرسان) ، بحیرہ احمر میں راس جزان کے جنوب مغرب میں تہامہ کی بندرگاہ ابو عریش کے بالمقابل واقع ایک مجمع الجزائر .
۱ ۲۶۵		* فرسخ : فرسنگ ، لمبائی ماپنے کا ایرانی پیمانہ .
۲ ۲۶۵		* قرش : رگ بہ فن (قالین باقی) .
۲ ۲۶۵		* فرشتہ : رگ بہ ملئکہ .
		* فرشتہ : محمد قاسم خندو شاہ استرآبادی (ولادت : مابین ۵۹۸۰ / ۱۵۰۷ء و

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۲۶۵	احمد نگر اور بیجا نگر کا درباری عالم اور صاحب تاریخ فرشتہ .	* فرشتہ اوغلو : (فرشتہ زادہ ، ابن فرشتہ) ؛ آناطولی کے دو ترک مصنف بھائی : (۱) عبداللطیف بن فرشتہ عزالدین بن امین الدین المعروف بابن الملک (حیات ۵۸۲۳/۵۱۳۲۱) ، فقہ و حدیث کا ایک ممتاز عالم اور مصنف ؛ (۲) عبدالمجید بن فرشتہ عزالدین ، ایک ترک عالم اور مصنف (۵۸۶۳/۵۱۳۵۹) .
۱ ۲۷۰		* فرض : سختی اور تاکید سے دیے گئے حکم ، نیز عمل میں لازم کسی فعل کے لیے ایک فقہی اصطلاح .
۲ ۲۷۱		* فرضہ : مصر میں کسی غیر معمولی محصول کے لیے ایک اصطلاح .
۱ ۲۷۲		* فرع : رک بہ (۱) فروع ؛ (۲) فقہ .
۱ ۲۷۳		⊗ فرعون : زمانہ قدیم میں ملوک مصر ، بالخصوص شاہان عمالقہ کا لقب ، نیز حضرت موسیٰ کا مخالف بادشاہ مصر .
۱ ۲۷۴		* فرغالہ : (روسی : Ferganskaya Oblast) ؛ سیر دریا (میچون) کے وسط میں واقع اور آجکل روس میں شامل ایک سو کیلو میٹر لمبی اور ستر کیلو میٹر چوڑی وادی .
۲ ۲۷۷		* الفرغانی : (Alfraganus) ، ابو العباس احمد بن محمد بن کثیر ، قرون وسطیٰ کا ایک مسلم ہیئت دان اور اسطرلاب پر دو کتابوں کا مصنف (حیات ۵۲۳۷/۵۸۶۱) .
۱ ۲۸۹		* الفرغانی : دو مؤرخین : (۱) ابو محمد عبداللہ بن احمد بن جعفر (۵۲۸۲/۵۸۹۵ تا ۵۳۶۲/۵۹۷۳) ، الطبری کا شاگرد اور اس کی تاریخ کے تتمہ الصلۃ کا مصنف ؛ (۲) اس کا بیٹا ابومنصور احمد بن عبداللہ (۵۳۲۷/۵۹۳۹ تا ۵۳۹۸/۶۱۰۰) ، صاحب صلۃ الصلۃ .
۱ ۲۹۰		* فرفورئوس : (Porphyry) ؛ زمانہ حیات : مابین ۲۳۳ و ۳۰۵) ، صور کا باشندہ ، کاتب ، سوانح نگار ، فلاطینوس کی کتابوں کا مؤلف اور نو فلاطونی فلسفے کا بانی .
۲ ۲۹۰		* فرق : رک بہ فصل .
۱ ۲۹۳		● فرق : رک بہ فرقہ .
۱ ۲۹۳		● الفرقان : قرآن مجید ؛ نیز قرآن مجید کی پچیسویں سورۃ .
۲ ۲۹۳		* الفرقدان : قطب کے قریب پائے جانے والے دو ستاروں کے لیے علم ہیئت کی ایک اصطلاح .
۲ ۲۹۵		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۹۶		* (X) فرقہ : مسلمانوں میں ابتدائی زمانے میں پیدا ہونے والے فرقے .
۱ ۳۱۲		* فرقہ : (Fraga) ، افراغہ ، شمال مشرقی ہسپانیہ میں ایک چھوٹا سا شہر .
		(X) فرمان : سلاطین و حکام کے احکام ، نیز سرکاری خطوط وغیرہ کے لیے مستعمل ایک فارسی لفظ .
۲ ۳۱۲		
۱ ۳۲۲		* فرمول : (فرمل) ، گردیز کے قریب افغانستان کا ایک پہاڑی علاقہ .
۱ ۳۲۲		* فرنگی : (Franks) ، افرنج یا فرنچ) ، مسلمانوں کے ہاں اہل یورپ کے لیے مستعمل لفظ .
۲ ۳۲۴		* فرو : پوستین کے بنے ہوئے لباس کے لیے مستعمل لفظ .
۲ ۳۲۹		* فروان : (پروان) ، کابل کے شمال میں افغانستان کا ایک چھوٹا سا شہر .
۱ ۳۳۰		* فرور دین : ایرانیوں کے سال شمسی کا پہلا مہینا ، لیڑ ہر ماہ کی انیسویں تاریخ .
۲ ۳۳۰		(X) فروسیہ : رگ بہ علم (الفرسیہ) .
۲ ۳۳۰		* فروض : رگ بہ فرض .
۲ ۳۳۰		* فروغ : رگ بہ فقہ .
۲ ۳۳۰		* فروغ : ابو القاسم خان ، انیسویں صدی عیسوی کا ایک ایرانی شاعر .
۲ ۳۳۰		* فروغ الدین : محمد مہدی بن محمد باغر اصفہانی (ولادت ۱۲۲۳ھ/۱۸۰۸ء) ، ایک ایرانی شاعر .
۲ ۳۳۰		
		(X) فروغی : فارسی کے تین شعرا کا تخلص : (۱) میرزا محمد اصفہانی ، امیر تیمور شاہ درانی کا ملک الشعراء ؛ (۲) میرزا عباس بن آقا موسیٰ بسطامی (۱۲۱۳ھ/۱۷۹۸ء تا ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۸ء) ، ایک ممتاز غزل گو ؛ (۳) ذکاء الملک میرزا محمد حسین بن آقا محمد مہدی ارباب اصفہانی (۱۲۵۵ھ/۱۸۳۹ء تا ۱۲۹۰ھ) ، ایران کا مشہور شاعر ، ادیب ، صحافی اور مترجم .
۱ ۳۳۱		* فرہاد پاشا : سلطنت عثمانیہ کا سپہ سالار اور دو بار صدر اعظم (از ۱۵۹۱ھ/۱۵۹۱ء تا ۱۵۹۲ھ/۱۵۹۲ء و ۱۵۹۵ھ/۱۵۹۵ء تا ۱۶۰۳ھ/۱۵۹۵ء) .
۲ ۳۳۱		(X) فرہاد و شیریں : ایران کی مشہور عشقیہ داستان کے مرکزی کردار .
۲ ۳۳۳		* فرہنگ : ایرانی لغت .
۱ ۳۳۳		* فرہنگستان : رگ بہ مجمع .
۲ ۳۳۳		* فریاب : (قاریاب ، پریاب) ، متعدد مقامات کا نام : (۱) شمالی افغانستان کا ایک قصبہ (موجودہ دولت آباد) ؛ (۲) صوبہ جنوبی فارس کا ایک قصبہ ؛ (۳) کرمان کا ایک گاؤں ؛ (۴) مغلد کا ایک گاؤں .
۲ ۳۳۳		(X) فرید : خواجہ غلام فرید (۱۲۶۱ھ/۱۸۳۳ء تا ۱۳۱۰ھ/۱۹۰۱ء) ، سرائیکی کے ایک معروف شاعر ، جید عالم دین اور صاحب حال صوفی .
۱ ۳۳۵		* فرید پاشا : رگ بہ داماد فرید پاشا .
۱ ۳۳۸		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۳۸		⊗ فرید پور: بنگلہ دیش کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام،
۱ ۳۳۹		⊗ فرید الدین عطار: "رک بہ عطار۔"
		⊗ فرید الدین گنج شکر: مسعود بن سلیمان بن شعیب (۵۶۹/۱۱۷۳ - ۶۱۱۷۳ یا ۵۸۳/۱۱۸۸ تا ۵۶۶۳/۶۱۲۶۵ یا ۵۶۷۰/۶۱۲۷۱)،
		برعظیم ہاک و ہند کے مشہور و معروف ولی اللہ،
		سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ اور خواجہ نظام الدین اولیا
۱ ۳۳۹		کے استاد اور مرشد۔
		⊗ فرید کوٹ: بھارتی پنجاب کا ایک شہر، سابقاً ایک سکھ ریاست؛ بانی: سیدھو جاٹ
۱ ۳۳۳		(بعہد اکبر)۔
۲ ۳۳۳		* فریدون: قدیم ایرانی بادشاہ اور شاہنامہ فردوسی کا ایک بطل۔
		* فریدون بیگ (احمد): عثمانی محافظ خانے کا سربراہ اور منشآت السلاطین کا مرتب
۱ ۳۳۵		(م ۱۵۸۳/۱۵۹۹)۔
۲ ۳۳۷		* فریضہ رک بہ فرض۔
		* فریغون، بنو: آل فریغون، دسویں صدی عیسوی میں گوزگان (جوزجان) کا حکمران
۲ ۳۳۷		خاندان۔
		* فریق: (۱) لوگوں کی ایک جماعت یا قافلے کا ایک حصہ؛ (۲) ترکیہ میں تنظیمات
		کے زمانے سے ایک فوجی ڈویژن کا سپہ سالار اور بحری بیڑے کا نائب
۲ ۳۵۰		امیر البحر۔
		* فریکسی لیٹم: Fraxinatum، سواحل اندلس پر ایک گاؤں اور اسی برس تک
		(از نواح ۵۲۸۱/۵۸۹۳ تا نواح ۵۳۶۲/۵۹۷۳) مسیحی سلطنتوں میں محصور
		بحری حملہ آوروں کی ایک اسلامی ریاست (موجودہ La-Grade - Frienet،
۲ ۳۵۰		فرانس میں)۔
۲ ۳۵۱		* فزارہ، بنو: عدنان کی نسل سے شمالی غرب کا ایک قدیم طاقتور قبیلہ۔
۱ ۳۵۲		* فزان: شمالی افریقہ میں وسطی صحرا کے نخلستان کا سب سے بڑا مجموعہ۔
۱ ۳۵۳		* فس: (Fez)، فاس (مراکش) سے منسوب سرخ رنگ کی (ترکی) ٹوپی۔
۲ ۳۵۳		* فسا: قدیم ہسپانیہ، فارس کا ایک شہر۔
۱ ۳۵۵		* فسالہ: (افسانہ)، "رک بہ (۱) حکایت؛ (۲) قصہ؛ (۳) مثل؛ (۴) فن۔"
		* فسخ: نکاح، بیع و شری اور دیگر معاہدوں میں طے شدہ بات کو توڑ دینے کے لیے
۱ ۳۵۵		اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح۔
۲ ۳۵۶		⊗ فسخ نکاح: "رک بہ (۱) فسخ؛ (۲) طلاق۔"
		* الفسطاط: مسلم فاتحین کا بنا کردہ مصر کا پہلا شہر اور عرب عاملین کا اولین

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۵۶		صدر مقام .
۲ ۳۶۰		* فسق : رگ بہ فاسق .
۲ ۳۶۰		* فَمَنْجِس (بنو) : عہد بنو بویہ میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز ہونے والا ایک خانوادہ .
۱ ۳۶۲		⊗ فسيفسا : رگ بہ فن (تعمیر) .
۱ ۳۶۲		⊗ فصاحة : اصطلاح ، بمعنی کلام کا اہل زبان کے موافق تناصر حروف اور غرابت وغیرہ کے عیب سے مبرا ہونا .
۲ ۳۶۲		* فصل : ایک کثیر الاستعمال و مختلف المعانی اصطلاح : (۱) کتابوں کے ایک جیسے مباحث کو دوسرے مباحث سے الگ کرنا ؛ (۲) علم القراءة میں وقف ؛ (۳) علم العروض میں ایک خاص قسم کا زحاف ؛ (۴) علم نحو میں مبتدا اور خیرکو جدا جدا کرنے والی ضمیر وغیرہ .
۱ ۳۶۳		* فصل : رگ بہ فلاح .
۱ ۳۶۳		⊗ فصّات : سورہ حم السجدة (رگ باں) کا دوسرا نام .
۲ ۳۶۳		* فصیح : رگ بہ فصاحة .
۲ ۳۶۳		* فصیح ددہ ، احمد : سلسلہ مولویہ کا ایک ترک شاعر (۱۱۱۱/۵۱۶۹۹) .
۲ ۳۶۳		* فصیلة : ایک کثیر الاستعمال لفظ ، وہ شے جو کسی سے جدا کر دی جائے .
۱ ۳۶۳		* فضالة : بحر اوقیانوس کے ساحل پر مراکش کا ایک شہر .
۱ ۳۶۳		* الفضالی : محمد بن محمد الشافعی ، قاہرہ کے ایک شیخ ، الباجوری کے استاد اور مصنف
۱ ۳۶۵		کفاية العوام من علم الكلام .
۱ ۳۶۵		* فضائل : رگ بہ فضلیت .
۱ ۳۶۵		* الفضة : چاندی .
۱ ۳۶۶		* فضل با : حضرموت کے تریمی مشائخ کا ایک خاندان .
۱ ۳۶۷		* الفضل بن احمد : الاسفرائنی ، ابو العباس ، سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر .
۲ ۳۶۷		* الفضل بن الربیع : بن یونس (۱۳۸/۵۷۵ تا ۲۰۸/۵۸۲۳) ، حضرت عثمانؓ کے ایک آزاد کردہ غلام ابو فروہ کیسان کی نسل سے خلیفہ الامین کا ایک وزیر .
۱ ۳۶۹		* الفضل بن سہل : الملقب بہ ذوالریاستین (۱۵۳/۵۷۱ تا ۲۰۲/۵۸۱۸) ، ایک ایرانی فاضل ، خلیفہ المامون کا ایک وزیر .
۱ ۳۷۰		* الفضل بن مروان : (۱۷۰/۵۸۶ تا ۲۵۰/۵۸۶۴) ، عباسی خلیفہ المعتصم کا وزیر .
۲ ۳۷۰		* الفضل بن یحییٰ : البرمکی (۱۴۷/۵۷۵ تا ۱۹۳/۵۸۰۸) ، خلیفہ ہارون الرشید عباسی کا وزیر اور رضاعی بھائی .
۲ ۳۷۰		* فضل اللہ : اپنا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروقؓ سے ملانے والا مملوک عہد میں قاہرہ

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۷۱		کے سرکاری اہلکاروں کا ایک خاندان .
۱ ۳۷۲		* فضل اللہ : الملقب بہ حروفی (۱۳۳۹/۵۷۳۰ تا ۱۳۹۶/۵۷۹۳) ، فرقہ حروفی کا بانی ، مذہب قرامطہ کا ہم خیال ایک ملحد .
۲ ۳۷۱		* فضل اللہ : رک بہ رشید الدین فضل اللہ .
۲ ۳۷۲		* فضل اللہ جمالی : رک بہ جمالی .
۲ ۳۷۲		* فضل امام : بن محمد ارشد العمری الہرگامی الخیر آبادی ، ہندوستان میں معقولات کی تدریس اور ترویج کے لیے معروف خیر آبادی سلسلہ علما کے پہلے نامور بزرگ اور معقولات پر کتب کے مصنف (م ۱۲۳۳/۵۱۸۲۹) .
۱ ۳۷۵		* فضل حسین ، میان سر : رک بہ مسلم لیگ .
۱ ۳۷۵		* فضل حق خیر آبادی : (۱۲۱۱/۵۱۲۱۱ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ تا ۱۲۷۹/۵۱۸۶۲) ، منطق و حکمت ، فلسفہ و ادب ، کلام و اصول اور شعر و شاعری میں دستگاہ کامل کے حامل ، ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے ایک بطل اور متعدد کتابوں کے مصنف .
۲ ۳۷۶		* فضل الحق (مولوی) : رک بہ مسام لیگ .
۲ ۳۷۶		* فضل شاہ : رک بہ پنجابی (زبان و ادب) .
۲ ۳۷۶		* فضلویہ ، بنو : شہنکارہ کا حکمران ایک کرد (از ۱۰۵۶/۵۳۳۸ تا ۱۰۷۸/۵۷۱۸) .
۲ ۳۷۶		(۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ء) .
۲ ۳۷۷		* فضلی : (فتہلی) ، جنوبی عرب کے ایک مجموعہ قبائل کا نام .
۲ ۳۷۸		* فضلی محمد : (قرا فضلی یا فضلی چلبی) . ایک صاحب دیوان ترک شاعر (م ۱۵۹۰ء) .
۲ ۳۷۸		(۱۵۶۲ - ۱۵۶۳ء) .
۲ ۳۷۹		* فضولی : محمد بن سلیمان ، ترکی زبان کا ایک کرد شاعر (م ۱۵۵۶/۵۹۶۳ یا ۱۵۹۰ء) .
۲ ۳۷۹		(۱۵۶۲ء) .
۱ ۳۸۰		* الفضیل بن عیاض : ابو علی الفندی الطالقانی ، ایک بزرگ اور نامور صوفی (م ۱۱۸۷ء) .
۱ ۳۸۰		(۸۰۳ء) .
۲ ۳۸۰		* فضیلۃ : شرف یا اعلیٰ درجے کی خوبی .
۱ ۳۸۳		* فطر : رک بہ عید الفطر .
۱ ۳۸۳		* فطرۃ : ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی دین اسلام قبول کرنے کی خالق صلاحیت .
۱ ۳۸۶		* فطرت : عبدالرؤف ، ترکستان میں ایک اصلاحی تحریک کا مفکر اور بانی (حیات) .
۱ ۳۸۶		(۱۹۳۷ء) .
۲ ۳۸۹		* فطنت : زبیدہ بنت شیخ الاسلام محمد احمد افندی ، ایک صاحب دیوان ترک شاعرہ (م ۱۱۹۳/۵۱۷۸۰) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۸۹		* فطین : (فطین افندی) ، داؤد (۵۱۲۲۹/۵۱۸۱۳ تا ۵۱۲۸۳/۵۱۸۶۷) ، ترکی کا ایک نامور تذکرہ نگار اور صاحب دیوان شاعر ، باب عالی کا ایک کاتب اور تذکرہ خاتمة الاشعار کا مصنف .
۲ ۳۹۰		* فعل : کسی (واقعہ) کا کسی زمانے سے تعلق ثابت کرنے والے لفظ کے لیے صرف و نحو کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۹۱		* فعل : قواعد ، فلسفہ اور علم کلام کی ایک اصطلاح ، بمعنی تحریک ، عمل اور بعض اوقات عمل کا نتیجہ .
۱ ۳۹۳		⊗ فعل : رک بہ قوۃ .
۱ ۳۹۳		⊗ فغانی (بابا) : شیرازی ، ایک نامور اور صاحب اسلوب فارسی شاعر (م ۵۹۲۲/۱۵۱۶ یا ۵۹۲۵/۱۵۱۹) .
۱ ۳۹۵		* فغفور : (چینی تئن تسو) ، بادشاہ چین کا لقب .
۲ ۳۹۵		* فقہ : شریعت یا احکام شریعت یا استنباط احکام شریعت کے علم کی ایک اصطلاح .
۱ ۴۲۰		⊗ (اصول) الفقہ : شریعت اسلامی کے بنیادی مأخذ کو صحیح و صائب طریقے پر سمجھنے اور ان کے ذریعے مسائل کے استنباط کا علم .
۱ ۴۴۲		* فقیر : حاجت مند ، غنی کی ضد .
۲ ۴۴۳		* فقیر : شمس الدین (۵۱۱۱۵/۱۲۰۳ تا ۵۱۱۸۳/۱۲۶۹) ، دہلی کے ایک نامور عالم ، ادیب ، شاعر اور حدائق البلاغت وغیرہ کے مؤلف .
۲ ۴۴۳		⊗ فقیر اللہ : شاہ فقیر اللہ جلال آبادی ثم شکار پوری بن عبدالرحمن حنفی الرتاسی ، احمد شاہ درانی کے عہد میں افغانستان کے مشہور عالم ، صاحب کشف و کرامت بزرگ اور مصنف (م ۵۱۱۹۵/۱۲۸۱) .
۲ ۴۴۴		* فقیر محمد گویا : حسام الدولہ فقیر محمد خان گویا (م ۵۱۲۶۶/۱۸۵۰) ، لکھنؤ کے رئیس ، نامور شاعر اور مصنف بستان حکمت .
۱ ۴۴۵		* فقیری : قالقاند لہلی ، ایک ترک شاعر ، مصنف رسالۃ تعریفات (مکتوبہ ۵۹۳۱/۱۵۳۳) .
۲ ۴۴۶		* فنیقی : (Figur' Figig) ، مراکش کا ایک نخلستان .
۱ ۴۴۷		* فقید : فقہ ، خصوصاً شریعت کے عملی مسائل یا الفروع کا عالم ؛ نیز رک بہ فقہ .
۲ ۴۴۷		* فقہ ہا : محمد بن علی ، معروف بہ سولی عیدید و صاحب عیدید (م ۵۸۶۲/۱۳۵۸) کی اولاد پر مشتمل حضرموت میں باعلوی سادات کا ایک صاحب علم خاندان .
۱ ۴۴۹		* فقہ بل : ایک ممتاز عالم الفقہ ، محمد بن عبدالرحمن المعروف بہ اسقع کی اولاد پر مشتمل حضرموت کے قصہ قریم کے باعلوی سید علما کا خاندان .
۱ ۴۵۰		*⊗ فکر : ایک کثیر الاستعمال اصطلاح ، بمعنی سوچ بچار ، تصور وغیرہ .

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۲ ۳۵۱		* فکرت ، توفیق : رک بہ توفیق فکرت .
۲ ۳۵۱		* فکری : عبداللہ پاشا (۱۲۵۰/۱۸۳۳ء تا ۱۳۰۷/۱۸۹۰ء) ، مشہور مصری سیاست دان ، ادیب اور مصنف .
۲ ۳۵۲		* فگیگ : رک بہ فقیق .
۲ ۳۵۲		* فلاحت : رک بہ علم (فلاحت) .
۲ ۳۵۲		* فلاسفہ : (فیلسوف کی جمع) ، حکماء یونان اور بعد ازاں جملہ فلسفیوں کے لیے مستعمل لفظ .
۲ ۳۵۲		⊗ فلاشر : Heimrich Fleischer (۱۸۰۱ تا ۱۸۸۸ء) ، جرمنی کا مشہور اور ممتاز عربی دان مستشرق اور تفسیر البیضادی کا طابع .
۲ ۳۵۹		* فلیہ : (Philippooli) ، تراکیہ (Thrace) کے میدانی علاقے میں واقع بلغاریہ کے شہر Plovdi کا ترکی نام .
۲ ۳۶۰		* فلیہ : رک بہ پل .
۲ ۳۶۱		* فلیپائن : مجمع الجزائر ، ۳ اور ۲۱ درجے عرض بلد شمالی اور ۱۱۷ و ۱۲۷ طول بلد مشرقی کے درمیان واقع تقریباً اڑھائی ہزار جزیروں پر مشتمل ایک جمہوریہ .
۲ ۳۶۱		* فلیٹ : رک بہ (۱) کیچ ؛ (۲) لباد .
۲ ۳۶۳		* فلز کاری : رک بہ فن (فلز کاری) .
۲ ۳۶۳		* فلس : اسلام کے ابتدائی عہد میں تانبے کا ایک سکہ .
۲ ۳۶۳		* فلسطین : (Palestine) ، مشرق وسطیٰ میں یہودیہ اور سامریہ کی ولایتوں پر مشتمل ایک معروف خطہ اور آج کل یہودیوں کی ریاست اسرائیل .
۱ ۳۶۵		* فلسفہ (اسلامی) : ابتداءً یونانی اثرات کے تحت نشو و نما پانے والا اسلامی فکر اور علمی نظریات ، خصوصاً نظری الہیات .
۲ ۳۶۹		* فلغہ : رک بہ فلاق .
۲ ۳۷۸		* الفلاق : قرآن مجید کی ایک سو تیرھویں سورہ .
۲ ۳۷۸		* فلغہ : (فلکہ) ، ایک ڈنڈے پر مشتمل اذیت دینے کا ایک آلہ .
۱ ۳۸۰		* فلک : کرہ ، بالخصوص کرہ آسمانی .
۱ ۳۸۰		* فلک : ایک قرآنی اصطلاح ، بدمنی بڑی کشتی یا بحری جہاز .
۱ ۳۸۵		* فلکی شروانی : محمد فکی (م حدود ۵۵۵/۱۱۵۵ء) ، شروانشاہ ابوالمہیجاء فخر الدین منو چہر ثانی کا صاحب دیوان درباری شاعر اور منجم .
۱ ۳۸۶		* الفلکی : محمود پاشا (۱۲۲۰/۱۸۰۵ء تا ۱۳۰۳/۱۸۸۵ء) ، مصر کا وزیر تعلیمات اور ایک ممتاز جغرافیہ دان .
۱ ۳۸۷		* فلآتہ : فلانی ؛ نیز بلاد السودان اور ناٹجیریا سے ترک وطن کر کے نیل پر واقع سودان

صفحہ عمود	عنوان
۲ ۳۸۷	میں آنے والے مسلمان .
۱ ۳۸۸	* فَلَاحِيَه : رگ بہ دورق .
۱ ۳۸۸	* فَلَاق : (بدوی : فلاگ) ، ایک اصطلاح ، بمعنی رھزن اور بعد ازاں تونس اور الجزائر کے باغی .
۱ ۳۸۹	* فَلَہ : رگ بہ فلاتہ .
۱ ۳۸۹	* فَلَوجَه : عراق کے دو اضلاع : بالائی فلوجہ اور زیرین فلوجہ .
۲ ۳۸۹	* الفلُوجَه : عراق کی ایک قدیم بستی .
۲ ۳۸۹	* فُللی : مراکشی شرفا کے خاندان کی ایک شاخ .
۲ ۳۸۹	* فُلنی : رگ بہ پل .
۲ ۳۸۹	* فُلوری : یورپ کے معیاری مسکوکات کا ترکی نام .
۱ ۳۹۰	* فَمَّ الحوت : علم الہیئت کی ایک اصطلاح ، ستاروں کا ایک جھرمٹ .
۲ ۳۹۱	⊗ فَن : ایک معروف علمی اصطلاح ، بمعنی ہنر ، آرٹ ، صنعت وغیرہ اور مسلمانوں کا نظریہ فن .
۲ ۳۹۹	تمہید : اسلامی فن کے ادوار اور خصائص اور مختلف فنون :
۲ ۵۲۸	۱- فن شعرو شاعری ؛
۲ ۵۳۳	۲- فن موسیقی ؛
۲ ۶۲۷	۳- فن مصوری ؛
۲ ۶۷۷	۴- فن تعمیر ؛
۲ ۸۵۳	۵- فن تجلید : رگ بہ تجلید ؛
۲ ۸۵۴	۶- فن تذهیب : رگ بہ تذهیب ؛
۲ ۸۵۴	۷- فن تکفیت : رگ بہ تکفیت ؛
۲ ۸۵۳	۸- فن فخار ؛
۲ ۹۰۶	۹- فن فلز کاری ؛
۲ ۹۲۰	۱۰- فن پارچہ بافی : رگ بہ نسیج ؛
۲ ۹۲۰	۱۱- فن قالین بافی ؛
۲ ۹۴۳	۱۲- فن طراز ؛
۲ ۹۵۶	۱۳- فن خطاطی ؛
	۱۴- متفرقات :
۲ ۱۰۰۴	سنگ تراشی ، گچ کاری ؛
۲ ۱۰۰۴	لکڑی کی کندہ کاری ؛
۲ ۱۰۰۷	ہاتھی دانت اور ہڈی کا کام ؛

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۰۰۸	شیشے اور باور کے ظروف ؛ مسکوکات .	
۲ ۱۰۱۰		⊗ فنا : رگ بہ بقاء و فنا .
۱ ۱۰۲۱		* فنار : سلطان محمد ثانی کی فتح کے بعد استانبول میں یونانیوں کے لیے مختص محلہ .
۱ ۱۰۲۱		* الفناری : رگ بہ فناری زادہ .
۱ ۱۰۲۱		* فناری زادہ : عثمانی علما اور فقہا کا ایک ممتاز خاندان ؛ بانی : شمس الدین محمد ، سلطنت عثمانیہ کا پہلا باقاعدہ مفتی اعظم (م ۵۸۳۳/۱۱۳۳ء) .
۱ ۱۰۲۲		* فُنَج : (فونج) ، نیل ازرق کے کنارے پر واقع ایک ریاست کا حکمران خاندان (از نواح ۵۹۱۰/۱۵۰۵ء تا ۵۱۱۷۵/۱۷۶۳ء) .
۱ ۱۰۲۳		* فَنْدُق : ایک کثیر المعانی لفظ ؛ (۱) ایک قسم کا سرخ پیر ؛ (۲) مسافر خانے ، سرانے یا ہوٹل .
۱ ۱۰۲۷		* فَنْدُقَلِي : یا فِنْدُقَلِي ، ترکیبہ کا ایک پرانا طلائی سکہ ؛ نیز رگ بہ (۱) استانبول ؛ (۲) سکہ .
۲ ۱۰۲۷		* فَنَک : مختلف انواع اور نسلوں کے متعدد حیوانات کے لیے مستعمل لفظ .
۱ ۱۰۲۸		* فَنَک : رگ بہ فونج .
۲ ۱۰۲۹		⊗ فن لینڈ کے مسلمان ؛ فن لینڈ کی مسلم اقلیت کے احوال .
۲ ۱۰۲۹		* فَنَم : جنوبی ہند کا ایک سکہ .
۲ ۱۰۳۰		* فَنِيَانَه : (ہسپانوی ؛ فنانه) ، ہسپانیہ کے صوبہ المریہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ .
۲ ۱۰۳۰		* الفَوَاحِش : ایک دینی اصطلاح ، بمعنی کسی چیز کا بدی ، برائی اور قباحت میں حد سے بڑھ جانا .
۲ ۱۰۳۱		* فُوَادِ الْأَوَّل : احمد فؤاد بن خدیو اسماعیل (۱۸۶۸ تا ۱۹۳۶ء) ، مصر کا خدیو اور بعد ازاں پادشاہ .
۲ ۱۰۳۶		* فُوَادِ پاشا : کچھ جی زادہ محمد (۱۸۱۵ تا ۱۸۶۹ء) ، ترکیبہ کا مشہور سیاست دان ، پانچ مرتبہ وزیر خارجہ اور دو بار صدر اعظم .
۱ ۱۰۳۸		* فُوْتَه جَلُون : رگ بہ فتا جلون .
۲ ۱۰۴۲		* فُوج : ایران میں ایک معروف عسکری اصطلاح ، بمعنی لشکر .
۲ ۱۰۴۲		* فوجدار : ہندوستان میں اسلامی دور میں کسی سرکار کی فوج یا پولیس کا اعلیٰ ترین عہدے دار .
۱ ۱۰۴۳		* قُورِي : احمد بن عبداللہ ، سولہویں صدی عیسوی کا ایک عثمانی شاعر اور عالم (م ۵۹۷۸/۱۵۷۱ء) .
۱ ۱۰۴۳		* فُوزِي المَعْلُوف : رگ بہ معلوف .
۱ ۱۰۴۳		

- ۱ ۱۰۳۳ * الفُوطی : رگ بہ ابن الفوطی .
- ۱ ۱۰۳۳ * فُومَن : (فومن)، گیلان (رگ بآن) کا ایک قصبہ .
- ۳ ۱۰۳۳ ⊗ فُومنی : رگ بہ عبدالفتاح .
- ۳ ۱۰۳۳ ⊗ فُواج : رگ بہ فُنج .
- ۲ ۱۰۳۳ * الفونشو : (Alfonso) ، قرون وسطیٰ میں ہسپانیہ کے کئی بادشاہوں کا نام .
- ۲ ۱۰۳۳ * فُهد : چیتا .
- ۲ ۱۰۵۷ * فہرست : ایک کتابیاتی اصطلاح ، بمعنی کتابوں کی فہرست ، عموماً ہترتیب حروف تہجی .
- ۱ ۱۰۵۸ * فہرستہ : ہرناج ، اساتذہ کی قابل مطالعہ کتابوں کی فہرست ، معجم .
- ۲ ۱۰۵۹ * الفہرست : رگ بہ دفتر .
- ۲ ۱۰۵۹ * الفہری : ابو اسحق ابراہیم بن ابی الحسن ، پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کے اندلسی شعرا و ادبا کی نگارشات کے انتخاب کنز الکنز و منتخب الاداب کا مرتب (تالیف ۵۶۳۲/۴۱۲۳۳) .
- ۲ ۱۰۵۹ * فہمی شیخ : مصطفیٰ فہمی ، ارزنجان کے نقشبندی خالیدی شیخ (م ۱۲۹۹/۴۱۸۸۱) .
- ۱ ۱۰۶۱ * فہیم : اونجی زادہ مصطفیٰ چلبی ، المعروف بہ فہیم استانبولی ، قدیم شاعری کے آخری دور کا ایک ترکی شاعر (م ۱۰۵۳/۴۱۶۳۳ یا ۱۰۵۸/۴۱۶۳۸) .
- ۲ ۱۰۶۱ * فہیم ہاشا : (۱۸۷۳ء تا ۱۹۰۸ء) ، سلطان عبدالحمید ثانی کے عہد میں خفیہ پولیس کا سربراہ .
- ۱ ۱۰۶۲ * فہیم سائمان افندی : المعروف بہ خوجہ فہیم (۱۲۰۳/۴۱۷۸۹ تا ۱۲۶۲/۴۱۸۳۶) ، ایک ترکی شاعر اور عالم .
- ۲ ۱۰۶۲ * فیء : ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی کفار سے لڑائی کے بغیر حاصل کردہ اشیا .
- ۲ ۱۰۶۳ * فیثا غورس : (فوٹا غورس) ، چھٹی صدی قبل از مسیح کا ایک مشہور یونانی حکیم .
- ۱ ۱۰۶۸ * فیج : (فارسی : پیک) ، ایک اصطلاح ، بمعنی سرکاری ڈاک کا ہرکارہ .
- ۱ ۱۰۶۹ * فیدو : رگ بہ فدیہ .
- ۲ ۱۰۶۹ * فیروز آباد : (پیروز آباد ، قدیم نام گور) ، فارس کا ایک شہر .
- ۱ ۱۰۷۰ * فیروز آباد : مختلف ملکوں میں شہروں کا نام .
- ۱ ۱۰۷۰ * الفیروز آبادی : ابو الطاهر مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد الشیرازی الشافعی (۵۲۹/۴۱۳۲۹ تا ۵۸۱/۴۱۳۱۵) ، ایک عربی لغت نویس اور صاحب القاموس .
- ۱ ۱۰۷۲ * فیروزان ، (بنو) : (بنو پیروزان) ، چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں طبرستان کا ایک با رسوخ ایرانی قبیلہ .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲	۱۰۷۲	* فیروز پور : بھارتی پنجاب میں پاکستانی سرحد سے ملحق ایک ضلع اور اس کا صدر مقام . * فیروز شاہ تغلق : غیاث الدین تغلق کا چھوٹا بھائی اور محمد بن تغلق کا جانشین ، سلطنت دہلی کا ایک مشہور فرمانروا (از ۱۳۵۲/۵ تا ۱۳۵۹/۵)
۲	۱۰۷۳	* فیروز شاہ خلجی : (جلال الدین) ، سلطنت دہلی کے خاندان خلجی کا بانی حکمران (از ۱۳۹۰/۵ تا ۱۳۹۶/۵)
۲	۱۰۷۴	* فیروز کوہ : علاقہ غور ، (افغانستان) میں ہزارہ کے کوہستانی علاقے کا ایک پہاڑی قلعہ .
۱	۱۰۷۵	* فیروزہ : قیمتی پتھر .
۱	۱۰۷۶	* فیز : رگ بہ نس .
۲	۱۰۷۸	* (شاہ) فیصل : بن عبدالعزیز ، سعودی عرب کے مشہور صالح اور قابل فرمانروا (از ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۵ء)
۲	۱۰۷۸	* فیصل اول : بن شریف حسین (۱۳۰۱/۵ تا ۱۳۵۲/۵) ، شاہ عراق (از ۱۳۴۰/۵ تا ۱۳۴۱ء)
۲	۱۰۸۰	* فیصل ثانی : بن شاہ غازی بن شاہ فیصل اول (۱۳۵۳/۵ تا ۱۳۷۸/۵) ، شاہ عراق (از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۸ء)
۲	۱۰۸۱	* فیض : فلسفہ و تصوف کی ایک اصطلاح ، بمعنی فیضان ، صدور .
۱	۱۰۸۱	* فیض الحسن : مولانا ، سہارن پوری : رگ بہ یونیورسٹی اورینٹل کالج .
۱	۱۰۸۶	* الفیض بن ابی صالح شیروہ : ابو جعفر ، عباسی خلیفہ المہدی کا وزیر (م ۱۷۳/۵ تا ۱۷۹-۷۸۹)
۱	۱۰۸۶	* فیض آباد : اتر پردیش (بھارت) کی ایک قسمت اور اس کا صدر مقام .
۱	۱۰۸۶	* فیض آباد : وسط ایشیا کے دو نئے شہروں کا نام .
۱	۱۰۸۷	* فیض اللہ افندی : السید محمد ، سلطنت عثمانیہ کے ایک شیخ الاسلام (م ۱۱۱۵/۵)
۲	۱۰۸۷	* فیضی ، شیخ : ابو الفیض بن شیخ مبارک (۱۵۳۷ء تا ۱۵۹۵ء) ، شہنشاہ اکبر کا نامور نورتین ، فاضل ادیب ، شاعر اور مصنف .
۱	۱۰۸۸	* فیل : ہاتھی .
۲	۱۰۸۹	* الفیل : قرآن مجید کی ایک سو پانچویں سورہ .
۱	۱۰۹۷	* فیلالی : رگ بہ تافیلالت .
۱	۱۰۹۸	* فیلسوف : فلسفی .
۱	۱۰۹۸	* فیوج : رگ بہ فیج .
۱	۱۰۹۹	* الفیوم : زمانہ قدیم سے مصر کا ایک صوبہ .

ق

- * ق : (قاف) ، عربی حروف تہجی کا اکیسواں ، فارسی کا چوبیسواں اور اردو کا سینتیسواں ۔
- ۱ ۱
- ① ق : قرآن مجید کی پچاسویں سورت ؛ نیز یکے از حروف مقطعات ۔
- ۱ ۱
- ② قائلی : میرزا حبیب (۱۸۰۷ء - ۱۸۰۷ء/۱۲۲۲ھ تا ۱۸۰۸ء - ۱۸۵۳ء/۱۲۷۰ھ - ۱۸۵۳ء) دور
- ۲ ۲
- قاجار کا معروف ترین صاحب طرز و صاحب دیوان فارسی شاعر ۔
- ۲ ۳
- * قابس : (Gabes) ، شمالی تونس میں واقع ایک شہر ۔
- ۱ ۵
- * قابض : ترکیب کا ایک زندیق عالم اور بانی فرقہ مسیحیہ (م ۱۵۲۷ء/۹۳۳ھ) ۔
- ۲ ۵
- * القابض : باری تعالیٰ کا ایک نام ، رکبہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی ۔
- * قابوس بن وشمگیر : جرجان اور طبرستان کے فرمانروا خاندان بنو زیار کا چوتھا حکمران
- (از ۶۷۶ء/۳۶۶ھ تا ۶۸۲ء/۳۷۱ھ و ۶۹۸ء/۳۸۸ھ تا ۷۰۳ء/۴۰۳ھ)
- ۲ ۵
- ۶۱۰۱۲ء) ۔
- * قابیل : (Cain) ، رکبہ ہابیل ۔
- ۲ ۶
- * قات : (مربی) ؛ حبش اور جنوبی عرب میں مال کنگنی نوع کی ایک نشہ آور جھاڑی ۔
- ۳ ۶
- * قاتین : (ترکی : قادین) ، رکبہ خاتون ۔
- ۱ ۷
- * قاچار : (قاجار) ، ایران کا ایک حکمران خاندان (از ۱۱۳۳ء/۱۷۲۱ء تا ۱۳۳۳ء/۱۹۲۵ء) ؛ بانی : فتح علی خان ؛ آخری فرمانروا : احمد شاہ ۔
- ۱ ۷
- * القادر : طاقتور ؛ باری تعالیٰ کا ایک نام ، رکبہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی ۔
- ۱ ۱۰
- * القادر بالله : ابو العباس احمد بن اسحق ، ایک عباسی خلیفہ (از ۳۸۱ء/۹۹۱ء تا ۳۲۲ء/۹۳۲ء)
- ۱ ۱۰
- (۶۱۰۳۱ء) ، چند دینی رسائل کا مصنف ۔
- * قادریہ : شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (م ۱۱۶۶ء/۵۶۱ھ) کی طرف منسوب صوفیہ کا ایک
- ۱ ۱۰
- ممتاز سلسلہ ۔
- * قادیس : جنوب مغربی اندلس کا ایک جزیرہ (Isla de Leon) ؛ موجودہ صوبہ قادیس کا

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۸		مغربی حصہ اور اس کا صدر مقام .
۲ ۱۸		* القادسیہ : عراق اور الجزیرہ کے متعدد مقامات ، بالخصوص خلافت فاروقیؓ میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے مابین فیصلہ کن لڑائی کی معرکہ گاہ .
۱ ۲۳		⊗ القارعة : قرآن مجید کی ایک سورہ .
۱ ۲۳		* قارلق : (قرلق ، قرلغ ، خرلغ ، خلغ) ، ایک قدیم ترکمان قوم .
۱ ۲۳		* قارلوویچ : (Karlowitz ، Carlowicz) ، مملکت خرواتستان و سلووینیا (Croatia - Slovenia) کا ایک شہر .
۱ ۲۵		⊗ * قارون : (تورات : قورح) ، حضرت موسیٰؑ کا ایک انتہائی دولت مند مخالف اور اللہ تعالیٰ کا معتوب .
۱ ۲۵		* قاری : رگ بہ (۱) قراءۃ : (۲) قرآن .
۱ ۲۸		* قاز : بطخ ؛ نیز بعض جغرافیائی ناموں کا جز .
۱ ۲۸		* قازان : نیز قزان ، پندرھویں اور سولہویں صدی عیسوی میں ایک تاتاری ریاست کا پائے تخت ، آجکل اشتراکی جمہوریہ تاتار کا صدر مقام .
۱ ۲۸		* قازبیک : تانبے کا ایک ایرانی سکہ .
۲ ۲۸		⊗ قازقستان : (قازاقستان ، قزاقستان) ، سویٹ سرشاپہ جمہوریہ ، اتحاد شورائیہ روس کی دوسری بڑی ریاست .
۲ ۲۸		* قاسم : سینٹ ڈیمٹریس (St. Demetrius) کا ترکی نام .
۲ ۳۳		* قاسم بن سلام : رگ بہ ابو عبید القاسم بن سلام .
۱ ۳۳		* القاسم بن عسی : المعروف بہ ابو دلف العجلی ، ایک بہادر سپہ سالار ، مشہور شاعر و ادیب اور اپنے قبیلے کا سردار (م ۲۲۵ - ۵۲۲۶/۸۳۹ - ۶۸۳۰) .
۱ ۳۳		* قاسم آغا : المعروف بہ قوجہ (بوڑھا) ، آل عثمان کا ایک شاہی معمار (م ۱۰۷۰/۱۰۷۰) .
۱ ۳۵		۶۱۶۵۹ .
۲ ۳۵		* قاسم انوار : معین الدین علی (۵۷۵/۱۳۵۶ تا ۵۸۳۷/۱۳۳۳ - ۶۱۳۳۳) ، ایران کا ایک صوفی اور ادیب .
۲ ۳۵		* قاسم پاشا : المعروف بہ گوزلحجہ قاسم پاشا ؛ سلطان سلیم اول اور سلطان سلیمان کے عہد کا ایک ترک سیاست دان ، سپہ سالار ، بیگریگی اور وزیر (م نواح ۱۵۵۱/۱۵۵۹) .
۲ ۳۷		* قاسموو : (Kasimov) ، عہد سابق میں زار روس کے باجگزار تاتاری فرمانرواؤں کا دارالحکومت ؛ آج کل حکومت Ryazan کے ایک ضلع کا صدر مقام .
۱ ۳۹		* قاسیون : دمشق پر سایہ فگن ایک معروف پہاڑ .
۱ ۴۱		* قاضی : ایک اسلامی اصطلاح ؛ شریعت کے مطابق مقدمات کی سماعت اور فیصلہ کرنے

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۲		والا منصف .
		* قاضی خان : فخر الدین الحسن بن منصور الأوز جندی الفرغانی ، ایک مشہور حنفی عالم ، فقیہ ، مفتی اور متعدد فقہی کتب مثلاً فتاویٰ قاضی خان وغیرہ کا مصنف (م ۵۹۲/۱۱۹۶ء) .
۲ ۳۵		* قاضی عسکر : فوجی عدالت کا حاکم ، سلطنت عثمانیہ کے نظام عدلیہ کا ایک اعلیٰ عہدیدار .
۲ ۳۶		* قاضی کُرخ : رگ بہ کوموک .
		* القاضی الفاضل : ابو علی عبدالرحیم بن علی اللخمی البیسانی العسقلانی (۵۲۹/۱۱۳۵ء تا ۵۹۶/۱۲۰۰ء) ، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نامور وزیر اور معتمد علیہ ، متعدد تاریخی دستاویزات کا مرتب .
۲ ۳۶		* القاضی الہروی : رگ بہ العبادی ، ابو عاصم .
۱ ۳۸		* قاعدہ : مختلف المعانی اصطلاح : (۱) اساس ، بنیاد ، دستور ، آئین وغیرہ ؛ (۲) تمام جزئیات پر منطبق ہونے والا کلی قاعدہ ؛ (۳) کسی علم کا بنیادی اصول یا گر ؛ (۴) اقلیدس میں متوازی الاضلاع خط ؛ (۵) نکاح کے قابل نہ رہنے والی بوڑھی عورت ؛ (۶) زبان آموزی کی ابتدائی کتاب .
		* قاف : (کوہ) عہد وسطیٰ کے علم کائنات اور افسانوی ادب میں زمین کو گھیرنے والا ایک پہاڑی سلسلہ .
۱ ۳۸		* قافیہ : علم عروض کی ایک اصطلاح ، اشعار میں حرف آخر کا توافقی .
۱ ۵۳		* قالی : رگ بہ فن (قالین بافی) .
۲ ۵۸		* القالی : ابو اسماعیل بن القاسم بن عیذون (۲۸۸/۵۰۱ء تا ۳۵۶/۹۶۷ء) ، ایک نامور عرب ماہر لغت ، صاحب کتاب الامالی وغیرہ .
۲ ۵۸		* قالی قلا : رگ بہ اوز روم .
۲ ۵۹		* قان : رگ بہ خان .
		* قانصوہ : الملك الاشرف سيف الدين القوری ، مصر کا ایک مملوک حکمران (از ۷۰۰/۱۲۹۹ء تا ۷۱۰/۱۳۰۰ء) .
۲ ۵۹		* قانون : (ج : قوانین) ، ایک آلہ موسیقی کا نام .
۲ ۶۳		* قانون : رگ بہ (۱) شرع ؛ (۲) شریعت .
۲ ۶۵		* قانون اساسی : کسی قوم یا ملک کے رہنما بنیادی اصول (Constitution) ، آئین ، دستور ،
۱ ۶۶		* قانون اسلامی : رگ بہ (۱) شریعت ؛ (۲) قانون شریعت .
۱ ۱۶۳		* قانون تنظیمات اساسیہ : رگ بہ ؛ (۱) افغانستان ؛ (۲) قانون اساسی (افغانستان) .
۱ ۱۶۳		* قانون الخراج : رگ بہ دفتر .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۱۶۳		⊙ قانون شرعی : رک بہ قانون شریعت .
۱ ۱۶۳		*⊙ قانون شریعت : شریعت کا قانون ، اسلامی دستور حیات .
۲ ۱۴۲		* قانون عاده : جمہوریۃ انڈونیشیا کے مسلمانوں کے ہاں رسوم و رواج پر مبنی مروجہ قانون .
۲ ۱۴۳		⊙ قانون محمدی : جنگ بکسر (۱۷۶۳ء) سے ۱۸۵۷ء تک مغل شہنشاہ شاہ عالم کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق برعظیم ہاک و ہند کے انگریزی علاقے میں رائج اسلامی قانون .
۲ ۱۴۵		* قانون لامہ : عثمانی سلطنت میں صدر اعظم محمد قرہ مانی کے مشورے کے مطابق سلطان محمد ثانی کا نافذ کردہ بنیادی قانون .
۲ ۱۴۷		* قارود بن داؤد چغری بیگ : قرہ آرسلان بیگ، کرمان کے سلجوقی فرمانرواؤں کے خاندان کا بانی (از ۵۳۳۳/۱۰۴۱ء تا ۵۳۶۶/۱۰۷۴ء) .
۲ ۱۴۷		* القاہر باللہ : ابو منصور محمد بن المعتضد ، ایک عباسی خلیفہ (از ۵۳۲۰/۹۳۲ء تا ۵۳۳۹/۹۴۵ء) .
۲ ۱۴۸		* قاہرہ : مصر کا عظیم شہر اور دارالحکومت .
۲ ۱۴۹		* القالد : رہنما ، سردار ، نیز المغرب میں کوئی لازمی خدمت والا سردار ، یا صوبے کا حاکم .
۱ ۱۹۷		⊙ قائد اعظم : رک بہ محمد علی جناح .
۲ ۱۹۷		* قالیف : رک بہ قیافہ .
۲ ۱۹۷		* قالم : عمودی خط ؛ متعدد تراکیب میں مستعمل لفظ .
۱ ۱۹۸		⊙ القالم : (۱) کھڑا ہونے والا ، ثابت ، قابض ، نگران ، سربراہ وغیرہ ؛ (۲) اہل تشیع کے نزدیک مہدی آخر الزمان محمد بن الحسن العسکری " .
۲ ۱۹۸		* القالم ہامراتہ : ابو جعفر عبداللہ ، ایک عباسی خلیفہ (از ۵۳۲۲/۱۰۳۱ء تا ۵۳۶۷/۱۰۷۵ء) .
۲ ۱۹۹		* القالم ہامراتہ : ابو القاسم عبدالرحمن ، بنو فاطمہ کا دوسرا فرمانروا (از ۵۳۲۲/۹۳۳ء تا ۵۳۳۳/۹۴۱ء) .
۲ ۲۰۰		* قالم مقام : قالب .
۱ ۲۰۱		* قالمہ : ترکی میں کاغذی سکہ (سہم قالمہ سی) .
۱ ۲۰۲		* قایتبای : الملک الاشرف ابو النصر سیف الدین محمودی الظاہری ، برجی خاندان کا مشہور ترین سلطان مصر و شام (از ۵۸۷۳/۱۱۶۸ء تا ۵۹۰۲/۱۱۹۵ء) .
۱ ۲۰۵		* قابی : غز [رک بان] یا اوغوز کے چوبیس قبائل میں سے ایک قبیلہ .
۲ ۲۰۵		* قبا : رک بہ المدینہ .

- * قبا طاش : رگ بہ استانبول ۔
- * قبالہ : ٹھیکا ، ضمانت ، کفالت ، مالی معاملات میں مستعمل ایک فقہی اصطلاح +
- * قبان : (قوبان) ، قفقاز کا ایک بڑا دریا ۔
- ⊗ قبائل : (واحد : قبیلہ) ، ایک باپ کی اولاد ، ایک معروف معاشرتی اصطلاح ۔
- ⊗ قبائلیت : قبیلے کی عصبيت (Tribalism) ، ایک اہم معاشرتی اصطلاح ۔
- * قبائلیہ : (بلاد القبائل) ، الجزائر کے تل میں ایک پہاڑی علاقہ ۔
- * القباب : ابو محمد عبداللہ بن حسین التمغروتی الدرعی الرقی ، مراکش کے ایک مشہور ولی اللہ (م ۳۵ - ۵۱ / ۶۳۵ء) ۔
- * قبة : (قبہ) ، مشرقی قفقاز کا ایک ضلع ۔
- ⊗* قبة الصخرة : حرم قدس ، بیت المقدس کے وسیع رقبے میں ایک چٹان پر واقع مسجد عمرؓ ! مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ۔
- ⊗* قبر : ایک اسلامی اصطلاح ، میت کو چھپانے کی جگہ ، مردہ انسان کا مدفن ۔
- * قبرص : قبرس (Cyprus) ، بحیرہ روم کے مشرق میں ایک جزیرہ ۔
- * قبرہ : (Cabra) ، ایک اندلسی شہر ، آج کل صوبہ قرطبہ کی ایک قضا کا صدر مقام ۔
- * قبض : (سکیڑنا ، بھینچنا) ، صوفیہ کی ایک اصطلاح ، بسط کی ضد ۔
- * قبض : علم عروض کی ایک اصطلاح ۔
- * قبض : (ع) فقہ اسلامی کی ایک اصطلاح ، بمعنی کسی چیز کا جائز قبضہ حاصل کرنا ۔
- * قبط : رگ بہ مصر ۔
- * قبطی : رگ بہ مصر ۔
- * القبق : جبل القبق (جبال القبق یا القبق) ، مسلم مصنفین کے ہاں عموماً کوہ قاف کا ایک نام ۔
- * قبیازی : یا قبق اندازی ، کدو کا کھیل ، ایک قسم کی چاند ماری ۔
- * قبلائی : (قویلائی ، قوبلائی) منگول بادشاہ خاں منگو کا بھائی اور جانشین (از ۱۲۶۰ تا ۱۲۹۴ء) ۔
- ⊗ قبلہ : ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی جہت نماز ، نماز میں جس طرف منہ کیا جائے ۔
- * قبور : (واحد : قبر) ، ایک مختلف المعانی لفظ : (۱) گور ؛ (۲) صندوق ، نیام یا سوئیوں کا ڈبہ ؛ (۳) چرمی کمر بند ، جس میں ہستول رکھا جاتا ہے ؛ (۴) قلم دان وغیرہ ۔
- * قبول : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی کسی پیش کش کی پذیرائی یا ذمہ داری کا بار اٹھانا ، رگ بہ (۱) ایجاب ؛ (۲) بیع ۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۵۸		* القیسی : عبدالعزیز (نیز عبد الرحمن) بن عثمان بن علی ابو الصقر ایک مشہور ایرانی الاصل منجم ، صاحب المدخل الی صناعة احکام النجوم .
۲ ۲۵۸		⊗ قبیلہ : رک بہ (۱) قبائل ؛ (۲) قبائلیت .
۲ ۲۵۸		* قہچاق : ایک قدیم ترک قوم .
۱ ۲۶۰		* قہلان گرای : اٹھارہویں صدی میں قرم (کریمیا) کے دو خوانین (حکمران) ؛ (۱) قہلان گرای اول (از ۱۱۱۹ھ/۱۷۰۷ء تا ۱۱۲۰ھ/۱۷۰۸ء و از ۱۱۲۵ھ/۱۷۱۳ء تا ۱۱۲۸ھ/۱۷۱۶ء و از ۱۱۳۳ھ/۱۷۳۰ء تا ۱۱۳۹ھ/۱۷۳۶ء) ؛ (۲) قہلان گرای دوم ، اول الذکر کا پوتا اور چند روزہ حکمران (در ۱۱۸۳ھ/۱۷۶۹ - ۱۷۷۰ء) .
۲ ۲۶۰		* قہلان مصطفیٰ پاشا : سلطان محمد رابع کے عہد (از ۱۶۳۸ تا ۱۶۸۷ء) کا عثمانی سپہ سالار اور سیاستدان (م ۱۶۸۰ء) .
۲ ۲۶۱		* قہو : دروازہ ، باب عالی ، زیادہ صحیح معنوں میں سلطان یا صدر اعظم کا محل .
۱ ۲۶۲		* قہوجی : محافظ در ، بالخصوص محل شاہی کے دروازے کا نگہبان
۱ ۲۶۳		* قہو دان پاشا : عثمانی بیڑے کے افسر اعلیٰ کا لقب .
۲ ۲۶۳		* قتادہ بن ادیس : تیرہویں صدی عیسوی کے آغاز میں مکہ مکرمہ کے ہاشمی فرمانروا کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آئے والے شریفوں کا جد امجد (م ۱۲۲۱ھ) .
۲ ۲۶۵		⊗ قتادہ بن دعامة السدوسی : ابو الخطاب البصری ، ایک صاحب کمال اور جامع العلوم نایبنا تابعی بزرگ (م ۱۱۷ - ۱۱۸ھ/۷۳۶ء) .
۲ ۲۶۶		⊗ القتال : قرآن مجید کی سنیتالیسویں سورہ ؛ رک بہ محمد (سورہ) .
۲ ۲۶۶		* قتبان : (قینان) ، جنوب مشرقی عرب کی ایک قدیم سلطنت اور وہاں کی ایک قوم کا نام .
۱ ۲۶۷		* قتل : قانون شریعت کی ایک اہم اصطلاح ، بمعنی جرم قتل کا ارتکاب ، یا کسی جرم کی پاداش میں سزائے موت .
۱ ۲۸۳		* قتلخ خان : ساتویں صدی ہجری/تیرہویں صدی عیسوی میں قرہ ختای قوم سے کرمان کا ایک حکمران خاندان .
۲ ۲۸۵		* قتیہ بن مسلم : ابو حفص الباہلی (۶۶۹ھ/۷۳۹ - ۷۷۰ء تا ۷۹۶ھ/۸۱۵ء) ، اموی دور کا مشہور عرب سپہ سالار اور فاتح ترکستان .
۲ ۲۸۷		* قحطان : جنوبی عربستان ، یعنی سارے یمنی قبائل کا جد اعلیٰ .
۲ ۲۹۱		* قحطیہ بن شیبہ الطائی : زیاد ، بنو عباس کے خراسانی جتھے کے بارہ سرداروں اور بنو عباس کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے افراد میں شامل ایک عرب سپہ سالار (م ۷۳۹ھ/۸۱۳ء) .

- * قُدَامَةُ بن جعفر : ابو الفرج الکاتب البغدادی ، ایک نامور عرب فاضل کتاب الخراج
۲ ۲۹۲ وغیرہ کا مصنف (حیات ۵۳۲/۶۹۳۲) .
- ① قدر : رُکِّ بہ قضا و قدر .
۲ ۲۹۳
- * القدر : قرآن مجید کی ستائویں سورت .
۲ ۲۹۳
- * قدری : شاہ عباس اول کے زمانے کا ایک ایرانی شاعر .
۲ ۲۹۳
- * قدریہ : معتزلہ کے لیے مستعمل ایک توصیفی نام یا لقب .
۲ ۲۹۳
- * القُدس : بیت المقدس یا یروشلم کا عربی نام ، مسلمانوں کا قبلہ اول اور فلسطین کا
۲ ۲۹۵ مشہور و معروف شہر .
- * قُدسی : حاجی محمد جان ، عہد شاہجہانی میں مشہد (ایران) سے ہندوستان آنے والا
۱ ۳۱۰ ایک فارسی شاعر (م ۵۱۰۵۶/۶۱۶۳۶) .
- ① قدم : علم کلام و فلسفہ کی اصطلاح ، حدوث کی ضد .
۱ ۳۱۱
- * قدم شریف : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کے نشانات والی مزعومہ
۱ ۳۱۳ متبرک پتھر کی سلیں ، یا بعض مقامات .
- * القُدوری : ابو الحسن (ابو الحسین) احمد بن محمد البغدادی القُدوری (۵۳۶۲/۶۹۷۲ تا
۲ ۳۱۶ ۵۳۲۸/۶۱۰۳۷) ، ایک فاضل حنفی فقیہ ، مشہور کتاب المختصر کا مصنف .
- * قدیم : رُکِّ بہ قدم ، حادث کی ضد .
۱ ۳۱۷
- ① قَذْف : (تیر چلانا ، کنکریاں پھینکنا) ، اسلامی قانون شریعت کی ایک اہم اصطلاح ،
۱ ۳۱۷ بمعنی کسی پاکباز مرد یا عورت پر بد چلنی کی تہمت لگانا .
- ① قرآن مجید : اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الفاظ و معانی
۱ ۳۱۸ کی صورت میں نازل کردہ آخری آسمانی کتاب .



جلد ۲/۱۶

صفحہ نمبر

اشارات

عنوان

- * قرا أرسلان : بن داؤد الملقب بہ فخر الدین، حصن کیفا کے اُرتقی خاندان کا تیسرا امیر اور ایک مشہور مسلمان سپہ سالار (م ۵۶۲/۱۱۶۶ء)۔
- * قرا باذین : رگ بہ اقربا ذین ۔
- * قرا خالیہ : رگ بہ ایلک خانیہ ۔
- * قراغول : (قراکول ، قرہ غل) ، رگ بہ قراول ۔
- * قراقوش : بہاء الدین بن عبداللہ الاسدی الرومی ، سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک عہدے دار اور الملک المنصور کا مدار المہام (۵۹۴/۱۲۰۱ء) ۔
- * قرمان : یا قرہ مان ؛ (۱) ایشیائے کوچک کا ایک ضلع ؛ (۲) ترکیہ کا ایک شہر اور اسی نام کی قضا کا صدر مقام ۔
- * قرمان اوغلو : ساتویں صدی ہجری/تیرھویں صدی عیسوی میں ایشیائے کوچک کا ایک نامور اور طاقتور حکمران خاندان ؛ مؤسس : قرہ مان کریم الدین (م ۶۶۰/۱۲۶۲ء) ؛ آخری حکمران : قاسم بن ابراہیم (م ۸۸۸/۱۳۸۳ء)۔
- * قرمانلی : (قرہ مانلی) ، طرابلس کا ایک خود مختار حکمران خاندان (از ۱۱۱ تا ۱۸۳۵ء) ؛ مؤسس : احمد قرہ مانلی قلوغلی ۔
- * قرمانلی محمد پاشا : (قرہ مانلی نشانی محمد پاشا) ، عہد عثمانیہ میں ترکیہ کا ایک صدر اعظم اور موزخ (م ۸۸۶/۱۳۸۱ء)۔
- * قرامطہ : مخصوص اور خفیہ عقائد رکھنے والے ہر جوش عربوں اور نبطیوں کا ایک باغی گروہ ؛ بعد ازاں اسماعیلیہ کی ایک شاخ۔
- * قران : چار ہنس مالیت کا ایک جدید ایرانی سکہ ۔
- * قران : علم نجوم کی ایک اصطلاح ، دوسیاروں ، بالخصوص زحل اور مشتری کا اجتماع ۔
- * قراول : مشرقی ترکی کا ایک لفظ ، بمعنی محافظ ، چوکیدار وغیرہ ۔
- * قرپان : قربانی ، بھینٹ ، ذریعہ تقرب ؛ ایک شرعی اصطلاح ۔
- * قرۃ بن شریک : العبسی القیسی ، اموی عہد میں مصر کا والی (م ۵۹۶/۷۱۳ء) ۔
- * قرۃ العین : فاطمہ زوین تاج ، المعروف بہ جناب طاہرہ ، بابی فرقے کی ایک حوصلہ مند مبلغ خاتون اور فارسی کی قادر الکلام شاعرہ (م ۱۸۵۲ء)۔
- * قری : (Kerri)؛ خرطوم سے ۵ میل دور دریائے نیل کے دائیں کنارے پر واقع مصر

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۴۲		کا ایک گاؤں اور ضلع .
۱ ۴۲		* القَرَسَطُون : (قَرَسَطُون) ؛ ایک اصطلاح ، بمعنی روسی ترازو ، المیزان .
۲ ۴۸		* قَرَش : رگ بہ غروش .
۲ ۴۸		* قِر (قیر) شہر : ترکیہ کے صوبہ انقرہ کی ایک منجاق کا صدر مقام .
		* قرشی : (کرشی) ، اویغور زبان کا ایک لفظ ، بمعنی قلعہ ، محل ، نیز نخشب (رگ بآں)
۲ ۴۸		یا نسف کا موجودہ نام .
۱ ۴۹		* قَرَص : (یا قارص)؛ گرجستان کی سرحد پر واقع ارمینیہ کا ایک شہر .
۱ ۵۱		* قَرَص : رگ بہ اقراص .
۱ ۵۱		* قَرطاس : ایک معروف لفظ ، بمعنی کاغذ ، ورق بردی یا رق .
۱ ۵۳		* قَرطَبہ : (Cordoba) ؛ اندلس کے اسی نام کے صوبے کا دارالحکومت اور تاریخی شہر .
۱ ۵۸		* قَرعہ : ایک اصطلاح ، بمعنی سہمہ ، قرعہ اندازی کرنا .
۲ ۶۰		* قَرقنہ : تونس کے مشرقی ساحل سے پورے ایک مجمع الجزائر .
۲ ۶۱		* قَرُقوب : واسط سے سوس جانے والے راستے پر خوزستان کا ایک شہر .
۲ ۶۱		* قَرَقِيسِيَا : (نیز قرقیسیہ) ؛ الجزیرہ میں دریائے فرات کے بائیں کنارے پر ایک قصبہ .
۲ ۶۲		* قَرْمَطِي : رگ بہ قرامطہ .
۲ ۶۲		* قَرْمُونہ : اندلس کا ایک شہر .
۱ ۶۳		* قَرْمِيسِيَن : رگ بہ کرمان شاہ .
		* قَرَوَاش : بن المقلد ابوالجنیع ، معتمد الدولہ ، ایک عقیلی فرمانروا (از ۵۳۹۱/۱۰۰۰ -
۱ ۶۳		۱۰۰۰ تا ۵۳۳۲/۱۰۵۰ م ؛ ۵۳۳۳/۱۰۵۲) .
۲ ۶۳		* قَرَوُل : (قراول ، قراغول) ، محافظ ، چوکیدار وغیرہ (نیز رگ بہ قراول) .
۱ ۶۵		* قَرَوِيہ : (Croja) ؛ رگ بہ آق حصار .
۱ ۶۵		* قَرہ : (ت) ؛ سیاہ یا گہرا رنگ ، کئی جغرافیائی ناموں کا سابقہ .
۲ ۶۵		* قَرہ باغ : ماورائے قفقاز کے ایک صوبے اور اران کے پہاڑی حصے کا نام .
۱ ۶۶		* قَرہ پاپاخ : صوبہ تفلس کے مشرقی حصے میں رہنے والے ترکی نسل کے لوگ .
۱ ۶۷		* قَرہ تگین : قزل صو (دریائے و خش یا سرخاب) کے کنارے ایک روسی شہر .
		* قَرہ چلبی زادہ : عبدالعزیز افندی (۱۵۹۱/۱۰۰۰ - ۱۵۹۲ تا ۱۶۵۸/۱۰۶۸) ،
۲ ۶۸		ایک ترک مصنف ، مؤرخ ، فقیہ اور سلطنت عثمانیہ کا شیخ الاسلام .
		* قَرہ حصار : ایشیائے کوچک میں متعدد مقامات : (۲) قَرہ حصار صاحب یا افیون قَرہ
		حصاری یا قَرہ حصار افیون ، ایک مشہور شہر ؛ (۲) ایسجہ قَرہ حصار ،
		قَرہ حصار صاحب سے ۱۵ میل دور شمال کی جانب واقع ایک
		مقام ؛ (۳) قَرہ حصار شرقی یا شاہین قَرہ حصار ، پھٹکری کی کانوں کے لیے

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱	۷۱	مشہور مقام : (۴) قرہ حصار بہرام شاہ (بیرام شاہ)، آجکل ترکیہ کے اسی نام کے ایک ناحیے کا صدر مقام : (۵) قرہ حصار دسرجی : ولایت انقرہ میں چورم کی قضا کا ایک گاؤں : (۶) قرہ حصار تکہ یا قرہ حصار ادلیہ ، انطالیہ کے قریب ایک گاؤں .
۲	۷۳	* قرہ ختای : (قراخٹای)؛ چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی سے اسلامی مآخذ میں ملک ختا کے رہنے والوں کا نام .
۱	۷۸	* قرہ خلیل : رگ بہ چندرلی .
۱	۷۸	* قرہ دلز : بحیرہ اسود کا ترکی نام .
۱	۷۹	* قرہ سو : رگ بہ الفرات .
۱	۷۹	* قرہ سی : (۱) ساتویں صدی ہجری/تیرہویں صدی عیسوی میں ایشیائے کوچک کے ایک ترکمان شاہی خاندان کا بانی : (۲) اسی خاندان کے زیر نگیں علاقے کا نام ، آجکل ترکیہ کی ایک سنجاق .
۱	۸۲	* قرہ صو بازاری : (Simferopol) ، مشرق میں قریم (کریمیا) کا ایک شہر .
۲	۸۲	* قرہ طاغ : رگ بہ موٹنی نگر .
۲	۸۲	* قرہ عثمان اوغلو : رگ بہ درہ بیگی (= درہ بے) .
۲	۸۲	* قرہ فریہ : (Veria) ، مقدونیا میں، ایک چھوٹا سا شہر .
۱	۸۳	* قرہ قرغیز : رگ بہ قیر غیز .
۱	۸۳	* قرہ قلیپاق : وسط ایشیا کی ایک ترک قوم .
۲	۸۳	* قرہ قوروم : (قراقرم) ؛ وسط ایشیا کا ایک سلسلہ کوہ .
۱	۸۵	* قرہ قوروم : دریائے اورخون کے کنارے منگولیا کا ایک شہر اور تیرہویں صدی عیسوی میں کچھ عرصے کے لیے مغول سلطنت کا مرکز حکومت .
۲	۸۶	* قرہ قوم : روسی ترکستان میں ایک صحرا .
۱	۸۷	* قرہ قویونلو : ایران اور عراق پر حکومت کرنے والا ایک خانوادہ (از ۵۷۷/۵۱۳ء تا ۵۸۷/۵۱۳ء) .
۱	۸۹	* قرہ گوز : (قرہ کوز)؛ ترکی خیال ظل (رگ بان) کا اہم ترین کردار .
۲	۹۲	* قرہ گوزلو : ہمدان کے گرد و نوح میں آباد ایک ترک قوم .
۱	۹۳	* قرہ مصطفیٰ پاشا : سلطنت عثمانیہ کے دو وزراء اعظم : (قرہ مصطفیٰ پاشا یا کمان کش مصطفیٰ پاشا (م) ۵۳/۱۰۵۳ء) ؛ (۲) قرہ مصطفیٰ پاشا (۳۳/۱۰۳۳ء) تا ۶۳۳ء تا ۶۸۳/۱۰۹۵ء) ، وی انا کا محاصرہ کرنے والا سلطنت عثمانیہ کا ایک نامور وزیر اعظم .
۱	۹۳	* قرہ یازیچی : ایشیائے کوچک میں ایک زبردست بغاوت (از ۱۵۹۹ء تا ۱۶۰۲ء) کا ایک

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۹۶		رہنما (م ۱۰، ۱۰/۴۱۶۰۲) .
۱ ۹۸		* قریب : ترکی اور فارسی عروض کی ایک جدید بحر .
۱ ۹۸		* قریدہ : گاؤں یا چھوٹا قصبہ .
۲ ۹۸		* قریش : قرآن مجید کی ایک سو چھٹی سورہ .
		④ قریش : مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد مشہور و معروف اور
۲ ۹۹		عظیم الشان قبیلہ .
		* قریش بن ہدیران : علم الدین ابو المعالی العقیلی ، تصبیبن کا حکمران (از ۱۰۳۳/۵۳۲۵ -
۲ ۱۰۸		۱۰۳۳ تا ۱۰۶۱/۵۳۵۳) .
۱ ۱۱۰		* قریطہ : مدینہ سورہ کے تیس بڑے یہودی قبائل میں سے ایک .
۳ ۱۱۲		* قریم : (Crimea) ، بحیرہ اسود کے شمالی ساحل پر ایک جزیرہ نما .
۲ ۱۱۳		* قرین : اچھا یا براساتھی ، ہدی کی ترغیب دینے والا شیطان ، شاعر کا ہمزاد جن وغیرہ .
		④ قرینہ : نفس ، کسی چیز کا دوسری سے الحاق و اجتماع ، دو امور کے درمیان معنوی
۱ ۱۱۳		مناسبت ، بعد ازاں علم بیان و علم منطق کی اصطلاح .
		* قزاق : (قازاق ، قازق) ؛ ڈاکو ، خانہ بدوش ، طالع آزما ، مدعی تخت ، نیز قفقاز کی
۲ ۱۱۳		ایک قوم .
۳ ۱۱۳		* قزان : رگ بہ قازان .
۱ ۱۱۵		* قزل احمد : رگ بہ اسفند یار اوغلو .
۱ ۱۱۵		* قزل ارسلان : عثمان بن ایلب گز ، آذر بیجان کا ایک اتابک (م ۱۱۹۱/۵۵۸۷) .
		* قزل اوزن : (Amardus) ؛ (= سفید رود) ، صوبہ اردلان سے نکل کر آذربایجان سے
۱ ۱۱۶		گزرتے ہوئے بحیرہ خزر میں گرنے والا ایک دریا .
		* قزل ابرماق : (ترکی ؛ سرخ دریا) ؛ قدیم نام ہالیس یا آلیس ؛ ایشیائے کوچک کا سب سے
۲ ۱۱۶		بڑا دریا .
۲ ۱۱۷		* قزلباش : سات ترکمانی قبائل کے وفاق کا نام .
۱ ۱۱۹		* قزل قوم : (= سرخ ریت) ؛ سیر دریا اور آمودریا کے مابین ایک صحرا .
۲ ۱۱۹		* قزوین : ایران کا ایک مشہور شہر .
		* قزوینی ، محمد بن عبدالوہاب ؛ بن عبد العلی قزوینی (۵۱۲۹۳ تا ۵۱۳۶۸) ، صرف و
		نحو ، فقہ ، اصول فقہ ، کلام و حکمت قدیم کا ایک
۱ ۱۲۱		عالم اور متعدد کتب کا مصنف .
		* القزوینی : ابو حاتم محمود بن الحسن الطبری ، ایک شافعی فقیہ ، الشیرازی کے استاد
۱ ۱۲۳		اور چند کتابوں کے مصنف .
		* القزوینی ؛ جلال الدین محمد (یا محمود) بن عبدالرحمن الشافعی (۶۶۶ تا ۵۷۳۹) ،

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۲۳		خطیب دمشق، قاضی مصر .
۱ ۱۲۵		* القزوينی : حمد الله بن ابی بکر المستوفی : رگ بہ حمد الله المستوفی القزوينی .
		* القزوينی : ذکر یا بن محمد بن محمود، دابو یحیی (۵۶۰۰/۱۲۰۳ تا ۵۶۸۲/۱۲۸۳) .
۱ ۱۲۵		ہیروڈوٹس اور بلینوس کا ہم پایہ عرب کا قدیم ترین اور مستند جغرافیہ نگار اور عجائب المخلوقات کا مصنف .
		⊗ القزوينی ، عبدالغفار : نجم الدين عبدالغفار بن عبد الكريم ، قزوين کے نامور شافعی شیخ، مصنف الحاوی الصغیر (فقہ شافعی)، وغیرہ (م ۵۶۶۵/۱۲۶۶) .
۲ ۱۳۳		* ⊗ قس بن ساعدة الایادی : بن عمرو بن عدی، دور جاہلیت کا ایک نامور حکیم اور خطیب .
۱ ۱۳۳		* قسط : سیال ایشیا ماہنے کا ایک عربی پیمانہ .
۱ ۱۳۶		* قسطا بن لوقا البعلبکی : عباسی دور کا ایک طبیب حاذق ، فلسفہ ، ہیئت ، ہندسہ ، حساب اور موسیقی کا ماہر اور یونانی کتب کا عربی مترجم .
۲ ۱۳۶		* قسطلانی : (کستلی) ، مصلح الدین مصطفیٰ ، دور عثمانیہ کے عالم دین ، حنفی فقیہ اور مصنف (م ۱۳۹۵/۵۹۰۱ - ۱۳۹۶) .
۱ ۱۴۱		* القسطلانی : ابو العباس احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب شہاب الدین الشافعی (۵۸۵۱/۱۳۴۸ تا ۵۹۲۳/۱۵۱۷) ایک مستند محدث اور عالم ، سیرت کی مشہور کتاب المواہب اللدنیة کے مصنف .
۲ ۱۴۱		* قسطمولی : شمال مغربی ایشیائے کوچک کا ایک شہر اور اسی نام کی ایک ولایت کا صدر مقام .
۲ ۱۴۲		* قسطنطین الافریقی : (Constantinus Africanus) ، عربی زبان کی طبی تصانیف کا لاطینی زبان میں سب سے پہلا مترجم (م ۱۰۸۷) .
۲ ۱۴۳		* قسطنطینیہ : رگ بہ استانبول .
۲ ۱۴۵		* قسطلیہ : شطین سے ملحق تونس کا علاقہ ، نیز توزر کا شہر .
۲ ۱۴۵		* ⊗ قسٹم : ایک معروف لفظ ، بمعنی سو گند .
۱ ۱۴۶		* قسمت : ایک اصطلاح ، بمعنی تقسیم ، نصیب ، حظ ، شعبہ عدلیہ وغیرہ .
۱ ۱۵۷		* قسطنطینہ : الجزائر کا ایک تاریخی شہر اور ضلعی صدر مقام .
۲ ۱۵۷		* قشقای : ایران کی ایک ترک قوم .
۱ ۱۶۵		* قشیر : بنو قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ ، ایک مشہور عرب قبیلہ .
۱ ۱۶۶		* القشیری : ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن بن عبدالملک (۵۳۷۶/۹۸۶ تا ۵۴۶۵/۱۰۷۳) ، ایک نامور صوفی اور علم کلام و تصوف کی متعدد کتابوں کے مصنف .
۲ ۱۶۷		* القصاب : جنوبی عرب میں وادی بیحان میں واقع ایک قصبہ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۳ ۱۷۳		* (X) قصاص : ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی قتل و جراحات کا بدلہ ۔
۱ ۱۸۱		* قَصَبَه : ایک جغرافیائی اصطلاح ، مستحکم قلعہ اور ضلع کا صدر مقام وغیرہ ۔
۱ ۱۸۲		* (X) قُصْدَار : بلوچستان (پاکستان) کا ایک شہر اور ضلعی صدر مقام ۔
۲ ۱۸۳		* قَصْر : محل ، قلعہ ، حویلی ، خیمہ نما عمارت ، ترکی لفظ کو شک کا مرادف ۔
۱ ۱۸۵		* (X) قصر (قصر الصلوٰۃ) : ایک فقہی اصطلاح ، حالت سفر میں نماز کو مختصر کر کے پڑھنا ۔
۱ ۱۸۸		* قَصْرِ شِیرِیں : ضلع اردلان یا ایرانی کردستان میں واقع ایران کا ایک شہر ۔
۲ ۱۹۲		* قَصْرِ اَرَعُون : شمالی افریقہ میں موجود مکناس سے بیس میل دور ہرانا رومی شہر ۔
۱ ۱۹۳		* القصر الصغیر : مراکش کا ایک شہر ، آجکل کھنڈر ۔
۲ ۱۹۵		* القصر الکبیر : شمالی مراکش کا ایک شہر ۔
۲ ۱۹۷		* القصاص : قرآن مجید کی انچاسویں سورۃ ۔
۱ ۱۹۹		* (X) قِصَہ : ایک معروف ادبی و فنی اصطلاح ، بمعنی داستان ، کہانی ، حکایت ، تمثیل ۔
۱ ۲۷۹		* (X) قُصُور : پنجاب (پاکستان) کا ایک شہر اور ضلع ۔
		* قَصِيدَہ : اصطلاحاً ایسی نظم جس میں کسی ممدوح کی مدح ہو ، مگر عملاً وسعت موضوعات کی حامل ایک صنف سخن ۔
۱ ۲۸۵		
۲ ۳۱۶		* قَصِیر : القصیر : بحیرۃ احمر کے افریقی ساحل پر ایک بندر گاہ ۔
۲ ۳۱۷		* قَصِیرِ عَمْرَہ : رک بہ عمرہ ۔
۲ ۳۱۷		* القَصِیم : صحرائے عرب کی بلند ترین سطح مرتفع پر واقع وسط عرب کا ایک ضلع ۔
		* قِصِی : پانچویں پشت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جد امجد اور زائرین کعبہ کے لیے سہولتیں بہم پہنچانے کے سہتم ۔
۲ ۳۱۹		* قضا : اصطلاحاً حکومت ترکیہ کے تحت ایک ضلع ۔
۲ ۳۱۹		* قضا : (نماز) رک بہ صلوٰۃ ۔
۲ ۳۱۹		* قضا و قدر : ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی تقدیر الہی ۔
۱ ۳۲۲		* قُضَاعَة : (بنو) ، عرب قبائل کا ایک طاقتور گروہ ۔
۲ ۳۲۳		* قُطَاع : رک بہ قطعہ ۔
۲ ۳۲۳		* القظامی : عمیر بن شیبم ؛ الاخطل کا ہم عصر (م ۱۰۱ ، ۷۷۹/۸۰) ۔
۲ ۳۲۴		* (X) قُطَب : جمع : قطاب ؛ رک بہ (۱) ابدال (۲) ولی ۔
		* القطب : (Pole) ، علم ہیئت کی اصطلاح ، بمعنی کسی دائرے میں مرکز پر کھڑا کیے جانے والے عمودی خط پر واقع اس کے جنوبی و شمالی نقطے ، بالخصوص زمین کے قطب ۔
۲ ۳۲۴		
۱ ۳۲۵		* قُطَب الدین : رک بہ مودود بن عماد الدین زنگی ۔
۲ ۳۲۵		* قُطَب الدین ایبک : رک بہ ایبک ۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۲۵		⊗ قُطْبُ الدین بختیار اوشی کاکی ، خواجہ : برعظیم پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ ولی ، حضرت معین الدین چشتی کے خلیفہ اور بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد (م ۵۶۳۳/۵۱۲۳۵) .
۲ ۳۲۸		* قُطْبُ الدین الشیرازی : محمود بن مسعود بن مصلح (۵۶۳۳/۵۱۲۳۶ تا ۵۷۱۰/۵۱۳۱۱) ، فلسفہ و حکمت ، ہیئت اور حدیث و تفسیر کے ایک صاحب تصانیف فاضل عالم .
۱ ۳۳۱		* قُطْبُ الدین مبارک : دہلی کے خلجی خاندان کا پانچواں اور آخری بادشاہ (از ۵۷۱۶/۵۱۳۱۶ تا ۵۷۲۰/۵۱۳۲۰) .
۱ ۳۳۲		* قُطْبُ الدین محمد خوارزم شاہ : خوارزم (رگ بآں) کے ایک حکمران خاندان کا بانی فرمانروا (از ۳۹۰/۵۳۹۱ - ۱۰۹۷/۵۱۰۹۸ تا ۵۲۱ - ۵۲۲/۵۵۲۲ - ۱۱۲۷/۵۱۱۲۸) .
۲ ۳۳۲		* قُطْبُ الدین النہروالی : رگ بہ النہروالی .
۱ ۳۳۲		* قُطْبُ شاعی : دکن میں بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد اس علاقے کے پانچ خود مختار حکمران خاندانوں میں سے ایک ؛ مؤسس ؛ سلطان قلی (از ۵۱۲ تا ۵۳۳) ؛ آخری فرمانروا ؛ ابوالحسن تانا شاہ (از ۵۱۶۷۲ تا ۵۱۶۸۷) .
۲ ۳۳۳		* قُطْبُ مینار : نواح دہلی میں سلطان قطب الدین ایک کا تعمیر کردہ سنگ سرخ کا اپنی نوع کا خوبصورت ترین مینار .
۲ ۳۳۳		* القَطْرُ : عرب کے مشرقی ساحل پر خلیج فارس کے کنارے ایک جزیرہ اور خود مختار ریاست .
۲ ۳۳۵		* قَطْرُ : علم ہندسہ کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۳۶		* قَطْرَانُ بن منصور : عوفی ، شرف الزمان قطران التبریزی ، ایک نامور صاحب دیوان ایرانی شاعر (م ۵۳۶۵/۵۱۰۷۳) .
۱ ۳۳۸		* قَطْرُبُ : ابو علی محمد بن احمد المستتیر ، ایک مشہور نحوی اور لغوی ، صاحب کتاب المثلث وغیرہ (م ۵۲۰۶/۸۲۱ - ۵۸۲۲) .
۱ ۳۳۹		* قَطْرِي بن الفجاءة : خارجیوں کے فرقہ ازارقہ کا آخری سردار اور مشہور خطیب و شاعر (م ۵۷۸ یا ۵۷۹) .
۲ ۳۴۱		* قَطْعُ : (کائنا) ؛ علم قراعت ، علم عروض ، علم نجوم وغیرہ کی ایک اصطلاح .
۱ ۳۴۳		* قَطْعَةُ : علم الهندسہ کی ایک اصطلاح .
۲ ۳۴۴		* قَطْفِيرُ : مسلم اساطیر میں حضرت یوسف کے خریدار اور زلیخا کے خاوند کا نام ؛ بائبل کا فوطیفار .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۳۳		* قَطْمِير : رگ بہ اصحاب الکھف .
۲ ۳۳۳		* قَطِيعَة : رگ بہ قَطِيعَة .
۲ ۳۳۳		* القَطِيف : خليج فارس کے کنارے اسی نام کی ایک کھاڑی میں واقع ایک بندر گاہ .
۲ ۳۳۵		* القَطِيفَة : سجاده ، دری .
۲ ۳۳۵		* قَعْظَبَة : يمن کا ایک ضلع اور اس نام کا صدر مقام .
		* القَعْقَاع : بن عمرو بن مالک التميمي ، ایک نامور صحابی ، دور خلافت شيخین کی لڑائیوں کے ایک بہادر سپاہی اور عرب داستانوں کے بطل .
۲ ۳۳۵		* قَفْتَان : خفتان زرہ کے اوپر پہنا جانے والا ایک لمبا آستین دار چفہ .
۲ ۳۳۶		* قَفْصَة : (Gafsa) ، قیروان کے جنوب میں تونس کا ایک شہر .
۲ ۳۳۷		* قَفْط : (قَفْط ، قَفْط) ، بالائی مصر میں ایک مقام .
۱ ۳۵۰		* القَفْطِي : عہد آل ایوب میں سرکاری عہدے داروں کے ایک عربی النسل خاندان کی نسبت ؛ جد امجد : قاضی ابراہیم بن عبدالواحد القاضی الاوحد .
۲ ۳۵۰		* قَفِيز : گنجائش کا ایک عربی پیمانہ .
۲ ۳۵۲		* قَلَات : (کلات ، کلات ، کھلات) ، برعظیم ہند و پاک کی ایک سابق ریاست اور آجکل پاکستان میں صوبہ بلوچستان کی ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۲ ۳۵۳		* قَلَاوون : المک المنصور سيف الدين ابو المعالی الالفی الصالحی النجمی ، بحری مملوکوں میں سے چھٹا سلطان (از ۸۶۷۸/۱۲۷۹ء تا ۸۶۸۹/۱۲۹۰ء) .
۱ ۳۵۷		* قَلْبَان : یورپ میں سر کے لیے ترکوں کا رائج کردہ وسط ایشیائی پہناوا .
۲ ۳۶۰		* قَلْبَجَة : بالائی وادی الی (رک بان) میں ایک قصبہ .
۱ ۳۶۲		* القَلْزَم : بحیرہ احمر (بحر قلزم) کے ساحل پر ایک بندر گاہ .
۲ ۳۶۲		* قَلْطَه : رگ بہ قسطنطنیہ .
۲ ۳۶۳		* القَلْعَة : رگ بہ قلعہ بنی عباس وغیرہ .
		* قَلْعَة بنی حماد : پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی میں سلطنت حمادیدیہ کا دارالحکومت اور وسط المغرب کا ایک شہر (آجکل ناہید) .
۲ ۳۶۳		* قَلْعَة بنی عباس : الجزائر کا ایک شہر .
۲ ۳۶۳		* قَلْعَة جَعْبَر : رگ بہ جعبر .
۱ ۳۶۵		* قَلْعَة رَبَاح : (Calatrava) ، وسطی اندلس میں صوبہ سواداد ریال (Ciudad Real) کے شمالی حصے میں ایک شہر (آج کل کھنڈر) .
۱ ۳۶۶		* قَلْعَة الروم : رگ بہ روم قلعہ .
۱ ۳۶۶		* قلعہ سفید : فارس میں وادی کمرہ کے مشرقی حصے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر آباد شہر .
۱ ۳۶۶		* قلعہ سلطانیہ : (قلعہ چناق سی) ، ترکیہ میں بیغلیک سنجاق کا صدر مقام اور اپنے دفاعی

صفحہ عدد	اشارات	عنوان
۲ ۳۶۷	استحکامات (درہ دانیال: Dardanelle) کے لیے مشہور شہر۔	* قلعہ شرقات : موصل میں دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر واقع ایک قدیم شہر ،
۲ ۳۷۰		آجکل کھنڈروں کا مجموعہ ۔
۱ ۳۷۶		* قلعہ لجم : شمالی شام میں ایک مشہور قلعہ ۔
۲ ۳۷۷		* قلعہ ہوارہ : الجزائر میں وادی قلعہ کے کنارے واقع ایک شہر ۔
۲ ۳۷۸		* قلعی ، قلعی : رانگ ۔
۲ ۳۸۰		* قلعہ منگلی گرای : نویں دسویں صدی ہجری میں قریم (کریمیا) کے تاتاری فرمانرواؤں کے ہاں ولی عہد کا لقب ۔
۲ ۳۸۱		* القلقشندی : (۱) شہاب الدین ابو العباس احمد بن علی بن احمد بن عبد اللہ الفزاری القاہری (۵۷۶ھ/۱۳۵۵ء تا ۵۸۲ھ/۱۳۱۸ء) مصر کا نامور مؤرخ ، ادیب ، محقق ، ماہر انشا اور متعدد کتابوں ، مثلاً صبح الاعشی فی صناعة الانشاء وغیرہ کا مصنف ؛ (۲) نجم الدین محمد بن شہاب الدین ابو العباس ، سابق الذکر کا بیٹا ، دو کتابوں کا مصنف (حیات ۵۸۳۸ھ / ۱۳۳۳ء) ؛ (۳) ابو الفتح ابراہیم بن علی بن احمد المقدسی برہان (جمال) الدین ، ایک محدث (م ۵۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء) ۔
۱ ۳۸۳		* قلم : تراشا ہوا نرسل یا سرکنڈا ، آله تحریر ۔
۲ ۳۸۴		⊗ القلم : قرآن مجید کی اڑسٹھویں سورت ۔
۱ ۳۸۶		* قالماق (= قالماق) : ایک منگول قوم (اویرات) کا ترکی نام ۔
۱ ۳۸۶		* قلندر : ترکیہ میں حاجی بکتاش کے ایک ہم عصر اندلسی عرب قلندر یوسف کی طرف منسوب ایک صوفی سلسلہ ۔
۱ ۳۸۷		* قلندری : فرقہ قلندریہ کا مشہور مگر افسانوی بانی ، نیز ایک ترکی راگ ۔
۱ ۳۸۹		* قَلَنْسَوَة : قلسیہ ؛ عمامے کے نیچے یا عمامے کے بغیر پہنی جانے والی ایک ٹوپی ۔
۲ ۳۹۰		* قَلَوِذِيَه : (Claudias) ، ملطیہ کے قریب واقع ایک قدیم قلعہ ۔
۱ ۳۹۲		* قَلِبَات : (Calatu) ، کسی زمانے میں راس الحد کے شمال مغرب میں عمان کی ایک بارونق بندرگاہ ۔
۲ ۳۹۲		* القلی : جملہ اقسام نمک ۔
		* قلیج ارسلان : ایشیائے کوچک کے کئی سلجوق فرمانروا : (۱) قلیج ارسلان اول بن سلطان سلیمان ملطیہ اور میافارقین کا حکمران اور صلیبی جنگوں کا مسلم قائد (م ۱۱۰۷ء) ؛ (۲) قلیج ارسلان ثانی بن مسعود (از ۱۱۵۶ تا ۱۱۹۲ء) ؛ (۳) قلیج ارسلان ثالث بن رکن الدین سلیمان ، اپنے باپ کی جگہ چند ماہ کے لیے حکمران (۵۶۰۰ھ/۱۱۶۰ء) ؛ (۴) قلیج ارسلان

رابع بن غياث الدين كيعخرو الثاني الملقب به ركن الدين [م ۵۶۶۳/

۶۱۲۶۳] .

۳ ۳۹۳

۱ ۳۹۹

* قلیج آلی : تلوار کی رسم ، (تقلید السیف) ، عثمانی سلاطین کی رسم تخت نشینی .

۲ ۴۰۰

* قلیج علی پاشا : رگ بہ اچیلی .

۲ ۴۰۰

* القلیعہ : (الکلیعہ Algolea) ، صحرائے الجیریا میں واقع ایک قصر اور نخلستان .

۱ ۴۰۱

* قلیوب : زیریں مصر میں قاہرہ اسکندریہ ریلوے لائن پر واقع ایک خاصا بڑا شہر .

* القلیوبی : ابو العباس شہاب الدین احمد بن احمد بن سلامہ ، شافعی فقیہ ، الرملی کا شاگرد

۱ ۴۰۲

اور ایک مستند عرب مصنف (م ۵۱۰۶۹/۶۱۶۵۹) .

۲ ۴۰۲

⊗ قمار : رگ بہ میسر .

۲ ۴۰۲

⊗ القمر : قرآن مجید کی چونویں سورت .

۱ ۴۰۳

* قم : عراق عجم میں ایران کا ایک اہم شہر .

* قمنیچہ : (Camieniec) ، روس کے انتظامی ضلع پودولیا کا ایک حلقہ اور سب سے

۲ ۴۰۳

بڑا شہر .

۱ ۴۰۵

* قنا : یلانی مصر کا ایک شہر .

۲ ۴۰۵

* قنات : (۱) نہر ، کاریز ؛ (۲) نیزہ یا چھڑی .

* قنالی زادہ : (عربی میں ابن الجنائی) ، ترک علما و شہرا کا ایک خاندان ؛ (۱)

قنالی زادہ علاء الدین علی بن امر اللہ (۵۹۱۶/۱۵۱۰ - ۱۵۱۱ء تا

۵۹۴۹/۱۵۵۱ء) ، ایک ترک فقیہ ، مصنف اخلاق علائی وغیرہ ؛ (۲)

قنالی زادہ حسن چلبی (۵۹۵۳/۱۵۳۶ء تا ۶۰۱۲/۱۶۰۳ء) ، ایک ترک

۱ ۴۰۹

تذکرہ نگار ، صاحب تذکرۃ الشعراء .

۱ ۴۱۱

* قنداہیل : بلوچستان (پاکستان) کا ایک شہر ، غالباً موجودہ کچھ گنڈاوا .

۱ ۴۱۲

* قندرز : شمالی افغانستان کے ایک دریا ، قصبے اور ضلع کا نام .

۲ ۴۱۲

* قندھار : افغانستان کا ایک صوبہ اور اس کا صدر مقام .

۱ ۴۱۵

* قندھار : قدیم ریاست ہیدر آباد دکن کا ایک تعلقہ اور اس میں واقع ایک قلعہ .

۲ ۴۱۵

* قندھار : دریا کے کابل کی وادی میں واقع قدیم ہندوستانی ریاست گندھارا .

* قنصل : (Consul) ؛ فارسی ؛ توصلول ؛ ترکی توصلولوس) ، باقاعدہ مامور کردہ انتظامی

۱ ۴۱۶

اور تجارتی کارندہ ؛ عرفی معنوں میں سفارت کار .

۲ ۴۱۶

* قنطار : قرآن مجید میں مذکور ، قدیم عربی اوزان کا ایک عمومی پیمانہ .

* قنطرة : ایک کثیر المعانی لفظ ؛ (۱) پل ، خصوصاً خشکی یا ستگی ؛ (۲) کاریز

(خصوصاً جمع میں) ، بند ؛ (۳) بلند عمارت یا قلعہ ؛ نیز بعد ازاں متعدد مقامات

اور کاریزیں ، خصوصاً (۱) الجزائر میں کوہ اطلس کی جنوبی ٹھلانوں پر واقع

ایک نخلستان ؛ (۲) ہسپانوی صوبہ قاصرش (Caceres) میں پرتگالی سرحد کے قریب واقع ایک قدیم شہر ؛ (۳) نہر سویز کی ایشیائی جانب پورٹ سعید اور اسمعیلیہ کے عین درمیان میں واقع مصر کا ایک چھوٹا سا شہر ؛ (۴) جزیرہ نماے سینا میں پتراء (Patra) کے قدیم کھنڈروں میں ایک عبادت گاہ ؛ (۵) قنطرة الزینب، شام کی وادی، نہر بیروت میں ایک قدیم رومی کاریز ؛ (۶) قناطر فرعون، جنوبی شام کی ایک بڑی کاریز ۔

۱ ۳۱۷

* القنطرة : رگ بہ قنطرة ۔

۲ ۳۲۰

* قنطرة : بحیرہ قنطرة کی ایک بندرگاہ ۔

۲ ۳۲۰

* قنطرة : شمالی شام کا ایک تاریخی شہر ۔

۱ ۳۲۲

* قنوج : اتر پردیش (بھارت) کے ضلع فرخ آباد میں ایک قصبہ ، اسلامی عہد سے قبل

۱ ۳۲۳

ایک طاقتور ہندو راجپوت ریاست کا صدر مقام ۔

۲ ۳۲۳

⊗ قنوجی : رگ بہ صدیق حسن خان قنوجی ۔

⊗ قنوت : لفظی معنی دعا ، اطاعت اور قیام ؛ نماز عشا میں پڑھی جانے والی دعا ؛ نیز

۲ ۳۲۳

بعض دیگر مسنون دعائیں ۔

۲ ۳۲۶

* قوالہ : روم ایلی اور مقدونیہ کی سرحد پر بحیرہ ایجہ کی ایک بندرگاہ ۔

۲ ۳۲۶

* قوبان : رگ بہ (۱) قبان ؛ (۲) المیزان ۔

۲ ۳۲۶

* قوبوز : ستار کی قسم کا ایک آله موسیقی ۔

۱ ۳۲۷

* قوجه ایلی : سلطنت عثمانیہ کی ایک سنجاق ۔

۲ ۳۲۷

* قوجان : ایرانی خراسان کا ایک شہر ۔

* قوج حصار : ایشیائے کوچک کے متعدد مقامات ؛ (۱) سنجاق کنغری میں ایک چھوٹا سا

۱ ۳۲۸

شہر ؛ (۲) سنجاق قونہ کی ایک قضا کا صدر مقام ؛ (۳) قزل ارماق کے

دائیں کنارے پر ایک چھوٹا سا شہر ؛ (۴) مار دین سے دس میل جنوب میں

ایک گاؤں ۔

* قوچی بیگ : گوریچہ لی قوجه مصطفیٰ بیگ ، سلطنت عثمانیہ کے عہد زوال کا مؤرخ ،

۱ ۳۲۹

مصنف رسالہ قوچی بیگ (م نواح ۱۶۳۸ء) ۔

۲ ۳۳۰

* قودتکو بلیک : رگ بہ یوسف خاص حاجب ۔

۲ ۳۳۰

* قوراما : (یا قورمہ) رگ بہ کرمہ ۔

* قور بقلہ : ابو سعید توام الدولہ ، فرمانروائے موصل اور اپنے عہد کا ایک مشہور

۲ ۳۳۰

سید سالار (م ۵۳۹۵/۱۱۰۲ء) ۔

* قورچی : ترکی کا ایک کثیر المعانی لفظ ، بمعنی مسلح شخص ، اسلحہ ساز ، محافظ دسے

۱ ۳۳۱

کا کپتان وغیرہ ۔

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۲ ۳۳۱		* قُورِح : رگ بہ قارون .
		* قُور قود : عثمانی سلطان بایزید ثانی کا بڑا بیٹا اور ایشیائے کوچک کے صوبہ تکہ کا
۲ ۳۳۱		والی (م ۱۵۱۲ء) .
۱ ۳۳۳		* قُور قود ددہ : اوغوز خان کا افسانوی مشیر اور کتاب ددہ قورقود کا مشہور مصنف .
		* القوس : ایک علمی اصطلاح : (۱) عام ہندسہ : دائرے کو قطع کرتا ہوا خط مستقیم :
۲ ۳۳۳		(۲) عام ہیئت : بروج شمس میں سے نواں برج .
۲ ۳۳۳		* آوس قزح : دھنک .
		* قوشحہ : شاعری ، بالخصوص کلاسیکی شاعری کے مقابلے میں محض مقامی اور عوامی
۲ ۳۳۶		ترکی شاعری .
۲ ۳۳۸		* قوص : صعید مصر میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر ایک شہر .
		* قوصرہ : (Pentallaria) ، بحیرہ روم میں صقلیہ اور تونس کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا
۲ ۳۳۹		آتش فشانی جزیرہ .
۱ ۳۴۱		* قوصوہ : بالائی مقدونیا (قدیم ماریا) میں ایک سطح مرتفع .
		* قوطوز : (قطز) ، الملک المظفر سیف الدین المعزی ، مصر کا تیسرا بحری مملوک
۲ ۳۴۱		سلطان (از ۱۲۵۹ء/۱۲۶۰ء تا ۱۲۵۸ء/۱۲۶۰ء) .
۱ ۳۴۳		* قوٹلو : (قاوتلو) ، ترکی تمثیلی کہانی اور تالانو (Orta Oynu) کا ایک کردار .
۱ ۳۴۵		* قول اوغلی : (غلام زادہ) ، مقامی عورتوں سے اپنی چریوں کی اولاد .
۲ ۳۴۵		* قولہ : ترکیہ میں منجاق صارو خان (صوبہ آیدین) کی ایک قضا کا صدر مقام .
		* قوم : ایک کثیر الاستعمال اصطلاح ، کسی ملک یا خطے کے باشندے ، کسی خاص
۱ ۳۴۶		مذہب کے پیرو .
۱ ۳۴۷		* القوسا : (القومہ ، القومہ) ، شاعری کی سات جدید اصناف میں سے ایک .
۲ ۳۴۷		* قوسان : رگ بہ قیچاق .
۲ ۳۴۷		* قویس : ایران کا ایک صوبہ .
		* (X) قومورہ : (Comoros) ، مدغا سکر کے شمال مغرب میں فرانس کے زیر حمایت چار جزیروں
۱ ۳۴۸		کا ایک مجموعہ .
۲ ۳۴۸		* قومپوق : رگ بہ (۱) داغستان : (۲) کوموک .
۲ ۳۴۸		* قومبہ : قوم پرستی ، اسلامی ممالک میں وطن سے محبت پر مبنی جدید تحریکیں .
۲ ۳۸۱		* قومیز : (تمیز) ، گھوڑی کے پھٹے ہوئے دودھ کا ایک مشروب .
		* (X) قولاق : ایک کثیر المعانی ترکی لفظ ، بمعنی اناہت گاہ ، کارواں سرائے ، ڈاک چوکی ،
۲ ۳۸۱		منزل ، مسافت وغیرہ .
		* قواہہ : اناطولی کی ایک ولایت کا صدر مقام اور اپنی تاریخی عمارات ، مثلاً مسجد

عنوان

اشارات

صفحہ عمود

- ۱ ۳۸۲ * علاء الدین اور خانقاہ مولویہ کی وجہ سے ترکیہ کا مشہور شہر .
- ۱ ۳۹۰ * قَوَّاس : ایک کثیر المعانی لفظ : (۱) تیر انداز ؛ (۲) بندوچھی اور بعد ازاں (۳) فوجی پولیس .
- ۲ ۳۹۰ * قُوَّة : فلسفے کی ایک کثیر المعانی اصطلاح ، بمعنی استعداد ، مناسبت ، مطابقت ، قابلیت اور امکان وغیرہ .
- ۱ ۳۹۵ * قُوہستان : (قہستان ، کوہستان) ، ایک جغرافیائی اصطلاح ، بمعنی (الف) کوئی ما پہاڑی علاقہ ؛ (ب) قوہستان کے نام سے مشہور بڑے اضلاع ؛ (۱) قوہستان خراسان ؛ نیشاپور کے جنوب میں جنوب مشرق تک پھیلا ہوا کچھ پہاڑی علاقہ اور کچھ زیر کاشت رقبہ ؛ (۲) صوبہ کرمان میں اسی نام کے دو گاؤں ؛ (۳) قوہستان کابل ؛ شہر کابل کے شمال مشرق میں واقع ایک کوہستان ؛ (۴) قوہستان سوات ؛ پاکستان کے شمال مغرب میں ریاست سوات کا شمالی حصہ .
- ۲ ۳۹۹ * قُوْبِلِحْصَار : ایشیائے کوچک میں صوبہ سیواس کی ایک قضا کا صدر مقام .
- ۱ ۵۰۰ * قُوْبُون بَابَا : حاجی بکتاش (رک بہ بکتاشہ) کے ہم عصر ایک ترک ولی .
- ۲ ۵۰۰ * قُوْبُون جِیق : شہر موصل کے بالمقابل مصنوعی ٹیلوں پر آباد ایک چھوٹا سا گاؤں .
- ۲ ۵۰۱ * قہرمان نامہ : (یا داستان قہرمان) ، فارسی نثر میں ایک رزمیہ داستان ، منسوب بہ ابوطاہر طرطوسی (رک بآن) .
- ۱ ۵۰۳ * قہرود : (کوہ رود) ، اصفہان سے کاشان جانے والی سڑک پر ایک ایرانی گاؤں .
- ۲ ۵۰۳ * قہوہ : ایک کثیر الاستعمال مشروب .
- ۱ ۵۱۵ * القہار : باری تعالیٰ کا نام ؛ رک بہ الاسماء الحسنی .
- ۱ ۵۱۵ * قِیَاس : ایک فقہی اصطلاح ، فقہ کے مأخذ اربعہ میں سے ایک ، بمعنی کسی حکم سے دوسرے حکم کی مشابہت کی بنا پر اسی حکم جیسا نتیجہ (حکم) اخذ کرنا .
- ۱ ۵۱۸ * قِیَالہ : ایک اصطلاح ، زمین پر نشانات کا کھوج لگا کر اور دیگر قرائن سے افراد و اشخاص کے حالات و کوائف معلوم کرنے کا علم ؛ عہد جاہلیت کا ایک پیشہ .
- ۱ ۵۲۰ * القیامہ : (اٹھ کھڑا ہونا ، نظام کائنات کے درہم برہم ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا) ، ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی جزا و سزا کے لیے عدالت ربانی کا دن وغیرہ .
- ۲ ۵۲۷ * القیامہ : قرآن مجید کی پچھترویں سورت .
- ۲ ۵۲۹ * قِیرَاط : مسلمان عطاروں کے پیمانے اور سکوں میں وزن کی ایک اکالی .
- ۱ ۵۳۱ * قِیرَاقِ کَلِيسَه : مشرقی تراکیہ (Thrace) کا ایک قصبہ ،
- ۱ ۵۳۱ * قِیرَاقِ وَزیر : رک بہ شیخ زادہ دوم .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۵۳۱		* قیر غیز : وسط ایشیا کی ایک قدیم ترک قوم .
۱ ۵۳۶		* القیروان : (Kairuan) ، تونس کا ایک قدیم شہر ، سابقاً اسلامی افریقیہ کا صدر مقام .
		* (قز) : مختلف مقامات کے ناموں میں شامل لفظ : (۱) قیز قلعہ سی ، اسکودار (سقوٹری) اور حیدر پاشا کے درمیان باسفورس کے مدخل پر ایک چٹان پر بنا عوا روشنی کا مینار: (۲) قیز لر آغاسی ، شاہی حرم کے حبشی نگران، سب سے بڑے خواجہ سرا کا لقب .
۲ ۵۳۳		* قیس : خلیج فارس میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ .
۱ ۵۳۴		* القیس : کئی عرب قبائل کا نام .
۱ ۵۳۵		* قیس بن الخطیم : حضرت حسان بن ثابت کا ہم عصر اور قبل از اسلام کے یثرب کا ایک ممتاز شاعر .
۱ ۵۳۶		* قیس عیلان : (قیس عیلان) ، قدیم زمانے میں شمالی عرب کا ایک بڑا اور طاقتور قبیلہ .
۲ ۵۳۷		* قیساریہ : (نیز قیساریہ Caesarea) ، بوزنطی عہد میں مشرقی ممالک، نیز افریقہ و ہسپانیہ کے شہروں کے ایک پورے سلسلے کا نام .
۲ ۵۵۹		* قیساریہ : (نیز قیساریہ) ، مسقف گلیوں اور غلام گردشوں کی شکل میں ترتیب دیا جانے والا وسیع سلسلہ عمارات عامہ .
۱ ۵۶۳		* قیصر : بوزنطی شہنشاہ کے لیے عربی میں مستعمل لقب .
۲ ۵۶۵		* قیصریہ : (نیز قیساریہ ، قیساریہ) ، ایشیائے کوچک کا ایک قدیم شہر ، آج کل ترکیہ کے ایک صوبے (ایل) کا صدر مقام .
۱ ۵۶۷		* قیلیقیہ : (قیلیقیا ، صحیح کیلیکیا Cilicia) ، ولایت حاب میں ترکیہ کا ایک وسیع علاقہ .
۲ ۵۷۰		* القین (بن جسر) : (بنو القین یا بلقین) ، ایک قدیم عرب قبیلہ .
۲ ۵۸۱		* قینقاع : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے وقت یثرب میں آہاد ایک طاقتور یہودی قبیلہ .
۲ ۵۸۵		* قیم : لغوی معنی : وہ شخص جو سیدھا کھڑا ہو ، جو شخص کوئی ذمہ داری قبول کرے ، نیز نگران ، ناظم ، محافظ ، مدیر ، کفیل وغیرہ .
۲ ۵۸۷		* القیوم : اللہ تعالیٰ کا ایک نام ، ہمیشہ رہنے والی اور مخلوق کی ضروریات ہم پہنچانے والی اور نگہداشت کرنے والی ذات .
۱ ۵۸۹		* قیومیہ : حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے تین جانشینوں کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک روحانی منصب .
۱ ۵۹۰		



ک

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱	۱	* ک : عربی حروف تہجی کا بائیسواں، فارسی کا پچیسواں اور اردو کا اڑتیسواں حرف .
۱	۱	* کابل : (۱) افغانستان کا ایک دریا ؛ (۲) دریائے کابل کے دونوں کناروں پر آباد افغانستان کا دارالحکومت ، ایک تاریخی شہر .
۱	۱	* کاتب : (محرر) ، ایک سرکاری اصطلاح ، بمعنی سرکاری دفاتر میں سرکاری دستاویزات اور مراسلات وغیرہ لکھنے والا اہلکار .
۲	۳	* کاتب چلبی : رگ بہ حاجی خلیفہ .
۲	۶	* کاتب رومی : رگ بہ علی بن حسین .
۲	۶	* کاتبی : شمس الدین محمد بن عبداللہ ، تیموری عہد میں فارسی زبان کا شاعر (م مابین ۸۳۸/۵۱۳۳۳ اور ۸۳۹/۵۱۳۳۶) .
۲	۶	* الکاتبی : (دبیر) ، نجم الدین علی بن عمر القزوینی ، ایک فلسفی اور عربی زبان میں متعدد کتابوں کا مصنف (م ۵۶۷/۵۱۲۷۶ یا ۵۶۹۳/۵۱۲۹۳) .
۱	۷	* کاٹ : خوارزم (موجودہ خیوا) کا قدیم دارالحکومت .
۲	۸	* کارتہ : سینی گال کے بالائی سمندر اور صحرائے اعظم کے درمیان واقع فرانسیسی سودان کا علاقہ .
۱	۱۰	* کارتھیج : رگ بہ قرطاجنہ .
۲	۱۱	* کارواں : باہم منظم طور پر محو سفر قافلہ ، سودا گروں کی کوئی جماعت .
۲	۱۱	* کارواں سرایے : رگ بہ فندق .
۲	۱۲	* کارو منڈل : رگ یہ معبر .
۲	۱۲	* کارون : جنوبی ایران کا سب سے بڑا دریا .
۲	۱۲	* کازرون : صوبہ فارس میں واقع ایران کا ایک قدیم شہر .
۱	۱۳	* کازرولی : شیخ مرشد ابو اسحق ابراہیم بن شہریار ، اسلام کے ایک سرگرم مبلغ اور درویشوں کے سلسلہ اسحاقیہ یا کازرونیہ کے بانی (حیات مابین ۳۵۳/۵۹۶۳ و ۳۲۶/۵۱۰۳۳) .
۲	۱۳	* کازموک : رگ بہ قاسموک .
۲	۱۵	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۵		* کاسا بلانکا : (Casa Blanca) ، رگ بہ دارالبیضاء .
		* الکاسانی : ابو بکر بن مسعود بن احمد علاء الدین ، ملک العلماء ، ایک ممتاز حنفی فقیہ ،
۲ ۱۵		ثقہ عالم اور مصنف بدائع الصنائع وغیرہ (م ۵۵۸۷/۱۱۹۱ء) .
۲ ۱۶		* کاسٹیوم : (Costume) ، رگ بہ لباس .
۲ ۱۶		* کاشان : قاشان ، عراق عجمی (الجبال ، میڈیا) کا ایک شہر .
۱ ۱۷		* کاشانی : رگ بہ عبدالرزاق .
		* کاشالی : حاجی میرزا جانی ، کاشان کا ایک تاجر اور بابی مؤرخ ، صاحب نقطۃ الکاف
۱ ۱۷		(م ۱۸۵۲ء) .
۱ ۱۸		* کاشغر : عوامی جمہوریہ چین کے صوبہ سنکیانگ کا ایک قدیم شہر .
		* کاشف : محمد شریف بن شمس الدین المتخلص بہ کاشف کمیت ، ایک ایرانی مصنف اور
۲ ۱۹		شاعر (م بعد از ۶۳۰ھ/۱۶۵۲ء) .
		* کاشفی : حسین واعظ ، سلطان حسین میرزا کے عہد میں ہرات کا ایک بسیار نویس مصنف ،
		مفسر اور مقبول ترین واعظ ، مصنف اخلاق محسنی ، انوار سہیلی ،
۲ ۲۰		روضہ الشهداء وغیرہ (م ۵۹۱۰ھ/۱۵۰۵ء) .
		* کاشی : (قاشی ، قاشانی ، قشانی) ، عمارتوں کی بیرونی یا اندرونی دیواروں کی آرائش
۲ ۲۱		میں استعمال ہونے والی چینی کی مربع یا مستطیل تختیاں ، منسوب بہ کاشان .
		* کاشی : جمشید بن مسعود بن محمود بن غیاث الدین ، سمرقند میں الخ بیگ کی رصدگاہ
		کا پہلا ایرانی ناظم اور اس کی پہلی زیج کی تیاری میں شریک کار (م ۵۸۳۰ھ/
۱ ۲۲		۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ء) .
۱ ۲۲		* کاظم خان شیدا : رگ بہ پشتو .
		* کاظمی : حضرت موسیٰ کاظمؑ کی یادگار میں سلطان ٹیپو، فرمانروائے میسور، کا جاری کردہ
۲ ۲۲		ایک چھوٹا سکہ .
		⊗ کاظمین : بغداد سے دس کلومیٹر شمال مغرب میں واقع عراق کا مشہور شہر اور امام
		موسیٰ کاظمؑ اور امام الجواد محمدؑ کے مزارات کے باعث اثنا عشریوں کی
۲ ۲۲		زیارت گاہ .
۱ ۳۲		* کاغذ : کاغذ .
۲ ۳۳		* الکاف : الجیریا کی سرحد سے تقریباً ۲ میل کے فاصلے پر تونس کا ایک شہر .
		⊗ کافر : ایک معروف اسلامی اصطلاح ، شریعت اسلامیہ کا یا اس کے کسی مسلمہ عقیدے،
۲ ۳۳		رکن یا فرض کا منکر .
۱ ۳۷		* کافرستان : افغانستان اور پاکستان میں واقع کوہ ہندو کش کا ایک پہاڑی علاقہ .
۱ ۳۹		* کافور : (نیز قفور ، قافور) ایک معروف خوشبو .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۹		* کافور : ابو المسک الاخشیدی ، شام اور مصر کا ایک حبشی الاصل حکمران ، المتنبی کا مدوح اور دوست (م ۵۳۵۷/۴۹۶۸) .
۲ ۴۱		* کا کا صاحب " : شیخ رحمکار (۹۸۳ تا ۱۰۶۳) ، صوبہ سرحد کے ایک مشہور اور قابل احترام ولی .
۱ ۴۴		* کا کوہ (بنو) : اصفہان اور ہمدان کا ایک حکمران خاندان (از ۵۳۹۸/۴۱۰۰۷ تا ۵۳۳۳/۴۱۰۵۱) ؛ بانی : علاء الدولہ ابو جعفر محمد بن دشمنزیار رستم الملقب بہ ابن کا کوہ (م ۵۳۳۳/۴۱۰۳۲) .
۲ ۴۶		* کالی کٹ : (کالی گوڈ) ، احاطہ مدراس (کیرالا) کے ضلع مالابار میں بھارت کے مغربی ساحل پر واقع ایک بندرگاہ اور موپلا مسلمانوں کا اہم مرکز .
۱ ۴۷		* کامران : بحیرہ قلزم میں ایک چھوٹا سا جزیرہ .
۱ ۴۷		* کامران شاہ درانی : افغانستان کے سدوزئی خاندان کا آخری فرمانروا (از ۱۲۳۵/۵۱۸۳۲ تا ۱۸۲۹ تا ۱۲۵۸/۵۱۸۳۲) .
۲ ۴۷		* کامران سیرزا : (۱۵۰۹ تا ۱۵۵۷) ، مغل بادشاہ بابر کا دوسرا بیٹا اور ہمایوں کا سوتیلا بھائی ، مختلف صوبوں کا گورنر ، بعد ازاں ہمایوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا شہزادہ .
۲ ۴۸		* کام روپ : بھارت کے صوبہ آسام کا ایک ضلع اور ایک قدیم ہندو ریاست .
۲ ۴۹		* * کاہل : عربی علم عروض کی پانچویں بحر .
۲ ۵۲		* الکامل : رک بہ الملک الکامل .
۲ ۵۲		* کانسو : (کنسو) ، عوامی جمہوریہ چین کا ایک صوبہ .
۲ ۵۵		* کالگو : مغربہ کے ایک ملک اور دریا کا نام .
۱ ۵۹		* کالم : وسط سودان میں ایک علاقہ .
۱ ۶۰		* * کالم ، بورنو : افریقہ کا ایک مسلمان ملک ، آج کل آزاد جمہوریہ بورنائی .
۲ ۶۳		* کالو : (کانو) ، وسط سودان میں واقع ایک شہر .
۱ ۶۳		* کان و کان : اہل بغداد کی ایجاد کردہ جدید عربی نظم کی ایک قسم .
۲ ۶۳		* کالون : تدمر کے قدیم کتبوں میں مذکور ایک مہینے کا نام .
۱ ۶۵		* کالی ابونکر : (۱۱۲۳/۴۱۷۱۲ تا ۱۲۰۶/۴۱۷۹۲) ، قدیم دبستان ادب کا ایک قابل ذکر ترکی شاعر اور صاحب طرز نثر نگار .
۱ ۶۵		* * کالین : (کابین) ، رک بہ (۱) سہر ؛ (۲) نکاح .
۱ ۶۷		* کاهن : رک بہ الکھان .
۱ ۶۷		* الکاهنہ : بربر نسل کی ایک افسانوی ملکہ یا حکمران .
		* * کالتالی : (Leone Caetani) ، اسلامی تاریخ کے مطالعے اور تصنیف و تالیف سے بے حد

- شغف رکھنے والا اٹلی کا مشہور اور ممتاز مستشرق ، مصنف
Annali dell, Islam (م ۱۹۳۵ء) .
- ۱ ۶۸
- ⊗ کبائر: (بڑی چیز، بڑی بات)، اسلامی شریعت کی ایک اصطلاح، بمعنی بڑا گناہ
(گناہ کبیرہ) .
- ۱ ۶۹
- * کبتاش: رک بہ استانبول .
- ۲ ۷۱
- * کبد: (کبد)، جگر یا کلیجہ .
- ۲ ۷۱
- * کبرد: روس کے علاقہ قفقاز کا ایک مسلمان قبیلہ .
- ۲ ۸۷
- * الکبریت: گندھک .
- ۲ ۸۹
- * کبکچی اوغلو مصطفیٰ: سلطان سلیم ثالث کے خلاف ایک کامیاب بغاوت کا قائد .
- ۱ ۹۱
- * کبو: جمہوریہ انڈونیشیا کے صوبہ مغربی کالی منتان کا ایک ضلع .
- ۱ ۹۲
- * کبیر: پندرہویں صدی کا ایک ہندوستانی صوفی اور شاعر (م ۱۵۱۵ء) .
- ۲ ۹۲
- * الکبیر: رک بہ (۱) اللہ؛ (۲) الاسماء الحسنی .
- ۲ ۹۳
- * کبیر ہتھی: کبیر [رک باں] کی طرف منسوب ہندوؤں کا ایک فرقہ .
- ۲ ۹۳
- * کتاب: تحریر شدہ چیز، صحیفہ .
- ۲ ۹۳
- * کتاب الاسطفس: (Tabula Samoragdina)، فلسفی ہرمس ٹریسمجیسٹ (Hermes Trismegistos)، سے منسوب یاگری کی تعلیمات .
- ۲ ۹۶
- ⊗ کتاب اللہ: رک بہ قرآن مجید
- ۱ ۹۷
- * کتاب الجلوہ: فرقہ یزیدیہ کی دو مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب .
- ۱ ۹۷
- * کتاب خانہ: بمعنی لائبریری، مکتبہ .
- ۲ ۱۰۲
- ⊗ کتاب الفہرست: رک بہ الندیم .
- ۱ ۱۰۸
- ⊗ کتابیات: کتابوں کی باقاعدہ مدوں فہرست .
- ۱ ۱۰۸
- * کتامہ: (کتیمہ)، بربروں کا ایک عظیم اور قدیم خاندان .
- ۱ ۱۱۲
- ⊗ کتب سماویہ: رک بہ (۱) انجیل؛ (۲) تورات؛ (۳) زبور؛ (۴) صحیفہ؛ (۵) قرآن .
- ۱ ۱۱۳
- ⊗ الکتبی: رک بہ ابن شاکر الکتبی .
- ۱ ۱۱۳
- * الکتانی: محمد بن جعفر بن ادريس (۱۲۷۳ تا ۵۱۳۳ھ)، عصر حاضر کا ایک مرا کشی ادیب اور متعدد کتابوں کا مصنف .
- ۱ ۱۱۳
- * کتخدا: مالک خانہ یا بزرگ خاندان، ایران میں دیہات کے مقدم یا سرکاری کارندے اور شہروں میں حلقے کے صاحب عشر .
- ۲ ۱۱۳
- * کتماں: رک بہ تقیہ .
- ۱ ۱۱۳
- * کتنگہ: جمہوریہ زائر (سابق بلجین کانگو) کا ایک صوبہ .
- ۱ ۱۱۳
- * کتئی: (Kutai)، مشرقی بورنیو کی خود مختار ریاست، آج کل انڈونیشیا کے صوبہ مشرقی

صفحہ نمبر	اشارات	منوان
۱ ۱۱۷		کالی منتان کا ایک ضلع .
۱ ۱۱۹		* کَنک : بھارت کے صوبہ اڑیسہ کا ایک ضلع .
۲ ۱۱۹		* کَنای : (خطای)، رک بہ الصین .
۲ ۱۱۹		* کَثیر عَزَة : ابو صخر کثیر بن عبدالرحمان الخزاعی ابن ابی جمعه ، اپنی محبوبہ عزه کی نسبت سے کثیر غزه سے معروف ، اموی عہد کا ایک نامور شاعر .
۲ ۱۲۱		* کَچھ : (کچ : القصہ) ، برصغیر پاک و ہند کا ایک صحرائی و ریگستانی علاقہ .
۱ ۱۲۳		* کَچھی : یا کچھ گنداوہ ، پاکستانی بلوچستان میں واقع ایک مثلث نما چپٹا علاقہ .
۲ ۱۲۳		* اَلکَجَل : کبریت آمیز سرمہ اور کبریتی سیسہ .
۱ ۱۲۷		* کَختا : یا کیختہ : (۱) دریائے فرات کے ایک معاون کختا صو کے کنارے ملطیہ سے ۴۰ میل دور ایک مقام ؛ (۲) ماورائے بیکال کے علاقے میں ایک شہر .
۱ ۱۳۲		* کُدَمَل : ایک چھوٹا سا آتش فشانی جزیرہ .
۱ ۱۳۲		* کُر : (کرہ) ، قفقاز کا طویل ترین دریا .
۲ ۱۲۳		* اَلکَرِیسی : یعنی بزاز ، متعدد عرب مصنفین کی نسبت : (۱) احمد بن عمر ، ایک ریاضی دان اور اقلیدس کے ترجمے کی ایک شرح کا مصنف ؛ (۲) ابو علی الحسین بن علی بن یزید المہلبی ، محدث اور شافعی فقیہ (م ۵۲۳۵/۶۸۵۹) .
۲ ۱۳۳		* کَراچی : پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور بہترین بندرگاہ ، صوبہ سندھ کا دارالحکومت .
۲ ۱۳۸		* کَرامَة : اسلامی شریعت و تصوف کی ایک اصطلاح ، بمعنی صحابہ کرام ، اولیا اور نیک لوگوں کے ہاتھوں سرزد ہونے والے خوارق عادت افعال .
۲ ۱۳۰		* کَرامت علی : جونپوری ، سید احمد شہید کے ایک مخلص پیرو اور ان کی وفات کے بعد بہار و بنگال میں ان کی تحریک کے سرگرم داعی ، مبلغ اور مصنف (م ۵۱۲۹۰/۶۱۸۷۳) .
۲ ۱۳۳		* کَرامرس : J.H. Kramers (۱۸۹۱ء تا ۱۹۵۱ء) ، بیسویں صدی عیسوی کا ایک ولندیزی مستشرق اور عربی زبان کی متعدد کتابوں کا طابع اور علوم اسلامیہ پر متعدد کتابوں اور مقالات کا مصنف .
۲ ۱۳۳		* کَربلاء : (کربلائے معلی) ، عراق میں حضرت امام حسینؑ اور دیگر بزرگوں کے مزارات اور شہادت گاہ ہونے کی وجہ سے مشہور اور مرکز عقیدت .
۲ ۱۳۹		* کَرت : ہرات پر ڈیڑھ سو سال (۵۶۳۳/۶۱۲۳۵ء تا ۵۷۹۱/۶۱۳۸۹ء) حکومت کرنے والا ایک حکمران خاندان .
۱ ۱۵۱		* اَلکُرة : علم جغرافیہ و ہیئت کی ایک اصطلاح ، بمعنی گلوب (globe) .
۲ ۱۵۲		* کَرج : (گرجستان) ، بحیرہ اسود سے لے کر تفلس کے شمال مشرق میں ۶۰ میل سے زیادہ پھیلا ہوا ماورائے قفقاز کا علاقہ .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۵۵		* کرچ : روس میں شامل جزیرہ قریم (کریمیا) کا ایک قصبہ اور قلعہ ۔
۱ ۱۵۷		* الکرخ : قدیم بغداد کا ایک مشہور محلہ ۔
۱ ۱۶۰		* کرخا : خوزستان (ایران) کا ایک دریا ۔
۲ ۱۶۱		* الکرخی : ابو بکر بن الحسن (الحسین) ، بویہی دور کا ایک نامور ریاضی دان اور مؤلف (م مابین ۵۳۱/۶۱۰ء و ۵۴۲/۶۱۰ء) ۔
۲ ۱۶۲		* کرد : رگ بہ اقریطش (Crete) ۔
۲ ۱۶۲		* کرد : ایران ، ماورائے قفقاز ، ترکیہ اور العراق میں آباد مشرق قریب کی ایک قدیم ایرانی قوم ۔
۲ ۲۱۹		* کردستان : (۱) سلجوقیوں کے زمانے میں آذر بیجان اور لرستان کا درمیانی علاقہ ؛ (۲) ایران میں کردوں کا علاقہ اور ایک مستقل ولایت (صوبہ) ۔
۲ ۲۲۳		* الکراز : (دورک) ، تنگ گلے کا مٹی کا برتن یا گھڑا ۔
۲ ۲۲۳		* کرامیہ : ابو عبداللہ محمد بن کرام (م ۲۵۵ھ) سے منسوب ایک ملحد فرقہ ۔
۱ ۲۲۷		* کرسوں : (قدیم Cerasus) ، ایشائے کوچک میں بحیرہ اسود کے کنارے ایک قصبہ اور بندرگاہ ۔
۱ ۲۲۸		* کرسی : ایک کثیر المعانی لفظ بمعنی تخت نشست ، جائے قیام ، چوکھٹا ، سیڑھی ، لاکٹ وغیرہ ۔
۱ ۲۲۹		* کرش : رگ بہ کرچ ۔
۲ ۲۲۹		* کرسولی : ایک نامعلوم الاصل اصطلاح ، بعد از تصرف عربی زبان کے مطابق بنا لیے جانے والے سریانی حروف تہجی ۔
۱ ۲۳۰		* کرشی : اویغور زبان کا ایک لفظ ، بمعنی قلعہ اور محل ۔
۱ ۲۳۰		* گرگ : رگ بہ حصن الا کراد ۔
۱ ۲۳۰		* الکرك : بحیرہ مردار کے مشرق میں واقع ایک قلعہ ۔
۱ ۲۳۱		* کرکرہ لی : قازقوں کا ایک قصبہ اور ضلعی صدر مقام ۔
۲ ۲۳۱		* کرکور : پتھروں بالخصوص مقدس پتھروں کا ایک ڈھیر ۔
۱ ۲۳۳		* کرکوک : عراق کا ایک قدیم قصبہ ۔
۱ ۲۳۶		* کرم : (بنو الکرم) ، بنو مسعود اور بنو عباس ابی الزریع کی دو شاخوں پر مشتمل عدن میں اسمعیلی حکومت قائم کرنے والا ایک خاندان (از ۵۶۶ء تا ۶۱۰ء) ۔
۲ ۲۳۸		* کیرماستی : آناتولی (ترکیہ) میں اسی نام کی ایک قضا کا صدر مقام ۔
۲ ۲۳۹		* کرسان : ایران کا ایک صوبہ اور اس کا موجودہ صدر مقام ۔
۲ ۲۵۰		* کرمان شاہ : ایران کا ایک صوبائی صدر مقام ۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۵۳		* کرمالی : کمال الدین ابو العطا محمود بن علی : رگ بہ خواجو کرمانی .
۱ ۲۵۳		* گرمسین : رگ بہ کرمان شاہ .
۱ ۲۵۳		* گرمہ : ترکستان میں آباد ایک ترک قبیلہ .
۲ ۲۵۵		* گرمیان : رگ بہ گرمیان .
		* گرنائک : (۱) بھارت میں کینری زبان بولی جانے والا علاقہ ؛ (۲) ریاست ہائے میسور و حیدرآباد (دکن) اور صوبہ مدراس کے بعض اضلاع پر مشتمل بھارت کا ایک صوبہ ؛ صدر مقام : بنگلور .
۲ ۲۵۵		* کرنال : بھارتی پنجاب کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۱ ۲۵۶		* گرنک : رگ بہ الاقصر .
۱ ۲۵۸		* کرنکو : Fritz Krenkow (۱۸۷۲ء تا ۱۹۵۳ء) ، عربی زبان و ادب سے گہرا شغف رکھنے اور متعدد عربی دواوین شائع کرنے والا ایک جرمن مستشرق .
۱ ۲۵۸		* کروجا : رگ بہ کروجو ، در لائلڈن ، بار دوم .
۱ ۲۵۹		* کروسیدز : (Crusades) ، رگ بہ صلیبی جنگیں .
۱ ۲۵۹		* کرویا : (قرویہ) ، البانیہ کا ایک قصبہ اور قلعہ، عہد سابق میں سکندر بیگ کا صدر مقام .
۱ ۲۶۰		* کریبیہ : کیسانیہ [رگ باں] کا ایک فرقہ .
۲ ۲۶۱		* کریٹ : رگ بہ اقریطش .
		* کریم : (فیاض ، مہربان ، کشادہ دل ، معزز ، شریف) ، انسانوں اور اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے مستعمل ایک صفت ؛ رگ بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی .
۲ ۲۶۱		* کریم خان زلد : (محمد) ، اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں ایران کا حقیقی فرمانروا (م ۱۱۹۳/۵۱۷۷ء) .
۱ ۲۶۲		* کریمر : رگ بہ فان کریمر .
۱ ۲۶۳		* کریمیا : رگ بہ قریم .
۱ ۲۶۳		* کسائی : حکیم مجد الدین ابو اسحق (یا ابو الحسن) کسائی (۵۳۳۱/۵۹۵۳ء تا ۵۳۹۲/۵۹۹۲ء) ، ایران کا ایک صاحب دیوان فارسی شاعر .
۱ ۲۶۳		* الکسائی : ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ یا محمد بن احمد یا حسن بن محمد ، پانچویں صدی ہجری میں قصص الانبیاء کا مصنف .
۱ ۲۶۳		* الکسائی : علی بن حمزہ بن عبداللہ بن بہمن بن فیروز الکوفی ، ایک نامور نحوی، ادیب اور قاری (م ۱۸۹/۵۸۰ء) .
۱ ۲۶۵		* کسب : تلاش کرنا ، حاصل کرنا ، کمانا ، کام کرنا .
۲ ۲۶۶		* کسر : علم ریاضی کی ایک اصطلاح ، اعداد کے مزید حصے کرنا .
۲ ۲۶۷		* کسر : رگ بہ کسرہ .
۱ ۲۶۸		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲۶۸		* کسره : لغوی معنی توڑنا ، زیر کی علامت .
۱ ۲۶۸		* کسری : ساسانی خاندان کے دو ایرانی بادشاہوں کا عربی نام ، بعد ازاں ہر ایرانی بادشاہ کا لقب .
۲ ۲۶۸		* کسف : رگ بہ خسوف .
۲ ۲۶۸		* کسف : رگ بہ کشف .
۲ ۲۶۹		* کسگر : عراق کا ایک قدیم شہر .
۱ ۲۶۹		* کسکس : (Couscous) ، تمام شمال مغربی افریقہ میں خوراک کا ایک اہم جز ، میدے سے تیار کیا جانے والا ایک کھانا .
۱ ۲۷۱		* کسلة : (عربی : کسلة) ، اینگلو مصری سودان کا ایک صوبہ اور شہر .
۲ ۲۷۳		* کسوة : رگ بہ کعبہ ؛ محمل .
۲ ۲۷۳		* کسوف : سورج گرہن ، چاند گرہن .
۱ ۲۷۷		* کسيلة بن لمزم الاوربي : (بن کمرم البربری) ، تلمسان سے مغرب کی سمت میں آباد قبیلہ اوربہ کے قائد سکریدید الاوربی کا رفیق کار اور جانشین .
۱ ۲۷۸		* کش : روس کے علاقہ بخارا میں واقع موجودہ شہر سبز .
۲ ۲۷۹		* کشف : (کھولنا ، ظاہر کرنا ، حجاب دور کرنا) ، ایک اصطلاح : (۱) علم عروض ؛ ایک زحاف کا نام ؛ (۲) علم تصوف ؛ صوفی کے سامنے سے حجابات کا بمراتب اٹھ جانا وغیرہ .
۲ ۲۸۰		* کشکول : کچکول ؛ بھیک مانگنے کے لیے ایک زنجیر سے کندھے پر لٹکا لیا جانے والا دھات یا لکڑی یا ناریل کا ایک بیضوی پیالہ .
۱ ۲۸۱		* کشم : (۱) خلیج فارس میں بندر عباس کے بالمقابل ایک جزیرہ ؛ (۲) قدیم زمانے میں دریائے جیحون کے بالائی طاس میں واقع ایک شہر .
۱ ۲۸۲		* کشمیر : (۱) برعظیم پاک و ہند کی ایک مرسبز و شاداب وادی ؛ (۲) شہر کشمیر ، یعنی سرینگر ؛ (۳) سابق ریاست جموں و کشمیر .
۱ ۳۰۷		* کشمیری زبان و ادب : جموں کے بعض علاقوں ، وادی کشمیر (مقبوضہ بھارت) اور آزاد کشمیر میں بولی جانے والی زبان اور اس کا ادب .
۱ ۳۱۳		* کشیش طاغی : مسیہ میں واقع کوہ اولپس کے لیے عثمانیوں کا دیا ہوا نام .
۲ ۳۱۳		* کعب (بنو) : ایران کے صوبہ خوزستان میں آباد ایک عرب قبیلہ .
۲ ۳۱۳		* کعب بن الأشرف : مدینہ منورہ کا ایک دشمن رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہودی (م ۵۶۲/۵۳) .
۲ ۳۱۵		* کعب بن جعیل التغلبی : پہلی صدی ہجری/ساتویں صدی عیسوی کا ایک غیر معروف عرب شاعر (حیات ۵۸۶/۷۰۵) .
		* کعب بن زہیر : عرب کے مشہور صاحب معلقہ شاعر زہیر بن ابی سلمی کے فرزند ،

صفحہ عدد	اشارات	عنوان
۱ ۳۱۷	مشہور صحابی اور ایک ممتاز شاعر .	
		* کعب بن مالک : ابو عبداللہ (نیز ابو عبدالرحمن) ، مدینہ منورہ میں بنو خزرج کے قبیلہ سلمہ سے تعلق رکھنے والے صحابی رسول اور نامور شاعر (م ۵۵۳/۶۷۳) .
۱ ۳۱۸		* کعب الاحبار : ابو اسحق کعب بن مائع بن ہیسوع ، عربوں کے یہاں اسرائیلیات میں قدیم ترین مستند راوی (م ۵۳۲/۶۵۲ یا ۵۳۳/۶۵۳) .
۱ ۳۱۹		⊗ کعبہ : مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے وسط میں واقع دنیا میں خدا کا پہلا گھر ، مسلمانوں کا قبلہ اور نماز کے لیے متعین جہت .
۱ ۳۲۱		⊗ کَفِّ : علم عروض کی ایک اصطلاح .
۲ ۳۳۵		* کَفَّارہ : (تاوان ، تلافی) ، اسلامی شریعت کی ایک اصطلاح ، کسی گناہ کا صدقہ ، غلام کی آزادی یا روزے کی صورت میں تاوان ادا کرنا .
۱ ۳۳۶		* کفالہ : علم فقہ کی ایک اصطلاح ، کسی شخص (کفیل) کا قرض خواہ (مکفول لہ) کے لیے قرضدار (مکفول بہ) کا ضامن ہونا .
۲ ۳۳۶		* کُفْر : رگ بہ کافر .
۱ ۳۳۷		* کُفْرہ : صحرائے مشرقی (لیبیا) میں برہ اور ودای کے مابین نخلستان کا ایک مجموعہ .
۲ ۳۳۷		* کفہ : (کفہ) ، جزیرہ نماے قریم کے جنوبی ساحل پر ازنہ وسطیٰ کا ایک شہر .
۲ ۳۳۸		⊗* کفیل : رگ بہ کفالہ .
		* کلاب بن ربیعہ : بنو کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ . . . ، ضریہ اور ربذہ کی چراگاہوں میں آباد ایک مشہور عرب قبیلہ .
۲ ۳۳۸		* الکلاباذی : ابو بکر محمد بن ابی اسحق ابراہیم بن یعقوب البخاری ، تصوف کے ابتدائی دور کے لیے ایک مستند مصنف (م ۳۸۵/۶۹۵) ،
۲ ۳۳۹		* کلات نادری : روس اور ایران کی سرحد پر خرامان کا ایک قصبہ .
۲ ۳۴۰		* کلام : (۱) گفتار ، بات چیت ؛ (۲) علم نحو کی ایک اصطلاح بمعنی باواز بلند ادا کیا جانے والا لفظ ؛ (۳) علم کلام (رگ بہ علم) .
۱ ۳۴۱		* کلائتر : کسی شہر کا ایک اہم ترین شخص ، جیسے رئیس بلدہ .
۲ ۳۴۲		* کُتَب : کتا .
۱ ۳۴۳		* الکلب : علم ہیئت کا ایک ستارہ (شعری الیمانیہ ، کلب الجبار) .
۱ ۳۴۵		* کلب بن ویرہ : بنو کلب کا جد امجد .
۱ ۳۴۶		* کلبرگہ : رگ بہ احسن آباد ، گلبرگہ .
۱ ۳۴۸		* الکلبی : کوفی علما کا ایک خانوادہ ؛ (۱) الکلبی الکبیر ، ابو النضر محمد بن السائب ، لغت اور اخبار العرب کا عالم اور تفسیر القرآن کا معلم (م ۱۳۶/۷۶۳) ؛

- (۲) ابو المنذر ہشام الکلبی ، ایام العرب اور اخبار العرب کا عالم اور تقریباً
 ایک سو چالیس کتابوں کا مصنف (م ۵۲۰/۶۸۱۹ یا ۲۰۶/۶۸۲۱)۔
- ۱ ۳۴۸
- * کُثُوم بن عِيَاض الْقَشِيرِي : اموی عہد کا ایک نامور سپہ سالار (۵۱۳۳/۶۷۳۱)۔
- ۲ ۳۴۹
- * کِمَاك : لمبے لٹھوں یا شہتیروں کو باہم رسوں سے یاندھ کر بنایا جانے والا بیڑہ۔
- ۱ ۳۵۰
- * کَلْكَتَه : بھارت کا سب سے بڑا شہر ، مشہور بندر گاہ اور صوبہ بنگال کا صدر مقام۔
- ۲ ۳۵۰
- * کَاَز : حاب اور عین تاب کے درمیان شمالی شام کا ایک قصبہ۔
- ۱ ۳۵۳
- ⊗ کَلِمَة : مختلف علوم کی ایک اصطلاح : (۱) علم نحو : مفرد مفہوم کے لیے وضع کیا گیا لفظ واحد ؛ (۲) عرف شرعی : کلمہ طیبہ ؛ (۳) قرآن مجید : معانی عدیدہ ، مثلاً کلمۃ اللہ (حضرت عیسیٰؑ) ؛ (۴) احادیث نمویہ ؛ (۵) وسیع مفہوم ؛ (۶) منطق : اپنے صیغے اور وزن سے معنی اور زمانے پر دلالت کرنے والا لفظ ؛ (۷) تصوف : اعیان ثابتہ۔
- ۱ ۳۵۴
- * کِاوه : ساحل مشرقی افریقہ کے متعدد مقامات اور جزائر سے مربوط نام ، بالخصوص ٹانگانیک کا ایک ضلع اور دو بندرگاہیں : کلوہ کونجہ اور کلوہ کسونی۔
- ۱ ۳۵۶
- * کَلَه : (نیز کلاہ ، کلا اور کِلہ) ، ازمئہ وسطی میں ہندوستان ، چین اور عرب کے درمیان تجارت اور جہاز رانی کے سلسلے میں رابطے کا کام دینے والا ایک جزیرہ یا جزیرہ نما۔
- ۱ ۳۵۸
- * الکلی : رک بہ القلی۔
- ۲ ۳۶۰
- * کَلِيب بن ربيعہ : عہد جاہلیت میں بنو تغلب کا ایک اہم شیخ (جس کا قتل حرب بسوس کا باعث بنا)۔
- ۲ ۳۶۰
- * کلید البحر : در دانیال کے سب سے تنگ حصے میں ایک قلعہ اور چھوٹا سا قصبہ۔
- ۱ ۳۶۲
- * کَلِيلَه و دِسنہ : شاہزادوں کی ہدایت کے لیے مرتب کی جانے والی ایک قدیم کتاب۔
- ۱ ۳۶۳
- ⊗ کلیم ، ابو طالب : ہندوستان میں دور مغلیہ کا ایک نامور فارسی شاعر (م ۵۱۰۶۱)۔
- ۲ ۳۷۲
- * کلیم اللہ : حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعزازی لقب۔
- ۱ ۳۷۹
- * (شاہ) کلیم اللہ جہاں آبادی : (۵۱۰۶۰ / ۱۶۵۰ء تا ۵۱۱۴۲ / ۱۷۲۹ء) ، بر عظیم پاک و ہند کے ایک نامور چشتی بزرگ اور کثیر التصانیف عالم۔
- ۲ ۳۷۹
- ⊗ الکَلِينِي : ابو جعفر محمد بن یعقوب رازی کلینی ، ایک ممتاز شیعہ عالم ، فقیہ ، محدث اور کتاب الکافی (شیعہ حدیث) وغیرہ کے مصنف (م ۵۳۲۹/۶۹۴۱)۔
- ۱ ۳۸۳
- * کِمَاخ : (کماخ ، کمخ) ، دریائے فرات (قرہ صو) کے جنوبی کنارے پر ایک قلعہ۔
- ۲ ۳۸۶
- * کِمَاك : (کیماک) ، دریائے ارتش کی زریں گزر گاہ پر آباد ترک۔
- ۱ ۳۸۷
- * کمال پاشا زادہ : شمس الدین احمد بن سلیمان بن کمال پاشا ، ایک عثمانی مؤرخ ، فقیہ اور صاحب طرز انشا پرداز (م ۹۴۱/۱۵۳۵ء)۔
- ۲ ۳۸۷

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۹۰		* کمال خجندی : کمال الدین مسعود ، عہد تیموری کے ایک صوفی اور فارسی شاعر (م ۵۷۹۲ / ۶۱۳۹ یا ۵۸۰۳ / ۶۱۳۰) .
۲ ۳۹۱		* کمال الدین : ابوالقاسم عمر بن احمد بن ہبہ اللہ بن ابی جرادة بن العدیم العقیلی ، مؤرخ حلب (م ۵۶۶۰ / ۶۱۲۶۲) .
۱ ۳۹۳		* کمال الدین اسمعیل : بن جمال الدین عبدالرزاق ، اصفہان کا ایک فارسی شاعر (م ۵۶۳۵ / ۶۱۲۳۷) .
۲ ۳۹۴		⊗ کمال الدین پارسی : فارس کا مشہور فلسفی عالم ، مصنف تنقیح المناظر (م ۵۷۲۰ / ۶۱۳۲۰) .
۱ ۳۹۷		* کمال رئیس : سلطان بایزید ثانی کے عہد حکومت کا ایک ترک بحری چہاپہ مار اور قیودان .
۱ ۳۹۸		* کمال محمد لامق : (۵۱۲۵۶ / ۶۱۸۳۰ تا ۵۱۳۰۶ / ۶۱۸۸۸) ، ترکی کا نامور شاعر ، صاحب طرز انشا پرداز اور مصنف ، جدید ترکی نثر کا بانی اور عصر حاضر کا ایک ممتاز محب وطن .
۲ ۴۰۷		* کمان کش : علی پاشا ، ایک عثمانی صدر اعظم (از ۵۱۰۳۲ تا ۵۱۰۳۳ / ۶۱۶۲۳) .
۱ ۴۰۹		⊗ * کمبایت (کھمبایت) : بھارت کے صوبہ گجرات کی ایک سابقہ ریاست .
۲ ۴۰۹		* کمبرہ جی : رگ بہ خمبرہ جی .
۲ ۴۰۹		* الکمیت : (۵۶۰ / ۶۶۷۹ تا ۵۱۲۶ / ۶۷۳۳) ، بنو سعد بن ثعابہ کا عرب شاعر اور صاحب الهاشمیات .
۲ ۴۱۱		* کنالہ : زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ کا ایک بڑا قبیلہ .
۱ ۴۱۳		⊗ کنجاہ : پنجاب (پاکستان) کے ضلع گجرات کا ایک مردم خیز قصبہ .
۲ ۴۱۵		* کندوری : (کندورہ) ، دسترخوان وغیرہ کے معنوں میں ایک کثیر الاستعمال لفظ .
۲ ۴۱۶		* کیندہ : (کندیہ الملوک) ، جنوبی عرب کا ایک قلیل التعداد قبیلہ .
۲ ۴۱۸		* الکندی : ابو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب (۵۲۸۳ / ۶۸۹۷ تا ۵۳۵ / ۹۶۱) ، مصر کا ایک مشہور عرب مؤرخ ، صاحب تسمیة ولاية مصر .
۱ ۴۲۰		* الکندی : ابو یوسف یعقوب بن اسحق ، المعروف بہ فیلسوف العرب ، ایک نامور عرب فلسفی اور عالم ، متعدد کتابوں کا شارح اور مصنف (حیات ۵۲۵۷ / ۶۸۷۰) .
۲ ۴۲۲		* الکندی : عبدالمسیح بن اسحق ، عیسائیت کی حمایت میں ایک عربی تصنیف رسالہ الی عبد اللہ بن اسمعیل الهاشمی کے مصنف کا فرضی نام .
۲ ۴۲۳		* کنعان : تاریخ قدیم کے تین افراد کا نام : (۱) حضرت نوح کا بیٹا ؛ (۲) ان کا پوتا ؛ (۳) بابل کے مشہور بادشاہ نمرود کا باپ .
		* کنعان پاشا : (نیز صاری کنعان پاشا) ، سلطنت عثمانیہ کا ایک قیودان پاشا ، یعنی

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۴۲۳		امیر البحر (م ۱۶۵۹ء) .
۱ ۴۲۶		* کنفری : (کنقری، چنگری) ، آنا طولی کی ایک لوا (ضلع) اور اس کا صدر مقام .
۱ ۴۲۸		* کنکور ، کنکور ، کنکور : ایران کا ایک ضلع اور شہر .
۱ ۴۲۸		* کننور (کنانور) : کیرالا (بھارت) کے ضلع مالا بار میں ایک بندر گاہ .
۱ ۴۲۸		* کنیہ : بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے رکھا جانے والا نام .
۲ ۴۲۹		* کنیسہ : کنشت ، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہ .
۱ ۴۳۱		* کوٹھ : (کوٹھ) ، صوبہ بلوچستان (پاکستان) کا صدر مقام ، نیز ایک ضلع .
۱ ۴۳۳		* کوئل : رک بہ علیگڑھ .
۱ ۴۳۳		* کوار : صحرائے اعظم میں نخلستان کا ایک مجموعہ .
۱ ۴۳۳		* کوپری : آنا طولی کی سنجاق امامیہ میں ایک قضا کا صدر مقام .
۲ ۴۳۳		* کوپری حصار : ایشیائے کوچک میں صوبہ خداوندگار کا ایک گاؤں .
		* کوپرلی : (کو پرولو) ، سلاطین آل عثمان کے وزرا کا ایک خاندان : (۱) کوپرلی محمد پاشا (۱۵۸۳ تا ۱۶۶۱ء) ، صدر اعظم یا ناظم سلطنت ؛ (۲) کوپرلی زادہ فاضل احمد پاشا (۱۶۳۵ تا ۱۶۷۶ء) : سابق الذکر کا بیٹا ، صدر اعظم ؛ (۳) کوپرلی زادہ مصطفی پاشا : (۱۶۳۷ تا ۱۶۹۱ء) ، محمد پاشا کا دوسرا بیٹا ، صدر اعظم ؛ (۴) کوپرلی زادہ حسین پاشا : محمد پاشا کا بھتیجا ، صدر اعظم (م ۱۱۱۳ھ/۱۷۰۲ء) ؛ (۵) کوپرلی زادہ نعمان پاشا : مصطفی پاشا کا بیٹا ، صدر اعظم (م ۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹ء) .
۱ ۴۳۵		* کوپک : ایران اور ماوراء النہر کا ایک سکہ .
۱ ۴۳۲		* کوتاہیہ : ایشیائے کوچک میں صوبہ خداوندگار کی ایک سنجاق کا صدر مقام .
۱ ۴۳۲		* کوت العمارۃ : العراق میں بغداد اور عمارہ کے درمیان واقع ایک مقام .
۱ ۴۳۳		* کوتل : پہاڑی درہ .
۱ ۴۳۳		* کوٹ مٹھن : پاکستان کی قسمت ڈیرہ غازیخان میں پنجند اور دریائے سندھ کے سنگم کے قریب واقع ایک قدیم قصبہ .
۱ ۴۳۳		* الکوثر : قرآن مجید کی ایک سو آٹھویں سورت .
۱ ۴۳۵		* کوٹی : عراق کا ایک قدیم قصبہ .
۱ ۴۳۷		* کوچک بیرام : رک بہ (۱) عید الفطر ؛ (۲) بیرام .
۱ ۴۳۸		* کوچک قینارجہ : گرم بانی کا چھوٹا چشمہ .
۱ ۴۳۸		* کوچک (میرزا) وصال : محمد شفیع ، ایک ایرانی شاعر (م ۱۲۶۲ھ/۱۸۴۶ء) .
۱ ۴۳۸		* کوچم خان : سائبیریا کا ایک تاتاری خان (۱۵۹۳ - ۱۵۹۵ء) .
۲ ۴۳۸		* گورانی : (نیز گورانی) ، شمس الدین احمد بن اسمعیل ملا ، استانبول کے شیخ الاسلام ،

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۳۴۹	نامور فقیہ اور مصنف (م ۵۸۹۳/۴۱۳۸۸)۔	
۲ ۳۵۰	* کُورِ اوغلو : ترکی زبان کی ایک مقبول عام رومانی داستان کا ہیرو ۔	
۱ ۳۵۱	* کوردفان : مصری سودان کا ایک صوبہ ۔	
۲ ۳۵۱	* کوڑا : اتر پردیش (بھارت) ایک قدیم قصبہ ۔	
۱ ۳۵۲	* کوزہ گری : رک بہ فن ۔	
	* کوسم والدہ : ماہ پیکر ، عثمانی سلطان احمد الاول کی بیوی اور سلطان مراد چہارم اور سلطان ابراہیم اول کی والدہ ، متعدد اداروں کی بانی اور ایک شریف النفس و مقبول عوام خاتون (م ۵۱۰۶۱/۴۱۶۵۱)۔	
۱ ۳۵۲	* کوسہ میخال : ایک نو مسلم عثمانی سپہ سالار (حیات ۵۲۶/۴۱۳۲۶)۔	
۱ ۳۵۳	* کوشک : باغ میں بنا ہوا بنگلہ ، خلفا کا دیہاتی محل ۔	
۲ ۳۵۳	* کوٹہ : رک بہ کوٹہ ۔	
۱ ۳۵۳	* الکوفہ : عراق کا ایک قدیم تاریخی شہر ۔	
۱ ۳۵۳	* کوفیہ : بادیۃ شام میں سر پر باندھنے کا ریشمی رومال ۔	
۲ ۳۵۸	* کوکب : منور جرم فلکی ، ستارہ ، علم ہیئت کی ایک اصطلاح ۔	
۱ ۳۵۹	* گوکبان : جنوبی عرب میں چند مقامات کا نام : (۱) ایک عبادت گاہ ؛ (۲) ظفار کے قریب ایک قلعہ ؛ (۳) وادی سلامہ کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا گاؤں ؛ (۴) صنعا کے شمال مغرب میں ایک صوبے کا صدر مقام ؛ (۵) علاقہ طویلہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ۔	
	* گوکبری : (کوکبوری) ، ابو سعید مظفر الدین بن علی بن بکتگین (۵۳۹/۴۱۱۵۳ تا ۶۳۰/۴۱۲۳۳) ، فرمانرواے اربل ، خاندان بکتگین کا سب سے مشہور بادشاہ (از ۵۸۶/۴۱۱۹)۔	
۱ ۳۶۱	* کوکہ : بورنو (رک بان) کا صدر مقام ۔	
۲ ۳۶۲	* کوکچہ : رک بہ بدخشان ۔	
۲ ۳۶۲	* کوکلتاش : خان جہان میرزا عزیز کوکلتاش ، اکبر اعظم کا رضاعی بھائی اور ممتاز منصب دار (م ۳۳/۵۱۰۳۳/۴۱۶۲۶)۔	
۲ ۳۶۲	* کولوم بشار : ضلع صحراء کا ایک بڑا اور جدید شہر ۔	
۱ ۳۶۶	* کوسوک : (قوموق) ، داغستان کے شمالی حصے میں آباد ایک ترک قبیلہ ۔	
۱ ۳۶۷	* کوسیہ : ازمنہ وسطی میں الموحدون کا حامی ایک اہم قبیلہ ۔	
	* کونگ : (کپون) ، ساحل عاج (Ivory Coast) کی موجودہ فرانسیسی نو آبادی کے شمال میں ایک سرحدی مقام ۔	
۲ ۳۶۷	* کورت : (التکویر) ، قرآن مجید کی اکیاسویں سورہ ۔	
۱ ۳۶۸		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۷۰		* کوھاٹ : پاکستان کے صوبہ سوحد کا ایک ضلع ، اس کا صدر مقام اور چھاؤنی ۔ * کوہ بابا : (کوہ بیک ، کوہ مالک سیاہ ، کوہ سفید ، کوہ سیاہ ، کوہ تافتان) کوہ ہندوکش
۲ ۳۷۱		کا عظیم مغربی سلسلہ اور افغانستان کا سب سے بڑا کوہستانی نظام ۔ * کوہ مکی : مشرقی ممالک کے سب سے بڑے گورستان کی وجہ سے معروف ، پاکستان کے علاقہ سندھ میں واقع پہاڑوں کی ایک شاخ ۔
۱ ۳۷۲		* کوہ نور : ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت رکھنے والا ہیرا ۔
۱ ۳۷۶		* کوئی : مغربی ترکی میں بمعنی گاؤں ، متعدد مقامات کے ناموں میں مستعمل لفظ ۔
۱ ۳۷۹		* الکویت : جزیرہ نماے عرب کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ایک آزاد و خود مختار ریاست ۔
۱ ۳۷۹		* کہالی : (افسانہ ، مختصر افسانہ) ، رگ بہ (۱) حکایت : (۲) حدیث : (۳) روایت : (۴) سر : (۵) قصہ [نیز (۶) اردو : (۷) عربی : (۸) فارسی وغیرہ] ۔
۱ ۳۸۶		* کہربا : (گاہ ربا : Amber) ، تنکوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ایک شے ۔
۱ ۳۸۶		* الکہف : قرآن مجید کی اٹھارھویں سورہ ۔
۱ ۳۸۷		* الکہان : (واحد : کاہن) ، دور جاہلیت کے عرب میں غیب دانی کا دعویٰ اور پیشگوئیاں کرنے والے پشہ ور لوگ ۔
۱ ۳۹۰		* کیا : (کیا یا) ، رک بہ کتخدا ۔
۱ ۳۹۵		* کیخسرو : ایران کا ایک اساطیری کیانی بادشاہ ۔
۱ ۳۹۵		* کیخسرو : ایشیائے کوچک کے تین سلجوقی فرمانروا : (۱) کیخسرو اول : غیاث الدین بن قلیچ ارسلان ، اپنے باپ کی جگہ ایشیائے کوچک کا حکمران (از ۵۸۸/۶۱۹۲ تا ۵۹۲/۶۱۹۶ و از ۶۰۰/۱۲۰۳ تا ۶۰۷/۵۶۰ تا ۶۱۲/۶۱۲۱) ؛ (۲) کیخسرو دوم : غیاث الدین و الدین بن کیقباد (از ۶۳۳/۶۳۳ تا ۶۳۳/۶۳۳) ؛ (۳) کیخسرو سوم : غیاث الدین بن رکن الدین قلیچ ارسلان (از ۶۶۶/۶۶۶ تا ۶۸۲/۶۸۲) ۔
۱ ۳۹۶		* کیسان : ابو عمر ، المختار الثقفی کا ایک مقرب اور محکمہ پولیس کا سربراہ (م ۶۷۷/۶۸۶) ۔
۲ ۳۹۹		* کیسانیہ : ابتداء کیسان کی زیر قیادت شیعہ گروہ ، بعد ازاں مختار کے عقائد و افکار کا حامل اور محمد بن الحنفیہ کو حضرت علیؑ کا بلا واسطہ جانشین امام مانتے والا شیعہ فرقہ ۔
۱ ۵۰۰		* کیقباد : ایران کا ایک اساطیری کیانی بادشاہ ۔
۱ ۵۰۲		* کیقباد : ایشیائے کوچک کے تین سلجوقی فرمانروا : (۱) کیقباد اول : علاء الدین و الدین ابو الفتح کیقباد بن کیخسرو ، اپنے بھائی کیکاؤس کا جانشین (از ۶۱۶/۶۱۶) ۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۵۰۳	(۲) کیقباد دوم : علاء الدین بن کیخسرو ،	۱۲۱۹ء تا ۱۲۳۷ء/۵۶۳۳ء : (۲) کیقباد دوم : علاء الدین بن کیخسرو ،
۲ ۵۰۷	انہی دو بھائیوں کی کاؤس اور قلیچ ارسلان کے ساتھ مل کر ایشیائے کوچک کا حکمران (م ۵۶۵۵) : (۳) کیقباد سوم : علاء الدین کیقباد بن فرامرز بن کی کاؤس (از ۱۲۹۸ء/۵۶۹۷ء تا ۱۳۱۷ء/۵۷۱۷ء) .	* کی کاؤس : ایران کا ایک اسطیری کیانی بادشاہ .
۲ ۵۰۸	انہی دو بھائیوں کی کاؤس اور قلیچ ارسلان کے ساتھ مل کر ایشیائے کوچک کا حکمران (م ۵۶۵۵) : (۳) کیقباد سوم : علاء الدین کیقباد بن فرامرز بن کی کاؤس (از ۱۲۹۸ء/۵۶۹۷ء تا ۱۳۱۷ء/۵۷۱۷ء) .	* کی کاؤس : ایشیائے کوچک کے دو سلجوقی فرمانروا : (۱) کی کاؤس اول : السلطان الغالب عز الدنیا و الدین کی کاؤس بن کیخسرو اول (از ۱۲۰۶ء/۵۶۰۶ء تا ۱۲۱۹ء/۵۶۱۹ء) : (۲) کی کاؤس دوم : عز الدنیا و الدین کی کاؤس بن کیخسرو دوم (از ۱۲۳۳ء/۵۶۴۳ء تا ۱۲۷۹ء/۵۶۷۹ء - ۱۲۸۰ء/۵۶۸۰ء) .
۱ ۵۱۲	انہی دو بھائیوں کی کاؤس اور قلیچ ارسلان کے ساتھ مل کر ایشیائے کوچک کا حکمران (م ۵۶۵۵) : (۳) کیقباد سوم : علاء الدین کیقباد بن فرامرز بن کی کاؤس (از ۱۲۹۸ء/۵۶۹۷ء تا ۱۳۱۷ء/۵۷۱۷ء) .	* کی کاؤس : بن سکندر بن قابوس بن وشمگیر ، عنصر المعالی ، والی جرجان و طبرستان (از ۱۰۳۹ء/۵۳۳۱ء تا ۱۰۶۹ء/۵۳۶۲ء) .
۲ ۵۱۳	انہی دو بھائیوں کی کاؤس اور قلیچ ارسلان کے ساتھ مل کر ایشیائے کوچک کا حکمران (م ۵۶۵۵) : (۳) کیقباد سوم : علاء الدین کیقباد بن فرامرز بن کی کاؤس (از ۱۲۹۸ء/۵۶۹۷ء تا ۱۳۱۷ء/۵۷۱۷ء) .	* کیل : پیمائش کے لیے سب سے عام اصطلاح .
۱ ۵۱۳	انہی دو بھائیوں کی کاؤس اور قلیچ ارسلان کے ساتھ مل کر ایشیائے کوچک کا حکمران (م ۵۶۵۵) : (۳) کیقباد سوم : علاء الدین کیقباد بن فرامرز بن کی کاؤس (از ۱۲۹۸ء/۵۶۹۷ء تا ۱۳۱۷ء/۵۷۱۷ء) .	* کیلجہ : وزن کا ایک پیمانہ .
۲ ۵۱۳	انہی دو بھائیوں کی کاؤس اور قلیچ ارسلان کے ساتھ مل کر ایشیائے کوچک کا حکمران (م ۵۶۵۵) : (۳) کیقباد سوم : علاء الدین کیقباد بن فرامرز بن کی کاؤس (از ۱۲۹۸ء/۵۶۹۷ء تا ۱۳۱۷ء/۵۷۱۷ء) .	* کیمیا : رگ بہ علم (الکیمیا) .
۲ ۵۱۳	انہی دو بھائیوں کی کاؤس اور قلیچ ارسلان کے ساتھ مل کر ایشیائے کوچک کا حکمران (م ۵۶۵۵) : (۳) کیقباد سوم : علاء الدین کیقباد بن فرامرز بن کی کاؤس (از ۱۲۹۸ء/۵۶۹۷ء تا ۱۳۱۷ء/۵۷۱۷ء) .	* الکیمیا : رگ بہ علم (کیمیا) .
۲ ۵۱۳	انہی دو بھائیوں کی کاؤس اور قلیچ ارسلان کے ساتھ مل کر ایشیائے کوچک کا حکمران (م ۵۶۵۵) : (۳) کیقباد سوم : علاء الدین کیقباد بن فرامرز بن کی کاؤس (از ۱۲۹۸ء/۵۶۹۷ء تا ۱۳۱۷ء/۵۷۱۷ء) .	* الکیال : احمد الکیال الخصیبی ، تیسری صدی ہجری کا ایک فلمنی .

گ

۱ ۵۱۵	گ : فارسی زبان کا چھبیسواں ، اردو کا چالیسواں اور ہندی کا تیسرا حرف .	* گ : فارسی زبان کا چھبیسواں ، اردو کا چالیسواں اور ہندی کا تیسرا حرف .
۱ ۵۱۶	گابون : (Gabon) ، افریقہ کا ایک ملک .	* گابون : (Gabon) ، افریقہ کا ایک ملک .
۱ ۵۱۷	گارڈا فولی : (Guardafui) ، راس عسیر ، افریقہ کی انتہائی مشرقی راس .	* گارڈا فولی : (Guardafui) ، راس عسیر ، افریقہ کی انتہائی مشرقی راس .
۲ ۵۱۷	گاریف : (گاریف ، اگریف) ، مشرقی مراکش کا ایک قصبہ .	* گاریف : (گاریف ، اگریف) ، مشرقی مراکش کا ایک قصبہ .
۲ ۵۱۸	گازرون : رگ بہ کازرون .	* گازرون : رگ بہ کازرون .
۲ ۵۱۸	گازوز : (Gagauzes) ، نسل ترک ، مذہباً مسیحی ، خالص ترکی زبان بولنے والی ایک قوم .	* گازوز : (Gagauzes) ، نسل ترک ، مذہباً مسیحی ، خالص ترکی زبان بولنے والی ایک قوم .
۱ ۵۱۹	گاور : (G. Aur) ؛ رگ بہ گیر .	* گاور : (G. Aur) ؛ رگ بہ گیر .
۲ ۵۱۹	گاور طاغی : (جبل برکت) ، کوہ امانوس کے شمالی حصے کا نام .	* گاور طاغی : (جبل برکت) ، کوہ امانوس کے شمالی حصے کا نام .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۵۱۹		* گایوس : آچے [رگ بان] میں آباد ایک قبیلہ .
		⊗ گیب : E.J.W. Gibb (۱۸۵۷ء تا ۱۹۰۱ء) ، سکاٹ لینڈ کا ایک معروف مستشرق اور مصنف <i>A History of Ottoman Poetry</i> وغیرہ .
۲ ۵۱۹		* گیب (معلمین) : Sir A.R.H. Gibb (۱۸۹۶ء تا ۱۹۷۵ء) ، عربی زبان و ادب کی نمایاں خدمات انجام دینے والا انگلستان کا ایک نامور مستشرق .
۱ ۵۲۰		* گبر : آتش پرستوں کے لیے فارسی زبان و ادب کی ایک تحقیر آمیز اصطلاح .
۲ ۵۲۱		* گین : (Gabnoper) ، آرمینیا میں ایک پہاڑی قلعہ .
		⊗ گین : Edward Gibbon (۱۷۳۷ء تا ۱۷۹۴ء) ، مشہور برطانوی مؤرخ ، مستشرق اور مصنف <i>The History of Decline and Fall of the Roman Empire</i> کا نامور مصنف .
۲ ۵۲۱		*⊗ گجرات : پنجاب (پاکستان) کا ایک ضلع اور مشہور صنعتی شہر .
۱ ۵۲۲		*⊗ گجرات : بھارت کا ایک صوبہ .
۱ ۵۲۳		* گجراتی : مغربی ہندوستان کے متعدد صوبوں ، گجرات ، کاتھیواڑ اور کچھ میں بولی جانے والی ایک انڈو آریائی مقامی زبان .
۲ ۵۲۸		⊗ گجرالوالہ : رگ بہ گوجرانوالہ .
۲ ۵۳۰		* گدالہ : صحرائین صہاجہ سے متعلق ایک مختصر ہریر قبیلہ .
		⊗ گراسی : شیخ غلام قادر (نواح ۱۸۵۷ء تا ۱۹۲۷ء) ، برصغیر پاکستان و ہند میں آخری دور کے ممتاز ترین فارسی شاعر .
۱ ۵۳۲		* گرای : تین صدیوں (نویں سے بارہویں صدی ہجری/پندرہویں سے اٹھارہویں صدی عیسوی) تک جزیرہ نما قریم (کریعیا) پر حکومت کرنے والا ایک تاتاری خاندان .
۲ ۵۳۲		* گرج : رگ بہ کرج .
۱ ۵۳۳		* گرجستان : رگ بہ کرج .
۱ ۵۳۴		* گرجانی : قسمت ڈیرہ غازی خان (پاکستان) کا ایک بلوچ قبیلہ .
		* گردیزی : ابو سعید عبدالحی بن الضحاک بن محمود ، ایک ایرانی مؤرخ ، صاحب <i>زین الاخبار</i> (تصنیف ۵۳۳۱/۵۳۳۹ء تا ۵۳۳۳/۵۳۴۱ء) .
۱ ۵۳۴		* گرگا : بالائی مصر کا ایک صوبہ (مدیریہ) ، ضلع (مرکز) اور شہر .
۱ ۵۳۵		* گرگان : رگ بہ جرجان .
۲ ۵۳۵		* گوگانج : (جرجانیہ) ، شمالی خوارزم کا ایک شہر .
۲ ۵۳۵		* گرم سیر : فارس اور کرمان کا گرم ساحلی علاقہ .
۱ ۵۳۷		* گرمیان اوغلو : سلجوقی سلطنت کے زوال کے بعد کوتاہیہ اور اس کے نواحی علاقوں پر حکومت کرنے والا ترکمان خاندان : (۱) علی شہر (نواح ۵۷۰ء) ؛

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
	(۲) گرمیاں خان (از ۵۰۰ تا ۵۰۳) ؛ (۳) محمد (زمانہ نامعلوم) ؛	
	(۴) سلیمان شاہ (نواح ۵۰۹ تا ۵۰۷) ؛ (۵) یعقوب ثانی (۵۰۳ تا ۵۰۹ و	
۱	۵۳۷	۵۸۰ تا ۵۸۳) .
۲	۵۳۸	* گزولی : رگ بہ جزولی .
۲	۵۳۸	* گزہ : رگ بہ غزہ .
		*⊗ گکھڑ : پنجاب (پاکستان) کے اضلاع راولپنڈی ، اٹک ، جہلم ، اور شمال مغربی
		سرحدی صوبہ کے ضلع ہزارہ ، نیز ریاست جموں کشمیر میں آباد ایک معروف
۲	۵۳۸	قبیلہ .
۲	۵۵۱	*⊗ گل : گلاب یا عام پھول .
		* گل بابا : ترکوں کی متعدد جنگوں میں کفار کے خلاف جانبازی دکھانے والا ایک
۱	۵۵۳	ترک بکتاشی درویش اور ولی (م ۱۵۳۸/۱۵۳۱) .
۲	۵۵۳	* گلبدن بیگم : شہنشاہ بابر کی بیٹی اور ہمایوں نامہ کی مصنف (م ۱۶۰۳/۱۶۰۱) .
۱	۵۵۳	* گلبرگہ : رگ بہ احسن آباد ، گلبرگہ .
۱	۵۵۳	* گلپایگان : ایران کا ایک شہر .
		* گل خالہ : یا گل خانہ میدانی ، استانبول میں بحیرہ مارمورا کے کنارے واقع باغات کا
۲	۵۵۳	ایک حصہ .
		* الگدکی : (جلد کی) ، علی بن ایدیر بن علی ، علوم مخفی ، بالخصوص کیمیا گری کے
۱	۵۵۵	بارے میں متعدد کتابوں کا مصنف (م ۱۳۳۲/۱۳۳۲ یا ۱۳۶۱/۱۳۶۱) .
۱	۵۵۵	* گلد : (Guild) ، رگ بہ صنف .
۱	۵۵۵	*⊗ گلزار عبدالعلی : (حافظ جھنڈا) پنجابی زبان کا ایک قدیم صاحب دیوان شاعر .
		* گلستان : ایران کے شہرہ آفاق شاعر شیخ سعدی شیرازی کی مخلوط نظم و نثر میں
۲	۵۵۵	ایک مشہور و معروف اخلاقی کتاب .
۱	۵۵۶	* گلستان : قفقاز کا ایک تاریخی مقام .
۲	۵۵۶	* گلشنی : سلطان محمد ثانی کا ہم عصر ترکی شاعر .
		* گلشنی : شیخ ابراہیم ، خلوتی سلسلے کے مشہور صوفی اور مثنوی مولانا روم کے
۲	۵۵۶	جواب میں ایک فارسی مثنوی کے مصنف (م ۱۵۳۳ - ۱۵۳۳) .
		* گلگت : پاکستان کے شمالی علاقوں میں براہ راست مرکزی حکومت کے زیر انتظام
۱	۵۵۷	ایک ایجنسی .
۱	۵۵۸	* گمرون : (گومرون) ، خلیج فارس کے کنارے ایک بندرگاہ .
۲	۵۵۸	* گناہ : (جناح) ، رگ بہ سینہ .
۲	۵۵۸	* گنج شکر : رگ بہ فرید الدین گنج شکر .

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۲ ۵۵۸		⊗ گنج العلوم عین الدین : رک بہ عین الدین . * گنجہ : (جنزہ ، جلیساوت ہول) ، آذربيجان کے علاقے میں ایک قدیم شہر (آج کل کھنڈر) .
۲ ۵۵۸		* گندو : مغربی سودان میں فلبہ لوگوں کی سلطنت ؛ رک بہ پل .
۱ ۵۵۹		* گندھارا : رک بہ قندھار .
۱ ۵۵۹		* گنڈا پور : ضلع ڈیرہ اسماعیل خان (پاکستان) میں آباد افغان قبیلہ .
۳ ۵۵۹		* گنگا : بالائی ہند کا سب سے بڑا اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایک مقدس دریا .
۲ ۵۵۰		* گنی : (Guinea) ، مغربی افریقہ کے ساحل پر ایک ملک .
۱ ۵۶۱		* گو : (Gao) ، رک گوگو .
۱ ۵۶۱		* گواد : (Guad) ، گوادی ؛ رک بہ (۱) واد ؛ (۲) وادی .
۱ ۵۶۱		* گوالیار : سابقاً ایک ہندو ریاست ، آجکل مدھیہ پردیش (بھارت) کا ایک حصہ .
۲ ۵۶۲		⊗ * گوجر : (گجر ، گجر) ، شمالی برعظیم پاک و ہند میں آباد ایک قوم .
۲ ۵۶۵		⊗ * گوجرانوالہ : صوبہ پنجاب (پاکستان) کی ایک قسمت اور اہم صنعتی شہر .
۳ ۵۶۶		* گور خان : قرہ ختائی (رک باں) کے فرمانرواؤں کا ایک لقب .
۱ ۵۶۷		* گور دوس : آنا طولی کی ولایت آیدین میں اسی نام کی قضا کا صدر مقام .
۱ ۵۶۷		* گور گالی : فخر الدین اسعد گورگانی ، دربار شاہی سے تعلق رکھنے والی پہلی عشقیہ مثنوی ویس و رامین (تصنیف ۷۳۳ھ/۱۳۳۱ء) کا مصنف .
۲ ۵۶۹		* گوڑ : برصغیر پاک و ہند کے صوبہ بنگال کا پرانا پائے تخت .
۱ ۵۷۰		* گوک الب ضیاء : محمد ضیا (۱۸۷۵ یا ۱۸۷۶ تا ۱۹۲۹ء) ، ایک نامور ترک مفکر ، مضمون نویس ، آزاد خیال اور انقلاب پسند مصنف .
۱ ۵۷۳		* گوک تپہ : ایک ترکمانی قلعہ .
۲ ۵۷۳		* گوگجای : روسی آرمینیا میں میٹھے پانی کی جھیل .
۱ ۵۷۳		* گوکسون : (قدیم ککسس) ، اناطولی کا ایک گاؤں .
۱ ۵۷۳		* گوک صو : ترکوں کے ہاں متعدد دریاؤں کا نام ، مثلاً دریائے سلفکہ یا ارمنک صو .
۱ ۵۷۳		* گوکلان : ایک ترکمانی قبیلہ .
۲ ۵۷۳		* گوگو : سودان کا ایک شہر .
۱ ۵۷۶		* گول : ایشیائی ترکیب کے دو تاجیوں کا نام .
۱ ۵۷۶		* گولتہ : تونس کی ایک بندر گاہ ؛ رک بہ تونس .
۱ ۵۷۶		⊗ گولت سیہر : Ignaz Goldziher ، (۱۸۵۰ تا ۱۹۲۱ء) ، علوم اسلامیہ ، بالخصوص علم حدیث و تفسیر کا عالم ، ہنگری کا نامور یہودی مستشرق ،
۱ ۵۷۷		* گولڈن ہورڈ : (Golden Horde) ، رک بہ قبحاق مغول .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۵۷۷		⊗ گولڑوی : مہر علی ، پیر ؛ رگ بہ گولڑہ شریف .
۱ ۵۷۷		⊗ گولڑہ شریف : راولپنڈی (پاکستان) سے گیارہ میل کے فاصلے پر ایک قصبہ .
۱ ۵۷۹		* گولک بوغاز : درہ Pylae Ciliciae کا ترکی نام ؛ درب السلامتہ .
۱ ۵۷۹		* گولکنڈہ : برعظیم پاک و ہند کی قدیم مسلم سلطنت تلنگانہ کا صدر مقام اور قلعہ .
۱ ۵۸۰		* گوم : (قوم) ، شمالی افریقہ کے عرب علاقوں میں مسلح سوار دستے وغیرہ .
۱ ۵۸۰		* گوش خالہ : آنا طولی کی ولایت طرابزون میں ایک سنجاق کا صدر مقام .
۱ ۵۸۱		* گوہل : پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک درہ ، نیز ایک دریا .
۲ ۵۸۱		⊗ گوہر شاد آغا (بیگم) : میرزا شاہرخ کی مدبر بیگم (م ۵۸۶۱/۷۱۳۵ء) .
۱ ۵۸۳		* گھیبیا : شمالی پنجاب (پاکستان) میں آباد ایک مسلمان راجپوت قبیلہ .
۲ ۵۸۳		* گیخاتو : ایران کا ایک ایلخانی حکمران (از ۵۶۹۰/۷۱۲۹۱ء تا ۵۶۹۳/۷۱۶۹۵ء) .
۲ ۵۸۵		* گیزہ : (جیزہ) ، مصر کا ایک شہر .
		⊗ گیسو دراز : سید محمد حسین گیسو دراز چشتی (۵۷۲۱/۷۱۳۲۱ء تا ۵۸۲۵/۷۱۳۲۲ء) ،
۲ ۵۸۵		سلسلہ چشتیہ کے مشہور ولی اللہ اور متعدد کتابوں کے مصنف .
۱ ۵۸۸		* گیگا : (کیفہ ، گیفہ) ، ایک البانوی قبیلہ ؛ رگ بہ آرسوولق .
۱ ۵۸۸		* گیلان : ایران کا ایک صوبہ .

ل

۱ ۵۹۱		⊗ ل : عربی حروف تہجی کا تیئیسواں ، فارسی کا ستائیسواں اور اردو کا بیالیسواں حرف .
۲ ۵۹۲		⊗ اللات : زمانہ جاہلیت میں طائف کے بت خانے میں نصب عربوں کا ایک بت .
۱ ۵۹۳		* لاذقیہ : شمالی شام کی ایک بندرگاہ اور ترقی پذیر شہر .
۲ ۵۹۸		* لاذیق : (لاذیق) ایشیائے کوچک میں چند قصبے .
		* لار : (۱) فارس کے جنوب مشرق میں بلوک لارستان کا صدر مقام ؛ (۲) جزیرہ
۲ ۵۹۹		ابو شعیب ؛ (۳) ماژ ندران کی ایک مرتفع وادی .
۳ ۶۰۱		* لارہ : شمالی اندلس میں اسی نام کے صوبے کا صدر مقام .
۱ ۶۰۲		* لارندہ : ایشیائے کوچک کا ایک شہر .
۲ ۶۰۳		* لاری : (لرن) ، سولہویں صدی میں خلیج فارس اور بحر ہند میں رائج طلائی سکہ .
۱ ۶۰۴		* لاز : بحیرہ اسود کے سواحل پر آباد جنوبی قفقاز کی ایک قوم .

- ⊗ لازار (لعزور): حضرت عیسیٰؑ کے ہاتھ پر دوبارہ زندہ ہونے والے شخص کا افسانوی نام .
- ۲ ۶۰۵
- * لالہ زالی: رگ بہ محمد لالہ زاری .
- ۱ ۶۰۷
- ⊗ لام: رگ بہ ل .
- ۱ ۶۰۷
- * لام، بنو: دریاے دجلہ کے زبیریں حصے میں آباد ایک خالہ بدوش عرب قبیلہ .
- ۱ ۶۰۷
- * لامس صو: ولایت کیلیکیا کی ایک ندی .
- ۱ ۶۰۸
- * لامعی: شیخ محمود بن عثمان بن علی النقاش، سلطان سلیمان اول کے ابتدائی عہد کا مشہور صوفی اور ترکی شاعر و مصنف (م ۱۵۳۲/۵۹۳۸ یا ۱۵۳۳/۵۹۴۰) .
- ۱ ۶۰۹
- ⊗ اللان: قفقاز میں بسنے والی ایک قدیم قوم .
- ۱ ۶۱۱



جلد ۱۸

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱	۱	⊗ لاہور : پاکستان کا ایک قدیم تاریخی شہر اور علمی و ثقافتی مرکز ، صوبہ پنجاب کا دارالحکومت اور قسمت و خلع لاہور کا صدر مقام .
۲	۶۲	* لاہیجان : ایران کے صوبہ گیلان کا ایک شہر .
۱	۶۳	لائٹنر : Gottleib Wilhelm Leitner (۱۸۳۰ تا ۱۸۹۹ء) ، ایک ہنگروی مستشرق ، لسانیات ، آثار قدیمہ اور تعلیم کا ماہر اور پنجاب یونیورسٹی کا ایک بانی .
۲	۶۶	⊗ لباس : پوشاک ، پہننے کے کپڑے .
۲	۷۵	* لہجے : جنوبی ہند کے مشرقی ساحل پر آباد مسلمان ، قدیم عرب مہاجرین کی اولاد .
۱	۷۶	* لیک : رک بہ تلبیہ .
۱	۷۶	* لبلہ : (نبیلہ) ، اندلس کے صوبہ ولبہ کا ایک شہر .
۲	۷۶	* لبنان : بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ایک عرب ملک .
۱	۸۱	* لہیدین ربیعۃ : ابو عقیل (م نواح ۵۳۰/۷۶۶ء) ، ایک نامور اور طویل العمر عرب شاعر .
۱	۸۳	* لہائٹو : یونانی شہر ٹاپکٹاس کے نام کی اطالوی صورت .
۲	۸۳	* لثام : (لغام) ، چہرے کے زہریں حصے کو چھپانے کے لیے عرب بدووں میں مستعمل نقاب .
۲	۸۶	* لہج : جنوبی عرب کی ایک سلطنت .
۱	۸۸	* لہیان : عرب قبیلہ بنو ہذیل کی ایک شاخ .
۱	۹۰	* لہیہ : بحیرہ احمر کے ساحل عرب پر ایک بندرگاہ .
۱	۹۱	* لخم : (بنو) ، جزیرہ نما عرب کے شمالی علاقوں (شام ، فلسطین ، عراق) میں آباد ایک قدیم عرب قبیلہ ، الحیرہ کا شاہی خاندان .
۲	۹۲	* لُد : (تورات میں لود) ، فلسطین میں یافا کے جنوب مشرق میں ایک شہر .
۲	۹۳	* لدھیالہ : بھارتی پنجاب میں ایک ضلع اور شہر .
۱	۹۳	* لُر : (فارسی میں لور) ، ایک ایرانی قوم ، نیز لری زبان .
۱	۹۷	* لُر بزرگ : مشرقی اور جنوبی کردستان پر حکمران اتابک خاندان (از ۵۵۰/۱۱۵۵ء تا ۵۸۲۷/۱۳۲۳ء) .
۱	۹۸	* لُورستان : (لورستان) ، ایران کے جنوب مغرب میں ایک علاقہ .
۲	۱۰۰	* لُر کوچک : شمالی اور مغربی لورستان پر حکمران اتابک خاندان (از ۵۸۰/۱۱۸۳ء تا ۵۱۱۸۳/۱۵۹۷ء) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۱۰۱		* لَیْزَن : دریائے تاجہ (Tagus) کے دہانے پر ایک شہر اور پرتگال کا دارالحکومت .
۱ ۱۰۲		* لِسَان الدِّین : رک بہ ابن الخطیب .
۱ ۱۰۲		⊗ لَطَائِف و حَقَائِق : تصوف کی دو اصطلاحات .
		⊗ لُطْف اللہ مہندس : برعظیم پاک و ہند میں عہد شاہجہانی و عالمگیری کا ایک
۲ ۱۰۳		حساب دان اور ماہر تعمیرات (م ۱۰۵۹/۱۶۳۹) .
۱ ۱۱۰		⊗ لُطْف علی بیگ آذر : رک بہ آذر .
		* لُطْف علی خان : شیراز (ایران) کے حکمران زند خاندان کے آخری رکن (از ۱۷۸۹ تا
۱ ۱۱۰		۱۷۹۷ء) .
		* لُطْفی ہاشا : حاجی ، ترکیہ کا ایک مدبر ، عالم ، مؤرخ اور صدر اعظم (م نواح ۱۷۹۰/
۱ ۱۱۱		۱۷۶۲ء) .
		⊗ لُطْفی مَنفَاوِطی : رک بہ مصطفیٰ لُطْفی المنفلوطی .
۲ ۱۱۳		* اَللُّطِيف : اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک ؛ رک بہ الاسماء الحسنیٰ .
۲ ۱۱۳		* لُطْفی : عبداللطیف چلبی قسطنطنیہ ، ایک عثمانی شاعر اور انشا پرداز ، مصنف تذکرہ شعرا
۲ ۱۱۳		(م ۱۵۸۲/۱۷۹۰ء) .
۲ ۱۱۵		* لِعَازِر : رک بہ لازار .
		⊗ لِعَان : ایک فقہی اصطلاح ، تنسیخ نکاح کی غرض سے میاں کا اپنی بیوی پر
۲ ۱۱۵		قسم کھا کر زنا کا الزام عائد کرنا اور بیوی کا قسم کھا کر انکار کرنا .
۱ ۱۲۱		* لَعَزَز : رک بہ لازار .
		⊗ لَعْل (لال) شہباز قلندر : عثمان (۱۱۷۷/۱۷۷۳ء تا ۱۲۷۳/۱۷۷۳ء) ، سندھ کے نامور
۲ ۱۲۱		ولی اور صاحب کشف و کرامات بزرگ .
		* لُغَات : رک بہ علم (اللغة) .
۲ ۱۲۳		⊗ لُغَوَات : (لغواط) ، رک بہ الاغواط .
۲ ۱۲۳		* لُقْطَه : کوئی ہائی ہوئی چیز ، ایک فقہی اصطلاح .
۲ ۱۲۳		⊗ لُقْمَن : قرآن مجید کی اکتیسویں سورہ .
۲ ۱۲۵		* لُقْمَان : حکمت اور دانائی میں ضرب المثل ایک برگزیدہ ہستی .
۲ ۱۲۸		* لَقِیْظ : رک بہ لقطہ .
۱ ۱۳۲		* لَک : ایران کے انتہائی جنوب میں آباد کردوں کا ایک گروہ .
۱ ۱۳۳		* لَکَادِیو : (لکادیپ) ، ساحل مالا ہار کے ہرے مونگے کے جزیروں کا ایک مجموعہ .
		*⊗ لَکھنؤ : لوہان اودھ کا ہاے تخت اور آجکل بھارت کے صوبہ اتر پردیش کا دارالحکومت
۲ ۱۳۳		اور ثقافتی مرکز .
۱ ۱۳۸		* لَکھنوی : رک بہ گوڑ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱	۱۳۸	⊗ لکیاری سادات : سندھ میں وارد ہونے والے سادات کا پہلا خانوادہ .
۲	۱۳۹	⊗ لہ عارفہ : (ولادت ۵۷۳۵/۵۱۳۳۵ء) ، کشمیر کی مشہور صوفی منش عارفہ اور شاعرہ (حیات ۵۷۸۱/۵۱۳۷۹ء) .
۱	۱۳۳	* لمتولہ : صنہاجہ لسل کا ایک اہم بربر قبیلہ .
۲	۱۳۳	* لمتطہ : ایرانی خاندان کا ایک بڑا بربر قبیلہ .
۱	۱۳۳	* لمغالات : مشرقی افغانستان کا ایک ضلع .
۱	۱۳۳	* لمنی : بحیرہ ایجٹین کے جزیرہ لمنوس کے نام کی ایک صورت .
۲	۰۳۳	* لنگران : صوبہ باکو میں اسی نام کے ضلع کا صدر مقام .
۱	۱۳۵	* لنگہ : خلیج فارس کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ .
۲	۱۳۵	* لواء : علم ، جھنڈا ؛ ترکیہ کی سرکاری اصطلاحات کے مطابق ایک انتظامی حلقہ .
۲	۱۳۵	* لواتہ : بربری خاندان ہتر کی ایک برادری .
۱	۱۳۶	* لوح : پھیلی ہوئی چوڑی لکڑی یا ہڈی ، لکڑی کا تختہ ، لکھنے کی تختی .
۱	۱۳۷	* لودی : (لودھی) ، افغانستان کے غلزئی قبیلے کی ایک شاخ ، دہلی کا ایک فرمانروا خاندان (۱۳۵۱ تا ۱۵۲۶ء) .
۱	۱۳۷	* لورقہ : (لرقہ) ، مشرقی الدلس کا ایک چھوٹا سا شہر .
۱	۱۳۸	* لوشہ : الدلس کا ایک چھوٹا سا شہر .
۲	۱۳۸	⊗ (حضرت) لوط : اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ، حضرت ابراہیم کے بھتیجے .
۱	۱۳۹	* لوط بن یحییٰ : رگ بہ ابو مخنف .
۲	۱۵۲	* لؤلؤ : (۱) حاکم حلب سیف الدولہ کا غلام اور بعد ازاں حلب کا خود مختار حکمران (از ۵۳۹۳/۵۱۰۰۳ تا ۵۳۹۹/۵۱۰۰۸ء) ؛ (۲) حلب کے سلجوقی سلطان کا خواجہ سرا اور معتمد علیہ مشیر اور بعد ازاں حلب کا حکمران (م ۵۵۱۰/۵۱۱۱۷ء) .
۲	۱۵۳	* لؤلؤ : بدر الدین ابو الفضائل الملک الرحیم بن عبداللہ الاتابکی ، الموصل کا اتابک اور حکمران (از ۵۶۱۹ / ۱۲۲۲ - ۵۶۲۳ / ۱۲۲۳ تا ۵۶۵۷ / ۱۲۵۹ء) .
۲	۱۵۳	* لؤلؤة : قیلیقیا میں طرسوس کے قریب ایک قلعہ .
۱	۱۵۵	* لولی : ایران کے خانہ بدوشوں کے لیے ایک نام .
۲	۱۵۵	* لومبوک : جاوا کے مشرق میں جزائر سنڈا (خرد) میں ترتیب کے لحاظ سے دوسرا جزیرہ .
۱	۱۶۰	* لولد : سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی صدیوں کی بے قاعدہ شہری سپاہ .
۱	۱۶۱	⊗ اللہب : قرآن مجید کی ایک سو گیارہویں سورہ .
۱	۱۶۲	⊗ لیاقت علی خان (لواہزادہ) : (۱۸۹۵ تا ۱۹۵۱ء) ، حصول پاکستان کی جدوجہد میں

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۱۶۳	قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست ، آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم (۱۹۴۷ تا ۱۹۵۱ء) .	
۲ ۱۸۳	لیبیا : شمالی افریقہ میں واقع ایک اہم اسلامی ملک .	⊗
۲ ۱۹۳	لیث : رگ بہ کناہ .	*
۱ ۱۹۳	اللیل : قرآن مجید کی بانویں مکی سورۃ .	⊗
۱ ۱۹۶	لیلة : رگ بہ (۱) البراءة ؛ (۲) لیلة القدر ؛ (۳) رمضان .	⊗
۱ ۱۹۶	لیلة القدر : رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات .	⊗
۱ ۲۰۰	لیلی الاخیلیة : پہلی صدی ہجری میں عرب کی ایک ممتاز شاعرہ اور شاعر توبہ بن حمیر الخناجی کی محبوبہ .	*
۶ ۲۰۰	لیلی خالم : ترکی کے قدیم طرز سخنورک کی سب سے اہم شاعرہ .	*
۲ ۲۰۱	لیلی و مجنون : رگ بہ مجنون .	*
۲ ۲۰۱	لین : Edward William Lane (۱۸۰۱ تا ۱۸۷۶ء) ، مشہور انگریز مستشرق ، مولف مدالقاموس و مترجم الف لیلة و لیلة .	⊗
۲ ۲۰۱	لین ، پول ، سٹینلی : Stanley Lane Pool (۱۸۵۳ تا ۱۹۳۱ء) ، مشہور انگریز مستشرق اور سوانح نگار .	⊗
۲ ۲۰۲	لیو افریقانس : Lee Africanus ، رگ بہ الحسن بن محمد الوزان .	⊗
۱ ۲۰۳	لیوان : (الایوان) ، مشرقی طرز کے مکانوں میں بڑا کمرہ .	*
۲ ۲۰۳	لیولہ کائناتی : رگ بہ کائناتی .	*

م

۱ ۲۰۵	م (میم) : عربی زبان کے حروف تہجی کا چوبیسواں ، فارسی کا اٹھائیسواں اور اردو کا چوالیسواں حرف .	⊗
۲ ۲۰۶	مآذہ : رگ بہ میثذہ .	⊗
۲ ۲۰۶	مآرب : یمن کا ایک شہر اور قدیم سبالی حکومت کا دارالسلطنت .	⊗
۱ ۲۳۱	المأمون : بنو ذی النون کے سب سے بڑے حکمران یحییٰ بن اسمعیل کا اعزازی لقب (از ۵۳۲۹/۱۰۳۸ء تا ۵۳۶۸/۱۰۷۵ء) .	*

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲ ۲۳۲	* المأمون : ابو العباس عبداللہ بن ہارون (ولادت ۵۱۷ / ۷۷۸ء) ، بنو عباس کا ممتاز ترین علم دوست خلیفہ (۵۱۳ / ۸۱۳ء تا ۵۳۱ / ۸۳۳ء) .	
۱ ۲۳۵	* المأمون : ابو العلاء ادریس بن یعقوب ، الموحدین کا نواں حکمران (از ۵۸۱ / ۱۱۸۵ - ۶۱۱ / ۱۱۸۶ء تا ۶۲۹ / ۱۲۳۲ء) .	
۱ ۲۳۶	* مأمونی : چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں بخارا کی ایک ریاست پر حکمران خاندان .	
۱ ۲۳۷	* ماہلا : (ماہلہ) ، رگ بہ موہلا .	
۱ ۲۳۷	⊗ الماتریدی : ابو منصور محمد بن محمد ، سنی علم الکلام کے ایک امام اور متعدد کتابوں کے مصنف (م ۵۳۳ء) .	
۱ ۲۳۹	⊗ ماجوج : رگ بہ یا جوج و ما جوج .	
۱ ۲۳۹	* مادہ : فلسفہ کی ایک اصطلاح ، بمعنی ہیولی .	
۱ ۲۵۶	⊗ مادیت : (۱) مغربی مفکرین کے ایک گروہ کا یہ تصور کہ جو کچھ موجود ہے مادہ ہے ؛ (۲) عملی : مادہ پرستی ، بالعموم ضد روحانیت ؛ (۳) ایک فکری تحریک .	
۲ ۳۰۶	⊗ مادھو لال حسین : پنجاب کے نامور ولی اور پنجابی زبان کے نامور شاعر (م نواح ۱۵۹۰ / ۱۹۹۹ء) .	
۱ ۳۱۲	* مادیت : رگ بہ (۱) مادہ ؛ (۲) مادیت .	
۱ ۳۱۲	⊗ ماذرا : (ماذرائیون) ، ماذرا یا مادرایا کی طرف منسوب ایک فارسی النسل خاندان .	
۲ ۳۱۲	* مارده : ہسپانیہ کے جنوب مغرب میں ایک شہر .	
۱ ۳۱۳	* ماردين : بالائی عراق (دیار ربیعہ) کا ایک شہر .	
۱ ۳۱۵	* المار دینی : تین مہندسوں کی نسبت : (۱) عبداللہ بن خلیل بن یوسف ، جامع مسجد امویہ دمشق کا مؤذن اور چند کتابوں کا مصنف (م نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی کا عشرہ اول) ؛ (۲) اسمعیل بن ابراہیم بن غازی معروف بہ ابن فلوس ، ساتویں صدی ہجری / تیرہویں صدی عیسوی کے نصف اول کا ایک عالم اور علم حساب کی چند کتابوں کا مصنف ؛ (۳) محمد بن محمد بن احمد سبط المار دینی (۵۸۲۶ / ۱۱۲۳ء تا اواخر نویں صدی ہجری) علم ہیئت اور جبرو مقابلہ پر چند کتابوں کا مصنف .	
۲ ۳۱۵	* مارستان : رگ بہ بیمارستان .	
۲ ۳۱۵	* مارکسزم : رگ بہ مزدکیت .	
۲ ۳۱۵	⊗ مارگلا : اسلام آباد (پاکستان) کے قریب واقع پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ؛ نیز ایک درہ .	
۲ ۳۱۵	⊗ مارگولیتھ : D.S. Margoliouth (۱۸۵۸ تا ۱۹۳۰ء) ، انگلستان کا مشہور فاضل لیکن	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۱۶		منعصب مستشرق .
۲ ۳۱۷		⊗ مارواڑ : صوبہ راجستھان (بھارت) میں شامل ایک سابق راجپوت ریاست .
۲ ۳۱۸		* ماروت : رگ بہ ہاروت و ماروت .
۲ ۳۱۸		* ماریا : اریتریا Eritrea کے مغربی منطقے میں ایک قبیلے کا نام .
		* ماریہ قبطیہ : حرم نبوی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے
۲ ۳۱۹		ابراہیمؑ کی والدہ .
۱ ۳۲۱		* مازن : متعدد عرب قبیلوں کا نام .
۱ ۳۲۳		* مازندران : بحیرہ خزر کے جنوب میں ایک صوبہ .
۱ ۳۲۹		* مازندران کے سکے : ساسانی بادشاہوں کے مازندران میں ضرب کردہ سکے .
۱ ۳۳۱		* مازیا : طبرستان کا آخری تارنی بادشاہ (۵۱۹ م / ۵۸۰ تا ۵۲۳ / ۵۸۳۹) .
۱ ۳۳۵		* ماسہ : سوس (سراکش) کا ایک چھوٹا سا بربر قبیلہ .
		* ماشاء اللہ : بن ائری یا ساریہ ، المنصور عباسی کے زمانے کا ایک مشہور و معروف منجم
۱ ۳۳۶		(م ۵۲۰ / ۵۸۱۵) .
۲ ۳۳۶		⊗ الماعون : قرآن مجید کی ایک سو ساتویں سورت .
		* ماکان بن کاکي : ابو منصور ، طبرستان کے عاوی حکمرانوں کا ایک فوجی سردار اور
۲ ۳۳۹		جرجان کا والی (م ۵۳۲۹ / ۵۹۴۰) .
۲ ۳۴۰		* ماگو : ایران کی ولایت آذر بیجان میں ایک خائیت (جا گیری ریاست) .
۱ ۳۴۲		⊗* مال : علم معاشیات کی ایک اصطلاح ، بمعنی کوئی ملوکہ یا مقبوضہ چیز .
۲ ۳۵۶		* الحال : رگ بہ (۱) مال ؛ (۲) علم (معاشیات) ؛ (۳) مالیات .
۲ ۳۵۶		* مال امیر : لرستان میں ایک کھنڈر اور ایک قدیم شہر .
۲ ۳۶۳		* مالا ہار : بھارت کے صوبہ کیرالا کا ساحلی ضلع .
		* مالٹا : بحیرہ روم میں مجمع الجزائر مالٹا کی برطانوی نو آبادی کا بڑا جزیرہ اور زبردست
۱ ۳۶۴		حفاظتی قلعہ .
		* مالٹے : (مالٹائی Malthai ، صحیح شکل معلثایا) ، موصل کی قدیم ولایت میں دوکانوں
۱ ۳۶۶		کا عربی نام .
۲ ۳۶۷		* مالده : شمال مغربی بنگال (بھارت) میں ایک ضلع .
۲ ۳۶۸		⊗* مالديو ، جزیرہ : بحر ہند میں سونگے کے بارہ جزائر کا ایک سلسلہ .
۱ ۳۷۰		* مالقہ : ہسپانیہ میں بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بڑا شہر .
۲ ۳۷۲		* مالک : رگ بہ اسماء الحسنی .
۲ ۳۷۲		* مالک : رگ بہ علم (معاشیات)
		⊗* مالک بن انس الاصمعی : (۹۳ تا ۵۱۷) ، فقیہ و امام حدیث ، مذہب مالکی کے بانی

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۷۲	اور الموطا کے جلیل القدر مصنف .	
۲ ۳۸۶	مالک بن عوف : صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہور جنگ آزما عرب سردار (حیات بوقت فتح دمشق : ۵۱۳/۶۳۵ء) .	* مالک بن عوف : صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہور جنگ آزما عرب سردار
۲ ۳۸۸	مالک بن نویرہ : بنو یربوع کا مشہور سخی اور بہادر سردار (م ۱۱ - ۵۱۲/۶۳۳ء) .	* مالک بن نویرہ : بنو یربوع کا مشہور سخی اور بہادر سردار (م ۱۱ - ۵۱۲/۶۳۳ء)
۲ ۳۹۱	مالک الطائی : ابوولید مالک بن ابی السّمح اموی اور ابتدائی عباسی عہد کا ایک بڑا مغنی اور شاعر .	* مالک الطائی : ابوولید مالک بن ابی السّمح اموی اور ابتدائی عباسی عہد کا ایک بڑا مغنی اور شاعر .
۱ ۳۹۲	مالکیہ : اہل سنت و الجماعت میں سے امام مالک بن انس الاصبغی کے مقلدین .	⊗ مالکیہ : اہل سنت و الجماعت میں سے امام مالک بن انس الاصبغی کے مقلدین .
۱ ۴۰۱	مالوہ : موجودہ مدھیہ پردیش (بھارت) میں واقع ایک سطح مرتفع اور قدیم ریاست .	⊗* مالوہ : موجودہ مدھیہ پردیش (بھارت) میں واقع ایک سطح مرتفع اور قدیم ریاست .
۲ ۴۰۳	مالی : (فرانسیسی سودان) ، وسطی افریقہ میں واقع ایک ملک .	⊗ مالی : (فرانسیسی سودان) ، وسطی افریقہ میں واقع ایک ملک .
۱ ۴۰۵	مالیات : ضوابط مال ؛ رگ بہ بیت المال .	⊗ مالیات : ضوابط مال ؛ رگ بہ بیت المال .
۱ ۴۰۵	المالیغ : رگ بہ قلجہ .	* المالغ : رگ بہ قلجہ .
۱ ۴۰۵	مالیہ : ایک مالیاتی اصطلاح ، زمینداروں پر عائد سرکاری محصول .	* مالیہ : ایک مالیاتی اصطلاح ، زمینداروں پر عائد سرکاری محصول .
۱ ۴۰۶	مالڈو : مدھیہ پردیش (بھارت) کے جنوب مغرب میں ایک تاریخی قلعہ اور قدیم ریاست مالوہ کا صدر مقام .	* مالڈو : مدھیہ پردیش (بھارت) کے جنوب مغرب میں ایک تاریخی قلعہ اور قدیم ریاست مالوہ کا صدر مقام .
۲ ۴۰۷	مالسپہرہ : شمال مغربی سرحدی صوبہ (پاکستان) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .	⊗ مالسپہرہ : شمال مغربی سرحدی صوبہ (پاکستان) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۲ ۴۰۸	المالغ : اللہ تعالیٰ کا ایک نام ؛ رگ بہ اللہ .	* المالغ : اللہ تعالیٰ کا ایک نام ؛ رگ بہ اللہ .
۲ ۴۰۸	مالغیر : (مانگر) ، ابتدائی عثمانی عہد میں ترکیہ کا ایک چاندی کا سکہ .	* مالغیر : (مانگر) ، ابتدائی عثمانی عہد میں ترکیہ کا ایک چاندی کا سکہ .
۱ ۴۰۹	مالی : (مینی) ، عثمانی ترکی میں رباعی کی شکل کے عوامی گانے .	* مالی : (مینی) ، عثمانی ترکی میں رباعی کی شکل کے عوامی گانے .
۲ ۴۰۹	مالی : رگ بہ زندیق .	* مالی : رگ بہ زندیق .
۲ ۴۱۰	ماء العینین : (الشنگیطی) ، موریتانیا کا ایک مشہور حریت پسند شیخ طریقت (م ۵۱۳۲۸/۶۱۹۱۰ء) .	* ماء العینین : (الشنگیطی) ، موریتانیا کا ایک مشہور حریت پسند شیخ طریقت (م ۵۱۳۲۸/۶۱۹۱۰ء)
۲ ۴۱۳	ماوراء النہر : دریائے آمو کے شمال میں واقع علاقے کا قدیم عربی نام .	* ماوراء النہر : دریائے آمو کے شمال میں واقع علاقے کا قدیم عربی نام .
۱ ۴۱۵	الماوردی : ابو الحسن علی بن محمد البصری البغدادی (۵۲۶م/۶۹۷ء تا ۵۳۵/۶۵۸ء) ، تفسیر و فقہ اور ادب و سیاست کا عالم اور متعدد کتابوں کا مصنف .	⊗ الماوردی : ابو الحسن علی بن محمد البصری البغدادی (۵۲۶م/۶۹۷ء تا ۵۳۵/۶۵۸ء) ، تفسیر و فقہ اور ادب و سیاست کا عالم اور متعدد کتابوں کا مصنف .
۱ ۴۱۹	ماہیت : ایک فقہی اصطلاح ، کسی امر یا شئی کی حقیقت ، نوعیت اور کیفیت .	⊗ ماہیت : ایک فقہی اصطلاح ، کسی امر یا شئی کی حقیقت ، نوعیت اور کیفیت .
۱ ۴۲۰	ماہیت وجود : رگ بہ ماہیت .	⊗ ماہیت وجود : رگ بہ ماہیت .
۱ ۴۲۰	المالدة : قرآن مجید کی پانچویں سورت .	⊗ المالدة : قرآن مجید کی پانچویں سورت .
۱ ۴۲۲	مباح : ایک علمی اصطلاح ؛ ایسا کام جس کا کرنا یا نہ کرنا اپنی مرضی پر منحصر ہو .	⊗ مباح : ایک علمی اصطلاح ؛ ایسا کام جس کا کرنا یا نہ کرنا اپنی مرضی پر منحصر ہو .
۱ ۴۲۳	مبارز الدین : رگ بہ مظفریہ (خانوادہ) .	* مبارز الدین : رگ بہ مظفریہ (خانوادہ) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۲۳		* المبارک بن محمد : رک بہ ابن الاثیر .
		⊗ مبارک شاہ : معز الدین ابو الفتح ، سلطنت دہلی کے خاندان سادات کا دوسرا بادشاہ (از ۵۱۳۲۱/۵۸۲۳ تا ۵۱۳۲۳/۵۸۲۷) .
۱ ۳۲۳		⊗ مبارک غازی : سندربن (بنگلہ دیش) کے علاقے کا ایک روایتی ولی .
۱ ۳۲۷		⊗ مبارک لاگوری ، شیخ : (۵۹۱۱/۱۵۰۵ تا ۱۵۹۳/۵۱۰۰) ہمایوں اور اکبر کے زمانے میں ایک بلند پایہ عالم اور فیضی و ابو الفضل کا والد .
۲ ۳۲۷		⊗ مہائلہ : دو مخالفوں کا باہم جمع ہو کر جھوٹے پر لعنت کرنا ؛ نیز قرآن مجید میں مذکور ایک واقعہ .
۲ ۳۲۲		⊗ مبتلا : مردان علی خان ، مرزا کاظم (ولادت ۱۱۳۰ یا ۱۱۳۱ھ ؛ حیات ۱۲۱۵ھ) ، اردو اور فارسی کا ایک شاعر اور ان زبانون کے شعرا کا تذکرہ نگار .
۱ ۳۳۹		* المبدع : رک بہ الاسماء الحسنی .
۱ ۳۳۰		* المبرد : ابو العباس محمد بن یزید (۵۲۱۰/۵۸۲۶ تا ۵۲۸۵/۵۸۹۸) ، شیخ اہل النحو و حافظ علم العربیہ ، مصنف الکامل وغیرہ .
۱ ۳۳۰		* المبرز : خلیج فارس پر ایک قلعہ .
۱ ۳۳۳		⊗ مبشر بن احمد : برہان الدین ابو الرشید (۵۳۰/۱۱۳۶ تا ۵۸۳/۱۱۸۷) ، حساب ، فرائض ، خواص الاعداد ، جبر و معادلہ ، ہندسہ اور ہیئت وغیرہ علوم میں یگانہ روزگار فاضل .
۱ ۳۳۳		* مبلغ : دین کی دعوت دہنے والا .
۲ ۳۳۳		* المبیضة : رک بہ المقنع .
۲ ۳۵۸		* متدارک : عربی عروض میں سولہویں بحر .
۲ ۳۵۸		⊗ مترادف : اصطلاح قافیہ : ہانچ حدود قافیہ میں سے ایک .
۱ ۳۶۱		⊗ متراکب : اصطلاح قافیہ ، ہانچ حدود قافیہ میں سے ایک .
۲ ۳۶۱		⊗ متصرف : عثمانی ترکوں کی ایک انتظامی اصطلاح ، صوبائی گورنر یا سنجاق کا ناظم .
۲ ۳۶۱		* المتعالی : رک بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی .
۱ ۳۶۲		*⊗ متعہ : عارضی ازدواج .
۱ ۳۶۶		* متعرب (یا متعربہ) : قحطان کی اولاد کے لیے مستعمل اصطلاح .
۲ ۳۶۶		⊗ المتعلم و المعلم : رک بہ (۱) تعلیم و تعلم ؛ (۲) علما (معلمین) .
۲ ۵۰۳		* متفرقہ : عثمانی سلاطین کا حفاظتی دستہ .
۲ ۵۰۳		* متقارب : عربی عروض میں پندرہویں بحر .
۲ ۵۰۳		* المتقی لله : ابو اسحق ابراہیم ، ایک عباسی خلیفہ (از ۹۳۹/۳۲۹ تا ۹۶۸/۳۵۷) .
۲ ۵۰۳		* المتقی الہندی : علی بن حسام الدین بن عبدالملک الشاذلی القادری ، نامور ہندی عالم و

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
	محدث اور کنز العمال وغیرہ متعدد عربی کتابوں کے مصنف (م ۸۹۷۵)	
۲ ۵۰۳		۴۱۵۶۷ .
۱ ۵۰۶		* مُتَكَاوِس : اصطلاح قافیہ اور ہانچ حدود قافیہ میں سے ایک .
۱ ۵۰۶		* الْمُنْكَبِر : رگ بہ الاسماء الحسنی .
۱ ۵۰۶		* مُتَكَلِّم : رگ بہ علم (کلام) .
۲ ۵۰۶		* مُتَمَّا : مشرقی سودان کا ایک شہر .
		* مَتمم بن لویره : اسلام کے ابتدائی عہد کا ایک شاعر ، مالک بن نویره [رک باں] کا بھائی اور اس کا مرثیہ گو (حیات ۵۲۴) .
۱ ۵۰۷		* مُتَن : ایک کثیر المعانی اصطلاح ، بمعنی اصل عبارت ، حدیث کے الفاظ وغیرہ .
۲ ۵۰۸		* الْمُتَنَبِّي : ابوالطیب احمد بن الحسین الجعفی (۳۰۳/۹۱۵ء تا ۳۵۳/۹۵۵ء) ، مشہور صاحب دیوان عرب شاعر اور مدعی نبوت (بعد ازاں مسلمان) .
۲ ۵۰۸		* مُتَوَاتِر : ایک اصطلاح : (۱) علم حدیث : جماعت کثیر کی روایت کردہ حدیث ؛ (۲) علم عروض : دو ساکن حروف کے درمیان متحرک حرف والا قافیہ .
۲ ۵۱۶		* مُتَوَالِي : اٹھارہویں صدی سے لبنان کے اٹنا عشری شیعویوں کا نام .
۲ ۵۱۷		* الْمُتَوَكِّل عَلٰی اللّٰهِ : ابو الفضل جعفر بن محمد ، ایک عباسی خلیفہ (از ۳۳۲/۸۴۷ء تا ۳۴۷/۸۶۱ء) .
۲ ۵۱۸		* مُتِي شَيْخ : رگ بہ شیخ متی .
۱ ۵۲۰		* الْمُتَيْن : رگ بہ الاسماء الحسنی .
۱ ۵۲۰		* مُتَهْرَا : اتر پردیش (بھارت) کا ایک ضلع اور شہر .
۲ ۵۲۱		* الْمُثَالِي : بارہا دہرائی جانے والی سورت ، یعنی سورۃ فاتحہ .
۲ ۵۲۳		* مُنْقَال : کسی چیز کا وزن ، لیز قیمتی دھاتوں کو تولنے کا ایک پیمانہ .
۱ ۵۲۳		* مُثَلِّ : ایک لسانیاتی اصطلاح ، بمعنی ضرب المثل ، کہاوت .
		* مُثَلَّث : ایک اصطلاح : (۱) علم عروض : تین تین مصرعوں کے بندوں پر مشتمل اشعار ؛ (۲) علم ہندسہ : تکون .
۲ ۵۳۰		* الْمُثَنِّي بن حارثہ : بن سلمہ ، ابتدائی اسلامی دور کے نامور فاتح اور سپہ سالار .
۲ ۵۳۱		* مُثَنَوِي : فارسی اور اردو شاعری کی ایک مشہور صنف .
۲ ۵۳۹		* الْمُجَادِلَة : قرآن مجید کی اٹھاونویں سورت .
		* مُجَاهِد بن عبداللہ : ابو الجیش العامری الموفق بالله ، اندلس کا ایک بادشاہ (از ۳۰۰/۸۱۰ء تا ۳۱۰/۸۲۱ء) .
۲ ۵۵۱		* الْمُجَاهِد الرِّسُولِي : رگ بہ رسولیہ .
۲ ۵۵۲		* مُجْتَث : عربی عروض کی چودھویں بحر .

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
		⊗ مُجْتَهَد : ایک فقہی اصطلاح ، اپنے اجتہاد سے شریعت کا کوئی حکم تلاش کرنے والا فقیہ .
۲ ۵۵۲		⊗ مُجَدِّدُ الْفِ ثَالِثِي : رگ بہ احمد ، شیخ ، سرہندی .
۲ ۵۶۳		⊗ مُجَدِّدِيه : سلسلہ ؛ رگ بہ احمد ، شیخ ، سرہندی .
۲ ۵۶۳		* مُجَدِّدُ الدَّوْلَةِ : ابو طالب رستم بن فخر الدولة ، ایک بویہی حکمران (از نواح ۵۳۸۸/
۲ ۵۶۳		۶۹۹۸ تا ۵۳۲۰/۶۱۰۲۹) .
۱ ۵۶۳		⊗ مُجَدِّدُ الدِّين : رگ بہ ہبۃ اللہ بن محمد .
۲ ۵۶۳		⊗ مُجَدِّدُ الدِّين : رگ بہ الفیروز آبادی .
		* مُجَدِّدُ الْمَلِك : ابو الفضل اسعد بن محمد البراوستانی ، سلجوق سلطان برکیارق کا وزیر
۲ ۵۶۳		خزانہ (م ۵۳۹۲/۶۱۰۹۹) .
		* مُجَذَّوْب : تصوف کی ایک اصطلاح ، جذب الہی سے بلا دقت و طلب واصل باللہ ہونے والا شخص .
۱ ۵۶۵		* الْمَجْرَة : کہکشاں .
۲ ۵۶۵		* مَجْرِي یا مَجْرَائِي : علم عروض کی ایک اصطلاح .
۱ ۵۷۰		* الْمَجْرِيْطِي : ابو القاسم مسلمہ بن احمد ، اندلس کا مشہور فلسفی ، ریاضی دان اور
۱ ۵۷۰		ماہر فلکیات (م مابین ۵۳۹۵/۶۱۰۰۳ و ۵۳۹۸/۶۱۰۰۷) .
۲ ۵۷۲		* الْمَجْسُط : (المَجْسُطِي) یا کتاب المَجْسُطِي ، فلکیات میں بطلمیوس کی عظیم تالیف .
۲ ۵۷۳		* مَجْسَمَة : تشبیہ .
		⊗ مَجْلِسِ اِحْرَار : انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد کرنے والی ہندوستانی
۲ ۵۷۳		مسلمانوں کی ایک جماعت .
		⊗ مَجْلِسِ خِلاَفَت : جنگ عظیم کے بعد ”احیاءِ خلافت“ کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کی
۲ ۵۷۵		ایک جماعت اور تحریک .
۱ ۵۸۵		⊗ مَجْلِسِي ، محمد باقر : رگ بہ محمد باقر ، مجلسی .
۱ ۵۸۵		* مَجْلَه : ترکیب کا ضابطہ دیوانی (مجلہ احکام عدلیہ) .
۲ ۵۸۶		* مَجْمَرَة : بخور دان .
۱ ۵۸۷		* مَجْنُون : دیوانہ ، قیس عامری ایک مشہور عشقیہ داستان کا ہیرو .
۱ ۵۸۸		⊗ مَجْوَس : زر تشتی .
۲ ۵۹۳		* الْمَجْوَس : المغرب اور اندلس کے مؤرخین کے ہاں سکندریہ نیوبا کے بحری ڈاکو .
۱ ۵۹۶		* مَجْوَزَة : رگ بہ عمادہ .
۱ ۵۹۶		* الْمَجِيب : رگ بہ الاسماء الحسنی .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۹۶		* المَجِيد : رُكٌّ بِه الاسماء الحسنی .
۱ ۵۹۶		* مَجِيدِيه : سلطان عبدالحميد کے عہد میں ترکی سکوں کی جديد درجہ بندی ،
۲ ۵۹۶		* مجير الدين : رُكٌّ بِه العلي .
۲ ۵۹۶		* مَخَارِب : متعدد عرب قبائل کا نام .
۱ ۵۹۸		⊗ مَحَاسِب : رُكٌّ بِه حِسَب .
		* مَحَاسِبِي : ابو عبدالله حارث بن اسد العنزي ، شافعي المذهب فقيه ، متكلم اور مصنف
۱ ۵۰۸		. (م ۸۲۳۳/۸۵۷۷) .
۲ ۵۹۹		* مَحَبَّ الدين : رُكٌّ بِه الطبري .
۲ ۵۹۹		* مَحَبَّ الله بهاري : رُكٌّ بِه البهاري .
۲ ۵۹۹		* مَحَبِّي : رُكٌّ بِه سليمان اول .
		* المَحَبِّي : دمشق کے ایک اہل علم خاندان کے تین افراد : (۱) مَحَبَّ الدين ابو الفضل
		محمد الحموي الدمشقي (۸۹۴۹/۹۱۵۳ تا ۱۰۱۶/۱۶۰۸ء) ، شمالی شام
		کے قاضي ، مدرس اور مصنف ؛ (۲) فضل الله بن مَحَبَّ الله بن مَحَبَّ الدين
		(۱۰۳۱/۱۶۲۱ء تا ۱۰۸۲/۱۶۷۱ء) ، بيروت کے عالم ، قاضي اور مدرس ؛
		(۳) محمد الامين بن فضل (۱۱۱۳/۱۶۹۹ء) ، خلاصة الاثر في اعيان القرن
۲ ۵۹۹		الحادي عشر کے مصنف .
۲ ۶۰۲		* مَحْبُوب : (زر محبوب) ، مصر اور شمالی افریقہ میں ترکی اشرقی .
		⊗ مَحْبُوب عالم ، مولوی : (۱۷۶۳ء تا ۱۹۳۳ء) ، هندوستان کے نامور صحافي ، پيسہ اخبار
۱ ۶۰۳		کے مالک اور ایک سفر نامے کے مصنف .
		⊗ مَحْبُوب عالم ، مولوی : بن مولوی محمد یار ، گوجرانوالہ (پاکستان) کے ایک عالم دین ،
۱ ۶۰۳		فارسی اور پنجابی کے شاعر اور مصنف .
		* مَحْتَسِب : عہد اسلام میں احکام شریعت کی پابندی کا نگران ، ایک اہم
۲ ۶۰۳		عہدے دار .
۱ ۶۰۶		⊗ مَحْرَاب : رُكٌّ بِه مسجد .
۱ ۶۰۶		⊗ (خان) مَحْرَاب خان شہید : (۱۷۸۵ تا ۱۸۳۹ء) ، قلات کا ایک دلیر حکمران .
۱ ۶۰۶		⊗ المَحْرَم : اسلامی تقویم کا پہلا مہینا .
		⊗ مَحْرَم علی چشتی : (۱۸۶۳/۱۲۸۰ء تا ۱۹۳۳/۱۳۵۳ء) ، لاہور کی ایک علی و
۲ ۶۰۷		سیاسی شخصیت ، اخبار نویس اور وکیل .
		⊗ مَحْسَن بن علی : خلیفہ چہارم حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے تیسرے
۱ ۶۰۹		بیٹے .
		⊗ مَحْسَن المَلِك : سید مہدی علی (۱۸۳۷ تا ۱۹۰۷ء) ، برعظیم ہاک و ہند کی ایک

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۶۰۹	اہم علمی و میاسی شخصیت اور سرسید کے جانشین .	
۱ ۶۱۲	مخسود : پاکستان کی شمال مغربی سرحد پر آباد ایک پٹھان قبیلہ .	* مخسود : پاکستان کی شمال مغربی سرحد پر آباد ایک پٹھان قبیلہ .
۲ ۶۱۳	محصولات : رگ بہ ضریبہ .	⊗ محصولات : رگ بہ ضریبہ .
۲ ۶۱۳	محقق طوسی : رگ بہ الطوسی نصیر الدین .	* محقق طوسی : رگ بہ الطوسی نصیر الدین .
۲ ۶۱۳	محکمہ : اہم اسلامی ممالک میں محکمہ قضا کی تجدید و تنظیم .	* محکمہ : اہم اسلامی ممالک میں محکمہ قضا کی تجدید و تنظیم .
۲ ۶۱۸	محلہ : ایک جغرافیائی اصطلاح ، بمعنی شہر کا کوئی حصہ .	* محلہ : ایک جغرافیائی اصطلاح ، بمعنی شہر کا کوئی حصہ .
۱ ۶۱۹	محلۃ الکبریٰ یا محلہ کبیر : دریائے نیل کے ڈیلٹا پر ایک اہم شہر .	* محلۃ الکبریٰ یا محلہ کبیر : دریائے نیل کے ڈیلٹا پر ایک اہم شہر .
	محمل : تیرہویں صدی کے مسلمان بادشاہوں کی طرف حج کے موقع پر مکہ مکرمہ	* محمل : تیرہویں صدی کے مسلمان بادشاہوں کی طرف حج کے موقع پر مکہ مکرمہ
۱ ۶۲۰	بھیجی جانے والی شاندار ہالکیاں یا ہودج .	* بھیجی جانے والی شاندار ہالکیاں یا ہودج .



جلد ۱۹

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱		⊗ (حضرت) مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هشام ، پیغمبر اسلام ، سرور کائنات (۱ عام الفیل / ۵۷۰ء تا ۶۳۲/۵۱۱ء) .
		تعلیقات :
۲	۸۹	(۱) شمائل و اخلاق نبویؐ :
۲	۱۳۷	(۲) رسول اللہؐ بحیثیت مبلغ اعظم :
۲	۱۵۹	(۳) میثاق مدینہ :
۲	۱۶۶	(۴) معاهدات عہد نبویؐ :
۱	۱۷۳	(۵) غزوات نبویؐ :
۱	۲۱۳	(۶) عہد نبویؐ میں نظم و نسق مملکت :
۲	۲۲۲	(۷) رسول اکرمؐ بطور مقنن :
۱	۲۳۳	(۸) آنحضرتؐ بحیثیت خطیب :
۲	۲۳۱	(۹) خواتین کے حقوق آنحضرتؐ کی نظر میں :
۱	۲۵۳	(۱۰) معجزات نبویؐ :
۱	۳۰۲	(۱۱) مآخذ .
۱	۳۱۳	⊗ محمد : قرآن مجید کی سینتالیسویں سورۃ .
۲	۳۱۵	* محمد بن ابراہیم : رک بہ ابو الحسن .
		* محمد بن ابراہیم بن عادل شاہ : بیجاپور کا ایک عادل شاہی حکمران (از ۱۰۳۳ھ / ۱۶۳۳ء تا ۱۰۷۰ھ / ۱۶۶۰ء) .
۲	۳۱۵	* محمد بن ابی بکر : حضرت ابو بکرؓ کے بیٹے ، حضرت عثمانؓ کے خلاف فتنہ اور بغاوت میں شریک اور حضرت علیؓ کے طرفدار (م ۵۳۸/۶۵۸ء) .
۱	۳۱۷	* محمد بن ابی بکر : رک بہ (۱) ابن قیم الجوزیہ ؛ (۲) ابن سید الناس .
۱	۳۱۷	* محمد بن ابی زینب : رک بہ ابو الخطاب الاسدی .
		* محمد بن ابی الساج : ابو عبید اللہ بن ابو الساج دہوداد ، ماوراء النہر کے علاقہ اشروسنہ کا ایک مشرقی ایرانی امیر (م ۲۸۸ھ / ۹۰۱ء) ،
۱	۳۱۷	* محمد بن ابی ہایر : رک بہ المنصور بن ابی عامر .
۱	۳۱۸	* محمد بن ابی القاسم : رک بہ ابن ابی دینار .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۱۸		* محمد بن ابی محمد : رک بہ ابن ظفر .
۱ ۳۱۸		* محمد بن احمد : رک بہ (۱) ابن علقمی ؛ (۲) ابن ایاس ؛ (۳) ابن رشد .
۱ ۳۱۸		* محمد بن ادريس الشافعی : رک بہ الشافعی .
۶ ۳۱۸		* محمد بن اسحق : رک بہ (۱) ابن اسحق ؛ (۲) الندیم .
۱ ۳۱۸		* محمد بن اغلب : رک بہ اغلبہ (اغلب ، بنو) .
۱ ۳۱۸		* محمد بن الیاس : رک بہ الیاسیہ .
۱ ۳۱۸		* محمد بن الوشتگین : رک بہ خوارزم شاہ .
۱ ۳۱۸		* محمد بن بقیہ بن عالی : رک بہ ابن بقیہ .
۶ ۳۱۸		* محمد بن تغلق : رک بہ محمد تغلق .
۲ ۳۱۸		* محمد بن تگش : رک بہ (۱) خوارزم ؛ (۲) خوارزم شاہ .
۲ ۳۱۸		* محمد بن تومرت : رک بہ ابن تومرت .
۲ ۳۱۸		* محمد بن جریر الطبری : رک بہ الطبری ، ابو جعفر .
۲ ۳۱۸		* محمد بن الجزری : رک بہ ابن الجزری .
۲ ۳۱۸		* محمد بن حبیب : رک بہ ابن حبیب .
۲ ۳۱۸		* محمد بن الحسن : رک بہ (۱) ابن درید ؛ (۲) ابن حمدون ؛ (۳) الشیبانی .
		* محمد بن حسین : (۱) ایک عثمانلی امیر اور مؤرخ (تاریخ ولادت و وفات نا معلوم) ؛
		(۲) محمد خلیفہ کنہکار ، ترکیہ کا ایک درباری امیر اور وقائع نگار
۲ ۳۱۸		(حیات ۱۰۷۵/۵۱۶۶۵ء) .
۱ ۳۱۹		* محمد بن العسین : رک بہ (۱) ابوالحسن ؛ (۲) ابوسعید ؛ (۳) ابن مقلہ ؛ (۴) الشریف الرضی .
		* محمد الحنفیہ " : (۱۶/۵۶۳ء تا ۸۱/۵۷۹ء) ، حضرت علیؓ کے بیٹے ، مشہور علوی
۱ ۳۱۹		بزرگ اور عابد و زاہد عالم .
۱ ۳۲۱		* محمد بن داؤد : رک بہ (۱) ابن آجروم ؛ (۲) الاصفہانی .
۱ ۳۲۱		* محمد بن دشمن یار : رک بہ کاکویہ (بنو) .
۱ ۳۲۱		* محمد بن رائق : رک بہ ابن رائق .
۱ ۳۲۱		* محمد بن رزین : رک بہ ابو الشیص .
۱ ۳۲۱		* محمد بن سالم : رک بہ ابن واصل .
۱ ۳۲۱		* محمد بن سعد : رک بہ (۱) ابن سردنیش ؛ (۲) ابن سعد .
۱ ۳۲۱		* محمد بن سعود : رک بہ غوری (خاندان) .
		* محمد بن سعود : (صحیح سعود) بن محمد ، نجد کی ایک ریاست الدرعیہ کا امیر اور
		سعودی عرب کے موجودہ شاہی خاندان کا بانی (م ۱۱۷۹/۱۷۶۵ء -
		۱۲۶۰ء) .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۲۱		* محمد بن سیرین : رگ بہ ابن سیرین .
		* محمد بن طاہر : طاہریہ خاندان کا حاکم خراسان (از ۴۸۶۲/۵۲۳۸ تا ۴۸۷۳/۵۲۵۹)
		اور بعد ازاں بغداد کا فوجی حاکم (از ۴۸۸۳/۵۲۷۰ تا ۴۸۷۹/۵۲۷۹)
۱ ۳۲۲		۸۲۸ م : ۹۰۸/۵۲۹۶ - ۹۰۹ (۴۹۰۹) .
۲ ۳۲۲		* محمد بن طاہر : رگ بہ ابن القیسرالی .
		* محمد بن طنج : ابو بکر المعروف بہ الاخشید (۴۸۸۳/۵۲۶۸ تا ۴۹۲۲/۵۳۳۴) ، مصر
۲ ۳۲۲		کے خاندان اخشیدیہ کا بانی اور خلیفہ کی طرف سے حاکم مصر
۱ ۳۲۴		* محمد بن عباس : رگ بہ قاجار .
۱ ۳۲۴		* محمد بن عبداللہ : رگ بہ (۱) ابن الایار : (۲) ابن الخطیب : (۳) ابن مالک .
		* محمد بن عبداللہ : (ولادت ۸۲۴/۵۲۰۹ - ۸۲۵) ، طاہریہ خاندان کا حاکم بغداد
۱ ۳۲۴		(از ۴۸۷۱/۵۲۳۷ تا ۴۸۷۶/۵۲۵۳) .
		* محمد بن عبداللہ : النفس الزکیہ ، امام حسینؑ کے ہوتے اور عباسی خلیفہ ابو جعفر کے
۱ ۳۲۸		خلاف ایک بغاوت کے قائد (م ۴۷۶۲/۵۱۳۵) .
		* محمد بن عبداللہ حسان : المہدی (۴۱۸۶۰ تا ۴۱۹۲۰) ، صومالیہ کا مشہور و معروف
۲ ۳۳۱		مہدی اور اطالیہ کے خلاف جنگ آزادی کا مجاہد رہنما .
۱ ۳۳۵		* محمد بن عبدالرحیم : رگ بہ ابن الفرات .
۱ ۳۳۵		* محمد بن عبدالملک : رگ بہ (۱) ابن طفیل : (۲) ابن زہر .
		* محمد بن عبدالملک : ابو جعفر المعروف بہ ابن الزیات ، متعدد عباسی خلفا کا وزیر
۱ ۳۳۵		(م ۴۸۳۷/۵۲۲۳) .
		⊗ (الشیخ) محمد بن عبدالوہاب : (۵۱۷۰۳/۵۱۱۵ تا ۵۱۷۹۲/۵۱۲۰۶) ، نجد (عرب) کے
		مشہور عالم ، مصلح ، مصنف اور واعظ ، تبلیغ توحید اور
۲ ۳۳۵		رد بدعات کی تحریک (وہابیت) کے بانی .
۱ ۳۳۰		* محمد بن عبداللہ : رگ بہ ابو المعالی .
۱ ۳۳۰		* محمد بن عثمان : رگ بہ ابو زیان اول .
		* محمد بن علی : رگ بہ (۱) الجواد الاصفہانی ؛ (۲) ابن العربی ؛ (۳) ابن عسکر ؛ (۴)
۱ ۳۳۰		ابن بابویہ ؛ (۵) ابن الطقطقی ؛ (۶) ابن وحشیہ .
		* محمد بن علی : ابو جعفر باقرؑ ، امام حسینؑ کے ہوتے ، مشہور عالم ، محدث اور
۱ ۳۳۰		محقق ، اثنا عشری شیعہوں کے پانچویں امام (م ۱۱۳ یا ۱۱۷ یا ۱۱۸) .
		⊗ محمد بن علی الرضا : معروف بہ امام محمد تقیؑ (۴۸۱۱/۵۱۹۵ تا ۴۸۳۵/۵۲۲۱) ،
۱ ۳۳۱		اثنا عشری شیعہوں کے نویں امام .
۲ ۳۳۵		* محمد بن عمر : رگ بہ ابن القوطیہ .

۲	۳۳۵	* محمد بن عمار : رگ بہ ابن عمار .
۲	۳۳۵	* محمد بن عیسیٰ : رگ بہ عیساویہ .
۲	۳۳۵	* محمد بن فراسرز : رگ بہ خسرو ملا .
		* محمد بن القاسم الثقفی : (۴۶۹۳/۵۷۵ تا ۵۷۱۵/۵۹۶) مشہور عرب سپہ سالار اور فاتح سندھ .
۲	۳۳۵	* محمد بن القاسم : رگ بہ (۱) ابو العیناء ؛ (۲) الانباری .
۲	۳۳۸	* محمد بن محمد : رگ بہ (۱) ابو علی ؛ (۲) ابو الوفاء ؛ (۳) الغزالی ؛ (۴) ابن عاصم ؛ (۵) ابن بطوطہ ؛ (۶) ابن جہیر ؛ (۷) ابن السہاریہ ؛ (۸) ابن نباتہ ؛ (۹) عماد الدین .
۲	۳۳۸	* محمد بن محمود : ابو شجاع ، غیاث الدنیا و الدین ، ایک سلجوقی سلطان (از ۵۵۳/۵۵۳ تا ۵۵۹/۵۵۳) .
۲	۳۳۸	* محمد بن مروان : عراق و ارمینیا کا ایک اموی حاکم (از ۵۷۳/۵۷۳ تا ۵۷۹/۵۷۹) .
۲	۳۳۹	* محمد بن المستنیر : رگ بہ قطرب .
۲	۳۵۰	* محمد بن المظفر : رگ بہ مظفر .
۲	۳۵۰	* محمد بن مکرّم : رگ بہ ابن منظور .
۲	۳۵۹	* محمد بن سلک شاہ : ابو شجاع غیاث الدنیا و الدین ، قسیم امیر المومنین ، ایک سلجوق سلطان (از ۵۹۸/۵۱۰۵ تا ۵۱۱۸/۵۱۱) .
۲	۳۵۰	* محمد بن موسیٰ بن شاہ کر : رگ بہ موسیٰ (بنو) .
۲	۳۵۲	* محمد بن الولید : رگ بہ ابن ابی زندقہ .
۲	۳۵۲	* محمد بن ہانی : رگ بہ ابن ہانی .
۲	۳۵۲	* محمد بن الہذیل : رگ بہ ابو الہذیل .
۱	۳۵۳	* محمد بن یاقوت : ابو بکر ، بغداد کا ایک صاحب الشرطہ (م ۵۳۲۳/۵۹۳۵) .
۱	۳۵۳	* محمد بن یحییٰ : رگ بہ ابن باجہ .
۱	۳۵۳	* محمد بن یزید : رگ بہ (۱) ابن ماجہ ؛ (۲) المبرد .
۱	۳۵۳	* محمد یوسف : رگ بہ ابو حیان .
۱	۳۵۳	* محمد اول تا سوم : رگ بہ (بنو) معاویہ .
۱	۳۵۳	* محمد اول (بہمنی) : دکن کے بہمنی خاندان کا دوسرا بادشاہ (از ۵۶۰/۵۱۳۵۸ تا ۵۷۹/۵۱۳۷۷) .
۱	۳۵۳	* محمد دوم : دکن کے بہمنی خاندان کا پانچواں بادشاہ (از ۵۷۸/۵۱۳۷۸ تا ۵۸۰/۵۱۳۹۷) .
۱	۳۵۵	

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۳۵۵		* محمد سوم لشکری : دکن کے بہمنی خاندان کا تیرھواں بادشاہ (از ۱۳۶۳/۵۸۶۸ تا ۱۳۸۲/۵۸۸۷) .
۲ ۳۵۶		* (سلطان) محمد اول : خاندان عثمانیہ کا پانچواں سلطان (از ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۱) .
۲ ۳۵۸		* (سلطان) محمد دوم : المعروف بہ سلطان محمد فاتح ، سلطنت عثمانیہ کا ساتواں بادشاہ (از ۱۳۵۱/۵۸۵۵ تا ۱۳۸۱/۵۸۸۶) اور فاتح قسطنطنیہ .
۲ ۳۶۲		* (سلطان) محمد سوم : سلطنت عثمانیہ کا تیرھواں بادشاہ (از ۱۵۹۳ تا ۱۶۰۳) .
۲ ۳۶۳		* (سلطان) محمد چہارم : سلطنت عثمانیہ کا انیسواں بادشاہ (از ۱۶۴۸ تا ۱۶۸۷) .
۲ ۳۶۵		* (سلطان) محمد پنجم : رشاد ، سلطنت عثمانیہ کا پینتیسواں بادشاہ (از ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۸) .
۲ ۳۶۶		* (سلطان) محمد ششم : وحید الدین ، سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ (از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۲) .
۲ ۳۶۷		* محمد : ابو احمد جلال الدولہ و جمال الملة ، سلطان محمود غزنوی کا دوسرا بیٹا اور چند دنوں کے لیے غزنہ اور نواحی علاقوں کا حکمران (۱۰۳۰/۵۴۲۱) .
۲ ۳۶۸		* محمد آباد : رگ بہ بیدر (محمد آباد) .
۲ ۳۶۸		* محمد احمد بن عبداللہ : المعروف بہ مہدی سوڈانی (۱۸۴۳/۵۱۲۵۸ تا ۱۳۰۲/۵۱۳۰۲) ، اسیویں صدی عیسوی میں ترکوں اور انگریزوں کے خلاف سوڈان کی جنگوں کا قائد اور مشہور قومی رہنما .
۲ ۳۷۱		* محمد اسحاق خان (ہزارہ) : بلوچستان کا ایک قومی رہنما (م ۱۹۷۴) .
۱ ۳۷۲		* محمد اسعد : رگ بہ اسعد افندی احمد ،
۱ ۳۷۲		* محمد اسعد : رگ بہ غالب ددہ .
۱ ۳۷۲		* محمد اسماعیل بن عبدالغنی الشہید : رگ بہ اسمعیل شہید ، شاہ .
۱ ۳۷۲		* محمد اعلیٰ تھانوی : مولوی ، ہندوستان کے جلیل القدر عالم ، مصنف کشاف اصطلاحات الفنون وغیرہ (حیات ۱۱۵۸/۵۱۷۳۵) .
۲ ۳۷۳		* محمد الیاس : (۱۳۰۳/۵۱۸۸۵ تا ۱۳۶۳/۵۱۹۴۳) ، ہندوستان کے مشہور عالم اور تحریک تبلیغی جماعت کے بانی .
۲ ۳۷۵		* محمد امین ، میر : رگ بہ برہان الملک سعادت خان .
۲ ۳۷۶		* محمد انور شاہ (سید) : (۱۲۹۲/۵۱۸۷۵ تا ۱۳۵۲/۵۱۹۳۳) ، نامور محدث ، ممتاز مصلح اور عالم دین ، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور فیض الباری وغیرہ کے مصنف .
۲ ۳۷۸		* محمد ایوب خان : رگ بہ پاکستان .
۲ ۳۷۸		* محمد باقر مجلسی : (۱۰۳۷/۵۱۶۲۷ تا ۱۱۱۰/۵۱۶۹۹) ، ایک ممتاز شیعی عالم اور مصنف بحار الانوار وغیرہ .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۳۸۷		* محمد بختیار خلجی: قطب الدین ایبک کا ایک امیر اور سپہ سالار، فاتح بہار و بنگال (م ۵۶۰۲/۵۱۲۰۶)۔
۲ ۳۸۷		* محمد بقاء: بن شیخ غلام محمد (۵۱۰۳۷/۵۱۶۲۷ تا ۵۱۰۹۳/۵۱۶۸۳) عہد اورنگ زیب عالمگیر کا ایک فاضل اور شاہی و قانع نگر۔
۲ ۳۸۷		* محمد بوٹا: رگ بہ میاں محمد بوٹا۔
۲ ۳۸۷		* محمد بے ابو ذہب: رگ بہ علی بے۔
۲ ۳۸۷		* محمد بے عثمان الجلال: (۵۱۸۳۶ تا ۵۱۸۹۸) مصر کا امیر اور جج ا نیز چند کتابوں کا مصنف۔
۲ ۳۸۸		* محمد بیروم: محمد بن مصطفیٰ (۵۱۲۵۶/۵۱۸۳۰ تا ۵۱۳۰۶/۵۱۸۸۹) ایک تونسوی محب وطن، متبحر عالم دین اور مصنف۔
۱ ۳۹۲		* محمد پاشا: رگ بہ (۱) محمد داماد پاشا؛ (۲) محمد گرجی پاشا؛ (۳) قرہ مالی محمد پاشا؛ (۴) صوقولی۔
۱ ۳۹۲		* محمد پاشا: رگ بہ قرہ مالی محمد پاشا۔
۱ ۳۹۲		* محمد پاشا الماس: (۵۱۰۱۷/۵۱۶۰۸ تا ۵۱۱۰۹/۵۱۶۹۷) وزیر اعظم ترکیہ۔
۲ ۳۹۲		* محمد پاشا بالطہ جی: وزیر اعظم ترکیہ (از ۵۱۱۱۵/۵۱۷۰۳ تا ۵۱۱۱۸/۵۱۷۰۶) و از ۵۱۱۲۲/۵۱۷۱۰ تا ۵۱۱۲۳/۵۱۷۱۱)۔
۲ ۳۹۲		* محمد پاشا تریاکی: (۵۱۰۹۱/۵۱۶۸۰ تا ۵۱۱۶۵/۵۱۷۵۱) محمود اول کے عہد میں ترکیہ کا وزیر اعظم۔
۱ ۳۹۳		* محمد پاشا، روم: سلطان محمود ثانی کے عہد حکومت میں ترکیہ کا وزیر اعظم (م نواح ۵۸۷۹/۵۱۳۷۳)۔
۲ ۳۹۵		* محمد پاشا، سلطان زادہ: (۵۱۰۰۹/۵۱۶۰۰ تا ۵۱۰۵۶/۵۱۶۳۶) سلطان ابراہیم کے عہد میں ترکیہ کا وزیر اعظم۔
۱ ۳۹۶		* محمد پاشا صوقولی: رگ بہ صوقولی۔
۲ ۳۹۶		* محمد پاشا قرہ مالی: رگ بہ قرہ مالی محمد پاشا۔
۲ ۳۹۶		* محمد پاشا لالا: احمد اول کے عہد میں ترکیہ کا وزیر اعظم (م ۵۱۰۱۵/۵۱۶۰۶)۔
۱ ۳۹۷		* محمد پاشا یگن: محمود ثانی کے عہد میں ترکیہ کا وزیر اعظم (م ۵۱۱۵۸/۵۱۷۳۵)۔
۱ ۳۹۸		* محمد تغلق: دہلی کے تغلق خاندان کا دوسرا بادشاہ (از ۵۲۶۶/۵۱۳۲۵ تا ۵۲۵۲/۵۱۳۵۱)۔
۱ ۴۰۱		* (میرزا) محمد تقی بہار: (۵۱۳۰۳/۵۱۸۸۶ تا ۵۱۳۷۰/۵۱۹۵۱) ایران کا ملک الشعراء، ممتاز حریت نواز سیاست دان اور صحافی۔
۱ ۴۰۶		* محمد ثالث: دہلی کے تغلق خاندان کا چھٹا بادشاہ (از ۵۲۹۳/۵۱۳۹۰ تا ۵۲۹۷/۵۱۳۹۳)۔
۱ ۴۰۶		* (ملک) محمد جائسی: بہاشا کا مشہور شاعر، مصنف ہدیات (حیات ۵۹۲۷/۵۹۲۷)۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۰۶	۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ (۶۱۵۲۱)	* (میرزا) محمد جعفر قراچہ داعی : قاچاری شہزادے جلال الدین میرزا کا منشی اور آذربایجان کے تمثیل نگار مرزا فتح علی اخوند زادہ کے مشہور طریقہ ڈراموں کا مترجم (حیات ۱۵۲۹/۱۵۲۰)
۲ ۳۰۷	(۶۱۸۷۳)	محمد جمال حافظ ملتانی : ملتان کے ایک مجاہد اور صوفی بزرگ (م ۱۵۲۶/۱۵۱۱/۱۵۱۱)
۱ ۳۰۸		محمد جمال الدین القاسمی : (۱۵۲۸۳/۱۵۲۸۳ تا ۱۵۳۳۳/۱۵۳۳۳) ، شام کے ایک ممتاز اور متقی عالم اور تفسیر القاسمی وغیرہ کے مصنف
۱ ۳۰۹		(ما) محمد حسن براہوئی : بلوچستان کے بلوچی ، براہوئی ، فارسی اور اردو کے صاحب دیوان شاعر (م ۱۵۲۷۲/۱۵۲۷۲)
۲ ۳۱۱		* محمد حسن خان : ایک صاحب تصانیف ایرانی ادیب اور مترجم (م ۱۵۳۱۳/۱۵۳۱۳)
۲ ۳۱۲		محمد حسین بٹالوی (مولوی) : (۱۵۲۵۶/۱۵۲۵۶ تا ۱۵۳۳۸/۱۵۳۳۸) برعظیم پاک و ہند کے ایک ممتاز اہل حدیث عالم ، مدرس ، واعظ اور مصنف ، نیز مدیر اشاعت السنۃ
۱ ۳۱۳		محمد حسین پیر مراد : (۱۵۳۲۷/۱۵۳۲۷ تا ۱۵۳۸۸/۱۵۳۸۸) ، سندھ کے ایک قدیم صوفی بزرگ
۲ ۳۱۶		* محمد حسین تبریزی : مشہور ایرانی خوشنویس اور کاتب ، نیز شاہ اسمعیل ثانی (۱۵۹۲۸/۱۵۹۲۸)
۱ ۳۱۶		(۱۵۲۱ تا ۱۵۷۶/۱۵۷۶) کا وزیر
۱ ۳۱۷		* محمد حسین گیسودراز : رگ بہ گیسودراز
۱ ۳۱۷		* محمد حیات مندھی : سندھ کے نامور عالم دین ، محدث ، مدرس اور مصنف (م ۱۵۱۶۳/۱۵۱۶۳)
۱ ۳۱۷		(۱۵۷۵)
۲ ۳۱۸		* محمد خان بنگش : نواب غضنفر جنگ ، قبیلہ بنگش کا ایک روہیلہ سردار (م ۱۵۶۳/۱۵۶۳)
۲ ۳۱۸		* (واب) محمد خان جوگزی : (۱۸۸۳ تا ۱۹۷۸) ، بلوچستان کے حریت پسند رہنما اور اپنے قبیلے کے سردار
۱ ۳۱۹		* محمد خلیفہ : رگ بہ محمد بن حسین
۱ ۳۱۹		* محمد داماد پاشا : ترکیہ کا وزیر اعظم (م ۱۶۲۰/۱۶۲۰)
۱ ۳۲۰		* محمد درفشاں شہ : بلوچستان کا ایک فارسی گو شاعر (حیات ۱۵۸/۱۵۸)
۲ ۳۲۰		* محمد دین فوق : (۱۸۷۷ تا ۱۹۳۵) ، اردو کے مشہور انشا پرداز ، اخبار نویس ، شاعر ، مؤرخ اور مصنف
۲ ۳۲۰		محمد رشید رضا : (۱۸۶۵ تا ۱۹۳۵) ، مشہور مصلح اور عالم ، عربی زبان کے ممتاز انشا پرداز اور خطیب ، اتحاد عالم اسلام کے داعی اور تفسیر

- ۲ ۳۲۱ المنار وغیرہ کے مصنف .
- ۱ ۳۲۶ (شاه) محمد رمضان شہید : (۱۱۸۳ھ/۱۷۷۰ء تا ۱۱۲۳ھ/۱۸۱۰ء) ہادی ہریانہ ، برعظیم پاک و ہند کے ایک مبلغ اور واعظ .
- ۱ ۳۲۸ * محمد رؤف : (۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء - ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء) ، ایک مشہور عثمانی مصنف ، شاعر ، افسانہ نگار اور ناول نویس .
- ۱ ۳۳۱ * محمد زاہد الہروی : رک بہ میر زاہد الہروی .
- ۱ ۳۳۱ * محمد زعیم : ایک نامور ترک مؤرخ ، مصنف ہمارے جامع التواریخ (حیات ۱۹۸۷ء/۱۵۷۹ء) .
- ۲ ۳۳۲ * محمد سعید : رک یہ خلیل آفندی زادہ .
- ۲ ۳۳۲ * محمد سعید : (میرجملہ) سترہویں صدی میں عبد اللہ قطب شاہ ، والی حیدر آباد ، کا وزیر (م ۱۰۷۳ھ/۱۶۶۳ء) .
- ۲ ۳۳۲ * محمد سلیمان تونسوی "چشتی" ، حضرت خواجہ : (۱۱۸۳ھ/۱۷۶۹ء تا ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۰ء) ، خواجہ نور محمد سہاروی کے خلیفہ اور ممتاز چشتی بزرگ .
- ۲ ۳۳۲ * محمد سلیمان بامان : منصور پوری ، قاضی (۱۸۶۷ء تا ۱۹۳۰ء) ، ہندوستان کے ممتاز عالم دین ، رحمۃ اللعلمین اور متعدد دیگر کتابوں کے مصنف .
- ۱ ۳۳۵ * محمد شاہ : روشن اختر ، ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے دور زوال کا ایک حکمران (از ۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹ء تا ۱۱۶۱ھ/۱۷۴۸ء) .
- ۱ ۳۳۶ * محمد شاہ اول : علاء الدین خلجی ، ہندوستان کے خلجی خاندان کا مشہور حکمران (از ۱۲۹۵ھ/۱۲۹۵ء تا ۱۳۱۵ھ/۱۳۱۵ء) .
- ۲ ۳۳۶ * محمد شاہ بہمنی : رک بہ محمد اول تا ثالث .
- ۲ ۳۳۶ * محمد شریف النجفی : شاہان دہلی و دکن کی مختصر تاریخ مجالس السلاطین (۱۰۳۸ھ/۱۶۲۸ء) کا مصنف .
- ۱ ۳۳۷ * محمد شفیع لاہوری : مولوی ، ڈاکٹر خان بہادر ، پرنسپل اوریشنل کالج لاہور و رئیس ادارہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ، برعظیم پاک و ہند کے ممتاز عالم ، محقق اور مصنف (م ۱۹۶۳ء) .
- ۱ ۳۳۷ * محمد صدیقی نقشبندی مستولگی : بلوچستان کے ایک عالم دین اور صوفی بزرگ (م ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء) .
- ۱ ۳۳۸ * محمد طاہر پٹی : (۱۵۰۳ھ/۱۵۰۳ء تا ۱۵۷۸ھ/۱۵۷۸ء) ، ہندوستان کے نامور محدث ، فقیہ ، مصباح ، مبلغ اور بہار الانور وغیرہ کے مصنف .
- ۱ ۳۳۹ * محمد عاقل : ایک ممتاز سندھی عالم اور نامور صوفی بزرگ (م ۱۲۲۹ھ/۱۸۱۳ء) .
- ۲ ۳۳۱ * مفتی سید محمد عباس : شمس العلماء (۱۲۲۳ھ/۱۸۱۰ء تا ۱۳۹۶ھ/۱۸۸۹ء) ، ایران

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۱ ۴۴۳	کے مشہور شیعہ محدث ، فقیہ ، ادیب اور مصنف .	محمد عبدالکریم (منشی) : انیسویں صدی کے وسط کا ایک فارسی مؤرخ اور مصنف
۲ ۴۴۵	تاریخ احمد شاہی وغیرہ (م ۱۸۵۱ء) .	محمد عبدہ (مفتی) : (۱۸۳۹ تا ۱۹۰۵ء) ، مصر کے مشہور مفکر ، مصلح ، صاحب طرز انشا پرداز اور سید جمال الدین افغانی کے شاگرد ، اتحاد عالم اسلام کے داعی اور متعدد کتابوں کے مصنف .
۱ ۴۴۷		محمد عطاء بی : (۱۸۵۶ تا ۱۹۱۹ء) ، ایک عثمانی عالم ، صحافی ، مترجم اور سرکاری ملازم .
۱ ۴۵۳		محمد علی بن مظفر الدین : رک بہ قاچار .
۲ ۴۵۴		محمد علی پاشا : (ولادت ۱۱۸۳ھ / ۱۷۶۹ء) ، مصر کا مشہور حکمران اور نائب السلطنت
۲ ۴۵۴		(از ۱۸۰۵ تا ۱۸۳۹ء) .
۱ ۴۶۱		محمد علی جناح ، قائد اعظم : (۱۸۷۶ تا ۱۹۴۸ء) ، برعظیم پاک و ہند کے ممتاز سیاست دان ، آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر ، جنگ آزادی کے عظیم قومی رہنما اور جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل .
۱ ۴۶۱		محمد علی جوہر : رئیس الاحرار مولانا (۱۸۷۸ تا ۱۹۳۱ء) ، برعظیم پاک و ہند میں برطانوی حکومت کے خلاف تحریک آزادی کے نامور مسلمان رہنما ، انگریزی اور اردو کے صاحب طرز انشا پرداز ، صحافی ، ممتاز شاعر اور خطیب .
۱ ۴۹۲		محمد عمر جان چشموی : چشمہ شریف (نزد کوئٹہ ، بلوچستان) کے مشہور نقشبندی بزرگ (م ۱۳۶۰ھ / ۱۹۴۱ء) .
۲ ۴۹۷		محمد عمر دین پوری : (۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ تا ۱۹۳۸ء) ، ہندوستان کے متبحر عالم دین ، مفسر اور خطیب .
۲ ۴۹۸		محمد عیسیٰ خان : (۱۹۱۲ تا ۱۹۷۶ء) ، بلوچستان میں دور حاضر کے نامور قانون دان ، سیاسی رہنما اور قومی قائد .
۲ ۴۹۹		محمد غوث گوالیاری : ہندوستان کے ایک مشہور ولی اللہ اور جواہر خمسہ وغیرہ کتب تصوف کے مصنف (م ۱۵۶۲ھ / ۱۹۷۰ء) .
۲ ۵۰۰		(شاہ) محمد غوث لاہوری : (۱۹۷۳ھ / ۱۹۷۳ء تا ۱۱۵۲ھ / ۱۷۳۹ء) ، لاہور کے ایک مشہور شیخ طریقت ، عالم دین اور متعدد کتابوں کے مصنف .
۲ ۵۰۱		محمد فاضل درخانی : (۱۲۳۶ھ / ۱۸۳۰ء تا ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۷ء) ، بلوچستان کے ایک عالم دین اور مصلح .
۲ ۵۰۳		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۵۰۳	۱۸۸۰ء تا ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء)	⊗ (مولانا) محمد قاسم نانوتوی : (۱۸۳۲/۱۲۳۸ھ تا ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء) برعظیم پاک و ہند کے مشہور مجاہد ، عالم دین ، بہت سی علمی کتابوں کے مصنف اور دارالعلوم دیوبند کے بانی ۔
۱ ۵۱۰	۱۵۸۰ء تا ۱۵۹۳ھ/۱۵۰۲ء تا ۱۵۹۳ھ)۔	⊗ محمد قلی قطب شاہ : گولکنڈہ کے قطب شاہی خاندان کا پانچواں فرمانروا (از ۱۵۸۸ھ/۱۵۸۰ء تا ۱۵۹۳ھ/۱۵۰۲ء)۔
۱ ۵۱۲	(۱۶۸۱ھ/۱۰۲۳م)۔	* محمد کاظم بن محمد امین : اورنگ زیب عالمگیر کا منشی ، عالمگیر نامہ کا مصنف
۳ ۵۱۲	(۱۸۲۶ھ/۱۲۸۳ھ تا ۱۹۵۳ء) ، شام کے نامور فاضل ، مؤرخ ، ادیب اور مصنف ۔	⊗ محمد کرد علی :
۲ ۵۱۵		* محمد کوہرولو : رک بہ کوہریلی ۔
۲ ۵۱۵		* محمد گورجی پاشا : دو وزیر : (۱) خادم محمد پاشا ، سلطان مصطفیٰ اول کے عہد میں وزیر اعظم (م ۱۶۲۳ھ/۱۰۳۳م) ؛ (۲) محمد گورجی پاشا : سلطان محمد رابع کے عہد حکومت کے پہلے دور کا وزیر اعظم
۲ ۵۱۵	(م ۱۶۶۳ھ/۱۰۷۵م)۔	
۱ ۵۱۷		* محمد لالا پاشا : رک بہ محمد پاشا لالا ۔
۱ ۵۱۷		* محمد لالا زاری ، شیخ : لالہ کے پھولوں پر ایک کتاب میزان الازہار کا مصنف (حیات مابین ۱۷۱۸ و ۱۷۳۰)۔
۲ ۵۱۷		* محمد لالہ زاری : طاہر ، ترکیبہ کا ایک قاضی اور چند رسائل و کتب کا مصنف
۲ ۵۱۷	(م ۱۷۸۹ھ/۱۲۰۳م)۔	
۲ ۵۱۷		⊗ محمد لکھوی : حافظ محمد بن حافظ بارک اللہ (۱۸۱۲ھ/۱۲۲۷ء تا ۱۸۹۳ھ/۱۳۱۱ھ) ، برعظیم پاک و ہند میں جملہ علوم دینی کے نامور ماہر ، پنجابی کے شاعر اور تفسیر محمدی وغیرہ کتابوں کے مصنف ۔
۱ ۵۲۰		* محمد محسن الحاج : بن الحاج فیض اللہ ، ہندوستان کا ایک مخیر ، دولت مند تاجر اور سیاح (م ۱۸۱۲ھ/۱۲۲۷ء)۔
۱ ۵۲۱		* محمد مرتضیٰ الزبیدی : (۱۷۳۲ھ/۱۱۳۵ھ تا ۱۷۹۱ھ/۱۲۰۵ھ) ، عربی زبان کے ایک عالم ، ماہر لغت دان اور قاموس کی شرح تاج العروس وغیرہ کے مصنف ۔
۲ ۵۲۲	۱۲۰۲ء تا ۱۲۰۶ھ/۱۶۰۳ء تا ۱۲۰۶ھ) ، فاتح ہند ۔	* محمد معز الدین : بن سام شہسبانی ، اصل نام شہاب الدین معروف بہ سلطان محمد غوری ، شاہزادگان غور میں سے سلطنت غزنی کا چوتھا بادشاہ (از ۱۵۹۹ھ/۱۲۰۲ء تا ۱۲۰۶ھ/۱۶۰۳ء) ، فاتح ہند ۔
۲ ۵۲۲		⊗ محمد معصوم : شیخ : ابو الخیرات عروۃ الوثقی (۱۵۹۹ھ/۱۰۰۷ء تا ۱۵۷۹ھ/۱۰۰۷ء)۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
		(۱۶۶۸ء)؛ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ کے فرزند اور جانشین، سلسلہ مجددیہ کے قیوم ثانی۔
۱ ۵۲۳		* محمد معصوم بھکری: رک بہ میر معصوم بھکری۔
۲ ۵۲۶		* محمدی: دور صفویہ کا ایرانی مصور (م ۱۵۷۴/۸۹۲۸ء)۔
۲ ۵۲۶		* المحمدی: المحمدیہ (الطریقہ)؛ رک بہ (۱) درد؛ (۲) ناصر عندلیب۔
۲ ۵۲۸		* محمدی صاحبزادہ بن محمد عمر چمکنی: رک بہ چمکنی میاں عمر۔
۲ ۵۲۸		* المحمدیة: متعدد دبستانوں کا نام؛ (۱) انتہا پسند شیعہ فرقہ محمدیہ؛ (۲) ایک
۱ ۵۲۹		غالی شیعہ فرقہ میمہ؛ (۳) خارجی گروہ عجارده کا ایک ذیلی فرقہ۔
۱ ۵۳۰		* محمرہ: خلیج فارس کے دہانے پر ایک شہر اور بندرگاہ۔



صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱	۱	⊗ محمود : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے مبارکہ میں سے ایک : رک بہ (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم .
۱	۱	* (سلطان) محمود اول : (ولادت ۱۱۰۸ھ/۱۶۹۲ء) ، سلطنت عثمانیہ کا چوبیسواں بادشاہ (از ۱۱۳۳ھ/۱۷۲۰ء تا ۱۱۶۸ھ/۱۷۵۳ء) .
۲	۳	* (سلطان) محمود دوم : (ولادت ۱۱۹۹ھ/۱۷۸۴ء) ، سلطنت عثمانیہ کا انتیسواں بادشاہ (از ۱۸۰۸ تا ۱۸۳۹ء) .
۱	۱۰	* محمود (اول) : ناصر الدین ، بنگال کا ایک سلطان (از ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۰ء) .
۱	۱۰	* محمود (دوم) : ناصر الدین ، بنگال کا تیسرا سلطان (۱۳۹۳ء) .
۲	۱۰	* محمود (سوم) : غیاث الدین بن علاء الدین حسین شاہ ، بنگال کا سلطان (از ۱۵۳۳ تا ۱۵۳۸ء) .
۱	۱۱	* محمود : شہاب الدین ، بہمنی خاندان دکن کا چودھواں بادشاہ (از ۱۳۸۲ تا ۱۵۱۸ء) .
۲	۱۱	* محمود : ناصر الدین بن شمس الدین التمش ، سلطنت دہلی کا ایک نیک خصیت حکمران (از ۱۲۳۶ تا ۱۲۶۶ء) .
۱	۱۳	* محمود (دوم) : ناصر الدین ، سلطان فیروز شاہ تغلق کا پوتا اور سلطنت دہلی کا حکمران (۱۳۹۳ تا ۱۴۱۳ء) .
۱	۱۳	* محمود شاہ شرقی : جونپور کا فرمانروا (۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ء) .
۱	۱۳	* محمود (اول) : سیف الدین بیگڑہ ، گجرات کا نامور سلطان (۱۳۵۸ تا ۱۵۱۱ء) .
۲	۱۶	* محمود (دوم) : بن مظفر ثانی ، والی گجرات (م ۱۵۲۶) .
۱	۱۷	* محمود (سوم) : سعد الدین شاہ بن لطیف خان بن مظفر ثانی ، گجرات کا حکمران (۱۵۳۷ تا ۱۵۵۳ء) .
۲	۱۷	* محمود (اول) : خلجی ، شاہ مالوہ (۱۳۳۶ تا ۱۳۶۹ء) .
۲	۱۹	* محمود (دوم) : علاؤ الدین خلجی ، مالوے کا حکمران (۱۵۱۱ تا ۱۵۳۱) .
۲	۲۰	⊗ محمود : قاضی سلطان محمود قادری ولد قاضی غلام غوث (۱۲۵۶ھ/۱۸۳۱ء تا ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء) ، قادری سلسلے کے ایک بزرگ .
۲	۲۱	* محمود بن اسمعیل : رک بہ ابن قاضی سماونہ .
۱	۲۲	* محمود بن محمد بن ملک شاہ : عراق کا ایک سلجوق حکمران (۱۱۱۸ھ/۱۱۱۸ء تا ۱۱۲۵ھ/۱۱۲۵ء) (۱۱۳۱ء)

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲۳	⊗ محمود بحری : بن قاضی بحر الدین الملقب بہ قاضی دریا (۱۰۳۲ / ۱۶۳۲ء تا ۱۱۳۰ھ / ۱۷۹۷ء) ، دکنی زبان کے ایک صاحب دیوان شاعر اور معروف صوفی بزرگ ، مصنف مثنوی من لکن .	
۲۵	* محمود پاشا : المعروف بہ ولی محمود پاشا ، عثمانی سلطان محمد ثانی کے عہد کا صدر اعظم (۱۱۳۷ھ / ۱۷۷۹ء) .	
۲۷	⊗ محمود جواہری ، ملا : (۱۱۹۳ھ / ۱۷۸۵ء تا ۱۲۵۲ھ / ۱۸۳۶ء) ، ہندوستان کے ایک معروف عالم اور فلسفی ، مصنف الشمس البازغہ .	
۳۲	⊗ محمود حسن : شیخ الہند (۱۲۶۸ھ / ۱۸۵۱ء تا ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰ء) ، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس و شیخ الحدیث ، قرآن مجید کے مترجم اور ہندوستان میں آزادی کی تحریک ” ریشمی رومال “ کے قائد اور اسیر مالٹا .	
۳۹	⊗ محمود خان شیرانی ، حافظ : (۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء تا ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۶ء) ، یونیورسٹی اوریشنل کالج لاہور کے ایک استاد ، ممتاز محقق ، ماہر عتیقیات اور متعدد تحقیقی کتابوں ، مثلاً پنجاب میں اردو وغیرہ کے مصنف .	
۴۲	*⊗ (سلطان) محمود غزنوی : یمن الدولۃ امین الملتۃ ابو القاسم محمود بن ابو منصور سبکتگین (ولادت ۱۳۷۱ھ / ۹۷۱ء) ، عظیم فاتح اور سلطنت غزنہ و لاہور کا نامور فرمانروا (از ۱۳۸۸ھ / ۹۹۸ء تا ۱۴۲۱ھ / ۱۰۳۰ء) .	
۵۷	* محمود گاواں : عماد الدین ، خواجہ (۱۳۹۵ھ / ۱۸۰۸ء تا ۱۴۸۱ھ / ۱۰۸۱ء) ، دکن کی بھمنی سلطنت کا ہر دل عزیز سیاست دان ، سپہ سالار اور مدارالمہام .	
۶۰	⊗ معینت : رک بہ علم (معاشیات) .	
۶۰	* معینۃ : تکلیف و آزمائش ، اصطلاحاً خدا رسیدہ بزرگان دین کو پیش آنے والی پریشائیاں اور مصیبتیں .	
۶۳	* محیط : رک بہ البحر محیط .	
۶۳	* المعینی : رک بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی .	
۶۳	* معینی الدین : رک بہ ابن العربی (محمد بن علی) .	
۶۳	⊗ معینی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر : (ولادت ۱۰۲۷ھ / ۱۶۱۸ء) ، ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا جلیل القدر ، دین دار اور مدبر شہنشاہ (از ۱۰۶۹ھ / ۱۶۵۹ء تا ۱۱۱۸ھ / ۱۷۰۷ء) .	
۱۰۲	* معینی الدین محمد : سلطان سلیم اول اور سلیمان اول کے عہد کا ایک ترک عالم و مؤرخ اور مصنف تواریخ آل عثمان (م ۱۱۵۵ھ / ۱۷۵۰ء) .	
۱۰۲	* معینی لاری : ایک ایرانی ادیب ، مصنف فتوح الحرمین (۱۱۳۳ھ / ۱۷۲۶ء - ۱۱۵۲ھ) .	

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۲ ۱۰۳		* مِخَا : بحیرہ قلزم کے ساحل عرب پر ایک چھوٹی سی بندر گاہ .
۲ ۱۰۳		* مِخَارِق : ابو المسہنا مِخَارِق بن یحییٰ بن ناؤوس، ابتدائے عہد عباسیہ کا ایک نامور مغنی .
۱۱ ۱۰۶		* مِخْتَار : بن ابی عبید الثقفی ، پہلی صدی ہجری کا مشہور طالع آتما اور ایک شیعہ تحریک کا بانی (م ۸۶۷/۶۸۶ء) .
۱ ۱۱۵		* مِخْتَار پاشا : غازی احمد (۱۸۳۲ تا ۱۹۱۹ء) ، ترکیہ کا ایک ممتاز سپہ سالار، سیاست دان اور صدر اعظم (۱۹۱۲ء) .
۲ ۱۱۶		* مِخْتَارِی : سراج الدین عثمان بن محمد المِخْتَارِی الغزنوی ، متاخر غزنوی سلاطین ابراہیم بن مسعود ثانی اور مسعود ثالث کا درباری شاعر (م مابین ۸۵۳/۱۱۱۵ و ۸۵۵۳/۱۱۵۹ء) .
۲ ۱۱۷		* مِخْتَصِرِ اَلْسَانِہ : رگ بہ اردو .
۲ ۱۱۷		* مِخْدُومِ جَبَانِیَاں : رگ بہ جلال الدین حسین بخاری .
۲ ۱۱۷		* مِخْدُومِ اَلْمَلِكِ عَبْدِاَللّٰہِ سُلْطَانِ پُورِی : دسویں صدی ہجری میں ہندوستان کے مشہور عالم ، شیر شاہ سوری ، ہمایوں بادشاہ اور اکبر اعظم کے عہد میں شیخ الاسلام اور رکن سلطنت (۱۵۸۲/۹۹۰ء) .
۲ ۱۱۷		* مِخْدُومِ اَلْمَلِكِ : رگ بہ المُنیرِی .
۱ ۱۲۰		* مِخْرَمَہُ بَا : مخرمہ الحمیری الشیبانی کی طرف منسوب، حضر موت کا ایک علمی خاندان ؛ (۱) عبداللہ بن احمد بن علی بن مخرمہ الحمیری الشیبالی (۸۴۳/۱۳۳۰ء تا ۸۹۰۳/۱۳۹۷ء) ، صاحب تصانیف مفتی اور فقیہ ؛ (۲) ابو محمد عبداللہ الطیب بن عبداللہ (۸۷۰/۱۳۶۵ء تا ۹۴۷/۱۵۳۰ء) ، مؤرخ، فقیہ اور قاضی عدن ؛ (۳) عمر بن عبداللہ بن احمد (۸۸۳/۱۴۷۹ء تا ۹۵۲/۱۵۳۶ء) ، مشہور صوفی صوفی اور شاعر ؛ (۴) تقی الدین عبداللہ بن عمر (۸۹۰/۱۵۰۱ء تا ۹۷۲/۱۵۶۵ء) فقیہ یمن ، قاضی الشعر ، متبحر عالم اور شاعر .
۱ ۱۲۰		* مِخْرَمَہُ " بن تَوَقَّلِ الزَّہْرِی : بن اہیب ، دور جاہلی میں ایک نامور قریشی (زہری) سردار اور بعد ازاں صحابی رسول " (م ۵۳/۶۷۷ء) .
۱ ۱۲۱		* مِخْرَمَہُ : شمالی افریقیہ اور مراکش وغیرہ میں خزالہ کے لیے ایک اصطلاح .
۲ ۱۲۱		* مِخْرُومِ ، ہنو : قریش مکہ کا ایک با اثر خاندان اور کعبۃ اللہ کا کلید بردار .
۱ ۱۳۳		* مِخْضَرَمِ : اسلام اور جاہلیت دونوں ادوار میں شاعری کرنے والے شعرا کے لیے ادب عربی کی اصطلاح .
۲ ۱۳۵		* مِخْلَدِ (ہنو) : تیسری صدی ہجری میں قرطبہ کے فقہا کا ایک خاندان ، یالی : مِخْلَدِ بن یزید .
۲ ۱۳۶		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۱۳۷		* مُخلص الدولة : رگ بہ المقلد بن المسيب .
۲ ۱۳۷		* المدائن : العراق (بابل) میں شہروں کا ایک مجموعہ اور قدیم ایرانی حکومت کا ہائے تخت .
۲ ۱۳۷		* مدائن صالح : سعودی عرب میں واقع قوم ثمود کا صدر مقام .
۱ ۱۵۲		* المدائنی : علی بن محمد بن عبد اللہ (۵۱۳۵/۷۷۲ تا ۵۲۲۵/۷۸۳) ، ایک عرب مؤرخ اور کثیر التعداد کتابوں کا مصنف .
۲ ۱۵۲		* (شاہ) مدار : رگ بہ غازی میان .
۲ ۱۵۳		* مدارس : (نیز مکاتب) ، عربی زبان و ادب اور علوم اسلامیہ کی قدیم درس گاہیں .
۲ ۱۵۳		* مدحت پاشا : (۵۱۲۳۸/۱۸۲۲ تا ۵۱۳۰۰/۱۸۸۳) ، ترکیہ کا ایک مدبر سیاستدان اور دو بار صدر اعظم (۱۸۷۶ و ۱۸۷۷ - ۱۸۷۷) .
۱ ۱۹۳		* مداح : رگ بہ حکایہ .
۲ ۱۹۷		* المدثر : قرآن مجید کی چوتھویں سورہ .
۲ ۱۹۷		* مدح : رگ بہ حکایہ .
۱ ۱۹۹		* مدار ، بنو : رگ بہ سجالماہ .
۲ ۱۹۹		* مدراس : برطانوی ہند کا ایک صوبہ اور اس کا دارالحکومت ؛ موجودہ بھارت کے صوبہ تامل ناڈو کا صدر مقام اور بندر گاہ .
۲ ۱۹۹		* مدرسہ : رگ بہ (۱) مدارس ؛ (۲) مسجد ؛ (۳) علم (تعلیم و تعلم) ؛ (۴) علما .
۲ ۲۰۱		* مدغا سگر : (جزیرہ القمر) ، دلیا کا تیسرا بڑا جزیرہ .
۲ ۲۰۱		* مدیلو : مٹے لین (Mytiline) ، ایک جزیرے کا ترکی نام .
۲ ۲۲۳		* مدلیت : (مدلیت) ، رگ بہ سیاست .
۱ ۲۲۵		* مدورا : بحر جاوا (اندونیشیا) میں آبنائے مدورا کے پار ایک جزیرہ .
۱ ۲۲۵		* المدور : (Almadorer) ، اندلس اور پرتگال کے کئی شہر ، نیز صوبہ قادس میں ایک ندی .
۲ ۲۲۶		* المدولہ : رگ بہ سخنون .
۱ ۲۲۷		* مدید : علم عروض کی ایک بحر .
۱ ۲۲۷		* مدیر : مصر میں حاکم صوبہ (مدیرہ) کا خطاب یا لقب .
۲ ۲۲۷		* مدینہ : رگ بہ المدینة ؛ ہسپانیہ کے متعدد شہر .
۱ ۲۲۸		* المدینة المنورة : جزیرہ نماے عرب کے صوبہ حجاز کا مقدس شہر .
۱ ۲۵۷		* المدینة الزاهرة : قرطبہ کے نزدیک ایک ہائے تخت ؛ ہالی ؛ عامری حاجب المنصور .
۱ ۲۵۸		* مدینة الزہراء : اموی خلفائے قرطبہ کا قدیم ہائے تخت (آج کل کھنڈر) .
۱ ۲۶۰		* مدینہ السالم : (Medinaceli) ، ہسپانیہ کے شمال مشرق میں ایک چھوٹا سا شہر .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۲۶۱		* مدینہ السلام : رگ بہ بغداد .
		* مدینة الشذولہ : (Medina - Sidonia) ، ہسپانیہ کے صوبہ قادس کا ایک چھوٹا سا شہر .
۱ ۲۶۱		* مدین شعیب : خلیج عقبہ کے مشرق میں ایک شہر .
۱ ۲۶۲		* مدیہ : (Medea) ، الجزائر کے ایک شہر کا نام .
۱ ۲۶۳		* مذحج : ایک یمنی الاصل عرب قبیلہ .
۲ ۲۶۳		⊗ مذہب : رگ بہ فقہ .
۲ ۲۶۳		⊗ المرابط : (المرابطی) ؛ رگ بہ المرابطون .
		⊗ المرابطون : افریقہ کا ایک حکمران خاندان (از ۱۰۵۵/۵۴۴ء تا ۱۰۵۶ء تا ۱۱۴۷ء)
۲ ۲۶۳		• (۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ء)
۲ ۲۶۸		* مراتب ستہ : رگ بہ وجود .
۲ ۲۶۸		* مراتب وجود : رگ بہ وجود .
۲ ۲۶۸		* مراد : عرب قبیلہ مذحج کی ایک شاخ .
۲ ۲۶۹		* مراد (اول) : سلطنت عثمانیہ کا تیسرا سلطان (نواح ۱۳۶۰ء تا ۱۳۸۹ء) .
۲ ۲۷۳		* مراد (دوم) : سلطنت عثمانیہ کا چھٹا سلطان (۱۳۲۱ء تا ۱۳۵۱ء) .
۲ ۲۷۶		* مراد (سوم) : سلطنت عثمانیہ کا بارہواں سلطان (۱۵۲۳ء تا ۱۵۹۵ء) .
۱ ۲۷۹		* مراد (چہارم) : سلطنت عثمانیہ کا سترہواں سلطان (۱۶۲۳ء تا ۱۶۶۰ء) .
۲ ۲۸۱		* (مراد پنجم) : سلطنت عثمانیہ کا پینتیسواں سلطان (۱۸۲۶ء) .
۲ ۲۸۲		* مراد آباد : اتر پردیش (بھارت) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
		* مراد پاشا : (۱۵۲۰ء تا ۱۶۱۱ء) ، احمد اول کے عہد میں صدر اعظم (۱۶۰۶ء تا ۱۶۱۱ء) .
۱ ۲۸۳		⊗ مراد شاہ لاہوری : سلسلہ سہروردی کے ایک بزرگ اور صاحب تصانیف صوفی شاعر (۱۵۰۳ء/۸۹۱۰ء م) .
۲ ۲۸۳		* مراد صو : رگ بہ الفرات .
۲ ۲۸۵		* مرادی : عثمانی سلاطین مراد سوم اور مراد چہارم کا تخلص .
۲ ۲۸۵		* المرادی : دمشقی سادات اور علما کا ایک خاندان ؛ بانی ؛ مراد بن علی الحسینی البخاری (۱۰۵۰ء/۱۶۳۰ء تا ۱۱۳۲ء/۱۷۲۰ء) ایک صاحب تصانیف عالم .
۲ ۲۸۶		* مراسلات : رگ بہ (۱) برید ؛ (۲) طریق ؛ (۳) الق ؛ (۴) انشاء ؛ (۵) فرمان .
۲ ۲۸۶		* سراغہ : آذر بیجان کا پرانا ہائے تخت .
۲ ۲۹۷		* سراکو : (سراکش کی بگڑی ہوئی شکل) ، شمالی افریقہ میں ایک اسلامی سلطنت .
		⊗ سرقد : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کرنے والا

* المرتضیٰ الشریف : ابو القاسم علی بن الطاهر (۵۳۵۵/۶۹۶۶ تا ۵۴۳۶/۶۱۰۳۳) ،

ایک مشہور شیعی عالم ، ادیب ، شاعر اور بقول بعض نہج البلاغہ

اور بعض دیگر کتابوں کا مصنف ۔

* مرتولوس : (مارتلوس Mortolos) ، لشکر عثمانیہ کے رضا کار عیسائی سپاہی ۔

* مرتولہ : (مارتلہ ، مرتلہ) ، جنوبی ہرتگال میں ایک چھوٹا سا شہر ۔

⊗ مرتیہ : (جمع ، مراتی) ، میت پر رونا اور اشعار میں اس کی خوبیاں بیان کرنا ؛ ایک

اہم صنف سخن ۔

⊗* المرجئة : ابتدائی اسلامی عہد میں خوارج کا کٹر مخالف فرقہ ۔

* مرج دابق : شمالی شام میں سلطان سلیم اول اور معلوکوں کے درمیان مشہور جنگ کا میدان ۔

* مرج راھط : دمشق کے قریب امویوں اور حامیان عبداللہ بن زبیر کے درمیان مشہور

جنگ کا میدان ۔

* مرج الصفر : دمشق کے جنوب میں ایک وسیع مرغزار ۔

* مرداد : ایرانی شمسی سال کا پانچواں مہینہ ۔

* مرداس بن ادیہ : بصرے کا ایک خارجی رہنما (م ۶۸۰/۵۶۱ - ۶۸۱/۶۸۱) ۔

* مرداسی : (مرداسیہ) ، شام کا ایک حکمران عرب خاندان ؛ بانی : صالح بن مرداس

(نواح ۵۳۱۳/۶۱۰۲۳) ۔

* مرداوچ : (مرداوچ) بن زیاد ، ابو الحجاج ، زیاری خاندان کا بانی اور طبرستان و گرگان

وغیرہ کا حاکم (م ۵۳۲۳/۶۹۳۵) ۔

* مردہ : (ماردہ) ، ہسپانیہ کے صویہ بظلیوس کا ایک شہر ۔

* المرده : (الماریہ) : رگ بہ جراحہ ۔

* مراکش : مراکو (المغرب) کا ایک شہر اور سلطان کی سکونت گاہوں میں سے ایک ۔

* المراكشي : رگ بہ عبدالواحد ۔

* مرزا پور : اتر پردیش (بھارت) کا ایک ضلع اور شہر ۔

* مرزا خان برکی : بہلول برکی بن مرزا محمد خان برکی ، بارہویں صدی ہجری /

انہارہویں صدی عیسوی میں جالندھر (ہند) کے ایک صوفی منش بزرگ

اور مصنف (م ۱۱۱۷۰/۱۷۵۹ - ۱۷۵۷/۱۷۵۷) ۔

* مرزبان : ساسانی عہد میں صویائی ناظم خصوصاً ناظم سرحد کا ایرانی لقب ۔

* مرزبان بن رستم : طبرستان کے شاہی خاندانہ باوند کا شہزادہ اور مرزبان نامہ کا

اصل مصنف (نواح ۶۱۰۰۰) ۔


* مرزیفون : (ماریوان) ، اناطولی کی ولایت سیواس کا ایک شہر ۔

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
		* مُرْسَل : ایک اصطلاح : (الف) اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ؛ (ب) ایسی حدیث جس کا اسناد
۲ ۳۳۷		کسی صحابی کے نام کے بغیر ہو ؛ رک بہ (۱) رسول ؛ (۲) حدیث .
۲ ۳۳۷		⊗ المُرْسَلَات : قرآن مجید کی مسترویں سورۃ .
۲ ۳۳۹		* مُرْسِين : آناطولی کی ایک بندر گاہ .
۲ ۳۳۹		* مُرْمِيه : Murcia ، ہسپانیہ کے جنوب مشرق میں ایک شہر .
۲ ۳۵۲		* مُرْشِد آہاد : مغربی بنگال (بھارت) کا ایک ضلع ، شہر اور اہم تاریخی مقام .
۲ ۳۵۳		* مُرْصَد : ایک فلکیاتی اصطلاح ، بمعنی رصد گاہ .
۱ ۳۵۵		* مُرْعَش : شام کا ایک سرحدی شہر .
۱ ۳۵۷		* المُرْعَشِي : رک بہ شوشتری .
۱ ۳۵۷		* مُرْغَاب : رک بہ مرو الشاہجان .
۱ ۳۵۷		* مُرْغِينَان : فرغانہ کا ایک شہر .
		⊗* المُرْغِينَالِي : حنفی فقہاء کے دو خاندان : بائی ؛ (۱) برہان الدین ابو الحسن علی بن
		ابی بکر الفرغانی (۵۱۱/۱۱۷۷ء تا ۵۹۳/۱۱۹۷ء) ، مشہور حنفی
		عالم اور شہرہ آفاق کتاب ہدایہ (وغیرہ) کے مصنف ؛ (۲) عبدالعزیز بن
۲ ۳۵۷		عبدالرزاق بن نصر (م ۵۳۷/۱۰۸۳ - ۶۱۰۸۵) .
۲ ۳۶۹		* المُرْقَب : (مرگت Margat) ، شام کے ساحل پر بالیکاس کے قریب ایک قلعہ .
۱ ۳۷۳		* مُرْقَع : رک بہ (۱) تصویر ؛ (۲) فن (خطاطی) .
		* مرکز مصلح الدین موسیٰ : آناطولی کے ایک شیخ طریقت اور ولی اللہ (م ۵۹۵۹/
۱ ۳۷۳		۶۱۵۵۲) .
		* مُرْکَد : (۱) ایرانی صوبہ آذربائیجان کا ایک شہر ؛ (۲) سیحون کے شمال میں ختال کا
۲ ۳۷۳		ایک شہر .
۲ ۳۷۳		* مُرْوَان ، بنو : دیار بکر کا ایک شاہی خاندان .
		* مُرْوَان بن الحکم : اموی خلیفہ اور مروانی خلفا (اور بنو مروان) کا سورتِ اعلیٰ
۲ ۳۷۵		(م ۶۸۳/۶۶۵) .
		⊗* مُرْوَان (ثانی) بن محمد : ابو عبدالملک القائم بحق اللہ ، مروان بن الحکم کا پوتا ،
		دمشق کا آخری اموی حکمران (۵۱۲۷/۷۲۳ء تا ۵۱۳۲/۷۳۰ء)
۲ ۳۷۸		(۷۷۹ء) .
۱ ۳۸۱		* مُرْوَالشَاهِجَان : دریائے مرغاب کی گزر گاہ زبیریں علاقے کے زرخیز نخلستان کا بڑا شہر .
۱ ۳۸۱		* المُرْوَاه : رک بہ الصفا .
۲ ۳۸۱		* مُرْوَاه : ایک اصطلاح ، بمعنی کمال شرافت و کمال انسانیت .
۲ ۳۸۵		* مُرْوَاه : مہاراشٹر (بھارت) میں آباد تاریخ ہند کی ایک طالع آزما قوم .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۸۷		⊗ مری : پاکستان کا ایک مشہور صحت افزا مقام .
۱ ۳۸۹		⊗ مری ، رحم علی : (۱۸۷۲ء تا ۱۹۳۳ء) ، بلوچستان کا ایک حریت پسند بلوچی شاعر .
۲ ۳۹۰		* المریخ : ایک معروف سیارہ .
۱ ۳۹۱		⊗* مرید : تصوف کی ایک اصطلاح ، بمعنی سالک ، مجذوب ، مقتدی ، نیز صوفیہ کے کسی سلسلے میں شامل ہونے کا خواہاں شخص .
۲ ۳۹۱		⊗ مریم : حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ .
		⊗ مرین (بنو) : مغرب اقصی (مراکو) کا ایک حکمران بربری خاندان (۵۶۱۳/۱۲۱۶ء تا ۵۸۲۳/۱۸۲۰ء) .
۲ ۳۹۹		
۲ ۵۰۵		* مزاب : جنوبی الجزائر کا ایک ضلع .
۱ ۵۰۶		* المزائی : اپنی پرہیز گاری کی وجہ سے معروف تقریباً بیس اباضی مصنفین .
۱ ۵۰۶		* مزاح : ایک ادبی اصطلاح ، بمعنی ہنسی ، مذاق ، دل لگی .
۱ ۵۲۶		* مزارب : قرون وسطیٰ میں سالک اسلامیہ میں رہنے والے عیسائی .
۱ ۵۲۸		* مزار شریف : آمو دریا کے جنوب میں افغانستان کا شہر .
۲ ۵۲۸		* مزاجہ : علم بدیع کی ایک اصطلاح .
۱ ۵۲۹		* مزدک : زرتشت بن خرخان کے مذہب کا مبلغ .
۱ ۵۳۶		⊗ مزدکیت : مزدک سے منسوب تصورات .
۱ ۵۳۷		⊗* المزدلفہ : مکہ مکرمہ میں منی اور عرفات کے مابین واقع ایک مقام .
۱ ۵۳۷		⊗* مزدوج : علم بدیع کی ایک اصطلاح اور علم عروض کی ایک بحر .
۲ ۵۳۸		⊗ المزمیل : قرآن مجید کی تہتویں سورہ .
۲ ۵۴۰		* مزگان : مراکش میں ساحل بحر الکاہل پر ایک شہر .
۱ ۵۴۱		* منزگان : (البریجہ) ، رگ بہ منزغی (Manzaghi) ، در لا لائڈن .
۱ ۵۴۱		* مزیار : ہوا بھر کر بجانے کا آلہ ، مختلف آلات موسیقی ، مثلاً بانسری وغیرہ .
		* المزملی : ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ (۵۱۷/۷۹۱ - ۵۹۲ تا ۵۸۷/۸۲۶) امام
۲ ۵۵۰		شافعی کے شاگرد اور المختصر کے مصنف .
۱ ۵۵۲		* مزار : شمالی افریقہ میں کسی مذہبی سلسلے کا صدر یا کسی زاویے کا سہتم وغیرہ .
۱ ۵۵۳		* مزہ سورتہ : (مزومرتو) ، رگ بہ حسین پاشا .
۱ ۵۵۳		* مزید (بنو) : پانچویں - چھٹی صدی ہجری میں الحلة کا ایک مسلم خانوادہ .
۲ ۵۵۵		⊗ مساحت : رگ بہ علم (المساحت) .
		* مسافر (بنو) : (کنگری یا سلاری) ، چوتھی - پانچویں صدی ہجری میں آذربایجان اور
۲ ۵۵۵		آرمینیا وغیرہ ہر حکمران ایک دیلمی الاصل خانوادہ .
۲ ۵۶۰		* مسبانید : (واحد : مسند) ، علم نحو اور علم حدیث کی ایک اصطلاح .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۵۶۳		⊗ المبيعات : مادہ تسبیح سے شروع ہونے والی قرآن مجید کی پانچ سورتوں کا مجموعہ .
۱ ۵۶۵		* مسبحة : رک بہ سبحہ .
۱ ۵۶۵		⊗ سبت توکلی : (۵۱۳۳۷/۵۱۳۲۸ تا ۵۱۳۱۳/۵۱۸۹۵) ، بلوچستان کے مشہور صوفی تاجر اور صاحب حال قلندر .
۱ ۵۶۶		* مستجاب خان بہادر (نواب) : مشہور روہیلہ سردار حافظ رحمت خان کا بیٹا اور اس کی سوانح حیات گلستان رحمت کا مصنف .
۱ ۵۶۶		⊗ مستحب : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی شریعت کی نظروں میں پسندیدہ فعل .
۱ ۵۶۸		* المستور بالہ : ابو منصور الفضل عباس ، ایک عباسی خلیفہ (۵۵۱۲/۵۱۱۱۸) تا (۵۵۲۹/۵۱۱۳۵) .
۱ ۵۶۹		* مستشار : (مشیر) ، ترکیبہ کی ایک سرکاری اصطلاح ، بمعنی معتمد وزارت یا نائب معتمد .
۱ ۵۷۰		* المستصفي : ابو محمد الحسن ، ایک عباسی خلیفہ (۵۵۶۶/۵۱۱۷۰ تا ۵۵۸۵/۵۱۱۸۰) .
۲ ۵۷۰		* المستظير بالہ : ابو العباس احمد بن المعتدی ، ایک عباسی خلیفہ (۵۳۸۷/۵۱۰۹۳ تا ۵۵۱۲/۵۱۱۱۸) .
۱ ۵۷۱		* مسند خان : محمد ساقی (نواح ۵۱۰۶۱/۵۱۶۵۰ تا ۵۱۱۳۶/۵۱۷۲۳) ، عہد اورنگ زیب عالمگیر میں ایک نائب اور عہد مغلیہ کی اہم تاریخ ماثر عالمگیری کا مصنف .
۲ ۵۷۱		* مستعرب : (مستعربہ) ایک اصطلاح ، بمعنی باہر سے آکر عرب میں آباد ہونے والے اور عرب بن جانے والے افراد و قبائل .
۱ ۵۷۲		* المستعصم بالہ : ابو احمد عبداللہ بن المستنصر ، بغداد کا آخری عباسی خلیفہ (۵۶۳۰/۵۱۲۳۲ تا ۵۶۵۶/۵۱۲۵۸) .
۱ ۵۷۳		* المستعلي بالہ : ابو القاسم احمد بن المستنصر ، نواں فاطمی خلیفہ (۵۳۸۷/۵۱۰۹۳ تا ۵۳۹۵/۵۱۱۰۱) .
۲ ۵۷۳		* المستعين بالہ : ابو العباس احمد بن محمد ، ایک عباسی خلیفہ (۵۲۳۸/۵۸۶۲ تا ۵۲۵۲/۵۸۶۶) .
۱ ۵۷۵		* مستغاثم : الجزائر کا ایک ساحلی شہر .
۲ ۵۷۵		* المستكفي بالہ : ابو القاسم عبداللہ ، ایک عباسی خلیفہ (۵۲۲۲/۵۹۳۳ تا ۵۲۳۲/۵۹۳۶) .
۱ ۵۷۶		* المستنجد بالہ : ابو المظفر يوسف ، ایک عباسی خلیفہ (۵۵۵۵/۵۱۱۶۰ تا ۵۵۶۶/۵۱۱۷۰) .
		* المستنصر بالہ : ابو تمیم معد بن علی الظاهر ، آٹھواں فاطمی خلیفہ (۵۳۲۷/۵۱۰۳۶ تا ۵۳۲۷/۵۱۰۳۶) .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۷۷		* المستنصر بالله : ابو جعفر المنصور بن الظاهر ، ایک عباسی خلیفہ (۵۶۲۳/۵۱۲۲۶ تا ۵۶۸۷/۵۱۹۳) .
۱ ۵۸۳		* مستوفی : چترال (پاکستان) کا ایک ضلع .
۲ ۵۸۳		* مستوفی : اسلامی حکومت میں حسابات کا ایک اعلیٰ عہدے دار .
۲ ۵۸۶		* مسجد : جائے سجدہ ، مسلمانوں کی عبادت گاہ اور ابتدائی زمانے سے اب تک مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز .
۱ ۵۸۸		* مسجد : (فن تعمیر) ؛ رگ بہ فن (تعمیر) .
۲ ۷۱۲		* مسجد (ولندیزی شوق المہند میں) : رگ بہ ولندیزی شوق المہند ، بذیل مادہ .
۱ ۷۱۲		* المسجد الاقصیٰ : بیت المقدس کی مشہور مسجد .
۱ ۷۱۲		* المسجد الحرام : مکہ معظمہ میں دنیا کی اولین ، عظیم ترین اور مقدس ترین مسجد .



جلد ۲۱

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۱ ۱		⑩ مَسْح : ایک قہبی اصطلاح ، بمعنی کسی عضو یا جبیرہ (پٹی) یا موزوں وغیرہ پر تر ہاتھ پھیرنا .
۲ ۲		* مَسْعَر بن مہلمیل : ابو دلف الخرزجی الینبوعی ، سامانی بادشاہ نصر ثانی بن احمد کا ایک درباری شاعر (م نواح ۵۳۹۵/۴۰۰۳ء) .
۲ ۳		* ⑩ مَسْعُود سَعْد سَامَان : عہد غزنوی میں عربی اور فارسی کا ایک مشہور شاعر (م ۵۵۱۵/۴۱۱۲۱ء) .
۱ ۱۲		* مَسْعُود بن محمد : ابو الفتح غیاث الدین ، عراق کا ایک سلجوقی بادشاہ (از ۵۲۹۹/۴۱۳۳ء تا ۵۳۳۷/۴۱۵۲ء) .
۱ ۱۵		* مَسْعُود بن مودود بن زنگی : عز الدین ابو الفتح (یا ابو المظفر) ، والی موصل (م ۵۵۸۶/۴۱۱۹ء) .
۱ ۱۶		⑩ مَسْعُود ابو سعید : سلطان محمود غزنوی کا بڑا بیٹا اور اس کا جانشین (۵۳۲۱/۴۱۰۳ء تا ۵۳۳۲/۴۱۰۴ء) .
۲ ۱۸		* المَسْعُودی : ابو الحسن علی بن الحسین ، نامور عرب مؤرخ اور جغرافیا نگار ، صاحب مروج الذهب (م ۴۳۴۵/۹۵۶ء) .
۲ ۲۰		* مَسْعَى : رگ بہ سعی .
۲ ۲۰		* ⑩ مَسْقَط : خلیج عمان کی ایک بندر گاہ اور سلطنت عمان کا پائے تخت .
۱ ۲۷		⑩ مَسْكَرَة : الجزائر کی قسمت وهران کا ایک شہر .
۲ ۲۸		⑩ مَسْكِين : ایک قہبی و لغوی اصطلاح ، بمعنی محتاج و ضرورت مند شخص .
۱ ۳۱		⑩ مَسَل : سکھوں کا ایک گروہ یا جتھا .
۱ ۳۵		* ⑩ مَسْلَم : ایک معروف اصطلاح ، بمعنی مذہب اسلام کا پیرو .
۲ ۳۹		* مَسْلَم بن الحجاج : امام ابو الحسین القشیری النیسابوری (۵۲۰۲/۸۱۷ء یا ۵۲۰۶/۸۲۱ء تا ۵۲۶۱/۸۷۵ء) ، اسلامی تاریخ کے ایک جلیل القدر محدث ، عالم اور شہرہ آفاق مجموعہ احادیث صحیح مسلم کے مؤلف .
۱ ۵۱		* مَسْلَم بن عقیبہ : ایک اموی سپہ سالار ، جنگ حرہ (۵۶۳/۶۸۳ء) میں اموی لشکر کا قائد اور مدینہ منورہ پر پہلا بیرونی حملہ آور .
		* ⑩ مَسْلَم بن عقیل : حضرت امام حسینؑ کے عم زاد بھائی ، کولے میں ان کے سفیر اور

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۳	واقعہ کربلا کے ایک اہم کردار (م ۵۶/۴۶۸)۔	* مُسَلِم بن قُرَيْش : شرف الدولہ ، ابو المکارم ، خاندان عقیلیہ کا ایک رکن اور شرق ادنیٰ کے آخری عرب حکمران خاندان کا فرمانروا (م ۵۳۷۸/۴۱۰۸۵)۔
۱ ۶۰		* مسلم بن الولید : انصاری ، عرف صریح الغوانی ، یعنی خوبرو عورتوں کا کشتہ ناز (۵۱۳۰/۴۷۳۷ و ۵۱۳۵/۷۵۷ تا ۵۲۰۸/۴۸۲۳) ، ابتدائی عباسی دور کا ایک شاعر۔
۱ ۶۲		⊗ مُسَلِم لیگ : (قیام ۶۰۹ء) ، مسلمانان برعظیم پاک و ہند کی نمائندہ اور پاکستان کی بانی سیاسی جماعت۔
۲ ۶۳		* مُسَلِمَان : رک بہ مسلم۔
۱ ۱۲۷		* مُسَلِمہ بن عبدالمَلک : دوسرے مروانی خلیفہ عبدالملک کا بیٹا ، ممتاز سپہ سالار اور آرمینیا کا عامل۔
۱ ۱۲۷		* مُسَنَد : رک بہ حدیث۔
۱ ۱۲۹		⊗ مِسْوَاک : ایک قہنی اصطلاح ؛ دانت صاف کرنے کے لیے ریشہ دار ٹہنی کا ٹکڑا۔
۱ ۱۲۹		⊗ الْمَسِيح : حضرت عیسیٰ [رک ہاں] کا لقب ، بمعنی صدیق ، بابرکت ، نیز ہاتھ پھیر کر شفا بخشنے والا۔
۲ ۱۳۰		* مَسِيحِي : (ابتداء عیسیٰ) ، سلطان بایزید ثانی کے عہد کا ایک اہم عثمانی شاعر (م ۱۸۱۸ء)۔
۲ ۱۳۲		⊗ مَسِيْلَةُ الْكُذَّاب : ابو ثمامہ مَسِيْلَمَةُ بن ثمامہ ، یمامہ کا جھوٹا مدعی نبوت (م ۱۱۱ یا ۱۱۲/۶۳۲ - ۶۳۳ء)۔
۱ ۱۳۳		⊗ مُسَالِفہ : میخائیل بن جرجیس (۱۸۰۰ تا ۱۸۸۰ء) ، علم موسیقی پر لکھنے والا نامور عرب مصنف۔
۱ ۱۳۹		* الْمَشِيْهَةُ : رک بہ تشبیہ۔
۲ ۱۴۰		* الْمَشْتَا : اردن میں اموی دور کا ایک سرمائی محل (آج کل کھنڈر)۔
۱ ۱۴۶		⊗ الْمَشْتَرِي : ایک معروف سیارہ۔
۱ ۱۴۷		⊗ مُشْرِك : رک بہ شرک۔
		* (بنو) مُشْعَع : خوزستان میں حویزہ کا ایک شیعہ عرب خاندان ؛ بانی : محمد بن فلاح (م ۵۸۷۰/۴۶۵)۔
۲ ۱۴۷		* مُشْهَد : ایران کے صوبہ خراسان کا صدر مقام اور شیعوں کی بڑی زیارت گاہ۔
۲ ۱۵۵		* مُشْهَد حَسِيْن : (کربلا) فرات کے مغرب میں ایک مقام اور حضرت امام حسینؑ کی شہادت گاہ۔
۱ ۱۷۳		* مُشْهَد (حضرت) عَلِي : رک بہ نجف۔
۱ ۱۷۸		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۱۷۸		* بشہدِ مصریوں : ماورائے خزر (ترکمانستان) کا ایک خرابہ .
۱ ۱۷۹		* بشیر : صلاح کار ، ایک سرکاری عہدیدار ؛ نیز رگ بہ مستشار .
۳ ۱۸۱		* مصادرہ : مالیانہ اراضی سے متعلق ایک اصطلاح .
۱ ۱۸۲		⊗ المصحف : قرآن مجید کا نسخہ .
۱ ۱۸۳		* بصحف رش : رگ بہ کتاب الجلوہ .
۱ ۱۸۴		⊗ مصحفی : رگ بہ غلام ہمدانی .
		* بصر : اسم معرفہ : (۱) مصری کا برہری اور قبطنی جدی نام ؛ (۲) ایک مشہور اسلامی ملک ؛ قاہرہ کا قدیم نام ؛ اسم نکرہ ؛ شہر یا صدر مقام (جمع : امصار) .
۱ ۱۸۶		⊗ مصر : بر اعظم افریقہ میں واقع معروف اسلامی ملک .
۳ ۲۲۶		* بصرع : (بصرع) ، علم عروض کی ایک اصطلاح ، بیت کے دو جزوں میں سے ایک جز .
۱ ۲۲۷		* بصری : رگ بہ نیازی .
۱ ۲۲۷		* بصیص : دریائے جیحان کے کنارے کیلیکیا کا ایک شہر .
		* مصطفیٰ : عثمانی خاندان کے متعدد شہزادے ، مثلاً (۱) مصطفیٰ چلبی بن سلطان بایزید اول (م ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ء) ؛ (۲) مصطفیٰ بن سلطان محمد اول (م نواح ۱۳۲۳ء) .
۲ ۲۲۸		* مصطفیٰ : سلطان سلیمان قانونی کا بیٹا اور اپنے باپ کے خلاف مدعی حکومت (م ۱۵۵۳ء) .
۲ ۲۲۹		* مصطفیٰ اول : پندرہواں عثمانی سلطان (از ۱۶۱۷ تا ۱۶۱۸ء و ۱۶۲۲ تا ۱۶۲۳ء) .
۲ ۲۳۰		* مصطفیٰ دوم : بائیسواں عثمانی سلطان (۱۶۹۵ تا ۱۷۰۳ء) .
۲ ۲۳۱		* مصطفیٰ سوم : سلطنت عثمانیہ کا چھبیسواں حکمران (۱۷۵۷ تا ۱۷۷۳ء) .
۲ ۲۳۲		* مصطفیٰ چہارم : سلطنت عثمانیہ کا اٹیسواں سلطان (۱۸۰۷ تا ۱۸۰۸ء) .
۱ ۲۳۸		* مصطفیٰ پاشا بوشاقلی : اسکودار کا آخری موروثی وزیر (م ۱۸۶۰ء) .
۱ ۲۳۹		* مصطفیٰ پاشا براقدار : (۱۷۵۰ تا ۱۸۰۸ء) ، ترکیہ کا ایک صدر اعظم .
۲ ۲۴۰		* مصطفیٰ پاشا کوپرلی : رگ بہ کوپرلی .
۲ ۲۴۰		* مصطفیٰ پاشا لالا : دولت عثمانیہ کا ایک مشہور سپہ سالار (۱۵۸۰ء) .
۲ ۲۴۲		* مصطفیٰ دوزہ : رگ بہ لاٹڈن ، بار دوم .
۱ ۲۴۲		* مصطفیٰ کاتب چلبی : رگ بہ حاجی خلیفہ .
		* مصطفیٰ کاسل پاشا : (۱۸۷۳/۱۲۹۱ء تا ۱۹۰۸/۱۳۲۶ء) ، مصر میں دوسری قومی تحریک کا رہنما .
۱ ۲۴۲		* مصطفیٰ کمال : رگ بہ اتا ترک .
۲ ۲۴۵		* المصطفیٰ لدین اللہ : رگ بہ نزار بن المستنصر .
۱ ۲۴۵		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۲۳۵	۵۱۵۶/۵۷۷۳ تا ۵۲۳۶/	⊗ مُصَعَّب : بن عبدالله بن مصعب بن ثابت الزبیری الاسدی (۵۱۵۶/۵۷۷۳ تا ۵۲۳۶/۵۸۵۱) ، ایک ممتاز عالم ، راوی حدیث و نسب اور نامور مصنف .
۱ ۲۳۶		* مُصَعَّب بن الزبیر : حضرت زبیر بن العوام کے فرزند ، حضرت عبدالله بن زبیر کے بیٹائی اور عراق کے عامل (م ۵۷۲/۵۶۹۱) .
۱ ۲۳۸		* مُصَعَّب بن عمیر : قریش کے خاندان عبدالدار کے ایک صحابی ، مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبلغ اور غزوہ احد میں علمبردار اور شہید (م ۵۳/۵۶۲۵) .
۲ ۲۳۸		⊗ * مُصَلًی : مختلف مقامات پر اس نام سے تعمیر کی جانے والی عمارتیں ، خصوصاً شہر سے باہر عیدگاہ یا جنازہ گاہ .
۱ ۲۵۳		* الْمُصَمِّغَان : ایک زرتشتی حکمران خاندان .
۲ ۲۵۳		* مَضْمُودَہ : برائیوں کی ایک شاخ اور بربر نسل کا ایک بڑا گروہ .
۲ ۲۵۳		* مُصَنَّفک : علاء الدین علی بن محمد البسطامی : رگ بہ البسطامی .
۲ ۲۵۳		* مُصَوِّر : رگ بہ (۱) فن (مصوری) : (۲) تصویر .
۲ ۲۵۳		⊗ * الْمُصَوِّر : (ع) اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک .
۲ ۲۵۵		* مُصِيَاد : شمالی شام کا ایک شہر .
۱ ۲۵۷		* الْمُضَاجِع : قرآن مجید کی سورۃ السجدہ [رگ باں] کا ایک نام .
۱ ۲۵۷		* مُضَارِع : عربی عروض میں بارہویں بحر .
۲ ۲۵۷		* مُضِر : رگ بہ ربیعہ و مضر .
۲ ۲۵۷		* مُضْمُون : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی ضمانت .
۱ ۲۵۸		* مُطَالِع : رگ بہ مطلع .
۱ ۲۵۸		* مُطْرِح : سلطنت عمان میں مشرقی ساحل عرب کا ایک شہر .
۲ ۲۵۸		* الْمُطْرِزِي : ابو الفتح ناصر بن عبد السید بن علی بن المطرز (۵۵۳۸/۵۱۱۳۳ تا ۵۶۱۰/۵۶۱۰) ، ایک نحوی ، ادیب اور فقیہ .
۱ ۲۵۹		* مُطْفِرَہ : ایک بربری گروہ کا نام .
۲ ۲۵۹		* مُطَّلِع : علم فلکیات کی ایک اصطلاح ، بمعنی صعود .
۲ ۲۶۲		* مُطَّلِق : ایک مختلف المعانی اصطلاح .
۲ ۲۶۳		* مُطْمَاطِہ : ایک بربری قبیلے کا نام .
۱ ۲۶۳		* مُطَوِّف : وہ شخص جو دوسروں کو طواف کرائے ، معلم الحجاج .
۲ ۲۶۵		* الْمُطَّيْع لله : ابو القاسم الفضل بن المقتدر ، ایک عباسی خلیفہ (۵۳۳۳/۵۹۳۶ تا ۵۳۶۳/۵۹۷۳) .
		* الْمُطْفِر : دوسرے عامری حاجب ابو مروان عبدالملک کا اعرازی لقب (۵۳۹۲/۵۱۰۰ تا ۵۳۹۲/۵۱۰۰) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۲۶۶		۱۰۰۸/۵۳۹۹ (ع)
۱ ۲۶۸		* المظفر بن علی : رک بہ عمران بن شامین .
۱ ۲۶۸		⊗ مظفر الدین : ایران میں خاندان قاچار کا پانچواں بادشاہ (از ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۷ء) .
۱ ۲۶۹		* المظفر عمر بن ایوب : رک بہ حماة .
۱ ۲۶۹		* مظفریہ : فارس و عراق کا حکمران ایک ایرانی خاندان .
		⊗ مظہر جانجاناں : حضرت شاہ شمس الدین حبیب اللہ مرزا (مابین ۱۱۰۹ھ/۱۶۹۷ء و ۱۱۱۳ھ/۱۷۰۱ء تا ۱۱۹۵ھ/۱۷۸۱ء) ، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے
۲ ۲۷۲		عظیم صوفی بزرگ اور نامور اردو شاعر .
۱ ۲۷۷		* معاد : رک بہ رجوع .
		⊗ معاذ بن جبل : بن عمرو بن اوس الانصاری، ایک ممتاز صحابی اور عامل یمن (م ۱۸ھ/۵۶۳ء)
۱ ۲۷۷		۵۶۳۹ (ع)
۲ ۲۷۸		⊗ المعارج : قرآن مجید کی اناسیویں سورۃ .
۱ ۲۸۰		* معازف : عود اور طنبور کی قسم کے آلات موسیقی .
۲ ۲۸۱		* معافر : جنوبی عرب کا ایک قبیلہ .
۲ ۲۸۲		⊗ معاقل : دیت و خون بہا : بیمہ کی مترادف ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۲۸۹		⊗ معاملات : رک بہ عبادات .
۱ ۲۸۹		* معاوضہ : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی تبادلۃ جنس بالجنس .
		⊗ معاویہ (امیر) : بن ابو سفیان، قریش کے قائد عسکر، قبول اسلام کے بعد کاتب وحی ، عہد خلافت فاروقی و عثمانی میں عامل شام، بعد ازاں مسلمانوں کے امیر (از ۳۱ھ/۶۶۱ء تا ۴۰ھ/۶۶۸ء) ، نیز بانی خلافت اموی دمشق (۴۱ھ/۶۶۱ء تا ۵۰ھ/۶۶۸ء) و خلافت اموی اندلس (۵۶ھ/۷۱۳ء تا ۱۰۳ھ/۷۵۶ء) .
۳ ۲۹۰		۲۹۰ (ع)
۲ ۳۰۳		* معاویۃ بن عبید اللہ : رک بہ ابو عبید اللہ .
۲ ۳۰۳		⊗ معاہدہ : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی دو فریقوں یا افراد کا آپس میں کوئی عہد کرنا .
		* معبد : ابو عباد معبد بن وہب ، ابتدائی اموی دور کا ایک ممتاز مغنی اور موسیقار (م ۲۶ھ/۷۲۳ء) .
۲ ۳۰۶		۳۰۶ (ع)
۲ ۳۰۷		* المعبری : زین الدین، مالا بار کی تاریخ تحفة المجاہدین کا مصنف (حیات ۹۸۵ھ/۱۵۷۷ء) .
		* المعتز باللہ : ابو عبد اللہ محمد (یا الزبیر) بن جعفر ، ایک عباسی خلیفہ (از ۲۵۲ھ/۸۶۶ء تا ۲۵۵ھ/۸۶۹ء) .
۱ ۳۰۸		۳۰۸ (ع)
۱ ۳۰۹		⊗ معتزلہ : علم کلام کا ایک مدرسۃ فکر اور ایک مشہور فرقہ .
		* المعتصم : محمد بن معن، المریہ کے تجیبی خاندان کا دوسرا حکمران (۳۳۳ھ/۱۰۵۱ء تا ۳۸۳ھ/۱۰۹۱ء) .
۱ ۳۲۵		۳۲۵ (ع)

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۲۵	(۵۸۳۲/۵۲۲۷ تا ۵۸۳۳/۵۲۱۸)	* للمعتصم بالله : ابو اسحق محمد ، نامور عباسی خلیفہ
۲ ۳۲۷	(۵۹۰۲/۵۲۸۹ تا ۵۸۹۲/۵۲۷۹)	* المعتضد بالله : ابو العباس احمد ، عباسی خلیفہ
۲ ۳۲۸	(۵۱۰۶۷/۵۳۶۰ تا ۵۱۰۳۲/۵۳۳۳)	* المعتضد بالله : ابو عمرو عباد بن محمد ، اشبیلیہ کا سب سے زبردست عبادی حکمران
۲ ۳۳۱	(۵۱۶۳۹)	* معتمد خان : محمد شریف ، ہندوستان کے مغل شہنشاہوں جہانگیر اور شاہجہان کا معتمد سردار اور اقبال نامہ جہانگیری وغیرہ کا مصنف (م ۵۱۰۳۹)
۱ ۳۳۲	(۵۸۹۲/۵۲۷۹)	* المعتمد علی اللہ : ابو العباس احمد بن جعفر ، ایک عباسی خلیفہ (۵۸۷۰/۵۲۵۶ تا ۵۸۷۱/۵۲۷۹)
۱ ۳۳۳	(۵۱۰۶۹ تا ۵۱۰۹۰/۵۳۸۲ ؛ م ۵۱۰۹۵/۵۳۸۷)	* المعتمد علی اللہ : محمد بن عباد المعتضد ، اشبیلیہ کا تیسرا اور آخری حکمران (۵۳۶۱/۵۳۶۱)
۱ ۳۳۷		⊗ معجزہ : اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کی نصرت و تائید کے لیے ان سے ظاہر ہونے والے خارق عادت کام یا فعل کے لیے ایک اسلامی اصطلاح .
۲ ۳۴۱		⊗ المعجم : عربی زبان کے حروف تہجی اور ان کی ترتیب کے اعتبار سے تصنیف کی جانے والی مختلف النوع کتابیں .
۱ ۳۴۶		* معد : عربوں کے جد امجد (ابو العرب) معد بن عدنان ، حضرت اسماعیل کی اولاد .
۲ ۳۴۶		⊗ معراج : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک معجزانہ واقعہ .
۱ ۳۵۱		* معرۃ مصرین : یا مصرین ، حلب کے ایک ناحیہ کا صدر مقام .
۲ ۳۵۳		* معرۃ النعمان : شمالی شام کا ایک شہر .
۱ ۳۶۱		⊗ معرفت : تصوف کی ایک اصطلاح ، حق تعالیٰ کو اس کے اسما اور صفات کے ساتھ پہچاننا .
۱ ۳۶۵		⊗ معروف الرصافی : بن عبدالغنی البغدادی (۵۱۸۷۵ تا ۵۱۹۳۵) ، عصر حاضر میں عراق کا نامور شاعر اور ادیب .
۲ ۳۶۶		* معروف الکرخی : ابو محفوظ بن فیروز ، دبستان بغداد کے مشہور و معروف صوفی اور زاہد (م ۵۲۰۰/۸۱۵ - ۵۸۱۶)
۲ ۳۶۷		⊗ المعز : عزت و طاقت والا ؛ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک .
۱ ۳۶۸		* المعز بن بادیس : رگ بہ زیدی (بنو) .
۱ ۳۶۸		* معز الدولة : ابو الحسن احمد بن ابی شجاع بویہی (۵۳۰۳/۵۹۱۶ تا ۵۳۵۶/۵۹۶۷) ، ایک بویہی حکمران .
۲ ۳۶۹		* المعز لدین اللہ : ابو تعیم معد بن اسمعیل ، چوتھا فاطمی خلیفہ (۵۳۳۱/۵۹۵۳ تا ۵۳۶۵/۵۹۷۵)

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
		*⊗ معزی : امیر عبداللہ محمد بن عبدالملک (نواح ۱۰۳۸/۵۳۳ - ۶۱۰۳۹ تا ۵۵۳۲/۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ء) ، ایرانی دربار کا مشہور شاعر .
۲	۳۷۲	⊗ المَعطی : عطا کرنے والا ؛ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ایک .
۲	۳۷۲	* المَعظم : رُک بہ توران شاہ .
۱	۳۷۳	⊗ المَعلم و المتعلم : رُک بہ المتعلم و المعلم .
۱	۳۷۳	* معلولاء : وسطی شام کا ایک قصبہ .
۱	۳۷۳	* معمر بن المثنی : رُک بہ ابو عبیدہ .
۱	۳۷۳	* المعما : بہیلی ، جیستان ؛ ایک ادبی اصطلاح .
۲	۳۷۳	* معمورة العزیز : مزرہ کے نئے شہر کا نام .
۱	۳۷۶	* معن (بنو) : سولہویں ، سترہویں صدی میں امرائے لبنان کا ایک خاندان .
		* معن بن اوس : ابتدائی اسلامی دور میں بنو مزینہ کے قبیلے کا ایک مسلمان شاعر (حیات ۵۶۳/۶۸۳ء) .
۱	۳۷۸	*⊗ معن بن زائدہ : ابو الولید الشیبانی ، ایک مسلم سپہ سالار اور حاکم ولایت (۱۵۱۸ء یا ۱۵۲ یا ۱۵۸ء) .
۱	۳۷۹	* معن السلمی : بن یزید بن الاخنس بن حبيب السلمی ، ایک صحابی رسول (م ۵۳۳/۶۷۳ء) .
۲	۳۸۰	* معن بن محمد : بن احمد بن صمادح التجیبی ، ابو الاحوص ، العربیہ کے ایک حکمران خاندان کا بانی (م ۵۲۲/۶۰۳ء) .
۱	۳۸۱	* معنی : ایک عربی اصطلاح ، بمعنی مفاد و مطلب .
۲	۳۸۱	⊗ معوذتین : قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کا مشترکہ نام .
۱	۳۸۳	⊗ المعید : دوبارہ پیدا کرنے والا ؛ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ایک .
۱	۳۸۵	⊗ معین الدین اجمیری ، خواجہ : رُک بہ چشتی .
		* معین الدین سلیمان پروانہ : مغول کے حملے کے بعد ایشیائے کوچک میں سلاجقہ کا نائب السلطنت (م ۵۶۷/۱۲۷۷ء) .
۱	۳۸۵	* معین المسکین : معین الدین محمد امین الفراهی الہروی ، ایک مشہور و معروف عالم دین ، محدث اور مصنف (م ۱۵۰۱/۵۹۰ء - ۱۵۰۲ء) .
۲	۳۸۶	* مغادر : مراکش کا ایک شہر .
۲	۳۸۷	* مغراوہ : بربرقبائل کا ایک بہت بڑا گروہ یا خاندان .
۲	۳۸۸	* المغرب : بربرستان یا افریقہ کوچک کے لیے عرب مصنفین کی ایک اصطلاح .
۱	۳۹۰	* المغربی : متعدد وزراء ، (۲) علی بن الحسین ، حاب اور مصر وغیرہ کا ایک اہم سرکاری عہدیدار (م ۵۳۰/۶۱۰ء) ؛ (۳) الحسین بن علی ابو القاسم المعروف بہ الوزير المغربی ، (۴) ۵۸۱/۶۶۱ء تا ۵۳۱/۶۱۰ء عراق کے بولسہی حاکم

صفحہ ۵-ورد	اشارات	عنوان
۱ ۳۹۱	مشرف الدولہ کا وزیر : (۳) ابو الفرج محمد بن جعفر ، مصر کا ایک وزیر	(م ۵۳۷۸/۸۵۰۸۵) .
۲ ۳۹۲		* مغل : ہندوستان کے شہنشاہوں کا ایک خاندان (۱۵۲۶ تا ۱۸۵۷ء) .
۱ ۳۱۶		* المغمس : مکہ مکرمہ کے قریب مقدس رقبے کی سرحد پر ایک وادی .
۲ ۳۱۶		* المغنطیس : چنیک پتھر اور قطب نما .
۲ ۳۲۱		⊗ المغنی : بے پروا ، دوسروں سے بے نیاز کرنے والا ؛ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک .
۲ ۳۲۲		* مغنیسہ : صارو خان کی لایت کا صدر مقام .
۲ ۳۲۲		⊗ المغیرہ : بن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود الثقفی المعروف بہ مغیرۃ الرای ، مشہور صحابی رسول اور عرب کے ایک ناسور قائد اور مفکر (م ۵۵/۵۵) .
۱ ۳۲۳		* مفاخرہ : عہد جاہلی کی ایک ادبی اصطلاح ، بمعنی ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا .
۲ ۳۲۳		* مفتی : رک بہ الفتاوی .
۱ ۳۲۵		⊗ مفتی غلام سرور : رک بہ غلام سرور ، مفتی
۱ ۳۲۵		* المفضل : بن محمد الضبی ، ماہر لسانیات اور ایک مجموعہ قصائد المفضلیات کا مرتب (م ۱۶۳ یا ۱۶۸ یا ۵۱۷) .
۱ ۳۲۵		* المفید : شیخ ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن النعمان الحارثی ، المعروف بہ ابن العلم ، بویہی عہد حکومت میں بغداد کے ایک ممتاز اثنا عشری عالم اور مصنف (م ۳/۵۳۰۲۲/۶۱۰۲۲) .
۲ ۳۲۷		* مقابلہ : علم ہیئت کی ایک اصطلاح ، کسی سیارے اور سورج کا یا دو سیاروں کا باہم تقابل .
۲ ۳۲۹		* مقاتل بن سلیمان : بن بشیر الازدی ، ایک نامور محدث اور مفسر قرآن (م ۵۱۵/۵۱۵) .
۱ ۳۳۰		(۶۷۶ء) .
۱ ۳۳۱		* مقاسمہ : (بٹائی) ، خلفا کے زمانے میں زمین کا خراج وصول کرنے کی ایک شکل .
۲ ۳۳۱		* مقام : مقام ابراہیم ، رک بہ کعبہ .
۲ ۳۳۱		⊗ مقاسمہ : رک بہ علم .
۲ ۳۳۱		⊗ المقتدر : رک بہ الاسماء الحسنی .
۲ ۳۳۱		* المقتدر باللہ : ابو الفضل جعفر بن احمد ، ایک عباسی خلیفہ (۵۶۹/۵۶۹ تا ۵۳۲/۵۳۲) .
۲ ۳۳۱		(۵۹۳۲) .
۲ ۳۳۱		⊗ مقتدی : رک بہ (۱) امام ؛ (۲) صلوة .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۳۳	۴۱۰۹۳/۵۳۸۷	* المقتدی بامر اللہ : ابو القاسم عبداللہ بن محمد ، ایک عباسی خلیفہ (۵۳۶/۷۵ تا ۵۴۵/۷۵)
۲ ۳۳۳		* مقتضب : عربی عروض میں تیرھویں بحر ۔
۱ ۳۳۴	۴۱۱۳۶/۵۵۳۰	* الحقتی لاسرائلہ : ابو عبداللہ محمد ، ایک عباسی خلیفہ (۵۵۳۰/۵۱۱ تا ۵۵۵۵/۵۱۱)
۱ ۳۳۵	۴۱۰۳۲/۵۳۳۳	* المقتنی : بہاء الدین ، ایک دروزی مبلغ اور مصنف (حیات ۵۳۳۳/۴۱۰۳۲) ۔
۲ ۳۳۶	۴۱۰۰۰/۵۳۹۱	* المقدسی : شمس الدین ابو عبداللہ محمد المقدسی المعروف بہ البشاری ، ایک مشہور عرب عالم اور ماهر جغرافیہ دان ، احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم ، وغیرہ کا مصنف (م ۵۳۹۱/۴۱۰۰۰) ۔
۲ ۳۳۸		* مقدم : (۱) سامنے رکھا ہوا ؛ (۲) جنگی قائد ، سردار ؛ (۳) علم منطق اور علم حساب کی ایک اصطلاح ۔
۱ ۳۳۹		* المقدم : رک بہ الاسماء الحسنی ۔
۱ ۳۳۹		* مقدشو : بحر ہند کے ساحل پر مشرقی افریقہ کا ایک شہر ۔
۲ ۳۴۱		* مقرنس : مسلم فن تعمیر کی ایک اصطلاح ، بمعنی آرائشی ڈھانچہ یا متصل دیوار گیری ۔
۱ ۳۴۳		* مقری : یمن کا ایک علاقہ اور گاؤں ۔
۲ ۳۴۴	۴۱۰۳۱/۵۱۰۳۱	* المقری : ابو العباس احمد بن محمد التلمسانی (۱۵۹۱/۵۱۰۳۱ - ۱۵۹۲/۴۱ تا ۵۱۰۳۱/۵۱۰۳۱)
۲ ۳۴۴	۴۱۰۳۲/۵۸۳۵	* المقریزی : ابو العباس تقی الدین احمد (۱۳۶۳/۵۷۶۶ - ۱۳۶۵/۴۱ تا ۵۸۳۵/۴۱۰۳۲) ، ایک نامور مصری فاضل ، مؤرخ اور مصنف الخطط وغیرہ ۔
۲ ۳۴۹		* مقصورہ : رک بہ مسجد ۔
۲ ۳۴۹		* المقطم : دریائے نیل کی مغربی جانب ایک کوہستانی سلسلہ ۔
۱ ۳۵۱	۴۱۰۰۰/۵۳۹۱	* المقلد بن المسیب : حسام الدولہ ابو حسان ، موصل کا ایک فرمانروا (م ۵۳۹۱/۴۱۰۰۰) ۔
۱ ۳۵۲		* المقنطرات : رک بہ اصطراب ۔
۱ ۳۵۲	۵۷۸۰/۵۱۶۳	* المقنع : الخراسانی ، ایک معروف شعبدہ باز اور مدعی الوہیت (م ۵۱۶۳/۵۷۸۰) ۔
۱ ۳۵۳		* المقولس : عہد نبویؐ میں مصر میں ہرقل (قیصر روم) کا نائب ۔
۲ ۳۵۶		* المقولات : (Categories) ، مسلم فلاسفہ کے ہاں ارسطو کی دس اجناس عالیہ (المقولات العشر) کا نام ۔
۲ ۳۶۱		* مقیاس : پیمائش کا کوئی سادہ آلہ ۔
۲ ۳۶۲		* المہیت : رک بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی ۔
۲ ۳۶۲		* مکاتب : رک بہ مدارس ۔
۲ ۳۶۲		* مکاتبات : رک بہ دستاویزات ، فرامین ۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۶۲		* مَکاسِر : (مکسر) ، اندولیشیا میں جزیرہ سیلبس (Celebes) کی ایک بندرگاہ .
۲ ۳۶۶		* مکتب : قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کا مدرسہ .
۱ ۳۷۲		* المکتلی باللہ : ابو محمد علی بن احمد ، ایک عباسی خلیفہ (از ۵۲۸۹/۵۹۰۲ تا ۵۲۹۵/۵۹۰۸) .
۱ ۳۷۳		⊗ مکتوبات : مکتوب نگاری ، ایک صنف انشا .
۱ ۳۷۳		⊗ مکتوبات امام ربانی : حضرت مجدد الف ثانی (م ۱۰۳۳ھ) کے اپنے معتقدین کے نام دینی اعتبار سے بہت اہم مکتوبات .
۱ ۳۷۹		* مَکْران : بلوچستان (پاکستان) کا ساحلی علاقہ .
۲ ۳۸۳		⊗ مَکْرُوہ : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی شرعی اعتبار سے ناپسندیدہ امر .
۲ ۳۸۵		* مَکْرِي : رگ بہ مہری .
۲ ۳۸۷		* مَکْس : ایک مالیاتی اصطلاح ، بمعنی باج و محصول .
۲ ۳۸۷		* مَکَلَا : عرب کے جنوبی ساحل پر ایک بندرگاہ .
۱ ۳۹۱		* مَکْناس : (مکناسۃ الزيتون) ، مراکش کا ایک شہر .
۲ ۳۹۲		* مَکُوس : رگ بہ مکس .
۱ ۳۹۳		⊗ مَکَّة المَکْرَمہ : جزیرہ نماے عرب کے صوبہ حجاز کا مرکزی شہر اور عالم اسلام کا روحانی مرکز .
۱ ۳۹۳		* المَکِّي : ابو طالب محمد بن علی الحارثی ، ایک عرب محدث ، صوفی اور سلسلہ سالمیہ کے شیخ (م ۵۳۸۶/۵۹۹۶) .
۲ ۵۱۹		* المَکین بن العمید : جرجیس عبداللہ بن ابی الیاسر ، ایک عیسائی فاضل اور تاریخ عالم
۲ ۵۱۹		المجموع المبارک کا مصنف (م ۵۶۷۲/۵۱۲۷) .
۱ ۵۲۲		* مَلاجِم : تقدیر یا قسمت کے کھیل ، نیز مستقبل کی پیشینگوٹیاں ، وغیرہ .
۱ ۵۲۵		* مَلازِ گُرد : ارمینیہ کا ایک ضلع اور شہر .
۲ ۵۲۵		* مَلاَس : (ملاس) ، جنوب مغربی آناطولی کا ایک شہر .
۲ ۵۲۶		* مَلاکا : رگ بہ ملکا .
۲ ۵۲۶		⊗ مَلاَتیہ : صوفیہ کا گروہ .
۱ ۵۳۳		⊗ مَلائِکَہ : فرشتے (= واحد : مَلک) .
۲ ۵۳۱		* مَلائِی : اہل ملایا .
۲ ۵۳۳		⊗ مَلاِیا : جزیرہ نماے ملایا .
۲ ۵۳۶		⊗ مَلائان : (مولتان) ، پنجاب (پاکستان) کا ایک اہم تاریخی شہر اور اسی نام کی قسمت کا صدر مقام .
۱ ۵۶۳		* مَلاَحَہ : رگ بہ حماہ .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۵۶۳		* مَلَطِيَه : بالائی فرات کے قریب ایک قدیم شہر .
۱ ۵۶۴		⊗ مَلَقَه : رگ بہ سلکا .
۱ ۵۶۴		⊗ مَلِك : قرآن مجید کی سرسٹھویں سورہ .
۲ ۵۶۸		* مَلِك : (ع) اقتدار ، حکومت وغیرہ .
۱ ۵۶۹		* مَلِك : ایک مالیاتی اصطلاح ، بمعنی قبضہ ، ملکیت وغیرہ .
۱ ۵۷۰		* مَلِك : بادشاہ ، قرآن مجید میں دلیوی حکمرانوں کے لیے مستعمل لفظ .
		⊗ مَلِك ارسلان غزنوی : سلطان مسعود سوم کا بیٹا اور سلسلہ غزنویہ کا ایک بادشاہ
۲ ۵۷۱		(۱۱۱۶/۵۵۰۹ تا ۱۱۱۸/۵۵۱۲) .
۲ ۵۷۳		⊗ مَلِك خَطِي خان : ہمایوں (رگ بان) کو پناہ دینے والا بلوچستان کا ایک نامور سردار .
		⊗ مَلِك سرور : خواجہ جہاں ، عہد تغلق میں صدر خواجہ سرا ، بعد ازاں وزیر اور مشرقی
۱ ۵۷۳		صوبوں کا حاکم (م ۸۰۳/۱۳۰۰) .
		⊗ مَلِك شاہ : بن الپ ارسلان ، ابو الفتح ، ایک سلجوقی سلطان اور مشہور فاتح (۸۶۵/
۲ ۵۷۳		۱۰۷۲ تا ۱۰۹۲/۸۳۸۵) .
۲ ۵۷۸		⊗ مَلِك عبدالرحیم خواجہ خیل : جنگ آزادی کا ایک بلوچ رہنما (م ۱۹۶۵) .
		* مَلِك عنبر حبشی : ایک حبشی سردار اور مقلید دور میں دکن میں بڑے اثر و رسوخ
۱ ۵۷۹		والا جرنیل (م ۱۰۳۵/۱۶۲۵) .
		* المَلِك الكاسل اول : ناصر الدین ابو المعالی محمد بن عبدالملک العادل ، خانوادہ ایوبی
۲ ۵۷۹		کا ایک بادشاہ (۱۱۹۸/۵۵۹۵ تا ۱۲۳۸/۵۶۳۵) .
۱ ۵۸۱		* المَلِك الكاسل ثانی : رگ بہ شعبان .
		* المَلِك المعظم : شرف الدین عیسیٰ بن ملک العادل ، خانوادہ ایوبیہ کا ایک حکمران
۱ ۵۸۱		(۱۲۰۰/۵۵۹۷ تا ۱۲۲۷/۵۶۳۳) .
		* المَلِك المؤيد سيف الدين شيخ المحمودي : مصر کا ایک مملوک حکمران (۵۸۱۵/
۱ ۵۸۲		۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱/۵۸۲۳) .
۲ ۵۸۳		* مَلِكَا : (مَلَقَه) ، جزیرہ نماے ملایا کے مغربی ساحل پر ایک شہر .
۱ ۵۸۶		⊗ مَلَا : مولا ، مولای ، ایک کثیر الاستعمال لفظ ، بمعنی (۱) آقا ؛ (۲) غلام .
۲ ۵۸۷		* مَلَا خسرو : رگ بہ خسرو ملا محمد بن فرامرز .
		* مَلَا شاہ بدخشی : برعظیم پاک و ہند کی تاریخ ادبیات کا ایک مشہور شاعر ، مفکر
۲ ۵۸۷		اور صاحب معرفت بزرگ (م ۱۰۷۲/۱۶۶۱) .
۲ ۵۸۸		* مَلَا صدرا : رگ بہ صدرا ، ملا .
۲ ۵۸۸		⊗ مَلَا فاضل ولد : بلوچی زبان کا مشہور شاعر .
۲ ۵۸۹		⊗ مَلَا گوری : پاکستان کی شمال مغربی سرحد پر آباد ایک قبیلہ .

اشارات

صفحہ نمبر	عنوان
۱ ۵۹۰	⊗ مَلا مزار ہنگلزئی : بلوچستان کا مشہور شاعر اور مصنف (م ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء) .
۲ ۵۹۰	⊗ مَلا معالی : پاکستان کے معروف بزرگ سلطان العارفین سلطان باہو کے بلوچستان میں خلیفہ (م ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء) .
۱ ۵۹۲	⊗ (ابو البرکات) ملا منیر لاہوری : (۱۰۱۹ھ/۱۶۱۰ء تا ۱۰۵۳ھ/۱۶۳۳ء) ، لاہور فارسی شاعر اور نثر نگار ، متعدد کتابوں اور مثنویات کے مصنف .
۱ ۵۹۳	⊗ مَلا ملاح : مراکش کے شہروں میں یہودیوں کے محلوں کا نام .
۱ ۵۹۵	⊗ مَلا ملة : (ملت) ، شریعت و دین ، مذہب ، دھرم وغیرہ کے مفہوم میں ایک اصطلاح .
۱ ۵۹۷	* ملیانہ : الجزائر کا ایک شہر .
۱ ۵۹۸	* ملیہ : (مللا) ، مراکش کے مشرقی ساحل پر جزیرہ نماے جلیہ کی راس ورک (سابقاً ہرک) .
۱ ۵۹۹	* ممالیک : رک بہ مملوک .
۱ ۵۹۹	* ممتاز : برخوردار محمود ترکمان فراہی ، بارہویں صدی ہجری کا ایک ایرانی ادیب اور محفل آراء کا مؤلف .
۲ ۵۹۹	⊗ ممتاز محل : (۱۰۰۱ھ/۱۵۹۳ء تا ۱۰۳۰ھ/۱۶۳۱ء) ، تاج محل (آگرہ) میں خوابیدہ شاہجہان کی محبوب ملکہ .
۱ ۶۰۱	⊗ الممتحنۃ : قرآن مجید کی ساٹھویں سورہ .
۱ ۶۰۳	* ممکن : رک بہ منطق .
۱ ۶۰۳	* مملوک : (ج : ممالیک) ، مصر و شام کا ایک حکمران خاندان (۱۲۵۰ء تا ۱۵۱۷ء) .
۲ ۶۱۵	* الممیت : رک بہ الاسماء الحسنی .
۲ ۶۱۵	* مناة : عرب کی ایک قدیم دیوی .
۱ ۶۱۶	* منارہ : (مینار) مسلم فن تعمیر کی ایک اہم اصطلاح .
۱ ۶۲۶	* مناز گرد : رک بہ ملا ذکر .
۱ ۶۲۶	* المنازل : (واحد : المنزل) ، علم ہیئت کی ایک اصطلاح .
۱ ۶۲۷	* مناک : ایک قدیم عربی بت ، نیز ایک قبیلے کے بطن کا نام .
۱ ۶۲۷	⊗ منافق : محض دکھاوے اور دھوکا دینے کے لیے اسلام کا اظہار کرنے والوں کے لیے ایک قرآنی اصطلاح .
۱ ۶۳۲	⊗ المنافقون : قرآن مجید کی تریسٹھویں سورہ .
۱ ۶۳۳	* مناقب : بزرگان دین ، ائمہ مذاہب اور اولیائے کرام کے اوصاف و کمالات .
۲ ۶۳۳	* منبج : شمالی شام کا ایک قدیم شہر .
۲ ۶۳۶	* منبج : رک بہ مسجد .
۲ ۶۳۶	* منبسہ : ایک جزیرہ اور شہر .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۶۳۷		* مَنَش اَوغلو لری : آٹھویں صدی ہجری میں آناتولی کا ایک چھوٹا سا حکمران خالدان :
۱ ۶۳۹		* مَنَش اہلی : منشا آناتولی میں ایک چھوٹی سی ریاست .
۲ ۶۳۹		* المَنْصَر بالله : ابو جعفر محمد بن جعفر، ایک عباسی خلیفہ (از ۵۲۳۷/۵۸۶۱ تا ۵۲۳۸/۵۸۶۲) .
۱ ۶۳۰		* المُنْتَفِق : عرب قبیلے بنو عقیل کی ایک شاخ .
۲ ۶۳۰		* المُنْتَقِم : رک بہ (۱) اللہ ؛ (۲) الاسماء الحسنی .
۲ ۶۳۰		* مَنَجْم : رک بہ علم (النجوم) .
۲ ۶۳۰		* مَنَجْم ہاشمی : ایک ترک مؤرخ کا قلمی نام ، عمومی تاریخ جامع الدول کا مصنف (م ۱۱۱۳/۵۱۷۰ تا ۱۲۰۲/۵۱۷۰) .
۲ ۶۳۱		⊗ المَنْجِبِہ : رک بہ ملک (سورة الملک) .
۲ ۶۳۱		* مَنَد : سندھ کی ایک قدیم قوم .
۱ ۶۳۳		* مَنَد : (موند) ، فارس (ایران) کا سب سے لمبا دریا .
۲ ۶۳۳		⊗ مَنَدُوب : رک بہ مستحب .
۲ ۶۳۳		* مَنَدِيرِيز : مغربی آناتولی میں دو دریا .
۲ ۶۳۵		* مَنَد لگو : مغربی سودان کی ایک قوم .
۱ ۶۳۶		⊗ المَنْدَر بن محمد : ابو الحکم، اندلس کا ایک اموی خلیفہ (۵۲۷۳/۵۸۸۶ تا ۵۲۷۵/۵۸۸۸) .
۲ ۶۳۶		*⊗ مَنَسْرَح : عربی علم عروض میں دسویں بحر کا نام .
۲ ۶۵۰		⊗ مَنَسُوخ : رک بہ نسخ .
۲ ۶۵۰		* مَنَشُور : مصر میں قدیم عربوں کے دور حکومت کی ایک اصطلاح، بمعنی فلاحین (کسانوں) کو دیے جانے والے پروانے .
۲ ۶۵۳		* مَنَشِي : رک بہ انشاء .
۲ ۶۵۳		* مَنَصِف : ہندوستان کے برطانوی دور میں نچلے درجے کا سول جج .
۲ ۶۵۳		* المَنْصُور : حمادید خاندان کا چھٹا بادشاہ (از ۵۳۸۱/۱۰۸۸ تا ۵۳۹۸/۱۱۰۳) .
۱ ۶۵۵		* مَنصُور بن لُوح : دو سامانی حکمران : (۱) منصور بن لُوح ، ابو صالح ، شاہ خراسان و ماوراء النہر (۵۳۵۰/۹۶۱ تا ۵۳۶۵/۹۷۶) ؛ (۲) منصور بن لُوح ثانی ، ابو الحارث ، فرمانرواے ماوراء النہر (۵۳۸۷/۹۹۷ تا ۵۳۸۹/۹۹۹) .
۱ ۶۵۶		* المَنْصُور : ابو جعفر عبداللہ ، دوسرا عباسی خلیفہ (از ۵۱۳۶/۷۵۳ تا ۵۱۵۸/۷۷۷) .
۲ ۶۵۸		* المَنْصُور : احمد بن محمد ، مراکش کے سعیدی خاندان کا ساتواں بادشاہ (از ۱۵۷۸ تا ۱۶۰۳) .

صفحہ نمبر	اشارات	منوان
۱ ۶۶۷	فاتح اور ماهر سیاست دان (م ۵۳۹۲/۱۰۰۲ء)۔	* المنصور بن ابی عامر : دسویں صدی ہجری میں الدلس کا مشہور حاجب ، سپہ سالار ،
۲ ۶۷۲	۔ (ازم ۵۳۳۳/۶۹۳۶ تا ۵۳۳۱/۶۹۵۳ء)۔	* المنصور اسمعیل : ابو طاہر ، تیسرا فاطمی خلیفہ
۱ ۶۷۳	فرمانروا خاندان کا ہالی (م ۵۱۰۲۹/۱۶۲۰ء)۔	* المنصور بالله القاسم : یمن کے دو زیدی امام : (۱) القاسم بن علی العیالی (م ۵۳۹۳/۱۰۰۳ء) ، (۲) المنصور القاسم بن محمد ، یمن کے موجودہ
۲ ۶۷۶	منصور پوری ، قاضی : رک بہ محمد سلیمان سلمان قاضی ، منصور پوری ۔	* منصورہ : سندھ میں ابتدائی مسلم حکومت کا کئی صدیوں تک ہائے تخت ۔
۲ ۶۸۶	۔ (آجکل کھنڈر)۔	* المنصورہ : تلمسان (فاس) کا ایک قدیم شہر
۲ ۶۸۷	۔	* المنصورہ : دریائے نیل کی شاخ دمیاط پر زیوریں مصر کا ایک بڑا شہر ۔
۱ ۶۸۸	منطق : رک بہ علم (منطق) ۔	* منطق : رک بہ علم (منطق) ۔
۱ ۶۸۸	منطقہ یا منطقۃ البروج : علم ہیئت کی ایک اصطلاح ، بمعنی بارہ صور البروج کا دائرہ ۔	* منطقہ یا منطقۃ البروج : علم ہیئت کی ایک اصطلاح ، بمعنی بارہ صور البروج کا دائرہ ۔
۱ ۶۹۷	منف : رک بہ منوف ۔	* منف : رک بہ منوف ۔
۱ ۶۹۷	منف : قدیم مصری ہائے تخت منفس ۔	* منف : قدیم مصری ہائے تخت منفس ۔
۲ ۶۹۷	منکر : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی شریعت اسلامیہ میں کوئی ناپسندیدہ عمل ۔	* منکر : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی شریعت اسلامیہ میں کوئی ناپسندیدہ عمل ۔
۱ ۷۰۰	منکر لکیر : قبر میں آکر مردے سے سوال و جواب کرنے والے دو فرشتے ۔	* منکر لکیر : قبر میں آکر مردے سے سوال و جواب کرنے والے دو فرشتے ۔
۲ ۷۰۳	منگو تمر : آلوس مغل کا خان (۱۲۶۶ تا ۱۲۸۰ء)۔	* منگو تمر : آلوس مغل کا خان (۱۲۶۶ تا ۱۲۸۰ء)۔
۱ ۷۰۵	منگوچک : (منگو چک) ، ایک ترک امیر (حیات ۵۶۲۵/۱۱۲۸ء)۔	* منگوچک : (منگو چک) ، ایک ترک امیر (حیات ۵۶۲۵/۱۱۲۸ء)۔
۲ ۷۰۵	منگیت : ایک قبیلے اور قوم کا نام ۔	* منگیت : ایک قبیلے اور قوم کا نام ۔
۲ ۷۰۶	منگیشلاک : ایک کوہستانی جزیرہ نما ۔	* منگیشلاک : ایک کوہستانی جزیرہ نما ۔
۱ ۷۰۷	منویۃ : رک بہ عائشۃ المنویۃ ۔	* المنویۃ : رک بہ عائشۃ المنویۃ ۔
۲ ۷۰۷	منو چہری : ابو النجم احمد بن یعقوب ، ایک ایرانی شاعر (حیات ۵۳۳۲/۱۰۳۱ء)۔	* منو چہری : ابو النجم احمد بن یعقوب ، ایک ایرانی شاعر (حیات ۵۳۳۲/۱۰۳۱ء)۔
۱ ۷۰۸	منوف : دریائے نیل کی دو سب سے بڑی شاخوں کے علاقے الجزیرہ میں واقع دو شہر ۔	* منوف : دریائے نیل کی دو سب سے بڑی شاخوں کے علاقے الجزیرہ میں واقع دو شہر ۔
۲ ۷۰۸	منی : مکہ مکرمہ کے مشرق میں ایک وادی ، جہاں حاجی قیام اور قربانی کرتے ہیں ۔	* منی : مکہ مکرمہ کے مشرق میں ایک وادی ، جہاں حاجی قیام اور قربانی کرتے ہیں ۔
۱ ۷۱۱	منی کوی : بحیرۃ عرب میں ایک مرجانی جزیرہ ۔	* منی کوی : بحیرۃ عرب میں ایک مرجانی جزیرہ ۔
۲ ۷۱۱	منیر لاہوری : ابو البرکات : رک بہ ملا منیر لاہوری ۔	* منیر لاہوری : ابو البرکات : رک بہ ملا منیر لاہوری ۔
۲ ۷۱۱	منیری : مخدوم الملک شرف الدین احمد بن یحیی (۵۶۶۱ تا ۵۷۸۲ھ) ، بہار کے مشہور	* منیری : مخدوم الملک شرف الدین احمد بن یحیی (۵۶۶۱ تا ۵۷۸۲ھ) ، بہار کے مشہور
۲ ۷۱۱	شیخ طریقت اور برگزیدہ عالم ۔	* شیخ طریقت اور برگزیدہ عالم ۔
۲ ۷۱۲	منیسہ : مغنیسہ ، مغربی آناطولی میں ضلع صارو خان کا صدر مقام ۔	* منیسہ : مغنیسہ ، مغربی آناطولی میں ضلع صارو خان کا صدر مقام ۔
۱ ۷۱۳	المواصفہ : رک بہ دفتر ۔	* المواصفہ : رک بہ دفتر ۔
۱ ۷۱۳	مواعظ : (واحد : موعظہ) ، ایک دینی اصطلاح ، بمعنی وعظ و نصیحت کرنا ۔	* مواعظ : (واحد : موعظہ) ، ایک دینی اصطلاح ، بمعنی وعظ و نصیحت کرنا ۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۷۲۲		* المُوَالَفَةُ وَالْجَمَاعَةُ : رُكَّ بِهِ دَفْتَرٌ .
۱ ۷۲۲		* مِوَالٌ : گیت کی ایک عام پسند قسم کا نام .
۱ ۷۲۳		* مِوَالِيَا : رُكَّ بِهِ مِوَالٌ .
۱ ۷۲۳		* الْمُوَامِرَةُ : رُكَّ بِهِ دَفْتَرٌ .
۱ ۷۲۳		* مِوَابِدٌ : مَجُوسِيَّوْنَ كَيْ سَرْدَارٌ .
۱ ۷۲۹		* مِوَهَلَا : (ماہلا) ، جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر آباد مخلوط النسل مسلمان .
۱ ۷۳۱		* مِوَتَّهٌ : اردن کے مشرق میں ایک زرخیز میدان اور ایک مشہور غزوے کا محل وقوع .
		* الْمِوَحِدُونَ : الْمَغْرِبِ كَا اِيكٍ مَشْهُورِ حَكَمَرَانِ خَالِدَانِ (از ۵۱۵/۱۱۲۱ء تا ۶۶۸/۱۲۶۹ء) .
۲ ۷۳۲		* مِوَحِدِيْنَ : رُكَّ بِهِ (۱) تَوْحِيدٌ ؛ (۲) وَحْدَتُ الْوَجُودِ .
۱ ۷۳۹		* الْمِوَاخِرُ : رُكَّ بِهِ الْاَسْمَاءُ الْحَسَنَى .
۱ ۷۳۹		* مِوَدُودٌ : اَبُو الْفَتْحِ شِهَابِ الدَّوْلَةِ بِنِ سُلْطَانِ مَسْعُودٍ ، غَزَنَةَ كَا اِيكٍ قَرْمَانَرِوَا (۳۳۲/۱۰۳۱ء تا ۴۱۰/۱۰۳۹ء) .
۱ ۷۳۹		* مِوَدُودٌ : بِنِ عَمَادِ الدِّينِ زَنْكِي ، قَطْبِ الدِّينِ الْاَعْرَجِ ، اَمِيْرِ الْمَوْصِلِ (۳۳۳/۱۱۳۹ء تا ۵۶۵/۱۱۷۰ء) .
۲ ۷۴۰		* مِوَدُودِيٌّ : سَيِّدِ اَبُو الْاَعْلَى (۱۹۰۳ تا ۱۹۷۹ء) ، پاكِستَانِ كَيْ اِيكٍ مَمْتَازِ عَالَمِ دِيْنِ ، مَفْكَرٌ ، سِيَاسَتِ دَانَ ، بَانِي جَمَاعَتِ اِسْلَامِيٍّ اَوْرِ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ اَوْرِ مَتَعَدِّدِ دِيْكَرِ كِتَابُوْنَ كَيْ مَصْنَفِ .
۱ ۷۴۱		* مِوِدُونٌ : عِلَاقَةُ مِوَرِيَا كَا اِيكِ شَهْرِ .
۲ ۷۴۵		* مِوَذِنٌ : رُكَّ بِهِ (۱) مَسْجِدٌ ؛ (۲) اِذَانٌ .
۲ ۷۵۱		* مِوَرٌ : اَنِيْسُوْبِيْنَ صَدِيٍّ عِيْسَوِيٍّ تَكِ مَخْتَلَفِ مَمَالِكِ ، بِالْخِصْوَصِ شِمَالِيٍّ اَفْرِيْقَهِ كِي مَسْلَمِ اَبَادِيٍّ كَيْ لِيْهِ مَسْتَعْمَلِ اِيكِ مَبْهَمِ نَامِ .
۱ ۷۶۶		* مِوَرَسَطُسٌ : (مورطوس) ، مِوَسِيْقِيٍّ كَيْ سَازُوْنَ پَرِ لَكْهِنِيٍّ وَاَلَا اِيكِ يُونَانِيٍّ مَصْنَفِ .
۲ ۷۶۸		* مِوَرَسْكُوْزٌ : ۱۳۹۲ء كَيْ بَعْدِ هِسْپَانِيَهِ مِيْنِ مَقِيْمِ رَهْنِيٍّ وَاَلِيٍّ مَسْلَمَانِ .
۱ ۷۷۱		* مِوَرُوٌّ : رُكَّ بِهِ مِوَرٌ .
۱ ۷۷۱		* مِوَرُوْرٌ : رُكَّ بِهِ مِوَرُوْرٌ .
۱ ۷۷۱		* مِوَرُوْنٌ : (Moron) رُكَّ بِهِ مِوَرُوْرٌ .
		* الْمِوَرِيَانِيُّ : اَبُو اَيُوْبِ سَلِيْمَانَ الْخُوْزِيٍّ ، خَلِيْفَهِ اَبُو جَعْفَرِ الْمَنْصُوْرِ كَا وَزِيْرِ (م ۱۵۳/۷۷۰ء - ۷۷۱ء) .
۱ ۷۷۱		* مِوَرِيْتَالِيَا : اِسْلَامِيٍّ جُمْهُوْرِيَهِ ، مَغْرِبِيٍّ اَفْرِيْقَهِ كَا اِيكِ مَلِكِ .
۲ ۷۷۵		* مِوَرِيَهٌ : جَزِيْرَةُ PElOPONNESUS كَا عَمُوْمِيٍّ نَامِ .

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۲ ۷۸۰		* موزور: (لیز مورور)، جنوبی ہسپالیہ کا ایک چھوٹا سا شہر۔
۱ ۷۸۱		* موزولہ: مراکو کا ایک چھوٹا سا قدیم سکہ۔
۱ ۷۸۱		* موستر: یوگوسلاویا کی سلکت میں ہرزی گویونا کا صدر مقام۔
۱ ۷۸۲		* موسم: کثیر المعانی لفظ: میلہ، منڈی اور رت وغیرہ۔
۲ ۷۸۲		⊙ موسیٰ: کلام اللہ، ایک جلیل القدر اور اولوالعزم نبی و رسول۔
		* موسیٰ (بنو): بنو موسیٰ بن شاکر: مہندس، منجم اور مترجم کی حیثیت سے عہد بنو عباس میں شہرت پانے والے تین بھائی۔
۱ ۸۰۱		⊙ موسیٰ بن نصیر: بن عبدالرحمن، فاتح اندلس، والی افریقیہ و المغرب (م ۷۹۷/۷۱۵ء)۔
۱ ۸۰۳		* موسیٰ: ابو محمد الہادی، ایک عباسی خلیفہ (۸۱۶۹/۷۸۵ء تا ۸۶۶/۱۷۰ء)۔
۱ ۸۰۹		* موسیٰ چلبی: سلطان بایزید اول کا چھوٹا بیٹا اور یورپ کی عثمانی سلطنت کا حکمران (از ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۳ء)۔
۲ ۸۰۹		⊙ موسیٰ الکاظم: بن امام جعفر الصادق (۸۱۲۸/۷۳۵ء تا ۸۱۸۳/۷۹۹ء)، شیعوں کے ساتویں امام اور اپنے وقت کے نامور عالم و فاضل بزرگ۔
۲ ۸۱۰		* موسیقی: رک بہ فن (موسیقی)۔
۲ ۸۱۳		* مویش: مغربی آرمینیہ کا ایک شہر۔
۲ ۸۱۲		* موشح: گانے کے لیے لکھی جانے والی نظم یا تصنیف۔
۲ ۸۱۳		* موصل: (الموصل)، دیار ربیعہ کا صدر مقام۔
۱ ۸۱۷		* موفق الدین: ابو محمد عبداللہ بن احمد؛ رک بہ ابن قدامۃ الحنبلی۔
۲ ۸۲۱		* موقان: (موغان)، گرجستان میں قبلہ کے قریب یعنی کر کے شمال میں واقع ایک قدیم تاریخی مقام۔
۲ ۸۲۱		موقف: (۱) حج کے اہم مناسک میں سے ایک، یعنی عرفہ و مزدلفہ اور ان میں وقوف؛ (۲) میدان قیامت۔
۲ ۸۲۲		* مولانا خونگیار: طریقہ مولویہ [رک بان] کے شیخ کا لقب۔
۱ ۸۲۳		* مولد: یا مولود، جائے ولادت، بالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت اور آپ کا یوم ولادت۔
۱ ۸۲۳		* مولد: غیر عرب والدین سے پیدا شدہ شخص کے لیے عربی اصطلاح۔
۲ ۸۲۶		⊙ مولوی: رک بہ (۱) مولیٰ؛ (۲) المتعلم و المتعلم۔
۲ ۸۲۷		⊙ مولوی الشاء اللہ خان: رک بہ وطن۔
۲ ۸۲۷		⊙ مولوی حضور بخش جتوئی: (۱۸۶۶ء تا ۱۹۳۶ء)، بلوچستان کے ایک ممتاز عالم دین اور واعظ۔
۲ ۸۲۷		⊙ مولوی محبوب عالم: رک بہ محبوب عالم (مولوی)۔

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۸۲۸		* مولویہ : مولانا جلال الدین روسی سے منسوب درویشوں کا ایک سلسلہ . * مولیٰ : ایک کثیر المعانی لفظ ، بمعنی نگران ، متولی ، مالک ، آقا اور آزاد شدہ غلام وغیرہ .
۲ ۸۳۲		⊗ مولیٰ یوسف زلی ، شیخ : پشاور کے شمالی علاقے کے یوسف زلی انفالوں کا مشہور رہنما ، قانون دان ، مؤرخ اور مصنف دفتر شیخ مولیٰ (تصنیف : ۱۹۸۲ / ۱۹۸۱ء)
۱ ۸۳۳		⊗ مؤمن : رک بہ (۱) مسلم ؛ (۲) اسلام ؛ (۳) ایمان .
۱ ۸۳۵		⊗ مؤمن : حکیم محمد مومن خان (۱۸۰۰ / ۱۸۰۱ - ۱۸۰۰ / ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۰ / ۱۸۰۱) ، اردو زبان کے صف اول کے شاعر .
۱ ۸۳۵		⊗ المؤمنین : قرآن مجید کی چالیسویں سورہ .
۲ ۸۳۷		⊗ المؤمنون : قرآن مجید کی تیسویں سورہ .
۱ ۸۳۹		* موٹھی نگرو : (قرہ طاغ) ہوگوسلاویا میں شامل ایک اشتراکی جمہوریہ .
۱ ۸۳۲		* مولسٹر : تونس کے مشرقی ساحل پر ایک قصبہ .
۲ ۸۳۳		* مؤنس ددہ : یا درویش مؤنس ، درویشی سلسلے میں ادرنہ کا عثمانی شاعر (م ۱۱۳۵ / ۱۱۳۶ء)
۱ ۸۳۶		* مؤنس المظفر : ابو الحسن ، نامور عباسی سپہ سالار اور بعد ازاں عملی طور پر مختار کل (م ۹۳۳ / ۹۳۲ء)
۱ ۸۳۶		* مؤنگیر : (سوانگھیر) ، صوبہ بہار (بھارت) کا ایک ضلع اور اس کا صدر مقام .
۱ ۸۳۸		* المؤید : رک بہ (۱) هشام ثانی ؛ (۲) الملک المؤید سیف الدین شیخ محمودی .
۱ ۸۳۸		* مؤید الدولہ : ابو منصور بویہ بن رکن الدولہ (۹۳۲ / ۹۳۳ تا ۹۳۳ / ۹۳۴) ، ایک بولیہی عامل .
۲ ۸۳۸		* مؤید زادہ : عبدالرحمن چلبی (۸۶۰ / ۸۵۶ تا ۹۲۲ / ۹۱۶) ، ایک مشہور و معروف عثمانی عالم دین ، فقیہ اور متعدد کتابوں کا مؤلف .
۱ ۸۳۸		* المؤید : سیف الدین : رک بہ الملک المؤید سیف الدین شیخ محمودی .
۱ ۸۵۰		* المؤید فی الدین : ابو نصر ہبۃ اللہ الشیرازی ، ایک بلند منصب فاطمی داعی (م ۱۳۷۰ / ۱۳۷۱ء)
۱ ۸۵۰		* سہابت جنگ : رک بہ علی وردی خان .
۱ ۸۵۱		⊗ المهاجرون : (سہاجرین) ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ، بالخصوص حبشہ اور مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام .
۱ ۸۵۱		⊗ سہار شریف و چشتیان : سابق ریاست بہاول پور (پاکستان) میں سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ خواجہ نور محمد سہاروی کی خانقاہ کے باعث ، مشہور قصبہ .
۱ ۸۵۷		

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱ ۸۵۸		● مہ پیکر : رگ بہ کوسم والدہ .
۱ ۸۵۸		* المہدی : ابو عبداللہ محمد ، ایک عباسی خلیفہ (از ۸۶۹/۲۵۵ تا ۸۸۰/۲۵۶) .
۱ ۸۵۹		* مہدویہ : بنارس کے قریب شہر جولوہور کے باشندے اور سید محمد مہدی کے پیرو .
۲ ۸۵۹		* المہدی : اسلامی ادب کی ایک اصطلاح ، عوامی عقیدے کے مطابق آخری زمانے میں است کی لجات کا باعث بننے والی شخصیت .
۱ ۸۶۵		* المہدی : رگ بہ ابن تومرت .
۱ ۸۶۵		* المہدی (آل) : مہدی (بنو) ، یمن میں زید کا حکمران خاندان .
۱ ۸۶۶		* المہدی : ابو عبداللہ محمد ، ایک عباسی خلیفہ (۸۵۸/۱۵۸ تا ۸۸۵/۱۶۹) .
۱ ۸۶۸		* المہدی : رگ بہ محمد احمد .
۱ ۸۶۸		* المہدی : محمد بن ہشام بن عبدالجبار ، ابو الولید ، اندلس کا گیارہواں اموی خلیفہ (۸۳۹/۳۹۹ تا ۸۴۰/۴۰۰ - ۸۴۱/۴۰۱) .
۱ ۸۶۸		* مہدی خان : مرزا محمد مہدی استر آبادی بن محمد ، نادر شاہ فرمانرواے ایران کے کارناموں پر مشتمل تاریخ جہانکشای نادری کا مصنف (حیات ۱۷۳۳/۱۷۳۳ تا ۱۷۷۰/۱۷۷۰) .
۱ ۸۷۰		* مہدی المنتظر : (ولادت ۸۶۸/۲۵۵) ، اثنا عشریوں کے آخری اور بارہویں امام .
۲ ۸۷۲		* المہدی عبیداللہ : پہلا قاطمی خلیفہ (۸۲۹/۲۹۷ تا ۸۳۲/۳۲۲) .
۲ ۸۷۲		* المہدی لدین اللہ احمد : یمن کے متعدد زیدی اماموں کا لقب اور نام : (۱) احمد بن الحسن ۸۳۸/۶۳۸ تا ۸۵۲/۶۵۲ م ؛ ۸۶۵/۶۵۶ تا ۸۷۸/۶۷۸ م ؛ (۲) احمد بن یحییٰ بن المرتضیٰ بن المرتضیٰ ۸۹۳/۲۹۳ تا ۹۱۳/۳۱۳ م ؛ (۳) احمد بن الحسن بن القاسم ۸۳۹/۳۳۹ تا ۸۶۸/۳۶۸ م .
۲ ۸۷۶		* المہدیہ : تونس کے مشرقی ساحل پر ایک شہر .
۲ ۸۸۱		* المہدیہ : سابقہ نام المعمور ، بحر اوقیانوس کے ساحل پر مراکش کا ایک شہر .
۲ ۸۸۳		● مہر : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی بوقت نکاح عورت کے لیے مقرر شدہ رقم وغیرہ .
۱ ۸۸۹		* مہر : ایرانی شمسی سال کا ساتواں مہینا .
۲ ۸۸۹		● * مہر : خاتم ، مہر والی انگوٹھی .
۲ ۸۹۳		* مہر : ایک قدیم ہندوستانی طلائی سکہ .
۲ ۸۹۳		* مہران : دریائے سندھ کو مسلمان مصنفین کا دیا ہوا نام .
۱ ۸۹۵		● مہر علی شاہ گواڑوی : (۱۲۷۵/۱۸۵۹ تا ۱۳۵۶/۱۹۳۷) ، برعظیم پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ ، عالم دین ، واعظ اور مصنف .
۱ ۸۹۷		* مہرگان : رگ بہ مہر .

- * سہر ماہ سلطان : سلیمان ذی شان کی بیٹی اور اپنے دور کی مشہور ترک خاتون (م ۸۵۸ھ / ۱۵۷۸ء) .
- ۱ ۸۹۷
- * سہرہ : عرب کے جنوب مشرقی ساحل پر حضرموت اور ظفار کے مابین علاقہ .
- ۱ ۸۹۸
- * سہری یا سکری : نیز کوٹوکو : ایک حبشی قبیلہ .
- ۲ ۸۹۹
- * سہری خاتون : (سہر ماہ) ، ایک صاحب دیوان ترکی شاعرہ (م ۱۲۲۸ھ / ۱۵۰۶ء) .
- ۱ ۹۰۰
- * السہلب : بن ابی صفرہ ، ابو سعید الازدی ، ایک نامور عرب سوہ سالار (م ۸۲۲ھ / ۷۰۲ء) .
- ۲ ۹۰۱
- * السہلبی ابو محمد الحسن بن محمد (۲۹۱ھ / ۹۰۳ء تا ۳۵۲ھ / ۹۶۲ء) ، معز الدولہ کا وزیر
- ۲ ۹۰۲
- * سہند : پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے کے ایک پٹھان قبیلے کا نام .
- ۲ ۹۰۳
- ⊗ میان محمد بخش : (۱۸۲۸ء تا ۱۹۰۶ء) ، پنجابی زبان کے ایک بلند پایہ شاعر اور
- ۱ ۹۰۵
- عارف کامل ، مصنف سیف الملوک وغیرہ .
- ⊗ میان محمد بوٹا : المتخلص بہ بوٹا (۱۸۵۱ء تا ۱۹۳۰ء) ، کشمیری نژاد ممتاز پنجابی
- ۲ ۹۰۵
- شاعر ، مصنف قصہ مرزا صاحبان وغیرہ .
- ⊗ میان محمد کاسل : ابن محمد جام ، بلوچستان کے ایک عارف کامل (م ۱۲۳۹ھ / ۱۸۲۳ء) .
- ۲ ۹۰۶
- ⊗ میان میر : میر محمد فاروقی ، المعروف بہ پیر لاہوری (۱۵۵۰ھ / ۱۵۵۰ء تا ۱۰۳۵ھ / ۱۶۳۵ء) ، برعظیم پاک و ہند کے عظیم ولی اور شاہان مقلید کے
- ۱ ۹۰۷
- مرجع عقیدت بزرگ .
- ⊗ میان ہدایت اللہ : رگ بہ ہدایت (میان) .
- ۲ ۹۰۹
- * میانہ : (میانج) ، آذربائیجان کا ایک قدیم شہر .
- ۲ ۹۰۹
- ⊗ مشدہ : رگ بہ مسجد .
- ۲ ۹۱۰
- ⊗ مینہ : ایک شرعی اصطلاح ، بمعنی مردار ، مردہ ، طبعی موت مرنے والا جانور .
- ۱ ۹۱۰
- ⊗ میثاقِ مدینہ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبائلِ مدینہ کے مابین طے پانے والا
- ۲ ۹۱۳
- دفاع و انتظام مملکت کا معاہدہ ، دنیا کا اولین آئین .
- * میخال اوغلی : نویں صدی ہجری میں عثمانی امرا کا ایک ممتاز خاندان .
- ۱ ۹۱۹
- * میخالیل صباغ : (ولادت ۱۷۸۳ء) ، ایک عرب عیسائی مصنف (حیات ۱۸۱۳ء) .
- ۱ ۹۲۳
- * المیدانی : ابو الفضل احمد بن محمد ، ایک ممتاز ادیب ، ماہر لسالیات اور مؤلف .
- ۱ ۹۲۳
- ضرب الامثال وغیرہ (م ۵۱۸ھ / ۱۱۲۳ء) .
- * میڈرڈ : (مجریط) ، ہسپانیہ کا ایک صوبہ اور ملک کا موجودہ دارالحکومت .
- ۱ ۹۲۵
- * میر : ایک ایرانی لقب (عربی لفظ امیر کا مخفف) .
- ۲ ۹۲۵
- ⊗ میر آفات خان نوشیروانی ، سردار : (۱۷۹۳ء تا ۱۸۹۰ء) ، بلوچستان کا ایک ممتاز
- ۱ ۹۲۶
- قبائلی سردار اور ریاست خاران کا حکمران .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۹۲۶		⊗ میر امن : رگ بہ امن ، میر .
۲ ۹۲۶		⊗ میر بلوچ خاں نوشیروانی : ایک غیور ، جانباز اور حریت پسند بلوچ سردار (م ۱۸۹۸ء) .
۲ ۹۲۷		⊗ میر تقی میر : (۱۱۳۴-۳۵ھ / ۱۷۲۲-۲۱ء تا ۱۲۲۵ھ / ۱۸۱۰ء) ، اردو زبان کا نامور صاحب طرز شاعر اور تذکرہ نگار ، زندہ جاوید غزل گو .
۱ ۹۳۳		⊗ میر جعفر خان جمالی : بلوچستان میں تحریک پاکستان کے نامور رہنما اور قبیلہ جمالی کے سردار (م ۱۹۶۷ء) .
۲ ۹۳۳		* میر جملہ : رگ بہ محمد سعید .
۲ ۹۳۳		⊗ میر حسن : شمس العلماء مولوی سید میر حسن (۱۸۳۴ء تا ۱۹۲۹ء) ، برعظیم پاک و ہند کے مشہور عالم ، معلم ، علامہ اقبال کے استاد .
۲ ۹۳۳		⊗ میر حسن دہلوی : بن میر غلام حسین ضاحک ، اردو کے ممتاز شاعر اور مثنوی سحر البیان کے مصنف (م ۱۲۰۳ھ / ۱۷۸۹ء) .
۱ ۹۳۵		* میر خاوند : [صحیح میر خاوند] ، مؤرخ اور مصنف روضۃ الصفا (۱۳۹۸ھ / ۱۹۰۳ء) .
۲ ۹۳۷		* میر درد : رگ بہ درد .
۱ ۹۳۸		⊗ میر زاہد الہروی : میر محمد زاہد الحسینی ، عہد مغلیہ کے ایک نامور عالم دین ، شارح ، فلسفہ و حکمت کے ماہر اور صدر الصدور (م ۱۱۰۲ھ / ۱۶۹۰ء) .
۱ ۹۳۸		* میر عبدالعزیز کُرد : بلوچستان کے تحریک آزادی کے ایک رہنما (م ۱۹۶۸ء) .
۲ ۹۴۰		⊗ میر غلام محمد شاہوانی : (۱۹۳۰ء تا ۱۹۵۸ء) ، بلوچستان کے ایک ممتاز صحافی .
۲ ۹۴۱		⊗ میر قاسم : ناظم بنگال و اڑیسہ (۱۷۶۰ء تا ۱۷۶۳ء) .
۱ ۹۴۲		⊗ میر محمد حسین عنقا : (۱۹۰۷ء تا ۱۹۷۷ء) ، بلوچستان کے مشہور صحافی شاعر اور سیاست دان .
۲ ۹۴۳		⊗ میر محمد معصوم بھکری : (۱۵۳۸ھ / ۱۶۰۳ء تا ۱۶۰۶ھ / ۱۶۰۶ء) ، عہد مغلیہ کے ایک نامور شاعر ، النشا پرداز ، مؤرخ ، طبیب ، فوجی قائد اور سیاستدان ، مصنف تاریخ معصومی وغیرہ .
۱ ۹۴۵		⊗ میراث : رگ بہ علم .
۲ ۹۴۹		* میراں محمد شاہ اول : والی خاندیش ، فاروقی خاندان کا گیارہواں فرمانروا (۱۵۲۰ء تا ۱۵۳۷ء) .
۲ ۹۴۹		* میرزا : یا میرزا ، ایک ایرانی لقب .
۱ ۹۵۰		* میرزا پور : اتر پردیش (بھارت) میں ایک ضلع اور شہر .
۲ ۹۵۰		* میرزا تقی خاں : امیر نظام یا امیر کبیر ، رگ بہ تقی خاں ، میرزا .
۲ ۹۵۱		* میرزا محمد رسوا : رگ بہ رسوا .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۹۵۱		* میرک آقا : ایران کے صفوی دور کا ناہور مصور .
۲ ۹۵۳		* بیرواڑ : برطانوی ہند کے صوبہ اجمیر کا ایک ضلع .
۱ ۹۵۳		⊗ بیروی ، خواجہ احمد : (۵۱۲۳۲/۵۱۸۲۶ تا ۵۱۳۳۰/۵۱۹۱۲ء) ، ضلع اٹک (پنجاب) کے ایک چشتی بزرگ .
۲ ۹۵۳		⊗ بیہدہ : (سربہ) ؛ رگ بہ ماریا .
۲ ۹۵۳		⊗ المیزان : اشیا کو تولنے اور وزن کرنے کا ایک آلہ .
۱ ۹۵۸		⊗ میزالیہ : بجٹ (Budget) ، حکومت کی آمد و خرچ کی سالانہ فرد حساب .
۱ ۶۹۳		⊗ مزہ سورتہ : رگ بہ حسین پاشا ، حاجی .
۱ ۹۶۳		* مسیان : جنوبی عراق کا ایک ضلع .
۱ ۹۲۹		⊗ میسر : ایک اصطلاح ، بمعنی تیروں (قداح) سے جوا کھیلنا ، بعد ازاں عام جوا .
۲ ۹۷۰		* میسرة : المغرب کا ایک بربر سردار (حیات ۵۱۲۳/۵۷۳ء) .
۲ ۹۷۱		⊗ میسرة بن مسروق العبسی : بنو عبس کے ایک سردار اور صحابی رسولؐ (م نواح ۵۳۰ء) .
۲ ۹۷۱		* میسور : بھارت میں ایک ریاست (موجودہ نام کرناٹک) .
۱ ۹۷۳		* میسون : بنو کلب کے سردار حسان بن مالک کی بیٹی ، امیر معاویہؓ کی زوجہ ، یزید کی والدہ اور ایک عرب شاعرہ .
۲ ۹۷۳		⊗ میقات : ایک فقہی اصطلاح ، بمعنی (۱) وہ مقامات جہاں سے حج و عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے ؛ (۲) نمازوں کے اوقات .
۱ ۶۷۶		⊗ میکال : (میکائیل) ، قرآن مجید میں مذکور ایک مقدس فرشتہ .
۱ ۹۷۷		* المیل : علم ہیئت کی ایک اصطلاح ، بمعنی جھکاؤ .
۲ ۹۷۸		* میلاد : وقت پیدائش ، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر منایا جانے والا جشن .
۲ ۹۷۸		⊗ میم : رگ بہ م .
۲ ۹۷۸		* المیمندی : شمس الکفاة ابو القاسم احمد بن حسن ، سلطان محمود غزنوی کا رضاعی بھائی اور مشہور و معروف وزیر (م ۵۳۲۳/۵۱۰۳۲ء) .
۱ ۹۷۹		* میمنہ : (الیہودان) ، افغانی ترکستان کے ایک صوبے انمار کا صدر مقام .
۲ ۹۷۹		⊗ میمون بن قیس : رگ بہ الاعشی (ابو بصیر) .
۱ ۹۸۰		⊗ (حضرت) میمونہؓ : بنت الحارث الہلالیہ ، ام المؤمنین ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم (م ۵۷۱/۷۷۱ء) .
۲ ۹۸۰		* میمونئی : رگ بہ ابن میمون .
۲ ۹۸۰		⊗ سینا توری : رگ بہ فن (مصوری) .
۲ ۹۸۰		⊗ سینار ہا کستان : رگ بہ لاہور .

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲ ۹۸۰		⊗ سیور، ولیم: رگ بہ ولیم میور۔
		* المیورقی: تین عرب مصنفین کی نسبت: (۱) ابو الحسین علی بن احمد، ایک عرب شاعر (م ۵۳۷۵/۵۱۰۸۲)؛ (۲) ابو عبداللہ محمد بن ابی النصر الازدی الحمیدی، ایک مشہور و معروف محدث اور مصنف الجمع بین الصحیحین وغیرہ (رگ بہ الحمیدی)؛ (۳) عبداللہ بن عبداللہ الترجمان، نصاریٰ کے خلاف ایک رسالے کا مصنف (حیات ۵۸۲۳/۵۱۴۲)۔
۲ ۹۸۰		* سیافارقین: دیار بکر کے شمال مشرق میں ایک شہر۔
۱ ۹۸۲		



جلد ۲۲

ن

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱	۱	⊗ ن : (نُون) ، عربی حروف تہجی کا پچیسواں ، فارسی کا اٹیسواں اور اردو کا پینتالیسواں حرف .
۲	۳	⊗ ن : رگ بہ القلم .
۲	۴	⊗ النابغة الذبیانی : زیاد بن معاویہ ، زمانہ جاہلیت میں عربوں کا ایک نامور اور قادر الکلام شاعر (م ۱۷ ق ۵) .
۲	۶	* نابلس : وسطی فلسطین کا ایک شہر .
۲	۸	* النابلسی : رگ بہ عبدالغنی .
۱	۹	* نابی : یوسف نابی ، ایک عثمانلی ملک الشعراء اور تاریخ نویس (م ۱۱۲۳/۵۱۷۲ء) .
۲	۹	⊗ لاجی : معلم ، عمر باوہ (۱۲۶۶/۵۱۸۵ء تا ۱۳۱۰/۵۱۸۹۲ء) ، دور حاضر کا ایک اہم ترک ادیب ، شاعر ، صحافی اور نقاد .
۲	۱۳	* لاجیہ : سلطنت عثمانیہ کا ایک انتظامی ضلع .
۱	۱۵	* لادر شاہ (افشار): بن امام قلی بن نذر علی ، آخری صفوی دور میں سپہ سالار اور بعد ازاں شاہ ایران (از ۱۱۳۷/۵۱۷۳۶ء تا ۱۱۶۰/۵۱۷۳۷ء) .
۱	۲۶	⊗ نار : رگ بہ جہنم .
۱	۲۶	⊗ نازعات : (صحیح النزعت) ، قرآن مجید کی ایک مکی سورہ .
۱	۲۹	⊗ الناس : قرآن مجید کی ایک سو چودھویں سورہ .
۱	۳۰	⊗ ناسخ : شیخ امام بخش لکھنوی (۱۱۸۳/۵۱۷۷۰ء تا ۱۲۵۳/۵۱۸۳۸ء) ، دبستان لکھنؤ کے مشہور صاحب طرز اردو شاعر .
۱	۳۶	⊗ ناسخ و منسوخ : رگ بہ نسخ .
۱	۳۲	⊗ الناصر : ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب المنصور بن یوسف، المغرب کے خاندان الموحدون کا چوتھا حکمران (از ۵۹۵/۱۱۹۹ء تا ۶۰۹/۱۲۱۲ء : م ۶۱۰/۵۱۲۱۳ء) .
		⊗ الناصر : دو ایوبی حکمران : (۱) الملک الناصر صلاح الدین داؤد : الملک المعظم کا بیٹا اور جانشین (از ۶۲۳/۵۱۲۲۷ء تا ۶۷۵/۵۱۲۵۹ء) ؛ (۲) الملک الناصر

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۳	صلاح الدین ابو المظفر یوسف ، اپنے باپ الملک العزیز کا جانشین (از ۵۶۳/۱۲۳۲ء تا ۵۶۵۹/۱۲۶۱ء)۔	
۱ ۳۶	الناصر الملک ناصر الدین محمد بن سلطان قلاوون ، تین بار بر سر اقتدار آنے والا بحری مملوکوں کا نواں سلطان (از ۵۶۹۳/۱۲۹۳ء تا ۵۶۹۳/۱۲۹۳ء و ۵۶۹۹/۱۳۰۰ء تا ۵۷۰۹/۱۳۰۹ء و ۵۷۰۹/۱۳۰۹ء تا ۵۷۳۱/۱۳۳۰ء)۔	⊗ الملک ناصر : ناصر الدین حسن ، بحری مملوکوں کا انیسواں سلطان (۵۷۳۸/۱۳۳۷ء تا ۵۷۶۲/۱۳۶۱ء)۔
۱ ۳۱		⊗ الناصر : رگ بہ اطروش ۔
۲ ۳۲		* الناصر بن عتّاس : حمادی خاندان کا ہانچواں حکمران (از ۵۳۵۳/۱۰۶۲ء تا ۵۳۸۱/۱۰۸۸ء)۔
۲ ۴۲		⊗ ناصر بن حمید لودھی : سلطان سبکتگین کے زمانے (۳۷۳ تا ۵۳۸) میں ننگرہار تا ملتان کا ایک لودھی حکمران ۔
۲ ۴۳		* ناصر خسرو : ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث (۵۳۹۵/۱۰۰۳ء تا ۵۳۵۳-۳۵۲/۱۰۶۰-۱۰۶۱ء) ، ہندوستان میں فارسی کا ایک صاحب دیوان شاعر ، ماہر موسیقی اور مصنف سفر نامہ وغیرہ ۔
۱ ۴۶		* ناصر الدولہ الحمدانی : ابو محمد الحسن بن عبداللہ ، حمدانی خاندان کا ایک سردار (م ۵۳۵۷/۹۶۸ء)۔
۱ ۴۸		* ناصر الدین : رگ بہ (۱) محمود اول ؛ (۲) محمود ثانی ؛ (۳) محمود ثالث ۔
۱ ۵۱		* ناصر الدین قباچہ : رگ بہ سندھ ۔
۱ ۵۱		* ناصر علی سرہندی : علی بن رجب علی (۵۱۰۳۷/۱۶۳۷ء تا ۵۱۱۰۸/۱۶۹۷ء) ، ہندوستان میں فارسی کا مشہور صاحب دیوان شاعر ۔
۲ ۵۳		* ناصر عندلیب : رگ بہ درد (خواجہ میر) ۔
۲ ۵۳		* الناصر لدین اللہ : بحیرہ خزر کے زیدی حکمرانوں ، مثلاً الناصر الکبیر الاطروش (رگ بآن) اور الناصر الصغیر الحسین بن الحسن (م ۵۳۷۶/۱۰۸۳ء) کے علاوہ یمن کے متعدد زیدی ائمہ کا تکریمی لقب ۔
۲ ۵۳		* الناصر لدین اللہ : ابو العباس احمد بن المستضی بامر اللہ ، چونتیسواں عباسی خلیفہ (از ۵۵۷۵/۱۱۸۰ء تا ۵۶۲۲/۱۲۲۵ء)۔
۲ ۵۶		⊗ الناصره : Nazareth ، حضرت عیسیٰ کا وطن اوز فلسطین کا ایک شہر ۔
۲ ۵۹		⊗ ناصیف الیازجی : رگ بہ الیازجی ۔
۲ ۶۱		⊗ ناطق : رگ بہ سبعیہ ۔
۲ ۶۱		⊗ ناطق مکرانی : مکران (بلوچستان) کا ایک ممتاز عالم اور شاعر (م ۱۲۶۳/۱۸۳۸ء)۔

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲	۶۲	* نَاطِرِ الْمَطَالِم : قدیم سہد اسلامی میں عدل و انصاف کے بارے میں شکایات سننے والا ایک اہم عہدیدار .
۲	۶۳	* نَاطِمِ قَرُحِ حُسَيْن : ابن ملا ناظم بن شاہ رضا سبزواری (۱۶۰۱ھ/۱۶۰۷ء تا ۱۰۸۱ھ/۱۶۷۰ء) ، ایران کا ایک صاحب دیوان شاعر .
۱	۶۴	* نَاطِمِ مِصْطَفَى : مصطفیٰ بن اسمعیل ، ایک مشہور عثمانی مذہبی شاعر (م ۱۱۰۸ھ/۱۶۹۶ء) .
۲	۶۴	* نَاطِمِ يَحْيَى : (۱۰۵۹ھ/۱۶۴۹ء تا ۱۱۳۸ھ/۱۷۲۶ء) ، اپنے دور کا بہترین عثمانی مذہبی شاعر .
۲	۶۵	* نَاعُورَه : چرخ ، رھٹ ، دولاب .
۱	۶۶	* النَّاعِج : لک بہ الاء سماء الحسنی .
۱	۶۶	* النَّاعِجِ بْنِ الْأَزْرَقِ : البکری الوائلی ، ابو راشد ، خوارج کے فرقہ ازارقہ کا بانی (م ۸۵/۶۵ء) .
۱	۶۷	* نَائِلَه : (جمع نَوَائِل) ، فرض سے زائد کام ، نفلی نماز وغیرہ .
۲	۷۰	* نَاقُوس : ایک آلہ موسیقی .
۱	۷۱	* نَاگُور : بھارت کے سابق صوبہ مدھیہ پردیش اور اب مہاراشٹری کی ایک قسمت اور اس کا صدر مقام .
۲	۷۳	* نَائِقِ كَمَالِ بِي : رگ بہ کمال محمد نامق .
۲	۷۳	* نَامُوس : ایک مختلف المعانی لفظ (شریعت) حضرت جبرئیل علیہ السلام ، بادشاہ کا رازدار ، مملکت روحانیہ وغیرہ) .
۲	۷۴	* نَالَا صَاحِب ، میان عبدالحکیم : (۱۰۹۰ھ/۱۶۷۹ء تا ۱۱۵۲ھ/۱۷۴۰ء) ، بلوچستان کے ایک صوفی بزرگ .
۲	۷۵	* نَانِك (گرو) : (۱۳۶۹ تا ۱۵۳۹ء) ، سکھ پنتھ کے قابل احترام بانی .
۲	۷۹	* نَانُوتُوی : رگ بہ محمد قاسم نانوتوی .
۱	۷۹	* نَوَاسِ دِي تَلُوسَا : Nawas de Tolosa ، رگ بہ العقاب .
۲	۷۹	* نَاوِل : رگ بہ حکایۃ .
۲	۷۹	* نَائِب : قائم مقام ، نمائندہ ، کسی منصب دار کا معاون .
۱	۸۱	* نَائِلَه : رگ بہ اساف .
۱	۸۱	* نَالِی : یعنی زادہ مصطفیٰ چلبی عرف پیری زادہ ، ایک عثمانی شاعر (م ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء) .
۲	۸۳	* النَّبَا : قرآن مجید کی ایک مکی سورۃ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۳ ۸۵		* لَبَطِي : (لبطيون) ، ایک قدیم عرب قوم ۔
۱ ۸۹		* لَبِيْطِيَّة : لبطيون کے زیر اقتدار رقبہ ، سابقاً سلطنت ادوم ۔
۲ ۹۵		⊗ لَبُوْت : بمعنی ارتفاع ، بلندی ، پغمبری کے مفہوم میں ایک اسلامی اصطلاح ۔
۱ ۱۱۳		⊗ لَبِي : رک بہ نبوت ۔
۱ ۱۱۳		* لَبِيْ هُوْلَس : رک بہ لہنواہ ۔
۱ ۱۱۳		⊗ لَبِيْدٌ : پانی میں کھجوریں یا انگور وغیرہ ڈال کر تیار کیا جانے والا ایک مشروب ۔
۲ ۱۱۵		* لَبِيْجَه : قیاس منطقی کے دو مقدمات سے مستنبط ایک تیسرا نیا مقدمہ ۔
		* لَجَات ، میر عبدالعال : (ولادت ۱۶۳۶/۵۱۰۳۶ - ۱۶۳۷ - ۱۷۰۰/۵۱۱۱۲) حیات
۱ ۱۱۶		۱۷۰۱ء) ، ایک ایرانی فارسی شاعر ۔
۱ ۱۱۶		* لَجَاتِي بِي : عیسیٰ ، کلاسیکی ترکی ادب کا اولیں غزل گو شاعر (م ۱۵۰۹/۵۹۱۳ء) ۔
		* لَبُو لَجَاح : زید پر حکمرانی کرنے والا حبشہ کے مملوکوں کا ایک خاندان (از ۵۱۲/۵۱۲ء)
۱ ۱۱۹		۱۰۲۱ء تا ۱۱۵۸/۵۵۵۳ء) ۔
۲ ۱۲۱		* النَّجَّار : الحسين بن محمد ابو عبدالله ، المأمون کے عہد کا ایک مرجئی اور جبری عالم ۔
		* النَّجَاشِي : عربی میں شاہ حبش کا ایک لقب ، نیز عہد نبوی میں حبشہ کے حکمران اور
۲ ۱۲۳		مشہور صحابی رسول اصحہ بن اہجر ۔
۲ ۱۲۵		* النَّجَاشِي : (قیس بن عمرو العارثی) ، ساتویں صدی کا ایک عرب شاعر ۔
۱ ۱۲۶		* لَجْدٌ : تنہامہ (ساحلی میدان) اور غور (نشیبی زمین) کے بالمقابل عرب کی بلند زمین ۔
۲ ۱۳۳		* لَجْدُه بن عامر : رک بہ خارجی ۔
۲ ۱۳۳		* لَجْرَان : شمالی یمن میں ایک ندی ۔
۲ ۱۳۷		* نَجَسٌ : پلید ، طاہر کی ضد ، ایک فقہی و شرعی اصطلاح ۔
		⊗ نَجْفٌ : (النجف) ، عراق کے صوبہ کربلا میں روضۂ حضرت علیؑ کی وجہ سے معروف
۱ ۱۳۹		و محترم شہر اور علمی مرکز ۔
۱ ۱۳۶		⊗ النَّجْم : قرآن مجید کی ایک مکی سورۃ ۔
		* نَجْمُ الدِّينِ كِبْرَاي : کبرویہ یا ذہبیہ سلسلے کے بانی؛ ایک ممتاز صوفی اور چند کتابوں کے
۱ ۱۳۸		مؤلف (م ۱۲۲۱/۵۶۱۸ء) ۔
۲ ۱۵۰		* نَجْوَمٌ : رک بہ علم (تجوم) ۔
		⊗ نَجِيْب الدِّينِ چربادقانی : المخلص بہ نجیب ، چھٹی صدی ہجری کا ایک فارسی شاعر
۲ ۱۵۰		(حیات ۱۲۲۰/۵۶۱۶ء)
۲ ۱۵۲		⊗ النَّحْل : قرآن مجید کی ایک مکی سورۃ ۔
۱ ۱۵۵		⊗ نَحْوٌ : رک بہ علم (نحو) ۔
		* نَخْجَوَان : دریائے ارس (Araxes) کے شمال میں ایک شہر ، آج ایک کل چھوٹی سی خود

صفحہ نمبر	اشارات	ہنوان
۱ ۱۵۵	خود مختار جمہوریہ .	
۱ ۱۵۶	* لَعَشَب : (لَسَف) ، روس میں شامل بخارا کا ایک قدیم شہر .	
	* لَعَشَبِي : شیخ ضیاء الدین ، طوطی نامہ وغیرہ فارسی کتابوں کے مصنف (م ۵۷۱ھ)	
۱ ۱۵۷	. (۱۳۵ھ)	
۲ ۱۵۸	* النَعْبَلَة : عراق میں کوفہ کے نزدیک ایک شہر .	
۲ ۱۵۹	* لَدْرُومَة : تلمسان کے شمال مغرب میں ایک اہم شہر .	
	* النَدِيم : (ابن النديم) ، ابو الفرح محمد بن ابی یعقوب اسحق الوراق النديم البغدادي (نواح ۵۳۲۵/۶۳۶ تا نواح ۵۳۳۸/۴۶۰) ، ایک مشہور ادیب ، سوانح نویس اور کتابیات کے موضوع پر معروف کتاب الفہرست وغیرہ کا مصنف .	
۱ ۱۶۰	* نديم احمد : ایک اہم عثمانی شاعر (م ۱۱۳۳ھ/۱۷۳۰ھ) .	
۱ ۱۶۳	* لَدْر : بمعنی منت ، ایک معروف فقہی و معاشرتی اصطلاح .	
۱ ۱۶۵	* لَدِير : (ڈرانے والا) ، رسول کا مترادف .	
۱ ۱۷۰	⊗ لَدِير احمد : شمس العلماء ڈاکٹر ڈبئی (۱۸۳۰ یا ۱۸۳۳ تا ۱۹۱۲ھ) ، ہندوستان کے ایک مشہور ادیب ، عالم دین ، ماہر تعلیم ، مترجم اور اردو کے پہلے ناول نویس .	
۱ ۱۷۱	* نَرَشَخِي : ابوبکر محمد بن جعفر ، مصنف تاریخ بخارا (م ۹۵۹ھ/۳۳۸ھ) .	
۱ ۱۷۶	* نَرَكْسِي : نرگس زادہ محمد افندی (۱۵۹۲ھ/۱۰۰۰ تا ۱۶۳۰ھ/۱۰۵۰) ، ممتاز ترکی شاعر ، انشا پرداز اور خوشنویس .	
۲ ۱۷۱	* نَزَارِ بْنِ الْمُسْتَنْصِرِ فَاطِمِي : (ولادت ۵۳۳ھ/۱۰۳۵ھ ، حیات ۵۳۸ھ/۱۰۹۵ھ) ، ایک فاطمی مدعی سلطنت اور ایران کی اسمعیلی جماعت کا امام .	
۲ ۱۷۸	* نَزَارِ بْنِ مَعَدٍ : شمالی عرب کے اکثر قبائل کا مورث اعلیٰ .	
۲ ۱۷۹	* نَزَارِيَه : رگ یہ الحشیشہ .	
۲ ۱۸۲	* نَزْوَه : عمان کے قریب ایک پہاڑ کے گردو لواح میں بڑی بڑی بستیاں .	
۲ ۱۸۲	* نَزْه : رگ بہ معزف .	
۲ ۱۸۳	* نَزِيْب : (نرپ) ، سلطنت ترکیہ میں غازی یمن کا ایک ضلع .	
۲ ۱۸۳	* نَسَا : ایران (خراسان ، فارس ، کرمان اور ہمدان) میں متعدد مقامات .	
۲ ۱۸۳	⊗ النِّسَاء : قرآن مجید کی چوتھی سورۃ .	
۲ ۱۸۳	⊗ النِّسَائِي : قاضی ابو عبدالرحمن احمد بن علی (۵۲۱۵ھ/۸۳۰ تا ۵۹۱۵ھ/۳۰۳) .	
	شیخ الاسلام ، حافظ الحدیث ، صاحب السنن ، علم حدیث کے مسلمہ امام اور سنن نسائی کے مصنف .	
۱ ۱۸۶	* نَسَار : ہلکی لکڑی کے جنگی جہاز .	
۲ ۱۸۸		

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۲۸۵		* نشاط : مرزا عبدالوہاب اصفہانی ، ابتدائی قاچار عہد کا ایک صاحب طرز فارسی شاعر (م ۱۲۳۳/۱۸۲۸ء) .
۱ ۲۸۶		* نشاطی : سلطان کے محکمہ طفرای کا صدر کاتب ، چانسلر .
۲ ۲۸۶		* نشری محمد : ایک عثمانی (ترکی) مؤرخ ، مصنف <u>جہان نما</u> وغیرہ (م ۱۵۲۰/۱۹۲۹ء) .
۲ ۲۸۶		* نشوان الحمیری : نشوان بن سعید بن نشوان ، ایک عرب نحوی ، لغوی ، مؤرخ اور شاعر (م ۱۱۷۸/۵۵۷۳ء) .
۱ ۲۸۹		⊗ نص : علم اصول فقہ کی ایک کثیر الاستعمال اصطلاح ، بمعنی قرآن و سنہ کے صاف اور ظاہر الفاظ میں بیان کردہ احکام .
۱ ۲۹۲		⊗ نصاب : رک بہ (۱) زکوٰۃ ؛ (۲) المتعلم و المعلم .
۱ ۲۹۲		⊗ نصاری : حضرت عیسیٰ کے ، بالخصوص مشرقی کلیسا کے پیروکار .
۲ ۳۱۰		⊗ نصب : رک بہ انصاب .
۲ ۳۱۰		⊗ نصر : قرآن مجید کی ایک سو دسویں سورہ .
۲ ۳۱۱		⊗ بنو نصر : نیز بنو الاحمر ، سلطنت غرناطہ کا فرمانروا خاندان (از ۸۶۲۹ء تا ۱۲۳۱ء تا ۱۳۹۱ء/۱۳۹۱ء) .
۱ ۳۱۹		* نصر بن احمد بن اسمعیل : المعروف بہ السعید ، ایک سامانی بادشاہ (۳۰۹/۹۱۳ء تا ۳۳۱/۹۳۳ء) .
۲ ۳۲۲		⊗ نصر بن حمید لودھی : ناصر بن حمید لودھی [رک باں] ، سلطان سبکتگین کے معاصر شیخ حمید لودھی ، والی ننگرہار و ملتان کا بیٹا اور جانشین .
۱ ۳۲۳		* نصر بن سہار اللہی : عامل خراسان ، عہد بنی امیہ کا نامور فوجی اور مدیر (م ۱۳۱/۷۳۸ء) .
۱ ۳۲۸		* نصر اللہ بن محمد : بن عبدالحمید ابوالمعالی شیرازی ، خسرو ملک غزنوی (۵۵۵/۱۱۶۰ء تا ۵۵۲/۱۱۸۶ء) کا وزیر اور کلیہ و دمنہ کا اولیٰ فارسی مترجم .
۲ ۳۲۸		⊗ نصرائی : رک بہ نصاری .
۲ ۳۲۸		* نصر الدولہ : ابو نصر احمد بن مروان ، دیار بکر کا تیسرا مروانی فرمانروا (۳۰۱/۱۰۱۰-۱۰۱۱ء تا ۳۵۳/۱۰۶۱ء) .
۱ ۳۳۱		* نصر الدین : خوجہ ، مضحک ترکی کہانیوں کا ایک مرکزی کردار ، ایک نیم افسانوی شخصیت .
۱ ۳۳۶		* نصوح پاشا : ایک عثمانی وزیر اعظم (م ۱۰۲۳/۱۶۱۳ء) .
۳ ۳۳۷		* نصیبین : عراق عرب کا ایک تاریخی شہر .
۱ ۳۳۷		⊗ نصیر خان لوری : خان اعظم غازی سر محمد نصیر خان لوری (۱۶۹۹ء تا ۱۷۹۳ء) ،

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۳۳۹	والی قلات ، بلوچستان کی ایک نامور شخصیت .	
۱ ۳۴۱		* نصیر الدین طوسی : رگ بہ الطوسی .
۱ ۳۴۱		* نصیر الدین ہمایوں : رگ بہ ہمایوں .
۱ ۳۴۱		* نصیری ہلوی : ایک غالی شیعہ فرقہ .
۲ ۳۴۳		* النصیر (بنو) : عہد نبوی میں مدینہ منورہ کا ایک بڑا یہودی قبیلہ .
۱ ۳۴۵		* النظام : ابراہیم بن سیار بن ہانی بن اسحاق ، بصرے کا ایک معتزلی عالم اور متکلم (م مابین ۴۸۳۵/۵۲۲۰ و ۸۴۵/۵۲۳۰) .
۲ ۳۴۷		* نظام بدخشی : فقہ ، حدیث اور فلسفہ کے عالم اور عہد اکبری کے ایک منصب دار (م ۱۵۸۳/۵۹۹۲) .
۱ ۳۴۸		* نظام جدید : ترکیہ کے سرکاری محکموں کی از سر تنظیم کے سلسلے میں سلطان سلیم ثالث کا حکم نامہ .
۱ ۳۴۹		* نظام الدین : احمد بن محمد مقیم السہروی ، عہد اکبری کا ایک منصب دار اور فارسی میں ہندوستان کی تاریخ طبقات اکبری کا مصنف (م ۱۵۹۳/۵۱۰۰۳) .
۱ ۳۵۰		* نظام الدین اولیا : دہلوی ، سلطان المشائخ ، محبوب الہی (۱۲۳۸/۵۶۳۶ تا ۱۳۲۵/۵۷۲۵) ، سلسلہ چشتیہ کے ایک نامور ولی .
۲ ۳۵۵		* نظام الدین سہالوی : ملا (۱۰۸۸-۱۶۷۸-۱۶۷۸ تا ۱۱۶۱/۵۱۷۸) بانی درس نظامیہ ، متبحر عالم دین ، فقیہ ، فلسفی و شارح اور ممتاز مدرس و مصنف .
۱ ۳۶۰		* نظام الدین شامی : (یا محض نظام) ، تیموری عہد کا ایک مؤرخ اور مؤلف ظفر نامہ (حیات ۱۳۰۳/۵۸۰۶) .
۱ ۳۶۲		* نظام شاہ : ملک احمد بھری ، احمد نگر کی سلطنت نظام شاہی کا بانی (از ۱۳۹۰/۵۸۹۵ تا ۱۵۰۸/۶۹۱۳) .
۲ ۳۶۳		* نظام شاہی : (خور شاہ نظام شاہی ، یا نظام شاہ والی دکن کا ایلچی) ، ایک مؤرخ اور تاریخ ایلچی نظام شاہ کا مصنف (م ۱۵۶۳/۵۹۷۲) .
۱ ۳۶۳		* نظام الملک : ابوعلی الحسن بن محمد بن اسحاق الطوسی (۱۰۱۸/۵۳۰۸ تا ۱۰۹۲/۵۳۸۵) ، سلجوقی سلاطین آلپ ارسلان اور ملک شاہ کا مشہور و معروف وزیر اور مصنف سیاست نامہ .
۱ ۳۷۷		* نظام ، حسن : صدر الدین محمد بن حسن ، ایک فارسی مؤرخ ، مصنف تاج المآثر (حیات ۱۲۱۷/۵۶۱۳) .
۲ ۳۷۷		* نظامی عروضی سمرقندی : احمد بن عمر بن علی ، شاہان غور کا نامور درباری شاعر اور چہار مقالہ کا مصنف (حیات ۱۱۵۶/۵۶۵۱) .

صفحہ نمبر	اشارات	مدون
		* نظام الدین ابو محمد الیاس بن یوسف (۵۳۵/۱۱۳۰-۱۱۳۱/۵۱۱ تا
۱	۳۷۹	۵۹۹/۱۲۰۲-۱۲۰۳/۵۱۲) ، فارسی کے ایک عظیم شاعر .
۱	۳۸۲	* تَطَّر: ایک فلسفیانہ اصطلاح ، بمعنی غور و فکر .
۱	۳۸۶	⊗ تَطْم: رک بہ (۱) شاعر ؛ (۲) مثنوی ؛ (۳) مرثیہ ؛ (۴) لغت .
		* تَطْمی: شیخ محمد بن رمضان (۱۰۳۲/۵۱۶ تا ۱۱۱۲/۵۱۷) ، ایک
۱	۳۸۶	عثمانی شاعر .
		* تَطْمی محمد: سلیمان القانونی کے زمانے میں ادرنہ کا ایک عثمانی شاعر
۱	۳۸۶	(م ۹۹۶/۱۵۸۸) .
۱	۳۷۸	* تَطِير: (نظیر السمعت یا النظیر)، ہاتال یا افق کا غیر مرئی قطب، علم ہیئت کی ایک اصطلاح .
		⊗ تَطِير اکبر آبادی: (نواح ۱۱۳۷/۵۱۷ تا ۱۲۳۶/۵۱۷۳) ، اردو زبان کے
۱	۳۸۷	منفرد اور ممتاز شاعر .
		⊗ تَطِيری نیشاپوری: ملا محمد حسین ، اکبر اور جہانگیر کے زمانے کا نامور
۱	۳۹۰	فارسی شاعر اور ممتاز غزل گو (م ۱۰۲۳/۵۱۰) .
		⊗ لغت: صفت و ثنا اور تعریف و توصیف ، مجازاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
۱	۳۹۵	تعریف و توصیف ؛ ایک مشہور صنف سخن .
		* النعمان بن ابی عبداللہ محمد: ابوحنفہ ، اصحابی فرقے کا بڑا فقیہ اور مصر میں
۲	۴۰۹	ابتدائی فاطمی خلفا کا زبردست حامی (م ۳۶۳/۵۹۷) .
		⊗ النعمان بن بشیر الانصاری: (۵۲ تا ۶۵) ایک عرب خطیب ، صاحب دیوان شاعر ،
۱	۴۱۱	کوفہ اور حمص کے والی اور صحابی رسول .
۱	۴۱۱	* النعمان بن ثابت: رک بہ ابوحنیفہ ، امام .
		* النعمان بن المنذر: (کنیت ابو قابوس یا ابو قبیس) ، حیرہ کے لخمی خاندان کا
۲	۴۱۲	آخری بادشاہ .
		* نِعْمَت اللہ بن احمد: بن قاضی مبارک ، المعروف بہ خلیل صوفی ، ایک فارسی لغت
۱	۴۱۳	کا مصنف (م ۹۶۹/۱۵۶۱-۱۵۶۲/۵۱۵) .
		* نِعْمَت اللہ بن حبیب اللہ ہروی: فارسی زبان کا ایک مؤرخ ، صاحب تاریخ خان جہانی
۲	۴۱۳	(حیات ۱۰۲۱/۵۱۰) .
		* نِعْمَت اللہ ولی: امیر نورالدین نعمت اللہ بن میر عبداللہ ، بانی سلسلہ نعمت الہی ،
۱	۴۱۵	ایران کے ایک صوفی بزرگ ، شاعر اور متعدد رسائل تصوف کے مصنف
		(م ۷۳۳/۱۳۳۱) .
		* نعمت خان عالی: میرزا نورالدین محمد بن حکیم فتح الدین شیرازی ، شاہجہان اور
		عالمگیر کے عہد کا ایک بسیار نویس مصنف اور شاعر

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۳۱۶	(م ۱۱۲۳/۵۱۷۱) .	* نَعِيمَا : مصطفیٰ نعیم (۵۱۶۵/۵۱۰۶۵ تا ۵۱۷۱۶/۵۱۱۲۸) ، شاہی وقائع نویس اور عثمانی سلاطین کی ایک مشہور تاریخ کا مصنف .
۱ ۳۱۷		* نَعِيم : رک بہ فن (موسیقی) .
۱ ۳۱۸		* نَيفَر : جنوبی عراق میں ایک اجڑی ہوئی بستی .
۱ ۳۲۰		* النِّفَرِي : محمد بن عبدالجبار ، ایک صوفی مصنف (م ۵۳۵۳/۵۹۶۵) .
۱ ۳۲۰		* النِّفْسُ وَالرُّوْحُ : ذات ، شخص ، جان ؛ علم فلسفہ و حکمت کی ایک اصطلاح .
۲ ۳۲۶		* النِّفْسُ الزَّكِيَّةُ : رک بہ محمد بن عبداللہ .
۲ ۳۲۶		* لِنَطَه : تونس کے جنوبی حصے میں ایک قدیم شہر اور قرون وسطیٰ میں قسطنطینیہ کا صدر مقام .
۲ ۳۲۷		* لَفْعِي : عمرافندی ، عہد آل عثمان کا سب سے بڑا ہجو گو شاعر (م ۱۰۳۳/۵۱۶۳۳) .
۱ ۳۲۰		* لَفَقَه : رک بہ (۱) نکاح ؛ (۲) طلاق .
۱ ۳۲۹		* لَعْلَل : رک بہ نافلہ .
۱ ۳۲۹		* اللِّفُوسَةُ : ایک بربر قبیلے کا نام .
۱ ۳۳۲		* اللِّفُوسِي : ابوسہل الفارسی ، آل رستم کا ایک اباضی عالم (م ۵۲۹۳/۵۹۰۷) .
۲ ۳۳۲		* (السَّيِّدَةُ) لَيْسَةُ : بنت الحسن بن زید بن الحسن ، امام جعفر صادق کے صاحبزادے اسحق المؤمن کی زوجہ ، نیکی اور علم فضل کے اعتبار سے مشہور خاتون (مقبرہ قاہرہ سے باہر جامع احمد بن طولون کے جنوب میں) .
۱ ۳۳۳		* لَقَاب : رک بہ ستر .
۱ ۳۳۳		* لِقَارَه خَانَه : رک بہ طبل خانہ .
۱ ۳۳۳		* لِقَاشِي : رک بہ فن (مصوری) .
۱ ۳۳۳		* اللُّقْرَه : جبل حوران کے مغرب میں ایک میدان .
۲ ۳۳۳		* لِقَشْبَنْد : خواجہ محمد بن بہاء الدین البخاری (۵۱۷/۵۱۳۱۷ تا ۵۷۹/۵۱۳۸۹) ، اتباع سنت پر زور دینے والے نامور صوفی بزرگ بانی سلسلہ نقشبندیہ .
۲ ۳۳۳		* لِقَشْبَنْدِيَّة : چار مشہور سلاسل تصوف میں سے ایک سلسلہ ، نیز موسوم بہ سلسلہ خواجگان .
۱ ۵۳۶		* اللُّنْكَار : اباضی خوارج کی ایک شاخ .
۲ ۳۳۷		* لِنَاح : عقد ازدواج ، شادی ، بیاہ ؛ اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح .
۲ ۳۳۳		* لِنِكْسِن : J. A. Nicholson (۱۸۶۸ تا ۱۹۳۵) ، ایک مشہور انگریز مستشرق .
۲ ۳۳۵		* لِنِكِير : رک بہ منکر و نکیر .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۲	۳۳۵	* النمارہ : متعدد مقامات کا نام .
۲	۳۳۵	⊗ نماز : رک بہ صلوة .
۲	۳۳۵	* نمرود : قدیم آشور کا ایک ویران مقام .
		⊗ نمرود : حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں بابل کی آشوری سلطنت کا جابر و ظالم بادشاہ .
۲	۳۳۷	⊗ النمل : قرآن مجید کی ستائیسویں سورہ .
۲	۳۳۹	* نمیر : بن عامر صعصعہ ، ایک عرب قبیلہ .
۱	۳۵۲	⊗ نواب : نیابت کرنے والا ، قائم مقام ، نائب سلطان ، رئیس ، عامل ، فرمانروا ؛ عزت افزائی کے لیے شاہی خطاب .
۱	۳۵۳	* النواجی : شمس الدین محمد بن حسن بن علی بن عثمان القاہری (۸۷۸ھ/۱۳۸۶ء تا ۸۵۹ھ/۱۳۵۵ء) ایک عرب عالم ، شاعر اور ادیب .
۲	۳۵۳	* نوار : رک بہ نوری .
۲	۳۵۶	* نوارینو : (Navarine ناوارین ، آوارین) ، مسنیہ کے جنوب مغرب میں ایک چھوٹی سی بندرگاہ .
۲	۳۵۶	⊗ نوافل : رک بہ نافلہ .
۱	۳۵۸	* النواوی : رک بہ النووی .
۱	۳۵۸	* نوبار ہاشا : (۱۸۳۵ تا ۱۸۹۹ء) ، ایک مصری سیاست دان .
۱	۳۵۸	* نو بخت : ایک ایرانی موروثی لقب .
۲	۳۶۱	* نو بختی : ایران کے ایک عام دوست خاندان سے نسبت .
۲	۳۶۲	* نوبہ : اسلامی بلاد مشرق میں فن موسیقی کی ایک مستقل نوع .
۱	۳۶۳	* نوبہ : مصر کے جنوب میں واقع ایک ملک اور قوم .
۱	۳۶۷	⊗ نوح : قرآن مجید کی اکہترویں سورہ .
۲	۳۷۳	⊗ نوح : ایک جلیل القدر اور صاحب شریعت نبی .
۲	۳۷۳	* نوح : دوسامالی حکمران : (۱) ابو محمد نوح اول بن نصر بن احمد المعروف بہ امیر الحمید (م ۳۳۳ھ/۹۵۴ء) ؛ (۲) نوح ثانی بن منصور بن نوح المعروف بہ الرضی (از ۳۶۶ھ/۹۷۷ء تا ۳۸۷ھ/۹۹۷ء) .
۱	۳۸۰	* نوح بن مصطفیٰ : ایک عثمانی ترک عالم دین اور مترجم (م ۱۰۷۰ھ/۱۶۵۹ء) .
۱	۳۸۰	* نور : روشنی ، ضو اور ضیا کا مترادف ، ایک فلسفیانہ اصطلاح .
۱	۳۸۵	⊗ الثور : قرآن مجید کی چوبیسویں سورہ .
۱	۳۸۷	* نور اللہ الششتری ، قاضی : بن السید شریف المرعشی الحسینی (ولادت ۱۵۴۹ھ/۱۷۵۶ء) ، ایک نامور شیعہ عالم ، فقیہ اور مصنف .
۱	۳۹۰	

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱	۳۹۱	* نُور بَخشِیہ : محمد بن محمد عبداللہ المعروف بہ نور بخش (۵۷۹۵/۱۳۹۳ء تا ۵۸۶۹/۱۴۶۵ء) سے منسوب ایک مذہبی فرقہ یا جماعت .
۱	۳۹۳	⊗ نُور جہان : سہرالنساء (۱۵۷۷ تا ۱۶۳۵ء) ، مغل شہنشاہ جہانگیر کی محبوب اور مشہور ملکہ .
۱	۳۹۳	* نُور الدولہ : رگ بہ دیس .
۱	۳۹۳	* نور الدین : ابوالعارث ارسلان شاہ اول زنگی ، الموصل کا اتابک (از ۵۸۹/۱۱۹۲ء تا ۶۰۷/۱۲۱۱ء) .
۱	۳۹۳	*⊗ نور الدین : ابو القاسم محمود زنگی الملک العادل (۵۱۱/۱۱۱۸ء تا ۵۶۹/۱۱۷۳ء) ، شام و حلب کا نامور سلطان .
۲	۳۹۶	* نور الدین محمد : ایک ارتقی حکمران (از ۵۶۲/۱۱۶۶-۱۱۶۷ء تا ۵۸۱/۱۱۸۵-۱۱۸۶ء) .
۲	۵۰۵	⊗ نُور الدین مینگل : بلوچ قبیلہ مینگل کے سردار .
۱	۵۰۶	* نُورس : دو عثمانی شاعر : (۱) عبدالرزاق معروف یہ نورس (م ۱۱۷۵/۱۷۶۲ء) (۲) عثمان ، معروف بہ نورس جدید (م ۱۲۹۳/۱۸۷۶ء) .
۲	۵۰۷	* نُورستان : رگ بہ کافرستان .
۲	۵۰۷	* نور محمد سہاروی : خواجہ : (۱۱۳۲/۱۷۳۰ء تا ۱۲۰۵/۱۷۹۱ء) ، سلسلہ چشتیہ کے ایک نامور بزرگ .
۲	۵۰۸	* نور مہدی : حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے وجود ازلی کے معنی میں ایک کلمہ .
۲	۵۰۹	* نوروز : ایرانی سال کا پہلا دن .
۲	۵۱۰	* نُوری : مشرقِ ادنیٰ کے بعض خانہ بدوش قبائل کے لیے ایک عام کلمہ .
۲	۵۱۱	* النوشادر : (نوشادر ، نشادر) ، امونیم کلورائیڈ ، ایک قسم کا نمک .
۱	۵۱۳	⊗ نُوشاہی : برِ عظیم پاک و ہند میں سلسلہ قادریہ کی ایک شاخ .
۲	۵۱۵	* نوشیروان : رگ بہ انوشروان .
۲	۵۱۵	* نوعی : مہدِ رضا ، ایک فارسی شاعر (م ۱۰۱۹/۱۶۱۰ء) .
۱	۵۱۶	* نوعی : یحییٰ بن شیخ پیر علی بن نصوح ، ایک ترک عالم دین اور شاعر (م ۱۰۰۷/۱۵۹۸ء) .
۱	۵۱۷	** نوعی زادہ عطائی : عطاء اللہ (۵۹۹۱/۱۵۸۳ء تا ۱۰۱۳/۱۶۳۱ء) ، ایک ترکی مصنف اور شاعر .
۱	۳۱۸	⊗ نُون : رگ بہ ن .
۱	۳۱۸	*⊗ النووی : ابو عبدالمعطی مہد بن عمر بن عربی النووی ، التناری الجاوی النبتی ، ملایا کا

صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۱	۵۱۸	رہنے والا ایک عرب مصنف ، عالم ، شافعی فقیہ اور مفسر (حیات ۱۸۸۸/۵۱۳۰۶ء)
۱	۵۲۰	* النَوَوِي : (یا التواوی) ، معنی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف (۵۶۳۱/۱۲۳۳ء تا ۵۶۷۶/۱۲۷۷ء) ، ایک جلیل القدر عرب مصنف ، شافعی عالم اور فقیہ ۔
۲	۵۲۲	* نَوَوِي بازار : یا بینی بازار ، ۱۹۱۲ء تک ایک ترکی سنجاق کا نام ۔
۲	۵۲۳	* النَوَيْرِي : شہاب الدین احمد بن عبدالوہاب البکری الشافعی (۵۶۷۷/۱۳۷۹ء تا ۵۷۳۲/۱۳۳۲ء) ، ایک عرب وقائع نگار ، صاحب نہایۃ العرب ۔
۲	۵۲۶	⊗ نولد بکھ : Theodor Noeldeke (۱۸۳۶ تا ۱۹۳۰ء) ، جرمنی کا مشہور اور ممتاز مستشرق ۔
۱	۵۲۸	* نہاوند : بہدان کے پرانے صوبے کا ایک شہر ۔
۲	۵۲۸	* النہروالی : (نہروانی) ، قطب الدین محمد علاء الدین احمد (۵۹۱۷/۱۵۱۱ء تا ۶۹۹/۱۵۸۲ء) ، ایک ہندی النسل عرب مؤرخ ، مدرس اور مفتی مکہ ۔
۲	۵۳۰	* نہروان : بغداد اور واسط کے مابین حضرت علیؓ اور خوارج کے درمیان ایک جنگ (۵۳۹/۶۰۸ء) کا مقام ۔
۱	۵۳۱	* نہپکی : آل نہپک ، قبیلہ نخع میں شیعہ علماء کا ایک خاندان ۔
۱	۵۳۱	* نیازی : شمس الدین محمد ، معروف بہ شیخ مہری (۱۰۲۷/۱۶۱۷-۱۶۱۸ء تا ۱۱۱۱/۱۶۹۹ء) ، ایک معروف عثمانی شاعر اور صوفی ۔
۲	۵۳۲	* نیریز (نریز) : آذربائیجان میں ایک مقام ۔
۲	۵۳۳	* نیسان : شامی تقویم کا ساتواں مہینا ۔
۱	۵۳۳	* نیشاپور : قرون وسطیٰ میں ایران کا ایک بڑا شہر ۔
۱	۵۳۶	* نیکپولی : Nikopolis ، دریائے ڈینیوب کے کنارے ایک شہر ۔
۱	۵۳۷	* نیکسار : (Neo-Caesarea) ، یعنی قیصریہ) ، آناطولی میں ایک تاریخی اہمیت کا مقام ۔
۱	۵۳۷	* نیگدہ : اسی نام کی سنجاق (اب ولایت) میں ایک شہر ۔
۲	۵۳۹	* النيل : اسلامی دنیا کا ایک بڑا دریا ۔
۱	۵۳۹	* نیلو خاتون : عثمانی سلطان اور خان کی بیوی اور سلطان مراد اول کی والدہ (حیات ۵۷۳۰/۱۲۳۹ء) ۔
۲	۵۳۶	* نیروز : رگ بہ سیستان ۔
۲	۵۳۶	* نینوا : (۱) موصل کے بالمقابل دریائے دجلہ کے کنارے کھنڈروں کا ایک وسیع و عریض رقبہ ؛ (۲) عراق کا ایک ناحیہ (ضلع) ۔
۲	۵۵۱	* نیۃ : قصد ، ارادہ ؛ فقہ اسلامی کی ایک اصطلاح ۔

و

- ⊗ و: (واؤ) عربی حروف تہجی کا ستائیسواں، فارسی کا تیسواں اور اردو کا اڑتالیسواں حرف۔
- ۱ ۵۵۵ * الواثق بالله: ابو جعفر ہارون بن المعتصم، ایک عباسی خلیفہ (از ۵۲۲ء/۵۸۳ء تا ۵۳۲ء/۶۰۳ء)۔
- ۱ ۵۵۷ ⊗ الواجد: رک بہ الاسماء الحسنی۔
- ۲ ۵۵۸ ⊗ واجد علی شاہ: (۵۱۲۳۷ء/۱۸۱۱ء تا ۵۱۸۸۷ء/۱۸۰۵ء)، شاہ اودھ (از ۱۸۳۷ء تا ۱۸۵۶ء)، مصنف، شاعر، ماهر رقص و موسیقی۔
- ۲ ۵۵۸ * واح: (الواح)، مصر میں نخلستانوں کا ایک سلسلہ۔
- ۲ ۵۶۱ ⊗ الواحد: رک بہ (۱) اللہ: (۲) الاسماء الحسنی۔
- ۲ ۵۶۲ * واحدی: جنوبی عرب کا ایک حکمران خاندان۔
- ۲ ۵۶۲ * واد (وادی): ہسپانیہ کے متعدد دریاؤں کے نام کا جز، مثلاً وادی الکبیر۔
- ۳ ۵۶۳ * وادی آش: (Guadix)، اندلس کا ایک دریا اور اس کے کنارے اسی نام سے آباد صوبہ غرناطہ کے ایک ضلع کا صدر مقام۔
- ۱ ۵۶۳ * وادی الحجارة: (Guadalajara)، ہسپانیہ کا ایک دریا، صوبہ اور اس کا صدر مقام۔
- ۲ ۵۶۳ * وادی حلفہ: سابقہ انگریزی مصری سودان میں ایک جدید شہر۔
- ۲ ۵۶۵ * وادی القری: جنوبی عرب میں ایک وادی۔
- ۱ ۵۶۶ * وادی الکبیر: (Guadalquivir)، بحر اوقیانوس میں جاگرنے والے اندلس کے چار بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا۔
- ۲ ۵۶۷ * وادی لون: جنوبی مراکش میں ایک وسیع میدان۔
- ۲ ۵۶۸ * وادبانہ: (Guadiana)، وادی آنا، نہریانہ، جزیرہ نماے آئبیریا کے چار بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا۔
- ۱ ۵۷۳ * وارا دین: Petrovardin کا ترکی نام۔
- ۱ ۵۷۳ ⊗ الوارث: رک بہ الاسماء الحسنی۔
- ۱ ۵۷۳ ⊗ وارث: رک بہ علم (میراث)۔
- ۱ ۵۷۳ ⊗ وارث شاہ: مشہور ترین پنجابی شاعر، مصنف داستان ہیر رانجھا (م ۱۷۹۸ء)۔
- ۱ ۵۷۳ * واسط: عراق کے مرکزی علاقے کا ایک شہر۔
- ۲ ۵۷۷ ⊗ الواسع: رک بہ الاسماء الحسنی۔
- ۲ ۵۷۹ * واسع علی سی: یا علی، دور عثمانیہ کا ایک ترک عالم، شاعر اور الشاہرداز، انوار سہیلی کا ترکی مترجم (م ۱۹۵۰ء)۔
- ۲ ۵۷۹

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۵۸۰		⊗ واسوخت : بمعنی بیزاری ، تکدر ، ایک صنف سخن .
۲ ۵۸۱		* واصف : احمد ، سلطنت عثمانیہ کا ایک سرکاری مؤرخ (۱۸۰۶/۱۲۲۱ء) .
۱ ۵۸۳		* واصل بن عطاء : ابو حذیفۃ الغزالی ، معتزلہ کا امام (م ۱۳۱/۴۳۹-۴۳۸ء) .
۱ ۵۸۵		* والہ : عربی عروض میں چوتھی بحر .
		*⊗ الواقدی : ابو عبد اللہ محمد بن عمر (۱۳۰/۴۳۷ء تا ۲۰۷/۴۸۲ء) ، مشہور
۲ ۵۸۵		عرب مؤرخ اور سیرت نگار .
۱ ۵۸۸		⊗ الواقع : رک بہ النسر الواقع .
۱ ۵۸۸		⊗ الواقعہ : قرآن مجید کی چھٹیوں کی دورہ .
۲ ۵۸۹		* والدہ سلطان : قدیم عثمانی سلطنت میں سلطان وقت کی والدہ کا خطاب .
۱ ۵۹۱		⊗ الوالی : رک بہ الاسماء الحسنی .
		* والہی : دو عثمانی شعرا : (۱) والہی ، کرد زادہ یا قورت زادہ (م ۱۵۹۶/۱۹۹۳ء) ؛
۱ ۵۹۱		(۲) والہی احمد (م ۱۰۰۸/۱۰۰۸ء) .
۱ ۵۹۱		*⊗ وامق و عذرا : فارسی زبان کی ایک منظوم رومانی داستان .
		* وان : ترکیہ میں جھیل وان کے مشرقی کنارے اور ارمینیا کی سطح مرتفع پر واقع
۲ ۵۹۲		ایک شہر .
		* وان قولی : محمد بن مصطفیٰ الوالی ، مراد ثالث کے عہد کا ایک مشہور
۱ ۵۹۳		ماہر قانون (م ۱۵۹۲-۱۵۹۱/۱۰۰۰ء) .
		* الواء الدمشقی : ابو الفرج محمد بن احمد الغسانی ، عہد سیف الدولہ حمدانی کا
۲ ۵۹۳		ایک دوسرے درجے کا شاعر (م نواح ۳۷۰/۴۹۸ء) .
۱ ۵۹۵		⊗ واؤ : رک بہ و .
۱ ۵۹۵		* وبار : جزیرۃ العرب کے جنوبی حصے میں ایک علاقہ اور وہاں آباد ایک قبیلہ .
۲ ۵۹۵		* ودد یا ودد : عام عروض کی ایک اصطلاح .
۱ ۵۹۶		⊗ ویر : نماز عشاء کے بعد اسی نام سے ادا کی جانے والی نماز .
۱ ۵۹۷		* وئالی : رک بہ دستاویزات .
۱ ۵۹۷		* وئیقہ : رک بہ دستاویزات .
۱ ۵۹۷		*⊗ وجدہ : Oujda ، مشرقی مراکش کا ایک صوبہ اور اس کا صدر مقام .
		*⊗ وجود : (ہستی) ، نیز موجود ہستی) ، ارسطاطالیسی مابعد الطبیعیات کی اہم
۲ ۵۹۷		اصطلاحات .
۲ ۶۰۵		⊗ وجودیت : Existentialism ، ایک فلسفیانہ اصطلاح .
		⊗ وجہی ، ملا : گولکنڈہ کے قطب شاہی دور کا شاعر ، نثر نگار ، مثنوی قطب مشتری
۱ ۶۰۹		(۱۶۰۹/۱۰۱۸ء) اور قصہ سب رس (۱۶۵۰/۱۰۲۰ء) کا مصنف .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
		*⊗ وجانگر : دریائے تنگ بہدرا کے جنوبی کنارے پر واقع جنوبی بھارت کا ایک شہر (اب کھنڈر) .
۱	۶۱۱	* وجیبی : حسین ، ایک عثمانی شاعر اور مؤرخ (م ۱۰۷۱ھ/۱۶۶۰ء) .
۲	۶۱۲	* وحدۃ الشہود : رک بہ تصوف .
۱	۶۱۳	⊗ وحدۃ الوجود : رک بہ تصوف .
۱	۶۱۳	* وحشی بالقی : ایک ایرانی شاعر (م ۹۹۱-۱۵۸۳/۱۵۸۳ء) .
۱	۶۱۳	⊗ وحی : لطیف اور مخفی اشارہ ، پیغام رسالت ، الہام ؛ ایک معروف قرآنی اصطلاح .
۲	۶۱۳	* وحید دستگردی : حسن بن محمد بن قاسم ، دور آخر میں ایک نامور ایرانی شاعر اور ادیب (م ۱۳۹۱ھ) .
۱	۶۲۳	* وخان : ہامیر کے جنوب میں افغانستان کا ایک ضلع .
۲	۶۲۳	* وداعی : (برگو ، دار صالح) ، دار فور کے مغرب میں واقع ایک علاقہ .
۲	۶۲۵	* ودیعہ : ایک قسم کا عقد ؛ ایک فقہی اصطلاح .
۱	۶۳۰	* وراق : ابو عیسیٰ محمد بن ہارون ، ایک آزاد خیال مفکر (م ۵۲۹ھ/۶۹۰ء) .
۲	۶۳۳	* ورامین : تہران سے جنوب مشرق میں ایک شہر .
۱	۶۳۳	⊗ ورد : ذکر کے لیے مترادف لفظ .
۱	۶۳۵	⊗ ورقہ بن نوفل : بن اسد بن عبدالعزی ، زمانہ جاہلیت کا ایک عیسائی عالم .
۲	۶۳۷	* ورقلہ : Ouragla ، الجزائر کے صحرا میں ایک نخلستان .
۲	۶۳۸	* الورکاء : جنوبی عراق میں ایک اجاز مقام .
۲	۶۳۹	*⊗ ورلہ : (وارنہ) ، بحیرہ اسود کے ساحل پر بلغاریہ کا تیسرا بڑا شہر .
۱	۶۴۱	* وزارت : رک بہ وزیر .
۲	۶۴۲	* وزیر : مدار المہام ؛ سلطنت (بالخصوص عثمانی سلطنت) کا سب سے بڑا عہدیدار .
۱	۶۴۵	* الوزير المغربی : رک بہ المغربی .
		⊗ وزیر خان : شیخ علیم الدین انصاری ، عہد مغلیہ کا ایک نامور امیر اور صوبیدار ،
۱	۶۴۵	حاذق طبیب اور مسجد وزیر خان کا بانی (م ۱۰۵۰ھ/۱۶۴۰ء) .
۱	۶۴۷	⊗ وزیرستان : پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے میں شامل قبائلی علاقہ .
		⊗ وٹنفلٹ : Ferdinand Wustenfeld (۱۸۰۸ تا ۱۸۹۹ء) ، ایسویں صدی کا ایک
۱	۶۴۹	نامور مستشرق .
۱	۶۴۹	* الوشاء : ابوالطیب محمد بن اسحاق بن یحییٰ ، ایک عربی ماہر لسانیات اور ظریف .
۱	۶۴۹	⊗ وشقہ : Huesca ، شمالی اندلس کا ایک سرحدی صوبہ .
۱	۶۵۰	* وشمگیر بن زیار : ابو طالب ، زیاری خاندان کا دوسرا حکمران (از ۹۳۵ تا ۹۶۵ء) .
۱	۶۵۲	* وصاب : ایک ایرانی مؤرخ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۶۵۲		* وَصَلَى : رگ بہ فن (خطاطی) .
۲ ۶۵۲		⊗ وَصَى : رگ بہ وصیۃ .
		⊗ وَصِيَّة : اسلامی ادب کی ایک کثیرالاستعمال اور انتقال جائداد کی ایک قانونی اور فقہی اصطلاح .
۲ ۶۵۲		⊗ وَضُو : شریعت اسلامیہ کی ایک اہم اصطلاح ، نماز سے قبل ایک خاص ترتیب سے ہاتھ ، منہ ، پاؤں وغیرہ دھونا اور سر پر مسح کرنا .
۲ ۶۵۵		⊗ وَطَّاس ، بنو : ہندوہویں سولہویں صدی عیسوی میں مراکش کا ایک حکمران خاندان .
۱ ۶۵۷		⊗ وَطَن : بیسویں صدی میں متحدہ ہندوستان کا پہلا ہفتہ وار اخبار .
۲ ۶۵۸		⊗ وَطَوَّاط : رشید الدین ، باغ کا رہنے والا ایک ایرانی شاعر (م ۱۱۸۲/۵۵۷۸-۱۱۸۳/۶۱۱۸۳) .
۲ ۶۵۹		⊗ وَعْظ : رگ بہ مواعظ .
۲ ۶۶۰		* وَفَا : (۱) شرف الدین علی حسنی ، ایرانی شاعر (م ۱۱۹۳/۵۱۷۸-۱۱۹۳/۶۱۷۸) ؛ (۲) وفافراہائی ، میرزا محمد حسین ، زند خاندان کا وزیر اور صاحب دیوان شاعر ؛ (۳) وفا یزدی ، انیسویں صدی کا شاعر ؛ (۴) وفا اشرفی ، میرزا مہدی قلی ، انیسویں صدی کا شاعر ، کاتب اور خوش نویس .
۲ ۶۶۰		* الْوَفْرَانِي : (یا الْاِفْرَانِي) ، ابو عبد اللہ محمد بن الحاج ، المعروف بہ الصغیر (۱۰۸۰/۱۶۶۹-۱۶۷۰ تا ۱۱۳۰/۱۷۲۷ یا ۱۱۵۱/۱۷۳۸) ، ایک سراکشی سیرت نگار اور مؤرخ .
۱ ۶۶۱		* وَفَق : ایک طلسماتی مربع .
۱ ۶۶۲		* وَفَار : میرزا احمد شیرازی ، ایک ایرانی شاعر (حیات ۱۲۷۳/۱۸۵۷-۱۸۵۸/۶۱۸۵۸) .
۲ ۶۶۳		* وَفَات : رگ بہ زمان .
۱ ۶۶۵		* وَقَعَهُ نَوِيْسٌ ، وَقَالَع نَوِيْسٌ : محافظ دستاویزات ، عہد آل عثمان میر ، سرکاری مؤرخ .

جلد ۲۳

- * وَفَّ : (نیز حَسَّ) ، ایک فقہی اصطلاح ، کسی شے کا فی سبیل اللہ اچھے مقاصد کے لیے مخصوص کر دینا .
- ۱ ۱
- * وَقَوَاق : (واق واق) ، بحر لاروی میں واقع جزائر .
- ۲ ۱۹
- * (وَکَالَة) : ایک قانونی اصطلاح ، بمعنی مختار نامہ ، اختیار دے دینا ، وغیرہ .
- ۱ ۲۱
- * وَكَب : رگ بہ وَفَّ .
- ۱ ۲۵
- * وَكَيْل : رگ بہ (۱) وَکَالَة ؛ (۲) الاسماء الحسنی .
- ۱ ۲۵
- * وَابَه : (Huelva) ، ہسپانیہ کا ایک صوبہ اور اس کا صدر مقام .
- ۲ ۲۵
- * ولنڈیزی جزائر شرق الہند میں نظام مساجد : سائٹرا ، جاوا ، بورنیو اور برونائی وغیرہ میں عرصہ دراز سے قائم مساجد کا ایک بھر پور نظام .
- ۱ ۲۶
- * ولہاؤزن : Julius Wellhausen (۱۸۳۳ تا ۱۹۱۸ء) جرمنی کا ایک نامور مستشرق .
- ۱ ۳۱
- * (شہ) ولی اللہ دہلوی : ابو الفیاض قطب الدین احمد بن ابو الفیض شاہ عبدالرحیم (۱۱۱۳ھ/۱۷۰۳ء تا ۱۱۷۳ھ/۱۷۶۲ء) ، ہندوستان کے نامور عالم ، محدث ، فقیہ ، مجتہد اور کثیر التعداد کتابوں کے مصنف .
- ۲ ۳۹
- * (شہ) ولی بابا : مودودی چشتی ، بلوچستان کے ایک صوفی بزرگ اور کراچی سادات کے جد امجد .
- ۲ ۳۷
- * الولید بن عبدالملک : ایک مشہور اموی خلیفہ (از ۵۸۸ھ/۷۰۵ء تا ۵۹۸ھ/۷۱۵ء) .
- ۲ ۳۷
- * الولید بن المغیرہ : بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معاند قریشی سردار (م ۵۱ھ/۶۲۲ء) .
- ۱ ۳۸
- * الولید بن یزید : علم و فن کا سرپرست ایک اموی خلیفہ (از ۱۲۶ھ/۷۴۳ء تا ۱۲۷ھ/۷۴۴ء) .
- ۱ ۵۰
- * ولیم رائٹ : William Wright (۱۸۳۰ تا ۱۸۸۹ء) ، انگلستان کا ایک ممتاز مستشرق .
- ۱ ۵۱
- * ولیم لین : E. William Lane (۱۸۰۱ء تا ۱۸۷۶ء) برطانیہ کا ایک مشہور

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۱ ۵۲		مستشرق .
		⊗ ولیم میور : William Muir (۱۸۱۹ تا ۱۹۰۵ء) ، برطانوی دور میں گورنر یو۔ پی ،
۱ ۵۳		ایک متعصب اور دریدہ دہن مستشرق .
۱ ۵۴		* ولیمہ : رگ بہ عرس .
		* آلوشریسی : (۱) ابوالعباس احمد بن یحییٰ بن محمد التلمسانی الونشریسی ، المقرب کا ایک مشہور مالکی فقیہ ، فتاویٰ کی ایک کتاب کا مؤلف (م ۱۹۱۳ء/
		۱۵۰۸ء) اور اس کا بیٹا (۲) ابو محمد عبدالواحد بن احمد الزناتی
۱ ۵۴		الفاسی ، ایک فاضل قانون دان ، قاضی اور مفتی (م ۱۵۳۹ء/۱۹۵۵ء) .
		* وَاب بن منبہ : ابو عبداللہ ، جنوبی عرب کا ایک دامتان گو (م ۱۱۰۰ء/۱۲۲۸ء یا
۱ ۵۵		۱۱۱۳ء/۱۲۳۲ء) .
۲ ۵۸		* وَہبی : عام طور پر سید وہبی ، ایک ترکی شاعر (م ۱۱۵۳ء/۱۷۷۰ء)
۱ ۶۰		* وهران : (Oran) ، الجزائر کے ساحل پر ایک بندرگاہ اور شہر .
۲ ۶۰		⊗ الْوَهَّاب : رگ بہ الاسماء الحسنی .
۲ ۶۰		* وَهَابِيہ : (الموحدون) ، محمد بن عبدالوہاب کی قائم کردہ جماعت .
		* وَيسِي : اویس بن محمد (۱۵۲۶-۱۵۶۳ء تا ۱۰۳۷ء/۱۶۲۸ء) ، ایک نامور ترکی
۲ ۶۸		فاضل اور شاعر .
۲ ۶۹		* ویکا : رگ بہ نسر واقع .
		⊗ وینسنک : A. J. Wensinek (۱۸۸۱ تا ۱۹۳۹ء) ، ہالینڈ کا ایک نامور مستشرق
۲ ۶۹		اور معجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی کا مصنف .



		⊗ ہ : (ہا) ، عربی زبان کا چھبیسواں ، فارسی کا اکتیسواں ، ہندی کا تینتیسواں اور اردو کا اڑتالیسواں حرف .
۱ ۷۱		
۲ ۷۲		⊗ ہابیل و قابیل : حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے .
۲ ۷۶		* ہاتف : ایک کثیر المعانی لفظ ، پکارنے والا ، بلانے والا ، عموماً غیبی آواز .
۲ ۷۷		* ہاتف : سید احمد ، اصفہان کا ایک فارسی شاعر (م ۱۱۲۸ء/۱۷۱۵ء) .
		* ہاتفی : عبداللہ ، مولانا جامی کا ہم شیر زادہ اور فارسی کا ایک شاعر (م ۱۹۲۷ء/
۱ ۷۸		۱۵۳۱ء) .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲ ۷۸		* ہاجر (بنو) : مشرقی عرب کا ایک قبیلہ .
۱ ۷۹		* الہادی : رہنما ، خدا کا ایک نام ، نیز شیعہ حکمرانوں کا ایک مقبول لقب .
۲ ۷۹		* ہادی سبزواری : حاجی ملا (۱۲۱۲ھ/۱۷۹۷ء - ۱۷۹۸ء تا ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء) ، ایک مشہور ایرانی فلسفی اور شاعر .
۱ ۸۰		⊗ ہاروت و ماروت : قرآن مجید میں مذکور دو فرشتوں کا نام .
۲ ۸۳		*⊗ ہارون بن عمران : (ہائیل : Aaron) ، بنی اسرائیل کے ایک مقتدر نبی اور حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی .
۱ ۸۵		⊗ ہارون الرشید : نامور اور ممتاز ترین عباسی خلیفہ (از ۸۱۷ھ/۷۵۰ء تا ۸۱۹ھ/۷۸۰ء) .
۱ ۹۳		* الہارویہ : (۱) جلولا کے قریب عراق میں ایک گاؤں ؛ (۲) ایشیائے کوچک اور شام کے درمیان سرحدی قلعوں کا ایک سلسلہ .
۲ ۹۳		⊗ ہاشم بن عبدمناف : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد ، مشہور قریشی سردار .
۱ ۹۳		⊗ ہاشم سروانی : زبدة الفصحاء ابو محمد ہاشم بن زید سروانی (۲۲۳ تا ۵۲۹ھ) ، پشتو زبان کا ایک قدیم شاعر .
۲ ۹۵		*⊗ ہامان : حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ایک شدید مخالف اور فرعون کی مجلس شوریٰ کا ایک رکن .
۲ ۹۹		* ہامرز : جنگ ذوقار [رک باں] میں ایرانی دستوں کا سالار .
۲ ۹۹		* ہامون : مشرقی ایران ، افغانستان اور بلوچستان میں وسیع شورددلدلوں کا نام .
۱ ۱۰۰		* ہانسوی : شیخ جمال الدین احمد (۱۸۸۳ھ/۱۸۸۵ء - ۱۲۶۰ھ/۱۲۶۰ء تا ۱۲۶۱ھ/۱۲۶۰ء) ، ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ اور حضرت گنج شکرؒ کے خلیفہ .
۱ ۱۰۱		* ہانسی : ہریانہ پردیش (بھارت) میں ضلع حصار کا ایک قدیم قصبہ .
۲ ۱۰۲		⊗ ہانی بن عروہ : بن الفصفاص بن عمران ، عبید اللہ بن زیاد کے ابتدائی عہد ولایت میں کوفے کے بنو مراد کا ایک سردار (م ۵۹۰ھ/۷۶۸ء) .
۱ ۱۰۳		* ہبۃ اللہ بن الحسین : رک بہ بدیع الاسطرلابی .
۱ ۱۰۳		* ہبۃ اللہ : بن محمد بن المطلب مجد الدین الفیروز آبادی ، خلیفہ المستظہر کا وزیر (حیات ۵۰۳ھ/۱۱۰۹ء - ۱۱۱۰ء) .
۱ ۱۰۳		*⊗ ہبل : عہد جاہلیت میں کعبۃ اللہ کے اندر نصب ایک مشہور بت .
۱ ۱۰۳		⊗ ہبہ : بمعنی بخشش ، عطیہ ، ایک فقہی اصطلاح .
۱ ۱۱۰		* ہبو کریشیز : (Hippokrates) ، رک بہ بقراط .
۲ ۱۱		* ہتیم : جزیرۃ العرب کا ایک بڑا خانہ بدوش قبیلہ .

صفحہ نمبر	عنوان	اشارات
۱ ۱۱۱	* ہجاء : منظوم چٹکلا لطیفہ ، دجو ، ایک ادبی اصطلاح .	
۲ ۱۱۳	* ہجر : جنوبی عرب میں شہر کے معنوں میں مستعمل لفظ .	
۱ ۱۲۳	* ہجر : رگ بہ الحسا .	
۱ ۱۱۳	* ہجرۃ : جنوبی عرب کا ایک گاؤں .	
	⊗ ہجرۃ : ایک معروف اسلامی اصطلاح ، بمعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ترک وطن کرنا .	
۲ ۱۱۳		
۲ ۱۲۵	* ہجرین : حضر موت میں ایک شہر .	
۱ ۱۲۶	* المہجویری : رگ بہ داتا گنج بخش .	
	⊗ ہدایت اللہ ، میاں : (۱۸۳۸/۵۱۲۵۴ تا ۱۹۳۱/۵۱۳۵۰) ، ایک مشہور پنجابی شاعر .	
۱ ۱۲۶		
۲ ۱۲۶	* ہادندوا : (Hadendoa) ، شمالی افریقہ کا ایک حاسی النسل قبیلہ .	
	* ہدنة : کافروں اور مسلمانوں کے مابین مصالحت ، راضی نامہ ، بین الاقوامی معاہدہ .	
۱ ۱۲۷	ایک فقہی اصطلاح .	
۲ ۱۲۹	* ⊗ ہد ہد : کٹھ بڑھئی ، ایک پرندہ .	
۲ ۱۳۰	⊗ ہدیہ : رگ بہ ہبہ .	
۲ ۱۳۰	* ہذیل بن سدراکہ : عربوں کا ایک مشہور اور طاقتور قبیلہ .	
۲ ۱۳۱	* ہرات : مغربی افغانستان میں ہری رود پر ایک شہر اور ضلع .	
۲ ۱۳۳	⊗ ہر خریلیا : رگ بہ سنوک ہر خریلیہ .	
۲ ۱۳۳	* ہرر : مشرقی افریقہ کا ایک اہم تجارتی شہر .	
۱ ۱۳۶	* ہرسک : (ہرز گوینا) ، رگ بہ بوسنہ .	
۱ ۱۳۶	* ہرغہ : ایک بربر قبیلے ارغن کا عربی نام .	
۱ ۱۳۸	* ہرگرن : فارسی زبان کا ایک صاحب طرز ہندو ادیب .	
	* ہرگیسہ : سابق برطانوی زیر حمایت صومالیہ کا دارالحکومت اور اب جمہوریہ صومالیہ کے شمالی خطے کا صدر مقام .	
۱ ۱۳۸		
	* ہرم : (ج : اہرام) ، لفظی معنی مخروطی مینار ، مصر کی شہرہ آفاق عظیم الشان قدیم عمارتیں .	
۱ ۱۳۹		
	* ہرمز : (ورمزد) ، زرتشتی مذہب میں اہم ترین شخصیت ؛ ساسانی خاندان کے ہانچ بادشاہ : (۱) ہرمز اول (۲۷۲ تا ۳۰۳) ؛ (۲) ہرمز دوم (۳۰۳ تا ۳۰۹) ؛ (۳) ہرمز سوم (۳۵۷ تا ۳۵۹) ؛ (۴) ہرمز چہارم (۵۷۹ تا ۵۹۰) ؛ (۵) ہرمز پنجم (۶۳۲) .	
۱ ۱۳۱		
۱ ۱۳۲	* ہرمز : (اورمس) ، عہد وسطیٰ میں ایران کی ایک اہم تجارتی بندر گاہ .	

صفحہ عمود	اشارات	ہنوان
۱	۱۳۳	* الہرمزان : سوسانا کا بادشاہ اور مسلمانوں کے خلاف جنگ قادسیہ (۵۶۳ء/۵۱۹ء) میں ایرانی فوج کا ایک سردار .
۱	۱۳۵	* ہرود : افغانستان کا ایک دریا .
۲	۱۳۵	⊗ الہروی : ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری (۵۳۹۶/۵۱۰۰ء تا ۵۳۸۱/۵۰۸۹ء) ، ایک معروف عالم دین ، متکلم اور مصنف .
۱	۱۳۶	* الہروی الموصلی : شیخ تقی الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر ، شام کا ایک جہاں گرد صوفی ، الملک الظاہر غازی کا درباری اور مصنف (۵۶۱۱/۵۱۲۱۵ء) .
۲	۱۳۷	* ہری رود : ہرات کے جنوب میں افغانستان کا ایک دریا .
۱	۱۳۸	⊗* ہزاراسپ : دریائے جیحون اور خیوہ کے قریب ایک شہر .
۲	۱۳۸	⊗ ہزار اسپہا : لرستان کبیر کے حکمران بنو فضلویہ کا نام .
۲	۱۳۸	⊗ ہزارہ : دریائے سندھ کے مشرقی میں صوبہ سرحد (پاکستان) کی ایک قسمت .
۲	۱۵۰	* ہزارہ : ہزارستان (افغانستان) و بلوچستان میں آباد مغول نسل کی ایک قوم .
۲	۱۵۱	⊗* ہزج : عربی علم عروض کی چھٹی بحر .
۱	۱۵۲	* ہشام اول : ابوالولید الرضی یا العادل ، قرطبہ کا دوسرا اموی امیر (از ۵۱۷۲/۵۷۸۸ء تا ۵۱۸۰/۵۷۹۶ء) .
۲	۱۵۲	* ہشام ثانی : ابوالولید المؤید بن الحکم ثانی المستنصر ، قرطبہ کا دسواں اموی حکمران (از ۵۳۵۶/۵۹۷۶ء تا ۵۳۹۹/۶۰۰۹ء و از ۵۳۰۰/۶۱۰۱ء تا ۵۳۰۳/۶۱۰۱۳ء) .
۱	۱۵۳	* ہشام ثالث : المعتمد ، قرطبہ کا سولہواں اور آخری فرمانروا (م ۵۳۲۳/۶۱۰۳۳ء) .
۲	۱۵۳	* ہشام بن الحکم ابو محمد : ابتدائی زمانے کا ایک ممتاز شیعہ عالم (م ۵۱۹۹/۸۱۳-۸۱۵ء) .
۱	۱۵۳	* ہشام بن عبدالملک : اموی خلافت کا دسواں خلیفہ (از ۵۲۳/۸۱۰ء تا ۵۱۲۵/۶۷۳ء) .
۱	۱۵۸	⊗ ہفت ولی : قلات ڈویژن میں بھٹاری کے مقام پر سات بزرگوں کے مزار .
۱	۱۵۸	* ہکاری : ایران کی سرحد پر ولایت وان کی ایک سنجاق .
۱	۱۵۹	⊗ الہکاری : رک بہ عدی بن مسافر .
۱	۱۵۹	* ہلال : ایک عرب قبیلہ .
۱	۱۶۰	* ہلال الصابئی : رک بہ الصابئی .
۱	۱۶۰	* ہلالی : بدر الدین ، ایک فارسی شاعر (م ۱۵۳۲-۱۵۳۳/۵۹۳ء) .
۱	۱۶۰	* ہلمند : افغانستان کا سب سے بڑا دریا .
۱	۱۶۱	* ہما : ایک فرضی مبارک پرندہ .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲	۱۶۱	* ہمایوں : ہندوستان کا دوسرا مغل فرمانروا (از ۱۵۳۰ تا ۱۵۵۶ء) .
۱	۱۶۲	* ہمایوں نامہ : کلیہ و دینہ کا ترکی ترجمہ .
۱	۱۶۲	* ہمہی : سلطنت وجیانگر کے کھنڈروں کا موجودہ نام .
۲	۱۶۳	* ہمدان : عرب کا ایک بڑا قبیلہ .
		* الہمدانی : ابو محمد الحسن بن احمد بن یعقوب ، المعروف بہ ابن الحائک ، جنوبی عرب کا ہمہ دان عالم ، صاحب صفة جزيرة العرب وغیرہ (م ۵۳۳ھ / ۶۹۳ء) .
۱	۱۶۵	
۲	۱۶۶	* ہمدان : کوہ الوند کے دامن اور ایک زرخیز میدان میں واقع ایک قدیم شہر .
۱	۱۶۸	* ہمدانی : یا ہمدانی (۳۵۸ تا ۴۳۹ء) ، ایک قدیم عربی شاعر اور انشا پرداز .
۲	۱۶۹	⊗ همزة : الف کا جڑواں حرف .
۱	۱۷۳	⊗ الهمزة : قرآن مجید کی ایک سو چوتھی سورہ .
۱	۱۷۳	* ہملٹن گب (سر) : رگ بہ گب .
۱	۱۷۳	⊗ ہند : ہندوستان ، جنوبی ایشیا کا مشہور ملک .
		⊗ ہند بن عتبہ : بن ربیعہ ، عہد نبوی کی ایک مشہور قریشی خاتون ، ابوسفیان کی زوجہ اور امیر معاویہ کی والدہ (م ۳۳ھ) .
۲	۲۰۹	* ہندال میرزا : (۱۵۱۹ تا ۱۵۵۱ء) ، بابر کا چوتھا بیٹا .
		* ہند چینی : (Indo China) ، ہند بعید ، لاؤس ، کمبوچیا اور ویت نام پر مشتمل جزیرہ نما .
۱	۲۱۰	
۱	۲۱۳	⊗ ہندسہ : رگ بہ علم (الہندسہ) .
۱	۲۱۳	⊗ ہندو : رگ بہ سنسکرت .
۱	۲۱۳	⊗ ہندوستان : رگ بہ ہند .
		* ہندوستانی : یورپی علما کے ہاں مغربی ہندی ، یعنی بالائی گنگ و جمن کی بولی کا نام .
۱	۲۱۳	
۱	۲۱۳	* ہندو کش : پامیر سے جنوب مغرب کی طرف پھیلا ہوا سلسلہ کوہ .
۱	۲۱۵	* ہندی : جمہوریہ بھارت (انڈیا) کی قومی زبان .
۱	۲۱۸	* الہندیہ : رگ بہ ہندی .
۱	۲۱۸	* ہنر : رگ بہ فن .
۱	۲۱۸	* ہنزہ ناگر : شمالی علاقہ جات (پاکستان) میں شامل دو ریاستیں .
۲	۲۱۹	* ہنسلیہ : مراکش کا ایک سلسلہ تصوف .
۱	۲۲۰	* ہنگلاج : بلوچستان کی ریاست لس بیلا میں ایک قدیم خانقاہ .
۱	۲۲۰	* ہنوخ : (انوخ Henoch) ، رگ بہ ادريس .

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲	۲۲۰	* ہنیئاً : ایک دعائیہ کلمہ .
۲	۲۲۰	* ہوارہ : (Huara) ، مشہور بربر قبیلہ .
۲	۲۲۲	** ہوازن : شمالی عرب کا ایک بڑا عرب قبیلہ .
۲	۲۲۵	* ہواشم : (ہاشمیون) ، ابوہاشم محمد الحسنی کی اولاد پر مشتمل اشراف مکہ .
۲	۲۲۵	⊗ ہوایلوا : یا ہیلوہ ، رگ بہ ولہ .
۲	۲۲۵	*⊗ ہوت : ایک قدیم بلوچ قبیلہ .
۱	۲۲۶	⊗ ہود : قرآن مجید کی گیارہویں سورۃ .
۱	۲۲۷	* ہود : قرآن مجید میں مذکور ایک پیغمبر .
۱	۲۲۸	* ہود (بنو) : عہد سلوک الطوائف میں سرقسطہ کا ایک عربی النسل فرمااروا خاندان .
۱	۲۲۹	* ہوسا : رگ بہ الحوصہ .
۲	۲۳۲	** ہوشنگ شاہ غوری : مالوہ کا دوسرا غوری بادشاہ (از ۱۳۰۵-۱۳۰۶ء تا ۱۳۳۵ء) .
۲	۲۳۲	* الہوف : (ہفوف ، فوف) ، عرب میں ایک شہر اور صوبہ الاحسا کا دارالحکومت .
۲	۲۳۲	* ہولاکو : (۱۲۱۷ تا ۱۲۶۵ء) ، ایک مغول فاتح اور ایران میں مغولی (ایلخانی) سلطنت کا بانی .
۲	۲۳۵	* ہو ہو : منطق اور تصوف کی ایک اصطلاح .
۱	۲۳۷	* ہیئت : رگ بہ علم (الہیئت) .
۲	۲۳۷	* ہیئت : عراق کا ایک شہر .
۲	۲۳۷	⊗ ہیر : پنجاب (پاکستان) کے ایک معروف رومان کا مرکزی نسوانی کردار .
۲	۲۳۸	* ہیکا : رگ بہ وشقہ .
۲	۲۳۱	* ہیلاج : اکسیر حیات ؛ علم نجوم کی ایک اصطلاح .
۲	۲۳۱	⊗ ہیلوا : (ہوایلوا) ، رگ بہ ولہ .
۲	۲۳۱	* ہیولی : رگ بہ مادہ .

ی

۱	۲۳۴	⊗ ی (یاء) : عربی حروف تہجی کا اٹھائیسواں ، فارسی کا تیسواں اور اردو کا اکیانوواں حرف .
۱	۲۳۴	⊗ یا جوج و ماجوج : تورات اور قرآن مجید میں مذکور دو قبائل کا عربی نام .
۱	۲۳۴	* الیازجی : (۱) الشیخ ناصیف بن عبداللہ ، انیسویں صدی کا ایک عرب شاعر اور ماہر لسانیات (۱۸۰۰ تا ۱۸۷۷ء) اور اس کی اولاد ؛ (۲) ابراہیم بن ناصیف

صفحہ عمود

اشارات

عنوان

(۱۸۳۷ تا ۱۹۰۶ء) ، لغوی اور ماہر لسانیات ؛ (۳) خلیل بن ناصیف
 (۱۸۰۸ تا ۱۸۸۹ء) ، مصنف المروۃ والوقا ؛ (۴) وردہ بنت ناصیف
 (۱۸۸۳ تا ۱۹۲۳ء) ، مصنف اور شاعرہ ؛ (۵) حبیب بن ناصیف
 (۱۸۲۳ تا ۱۸۷۰ء) ، مترجم ، شارح اور مرثیہ نگار ۔

۱ ۲۵۳

* بازوری : ابو محمد الحسن بن علی ، فاطمی خلیفہ المستنصر باللہ کا وزیر اور
 قاضی القضاة (م ۵۸۰/۵۸۰ء) ۔

۱ ۲۵۷

* یازجی اوغلو : (یازجی زادہ) ، دو قدیم عثمانی شاعر اور صوفی : (۱) یازجی
 اوغلو محمد (م ۸۵۵/۸۵۵ء) ، مصنف رسالہ محمدیہ ؛ (۲) یازجی

اوغلو احمد (م نواح ۸۶۰/۸۶۰ء) ، تصوف کی چند کتابوں کا مصنف ۔

۱ ۲۶۰

⊗ یس : قرآن مجید کی چھتیسویں سورہ ۔

۱ ۲۶۳

* یافا : (یافہ ، Joffa, Jappa) ، بحیرہ روم کے کنارے ایک قدیم تاریخی شہر ۔

۱ ۲۶۵

* یالث : (بائبل : Japheth) ، تورات میں مذکور حضرت نوحؑ کا ایک بیٹا ۔

* الیافعی : ابوالسعاده (ابوالبرکات) عبداللہ بن اسعد بن علی ، ایک یمنی صوفی اور مصنف

۲ ۲۶۶

(۵۷۰۰/۵۷۰۰ء تا ۶۸۰/۶۸۰ء) ۔

⊗ یا قوت الحموی : شہاب الدین ابو عبداللہ الرومی (۵۷۰/۵۷۰ء تا ۶۲۶/۶۲۶ء) ،

ایک نامور ادیب ، فہرست نگار اور معجم البدان اور معجم الادباء

۱ ۲۶۷

وغیرہ کا مشہور مصنف ۔

* یا قوت المستعصمی : جمال الدین ابوالعجد بن عبداللہ (۶۱۸/۶۱۸ء تا ۶۹۸/۶۹۸ء)

۱ ۲۷۰

(۱۲۹۸ء) ، ایک مشہور خطاط ۔

* یام : (۱) علاقہ ہمدان (جنوبی عرب) سے تعلق رکھنے والا ایک قبیلہ ؛ (۲) یمن کا

۱ ۲۷۱

ایک مخالف ؛ (۳) یمن جوف میں ایک پہاڑ ۔

۱ ۲۷۲

* یالینہ : (Janina ، یانیہ) ، زبیری البانیا کا ایک شہر ۔

⊗ یتیم : ایک اسلامی اصطلاح ، بمعنی بچپن میں باپ کے سایۂ عاطفت سے محروم ہو جانے

۱ ۲۷۳

والا بچہ یا بچی ۔

۳ ۲۷۶

⊗ یثرب : رگ بہ المدینۃ المنورہ ۔

۱ ۲۷۷

⊗ یحییٰ : قرآن مجید میں مذکور ایک پیغمبر ۔

۱ ۲۷۸

* یحییٰ : سلطان سلیمان کے عہد کا ایک البانی الاصل ترکی شاعر (حیات نواح ۹۸۶ء) ۔

* یحییٰ بن آدم : بن سلیمان ، ابو زکریا ، ایک معروف عالم دین ، مصنف کتاب الخراج

۱ ۲۸۰

(م ۲۰۳/۲۰۳ء) ۔

۲ ۲۸۱

* یحییٰ بن ادر علی : رگ بہ نوعی ۔

* یحییٰ بن خالد یومکی : عباسی خلافت کی ایک اہم شخصیت ، ہارون الرشید کا اتالیق

صفحہ نمبر	اشارات	عنوان
۲۸۱	اور بعد ازاں وزیر، خاندان ہرامکہ کا بانی (م ۵۱۹-۵۸۰)۔	
۱		* یحییٰ بن زید الحسینی: زید بن علی بن امام حسینؑ (۵۹۸/۵۱۶ء تا ۵۳۳/۵۲۳ء)، بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے قائد اور زیدیدہ کے پانچویں امام۔
۲۸۲		* یحییٰ بن علی: بن یحییٰ ابی منصور المنجم، ابواحمد، کلاسیکی عربی موسیقی کا ماہر، مصنف کتاب الباہر و کتاب النغم (م ۹۱۲ء)۔
۲۸۳		⊗ یحییٰ کبیر غرغشتی: حضرت خواجہ (۵۰۷/۱۳۰۷ء تا ۵۸۳/۱۱۳۳ء)، حضرت مخدوم جہانیاں سے مجاز، کوہ سلیمان کے مضافات میں شہر علی کے ایک بزرگ اور مبلغ دین۔
۲۸۵		* یربوع: متعدد عرب قبائل کی شاخوں کا نام۔
۲۸۶		* الیرموک: شام کا ایک دریا اور عہد صدیقی کی ایک مشہور جنگ (۵۱۵/۶۳۶ء) کا محل وقوع۔
۲۸۶		* یروشام: رک بہ القدس۔
۲۸۷		* یزد: ایران کا ایک شہر۔
۲۸۷		* یزدان: زردشتی افکار میں خدا کا نام۔
۲۸۹		* یزدگرد: رک بہ سامانیاں۔
۲۸۹		* یزیدین زیاد (ابن مفرغ): ابو عثمان یزید بن زیاد الحمیری، پہلی صدی ہجری میں بصرے کا ایک ہجو گو شاعر (حیات ۵۶۳/۶۸۳ء)۔
۲۹۰		* یزیدین عبدالملک: اموی خلیفہ (از ۵۱۰/۵۲۰ء تا ۵۲۳/۵۳۳ء)۔
۲۹۱		⊗ یزیدین معاویہ: حضرت امیر معاویہ کا بیٹا اور جانشین (۵۶۰/۶۸۰ء تا ۵۲۳/۶۸۳ء)۔
۲۹۱		* یزیدین المہتاب: ابن صفرة الازدی (۵۳/۵۲۰-۵۳۰/۵۲۰ء تا ۱۰۲/۵۲۰ء)، ایک مشہور عرب سردار اور عامل خراسان۔
۲۹۵		⊗* یزیدی: (یزیدیدہ)، ایک کرد قبیلے اور اس کے مذہب کا نام۔
۲۹۷		* یشیل ابرماق: (سبز دریا)، ایشیائے کوچک کا ایک دریا۔
۲۹۹		* یعرب: (۱) یعرب بن قحطان بن ہود المعروف بہ اعرب، شاہان حمیر کا جد اعلیٰ؛ (۲) یعرب بن مالک، عمان کے حکمران خاندان یعربیہ (از ۱۰۳ تا ۱۱۵۱ء) کا جد اعلیٰ۔
۲۹۱		* یعفر: بن عبدالرحمن بن کریب الجوالی (حیات ۵۲۷/۸۸۳ء) بنو یعفر یا بنو حوالی کے حکمران خاندان کا بانی۔
۳۰۰		* یعقوب: علیہ اسلام، حضرت اسحاق کے بیٹے، بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ اور


صفحہ عمود	اشارات	عنوان
۲	۳۰۱	مشہور پیغمبر .
۲	۳۰۳	* یَعْقُوب بن لیث : رگ بہ صفاریہ .
۲	۳۰۳	* یَعْقُوب بن رگ بہ گرمیان اوغلو .
۲	۳۰۳	* یَعْقُوب صرفی : رگ بہ صرفی کشمیری .
		* الیعقوبی : احمد بن ابو یعقوب الکاتب العباسی ، مشہور عرب ، جغرافیہ نویس ،
۲	۳۰۳	مؤرخ اور تاریخ الیعقوبی وغیرہ کا مصنف .
۱	۳۰۵	* بَعْرَعَر : عہد ترییع میں صحرائے اعظم کے دریا کی گذر گاہ .
		* یغما جندقی : ابو الحسن رحیم بن حاجی ابراہیم قلی (۵۱۱۹۶/۱۷۸۲ء تا ۵۱۳۷۶/۱۸۲۰ء)
۱	۳۰۵	(۱۸۵۹ء) ، ایک صاحب دیوان ایرانی شاعر .
۱	۳۰۷	* یفرن : رگ بہ افرن .
۱	۳۰۷	* یلدز کوشکی : (پیر یلدیز سرای یعنی ستارہ محل) ، استانبول میں عثمانی ، لاطین کا محل .
۲	۳۱۰	* الیمامہ : وسطی عرب کا ایک علاقہ .
۱	۳۱۲	* یمشجی : رگ بہ حسن پاشا یمشجی .
۱	۳۱۲	* یمق : رگ بہ ینی چری .
۱	۳۲	* یمین : جزیرۃ العرب میں سابقاً ایک صوبہ اور آج کل ایک خود مختار مملکت .
۱	۳۲۲	* یمین : مسلمانوں کے قسم اٹھانے کے لیے عام اصطلاح .
۱	۳۲۲	* ینبع : عرب کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹی سی بندر گاہ .
		* ینی چری : (عسکر جدید) ، سلطنت عثمانیہ میں ابتداءً مفتوحہ نصرانیوں کے نو مسلم
۱	۳۲۳	(قول اوغلی) بچوں پر مشتمل جدید طرز پر تیار کردہ ایک پیادہ فوج .
		* ینیر : (انایر Ennayer) ، شمالی افریقہ کے باشندوں کے ہاں جولین تقویم کے پہلے
۱	۳۲۸	مہینے کا نام .
۱	۳۲۸	* یوٹی کی اس : (Eutychius ، یوتخیوس) ، رگ بہ سعید بن البطریق .
۱	۳۲۸	* یورگان لاذیق : رگ بہ لاذیق .
۲	۳۲۸	* یوروک : ایشیائے کوچک کے خانہ بدوش قبائل .
۱	۳۲۹	* یوسف بن یعقوب : حضرت یعقوب کے فرزند ، خدا کے پیغمبر .
۲	۳۳۶	* یوسف : قرآن مجید کی بارہویں سورۃ .
۱	۳۳۸	* یوسف الاول : رگ بہ الموحدون .
		* یوسف خاص الحاجب : بلاساغونی ، ایک مرآة الملوک بنیگ کا مصنف (تصنیف
۱	۳۳۸	۵۳۶۲/۱۰۶۹-۱۰۷۰ء) .
۱	۳۳۹	* یوسف عزیز مگسی : (۱۹۰۸ء تا ۱۹۳۵ء) ، بلوچستان کے ایک سیاسی رہنما .
۱	۳۴۰	* یوسف بن تاشفین : رگ بہ المرابطون .

صفحہ عمود

اشارات

عنوان

- * یوسف بن عمر : بن محمد الحکم بن ابی عقیل بن مسعود الثقفی ، حجاج بن یوسف کا والد اور والی عراق (م ۱۲۶ھ / ۷۴۴ء) .
- ۱ ۳۳۰
- * یوسفی : مولانا (۱۵۳۰ تا ۱۵۵۶ء) ، مغل شہنشاہ ہمایوں کا منشی اور طبیب ، صاحب بدائع الانشاء .
- ۲ ۳۳۱
- * یوشع بن نون : تورات میں پشوع Joshua کے نام سے مذکور ایک قدیم پیغمبر اور حضرت موسیٰ کے شاگرد اور جانشین .
- ۱ ۳۳۲
- * یوغرت : (ت) دہلی ، ماست ، لبن .
- ۱ ۳۳۴
- ⊗ یوگنڈا : مشرقی استوائی افریقہ کا ایک ملک .
- ۲ ۳۳۳
- ⊗ یوم الحساب : قرآن مجید میں مذکور قیامت کا ایک نام .
- ۲ ۳۳۵
- ⊗ (حضرت) یولس : بن متی ، قرآن مجید میں مذکور ، ایک قدیم پیغمبر .
- ۱ ۳۳۹
- ⊗ یولس : قرآن مجید کی دسویں سورہ .
- ۱ ۳۵۲
- ⊗ یونیورسٹی اورینٹل کالج : رگ بہ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج ، در تکملہ .
- ۱ ۳۵۳
- * یولس الکاتب یا المغنی : ایک مشہور عرب گویا اور موسیقی پر کتابوں کا مصنف (حیات ۱۳۲ھ) .
- ۱ ۳۵۴
- ⊗ یہود : ایک مشہور قوم .
- ۱ ۳۵۵
- * یہودی : رگ بہ یہود .
- ۲ ۳۶۳
- * ییلا : (مشرقی ترکی) گرمیوں کا ہڑاؤ .
- ۲ ۳۶۳



حرف آخر

موسوعات کے متعلق جسے آج انسانی کلویڈیا یا دائرہ معارف کا نام دیا جاتا ہے، ہماری روایات قابل صد رشک ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ مسلمان ہی اس کے مؤسس ہیں۔

ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مامور اپنی قوم اور اپنے اپنے ملک کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے لیکن قرآن مجید کا دامن آفاق گیر ہے۔

یہ آسمانی صحیفوں کے ایک طویل سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ ایک کامل ضابطہ ہے۔ ایک عالمگیر شریعت ہے۔ ہماری طبعی، اخلاقی اور روحانی حالتوں کے لیے کامل راہنما ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کی آیاری کی گئی ہے۔ اس میں پہلی کتابوں کے زندہ علوم کو بھی سمیٹا گیا ہے اور دنیا کی آئندہ علمی راہبری کا سلان بھی ہے۔

مسلمانوں نے قرآن مجید کی اس راہنمائی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا اور ہر شعبہ علم میں علوم و معارف کے دریا بہا دیے۔ انہوں نے اپنے بالکل ابتدائی دور ہی میں ہر علم کی ہزاروں ہزار کتابیں تصنیف و تالیف کیں اور بالآخر وہ دور بھی آ گیا کہ علوم و فنون کی اس توسیع اور ترقی کے باعث حوالے کی متعدد کتابیں وجود میں آ گئیں جن میں اس دور کی معلومات کی سہل الحصول تلخیص پیش کی گئی اور یوں بڑے بلند پایہ موسوعات نویس منظر عام پر آئے۔

موسوعات نویسی کا آغاز تو مسلمانوں نے کیا لیکن ہماری بد قسمتی کہ آج مغرب کے بیان و تحقیق کا انداز اتنا ترقی یافتہ اور مقبول ہو گیا ہے کہ خود ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ انسانی کلویڈیا انہیں کی اختراع ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اندلس کی تباہی، تاتاریوں کی یورش اور گزشتہ چودہ سو برس میں ایسے چھوٹے بڑے کتنے ہی انقلابات کا اسلامی دنیا کو سامنا کرنا پڑا اور علم و فن کی کیسی کیسی گراں مایہ متاع کسم عدم میں چلی گئی۔ پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ کئی بڑے بڑے شاہکار آج بھی ہمارے پاس ہیں، مثلاً عقد القرید۔ ابن عبد ربہ کی یہ تالیف ادب کی ایک گراں قدر انسائیکلو پیڈیا ہے جو ایک ہزار برس سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی اسی طرح درخشاں و تاباں ہے۔ پھر ابن عبد ربہ کے ہم عصر ابوالنصر فارابی کی کتاب احصاء العلوم ہے جس کا نام اور کام دونوں ہی دائرہ المعارف کے ہم قدم ہے۔ اس کے بعد رسائل اخوان الصفا کا نام لیا جا سکتا ہے، جس کے مکمل اجزا اگرچہ دستیاب نہیں تاہم اپنی موجودہ شکل میں بھی اسے آرٹ اور سائنس کی انسائیکلو پیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ علیٰ حذا الخوارزمی کی مفاتیح العلوم ایک بلند پایہ دائرہ معارف ہے جس میں پندرہ عقلی اور نقلی علوم سے بحث کی گئی ہے۔

مسلمان موسوعات نویسوں کی فہرست اس پر تمام نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک عظیم الشان تحریک کا محض آغاز تھا۔ اس کے بڑے بڑے موسوعات نویسوں کی قتل قدر کوششیں ہمارے پاس موجود ہیں، مثلاً پانچویں صدی ہجری میں ابو حیان التوحیدی (صاحب القابلیت)، چھٹی صدی میں ابن الجوزی، ساتویں صدی میں امام فخر الدین الرازی اور بعد ازاں النوری، ابن فضل اللہ العری، علامہ سیوطی، اللوسی، الفتازانی، الشریف الجرجانی، المسعودی، یاقوت الحموی، حلی، خلیفہ، عرضی، سلسلہ الذہب کئی صدیوں پر محیط

نظر آتا ہے۔

اس ضمن میں عربی کے علاوہ اسلامی ممالک کی دوسری ترقی یافتہ زبانوں میں بھی کام ہوا اور اس دور میں جب مغرب جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا فارسی میں ابن سینا کے دانش نامہ، علائی، امام رازی کی شہنی، مسعود شیرازی کی درۃ التاج اور محمود آملی کی ثنائس الفنون قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح عالم اسلام کی تیسری اہم زبان ترکی میں شمس الدین سہلی کی قاموس الاعلام تو ابھی پچھلی صدی ہی کا کارنامہ ہے جو اپنی ضخامت اور اہمیت دونوں کے اعتبار سے کتنی ہی کتابوں پر بھاری ہے۔

ہاں ہمہ اردو جسے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے تیس چالیس کروڑ مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی روایات کا ترجمان ہونے کا دعویٰ ہے، اس نوعیت کی کتاب سے تمی دامن چلی آ رہی ہے۔ سچ پوچھیے تو اسلامی دائرہ معارف تو درکنار کسی عمومی موسوعات کو بھی ہمارے اہل قلم نے قابل توجہ نہیں کروانا حالانکہ مشرق کی دوسری زبانوں کا دامن اس سے خالی نہیں رہا۔ مثلاً چینی میں ہزاروں کراسوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب موجود ہے۔ مرہٹی کا مہاکوش تیس جلدوں میں ملتا ہے۔ بنگالی کے موسوعات ستائیس جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اور تو اور گورکھی تک میں سات جلدوں پر مشتمل ایک ایسی کتاب موجود ہے۔

اردو کی یہ کم مانگی اہل درد کو ایک مدت سے کھٹک رہی تھی۔ دراصل یہ کام کسی ایک فرد کے بس کا روگ بھی نہیں۔ اس کے لیے ایک جماعت اور کافی سرمائے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ۱۹۳۰-۱۹۳۱ء میں یونیورسٹی اور نیشنل کالج کے پرنسپل مولوی محمد شفیع صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایک ایسی دائرہ معارف اسلامیہ اردو میں ترتیب کی جائے جو اسلامی تہذیب و ثقافت کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو، لیکن وہ زندہ ایسا تھا کہ یونیورسٹی کے ارباب اقتدار کو اس پر آملا نہ کیا جاسکا اور یہ تل منڈھے نہ چڑھ سکی۔

قیام پاکستان کے بعد جب ملت کے اجتماعی تقاضوں کو نئی زندگی ملی اور ان کی تکمیل کے لیے ایک تازہ ولولہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر سید عبداللہ نے پنجاب یونیورسٹی کی توجہ ایک بار پھر اس تحریک کی طرف مبذول کرائی اور سنڈیکیٹ نے اس بار اردو دائرہ معارف اسلامیہ کی تدوین کے منصوبے کی تکمیل کا بیڑا اٹھا لیا۔ مقصود یہ قرار پایا کہ اردو میں معلومات کا ایک ایسا مستند ذخیرہ فراہم ہو جائے جس کی طرف ہم اپنے مذہبی تصورات اور تہذیبی روایات، ملت کی مختلف اقوام کی تاریخ، اس کے مشاہیر کے سوانح حیات، مختلف اسلامی ممالک کے جغرافیائی کوائف اور وہاں بسنے والوں کے نسلی حالات کے متعلق اجماع سے رجوع کر سکیں۔

یہ ایک بہت بڑا اور بہت دشوار کام تھا۔ ہمارے ہاں ایک طرف تو ایسے علماء و فضلاء کا قحط ہے جو اسلامیات کے ہر پہلو پر گہری نظر رکھتے ہوں، ہمہ گیر قابلیت کے حامل ہوں اور مشرق و مغرب دونوں کی نقطہ نگاہ سے بخوبی آگاہ ہوں اور دوسری طرف ہمارے کتب خانوں میں وہ کتابیں دستیاب نہیں جو مستند ماخذ کا کام دے سکیں۔ اس طرح ایک طبع زاد دائرہ معارف کی ترتیب و تدوین ہمارے وسائل سے ماورا نظر آئی، چنانچہ علمی مشکلات کے پیش نظر یہ طے پایا کہ اپنے منصوبے کی بنیاد اس کتاب پر رکھی جائے جو ڈیج رائل اکیڈمی کے زیر اہتمام لائسنس سے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اس کا پہلا ایڈیشن چار جلدوں اور ایک تکمیلے پر مشتمل تھا۔ اس کی طباعت ۱۹۰۸ء میں شروع ہو کر ۱۹۳۸ء میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ درحقیقت یہ نامور مستشرقین کی تقریباً نصف صدی کی مشترکہ مساعی کا شاندار نتیجہ ہے۔ اس میں اسلام اور قبل اسلام کے مشہور افراد، مقالات، واقعات اور دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والی مسلم اقوام کے معتقدات اور تمدنی حالات پر مفصل مقالات لکھے گئے ہیں اور انہیں

حرفِ حجتی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ پھر ہر مقالے کے آخر میں مزید اور مفصل معلومات کی نشاندہی کے لیے ماخذ کی فہرست درج کر دی گئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی موضوعات پر لائینڈن انسائیکلو پیڈیا سے وسیع تر کوئی تدوین دنیا کی زبانوں میں موجود نہ تھی، لہذا اسے عالم اسلام کے دانشوروں نے قدر کی نگاہوں سے دیکھا، چنانچہ حکیم الامت علامہ اقبال نے بھی مشہور ترک فاضل پروفیسر ظلیل خالد بے کو ان کے ایک مکتوب کا جواب دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام مستقل طور پر پیش نظر رکھیں۔

انسائیکلو پیڈیا ہمیشہ کسی مخصوص دور کی شانِ فضیلت کی عکاسی کرتی ہے اور وہ کسی مخصوص ذہنی نظام کی پیداوار ہوتی ہے۔ لائینڈن انسائیکلو پیڈیا مغربی علم و فضل کی پیداوار ہے اور ان لوگوں کے لیے لکھی گئی جو مغرب کی علمی روایات کے تنقیدی اصولوں کو قبول کر چکے ہیں۔ لہذا یہ کتاب من و عن ہمارے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ مستشرقین ہزار معروضی نقطہ نظر اختیار کریں وہ اپنے مخصوص ذہنی رویے اور مذہبی و سیاسی تعصبات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے علمی ادارے کی طرف سے مسلمانوں کے لیے پیش کیا جانے والا دائرہ معارف اسلامیہ غیر مسلموں کے نقطہ نظر کی رو سے مرتب نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ لائینڈن انسائیکلو پیڈیا کو اپنے حلقہ ناظرین کے معتقدات و تعصبات اور مذاق کے مطابق بنانا ناگزیر تھا۔ عربی اور ترکی زبانوں میں جب اس کے ترجمے کا کام شروع ہوا تھا تو وہاں اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا تھا کہ لائینڈن والوں سے اصل تالیف میں حک و اصلاح اور اہٹاب و ایجاز کی اجازت لے لی جائے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے سلسلے میں بھی یہی راستہ اختیار کیا گیا اور طے پایا کہ ترجمہ کرتے وقت جہاں جہاں کوئی بیان تاریخی واقعات اور اسلامی احساسات کے خلاف نظر آئے اس کو علمی اور تحقیقی اساس پر تبدیل کر دیا جائے۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ کہنے کو تو ترجمہ ہے لیکن حقیقت میں یہ اصل انگریزی متن سے جداگانہ اور مستقل تصنیف بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی نہیں کہ متن میں جا بجا قوسین کے درمیان حواشی کے ذریعے بہتر تحقیقی نفا پیدا کی گئی ہے جس کے نتیجے میں اس اردو کتاب کی روح خاص تبدیل ہو گئی ہے بلکہ اس سے بھی بڑی وجہ اس کے وہ اضافے ہیں جو نئے اور بے شمار مقالات اور تطبیقات کی صورت میں شامل کیے گئے ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے بھی کافی اضافے ہوئے ہیں اور بالخصوص برصغیر سے متعلق مقالات کثیر تعداد میں بڑھائے گئے ہیں جس کے باعث اس میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ مستشرقین کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کی تردید کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رہا ہے کہ مختلف فرقوں کے اختلافات کو بے ضرورت یا بے بنیاد طور پر ابھارنے کے بجائے ان کو تاریخی اور معاشرتی پس منظر کے ساتھ عام مجلسی تحریکات کے طور پر پیش کیا جائے تاکہ امت مسلمہ کی اختلافی آرا کو صحیح تاثر میں دیکھا جاسکے۔

یہ بڑا ہی اہم اور محنت طلب کام تھا، لیکن مقامِ سرت ہے کہ ارکان ادارہ کی مساعی مکتور ثابت ہوئیں اور اب یہ بات بڑے اہم سے کہی جاسکتی ہے کہ اگر لائینڈن انسائیکلو پیڈیا ایک عظیم کتاب تھی تو اس کا اردو متن ضروری تبدیلیوں اور اضافوں کے بعد ایک عظیم تر کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کا پہلا قائل ذکر پہلو تو جیسا کہ بیان ہو چکا، یہ ہے کہ اردو متن میں انگریزی ایڈیشن سے مختلف اور وسیع مضامین مشرق و مغرب کے مستند فضلا سے براہِ راست لکھوائے گئے۔ دوم، یہ کوشش کی گئی کہ تاریخی مضامین کا مواد حتی الامکان تاریخِ طاعت تک مکمل ہو جائے تاکہ تاریخی محسوس کا احساس منقطع نہ ہو۔ سوم، اسلام

کی اہم شخصیات اور عقائد و تصورات سے متعلق اہم مضامین یا تو نئے لکھوائے گئے یا بڑی حد تک بدل دیے گئے۔ چونکہ اسلام کی برگزیدہ ہستیوں کے مرتبے کا صحیح تعین مطلوب تھا اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقدسین پر بھی مسلمان فضلا اور ارکان ادارہ کی مدد سے بالکل نئے اور بے شمار مضامین شامل کیے گئے یا موجودہ مقالات یکسر بدل دیے گئے۔ چہاں 'انگریزی متن کی جو عبارتیں ہمارے تہذیبی ذوق اور تاریخی روایات سے متصادم تھیں انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ پنجم 'برصغیر پاک و ہند کی درجہ اول کی شخصیات نیز اس خطے سے متعلق تاریخی و جغرافیائی اور ادبی و لسانی موضوعات کا معتدبہ اضافہ ہوا اور ایسے خالص پاکستانی موضوعات بھی جو انگریزی متن میں موجود نہ تھے کافی تعداد میں شامل کر لیے گئے۔ ششم 'اسلامی زبانوں اور پاکستانی زبانوں اور ان کے ادب پر سیر حاصل مضامین شامل کیے گئے۔ ہفتم 'ترکی موضوعات کے بارے میں ترکی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے بہت سے اہم مضامین براہ راست ترجمہ کرا کے شامل کیے گئے۔ اسی طرح عربی ترجمے سے بھی براہ راست استفادہ کیا گیا۔ ہشتم 'معاصر اسلامی ممالک کے بارے میں مقالات پر خاص توجہ دی گئی ہے کیونکہ پاکستان کے نقطہ نظر سے بین الملکی اتحاد کے لیے یہ امر ضروری تھا۔ نہم 'ہزارہا مواقع پر سین اور افراد و ممالک کے ناموں سے متعلق انگریزی متن کے سمو اور اغلاط کی تصحیح کی گئی اور کتابیات میں اضافہ کیا گیا۔ دہم 'قرآن مجید، اسلام، مسجد، سیرت نبوی، اسلامی علوم و فنون اور پاکستان پر مفصل اور سیر حاصل خصوصی مقالے تیار کیے گئے۔ اسی طرح نامور صحابہ کرام، ائمہ عظام اور اولیاء و مشائخ پر الگ الگ مقالے تحریر کیے گئے۔ اردو دائرہ معارف کی یہ امتیازی خصوصیات دیکھ کر پیر حسام الدین راشدی بے اختیار کہ اٹھے تھے کہ "پاکستان میں فقط یہی ایک کام سنجیدہ، پاکیزہ، دائمی رہنے والا اور علمی طور سے سب کو زندہ رکھنے والا ہوا ہے۔"

لائڈن انسائیکلو پیڈیا کا عربی، ترکی اور فارسی زبانوں میں بھی ترجموں کا آغاز ہوا تھا لیکن مصر، ترکیہ اور ایران کے داخلی حالات کے باعث یہ مساعی منقطع ہو گئیں۔ اب ان سب کی قائم مقامی اردو دائرہ معارف اسلامیہ کر رہا ہے اور یہ پاکستان اور اردو زبان کا ایسا شرف ہے جس پر بجا طور پر ناز کیا جاسکتا ہے۔ ہم اسے انتہائی افسار کے ساتھ علمی دنیا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

سید محمد طاہر

رئیس ادارہ

صدر شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ

پنجاب یونیورسٹی

لاہور، ۲ اکتوبر ۱۹۹۳ء

جملہ حقوق بحق پنجاب یونیورسٹی محفوظ ہیں
مقالہ نگار یا کسی اور شخص کو کلی یا جزوی طور پر اس کا
کوئی مقالہ یا تعلقہ یا اس کے کسی حصے کا ترجمہ
شائع کرنے کی اجازت نہیں

بار اول اکتوبر ۱۹۹۳ء

www.bhatkallys.com

سال طباعت : ۱۳۱۳/۱۹۹۳ء

مقام اشاعت : لاہور

ناشر : محمد سعد الدین ، رجسٹرار ، دانش گاہ پنجاب ، لاہور
اشاریہ :-

طابع : رشید اقبال

مطبع : رشید اقبال پرنٹرز ، ۲ - میکلوڈ روڈ ، لاہور

سرورق و حرف آخر :-

طابع : میر افضل میر

مطبع : میر انثر پرائٹرز ، ۷ فیاض روڈ - نئی انارکلی - لاہور

www.bhatkallys.com

Urdū

Encyclopædia of Islām

Under the Auspices

of

**THE UNIVERSITY OF THE PANJAB
LAHORE**

FINAL
www.bhatkallys.com



Vol. XXIV

(INDEX)

marfat.com 1414/1993